

تاریخ تفسیر و مفسرین

تاریخ تفسیر — اقسام تفسیر — اہم کتب تفسیر

تالیف

غلام احمد حریری مرحوم

ایم۔ اے عربی (ا) ایم۔ اے علوم اسلامیہ (ا) ایم۔ او۔ ایل (عربی)
فاضل السنہ شرقیہ — فاضل درس نظامی

صدر شعبہ علوم اسلامیہ
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ناشر

پاکستان
بکسٹن پبلشرز، کارخانہ بازار، فیصل آباد
فون نمبر 644375

ناشر _____ کشمیر بک ڈپو فیصل آباد
 مولف _____ غلام احمد حریری (مرحوم) ایم اے
 مطبع _____ اے۔ این۔ اے۔ پرنٹرز لاہور
 طابع _____ ملک شاہد رسول
 کاتب _____ محمود الحسن حضرت سیلیانوالہ (گوجرانوالہ)
 تعداد _____ 500
 تاریخ اشاعت _____ 1999ء 2000ء
 بدھنم _____ آگسٹ ایڈیشن

ملنے کا پتہ :-

دارالاشاعت کراچی

مکتبہ رحمانیہ لاہور

نعمانی کتب خانہ لاہور

حذیفہ اکیڈمی لاہور

ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان

یونیورسٹی بک ایجنسی پشاور

ملنے کا پتہ :- کشمیر بک ڈپو
 ہون پلازہ دکان ۵۵
 چنیوٹ بازار فیصل آباد

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴	تفسیری ترجمہ کے شرائط۔	۳	تعارف کتاب۔
	فصل اول	۴	تفسیر کا ارتقاء۔
۲۱	علم تفسیر کی ضرورت و اہمیت۔	۵	تفسیر محمد رسالت میں۔
	فصل دوم	۳	۲۔ تفسیر عصر صحابہ میں۔
۳۶	رسول کریم اور صحابہ کا فہم قرآن۔	۴	۳۔ تفسیر عصر تابعین میں۔
	فہم قرآن کے سلسلہ میں صحابہ میں	۵	۴۔ تفسیر عصر تمدن میں۔
۲۸	اختلاف مراتب۔	۶	۵۔ تفسیر عصر تمدن کے بعد۔
۴۰	عہد رسالت میں تفسیر کے مصادر۔	۱۱	مقدمہ۔ مبحث اول۔
۵	مصدر اول، قرآن کریم۔	۵	تفسیر و تاویل کا مفہوم لہران کا باہمی فرق۔
۴۲	گولڈ زیبر کی بہتان طرازی۔	۱۳	تفسیر کا اصطلاحی مفہوم۔
۴۷	مصدر دوم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم	۱۴	تاویل کا لغوی مفہوم
۴۹	تفسیر کے سلسلہ میں احادیث و مفسرین	۱۶	تاویل کا اصطلاحی مفہوم سلف کی نگاہ میں۔
	منکر حدیث احمد امین کی دروغ بانی و	۵	متاخرین کے نزدیک تاویل کا مفہوم۔
	تفاد بانی۔	۱۷	تفسیر و تاویل کا فرق و امتیاز۔
۵۰	احمد امین کی علمی خیانت	۱۸	(تفسیر و تاویل) کے ضمن میں علماء کے اقوال۔
	کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے		مبحث دوم۔ غیر عربی زبانوں میں
۵۱	قرآن کی وضاحت فرمادی تھی؟	۲۱	تفسیر قرآن۔
۵۲	فریق ثانی کے دلائل۔	۲۶	تفسیر اور تفسیری ترجمہ کے مابین فرق۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۱	۳ - علوم کلامیہ (۲) علوم فقہیہ -	۱۶۳	اسرائیلی روایات کے مرکز و محور -
۱۴۲	تفسیر کے مختلف پہلو -	"	۱ - عبداللہ بن سلامؓ -
۱۴۴	فصل اول	۱۶۵	عبداللہ بن سلامؓ کا علمی پایہ اور
"	تفسیر بالماثور اور اس کا مفہوم -	۱۶۶	تقاہت و عدالت -
"	تفسیر بالماثور کا تدریجی ارتقاء -	۱۶۷	۲ - کعب الاحبار، کعب کا مبلغ علم -
۱۴۸	تفسیر منقولہ میں شخصی رجحانات -	"	احمد امین کی کعب پرستان طرازی -
۱۴۹	تفسیری روایات میں ضعف کے اسباب	۱۶۸	الطال اتہام
۱۵۰	اسباب ضعف -	۱۶۹	سید رشید رضا کا کعب پر الزام -
۱۵۱	تفسیر میں وضع کا آغاز و اسباب اثرات	۱۷۰	جواب اعتراض -
"	۱ - گرد ہی تعصب -	۱۸۱	۳ - وہب بن منبہ، نسب سوانح -
۱۵۲	۲ - سیاسی مسلک -	"	وہب کا علمی مرتبہ و عدالت -
"	۳ - جذبات مقام -	۱۸۲	وہب کے مؤیدین
"	وضع کے اثرات -	۱۸۳	۳ - عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریرج -
۱۵۶	موضوع تفسیر کی قدر و قیمت -	۱۸۴	(ابن جریرج) کا علمی پایہ اور عدالت -
۱۵۸	اسرائیلیات کا مفہوم	۱۸۶	تفسیر ماثور کے ضعف کا ایک سبب
۱۶۱	تفسیر میں اسرائیلیات کا امتزاج اور		حذف اسناد ہے -
	ارتقاء -	۱۸۹	مشہور کتب تفسیر بالماثور اور ان کی
۱۶۷	اسرائیلیات کے بارے میں ابن خلدون		خصوصیات -
	کا ناویرنگاہ -	۱۹۰	جامع البیان فی تفسیر القرآن از ابن جریر
۱۶۹	اسرائیلی روایات کا تفسیر پر اثر اور ان	"	طبری -
	کی قدر و قیمت -	"	تعارف مولف، علم و فضل و عدالت -
۱۷۱	مفسر قرآن و اسرائیلی روایات -	۱۹۲	تفسیر ابن جریر کا مختصر تعارف -

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹۴	ابن جریر کا اسلوب تالیف -	۲۲۱	۴ - تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر -
۱۹۵	تفسیر بالرائی کرنے والوں پر نقد شدید -	"	تعارف موقوف، علمی پایہ -
۱۹۶	اسناد کے بارے میں ابن جریر کا موقف -	۲۲۲	تفسیر ابن کثیر ربیعہ -
۱۹۷	اجماع کی اہمیت ابن جریر کی نظر میں -	۲۲۴	۷ - الجواب احسان فی تفسیر القرآن از ثعالبی
۱۹۸	قرأت سے متعلق ابن جریر کا موقف -	۲۲۷	اسلوب و انداز -
"	اسرائیلیات اور ابن جریر -	۲۲۹	۸ - الدر المنثور فی التفسیر المأثور از سیوطی -
۱۹۹	بے مقصد امور سے احتراز -	"	مؤلف کے سیر و سوانح و طرز تفسیر -
۲۰۰	کلام عرب سے استشاد -		فصل دوم
۲۰۱	جاہلی اشعار سے استدلال -	۲۳۳	تفسیر بالرائی و متعلقہ مباحث -
"	نحوی مسائل کا تذکرہ -	۲۳۲	مفسر کے لیے ضروری علوم -
۲۰۲	تفسیر ابن جریر اور فقہی احکام -	۲۳۴	شیخ محمد عبدہ کے نزدیک تفسیر کے شرائط -
۲۰۳	ابن جریر یا علم الکلام کی حیثیت سے -	۲۵۰	معاد تفسیر -
۲۰۵	تفسیر ابن جریر کا علمی پایہ -	۲۵۲	مفسر کن امور سے اجتناب کرے -
۲۰۶	تفسیر بحر العلوم سمرقندی -	۲۵۳	علوم القرآن اور ان کے اقسام -
۲۰۷	تعارف تفسیر بحر العلوم -	۲۵۴	تفسیر بالرائی میں غلطی کے وجوہ -
۲۰۸	اکشف والبیان عن تفسیر القرآن للثعلبی -	۲۵۹	تفسیر ماثور و تفسیر بالرائی میں تعارض -
۲۰۹	تعارف تفسیر ثعلبی -		فصل سوم
۲۱۴	۴ - معالم التنزیل نجوی -	۲۶۲	اہم کتب تفسیر بالرائی الجائزہ -
"	تعارف - مبلغ علم -	۲۶۳	۱ - مفاتیح الغیب امام رازی -
۲۱۷	۵ - المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز	"	سیر و سوانح -
	از ابن عطیہ -	۲۶۴	تعارف تفسیر -
۲۱۸	(ابن عطیہ کا) مبلغ علم و اسلوب نگارش -	۲۶۶	رابطہ آیات و سورت، ریاضی و فلسفہ -

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸۲	انداز تفسیر -	۲۸۲	امام رازی اور معتز لہ -
۲۸۳	علم الکلام و فلسفہ -	۲۸۳	علوم فقہ و اصول نحو و بلاغت -
۲۸۵	تفسیر نیربسا بوری میں تفاوت کا عنصر -	۲۸۵	۲ - انوار التنزیل و اسرار التاویل از بیضاوی -
۲۸۸	۷ - تفسیر الجلالین از جلال الدین العملی و جلال الدین السيوطی -	۲۸۸	تعارف مؤلف -
۲۸۹	دو نون مؤلفین کا تعارف -	۲۸۹	تعارف تفسیر -
۲۹۲	۸ - السراج النیر للخطیب الشرنبلی -	۲۸۹	۳ - مدارک التنزیل و حقائق التاویل از نسفی ؟
۲۹۳	تعارف مؤلف - تعارف تفسیر -	۲۹۲	تعارف مؤلف -
۲۹۵	تفسیری نکات ربط آیات فقہی مسائل اسرائیلیات -	۲۹۳	تعارف تفسیر -
۲۹۶	۹ - ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتب الكريمة از ابو السعود -	۲۹۵	علوم نحو و فقہ و قرأت -
۲۹۷	سیرت کا اجمالی خاکہ	۲۹۶	۴ - باب التاویل فی معانی التنزیل از خادن -
۲۹۷	تعارف تفسیر -	۲۹۷	تعارف مؤلف -
۲۹۸	اعجاز القرآن -	۲۹۷	تعارف تفسیر، اسرائیلیات -
۲۹۹	مشہورین بالکذب سے روایت فقہی و نحوی مسائل کی قلت -	۲۹۸	۵ - البحر المحیط البرحان -
۳۰۰	روح المعانی از آلوسی -	۲۹۹	تعارف مؤلف -
۳۰۱	تعارف تفسیر -	۳۰۰	تعارف تفسیر -
۳۰۲	روح المعانی کا مرتبہ و مقام -	۳۰۰	۶ - غرائب القرآن و رغائب الفرقان از نیربسا بوری -
۳۰۲	مخالفین اہلسنت کے بارے میں آلوسی کا موقف	۳۰۱	تعارف تفسیر -
۳۰۲	مخالفین اہلسنت کے بارے میں آلوسی کا موقف	۳۰۲	رازی و زرخندی کے بارے میں مؤلف کا موقف -


صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۳۰۳	علم ہیئت وغو۔	۳۲۸	تعارف مولف۔ انداز تفسیر۔	
۳۰۴	فقہی مسائل و اسرائیلیات۔	۳۲۹	قرآن کریم پر نحوی اعتراضات۔	
۳۰۵	قرآت و ربط آیات و اسباب نزول۔	۳۳۰	معتزلی عقاید پر اعتراضات اور ان کا ازالہ۔	
۳۰۶	صوفیانہ تفسیر اور آلوسی۔	۳۳۱	مس شیطان۔ روایت خداوندی	
۳۰۷	فصل چہارم	۳۳۲	افعال العباد۔	
۳۰۸	مبتدعین کی تفسیر۔	۳۳۳	۲۔ امالی الشریف المرتضیٰ۔	
۳۰۹	فرقہ ہائے اسلامی کا آغاز ظہور۔	۳۳۴	تعارف مولف۔	
۳۱۰	معتزلہ اور تفسیر قرآن کے متعلق ان کا موقف۔	۳۳۵	اسلوب نگارش۔	
۳۱۱	معتزلہ کے اصول خمسہ۔	۳۳۶	۳۔ الکشاف عن حقائق التنزیل از زرخشری۔	
۳۱۲	تفسیر قرآن اور معتزلہ۔	۳۳۷	سیرت کا اجمال خاکہ۔	
۳۱۳	احادیث صحیحہ سے انکار۔	۳۳۸	تفسیر کشف کا علمی مقام۔	
۳۱۴	معتزلہ کے نزدیک تفسیر میں لغت کی اہمیت۔	۳۳۹	کشاف کے بارے میں علماء کے اقوال	
۳۱۵	قرآت متواترہ میں فقرت۔	۳۴۰	قرآن کریم کا بلاغی پہلو۔	
۳۱۶	معتزلہ پر ابن قتیبہ کی تنقید۔	۳۴۱	معتزلی نظریات کے اثبات کے لیے لغت کا سامرا۔	
۳۱۷	دینی حقائق سے انکار۔	۳۴۲	مزکیب کبار اور معتزلہ۔	
۳۱۸	امام ابوالحسن اشعری اور معتزلی تفسیر۔	۳۴۳	اہل سنت پر زرخشری کی زبان دہازی	
۳۱۹	معتزلہ کی تفسیر کے بارے میں امام ابن تیمیہ کا فیصلہ۔	۳۴۴	تفسیر کشف پر ابن النیر کی تنقید۔	
۳۲۰	معتزلہ کی تفسیر۔	۳۴۵	تفسیر کشف اور فقہی مسائل۔	
۳۲۱	۱۔ تنزیہ القرآن عن المطامع الزناہی	۳۴۶	اسرائیلیات سے متعلق زرخشری کا موقف۔	
۳۲۲	۲۔ تنزیہ القرآن عن المطامع الزناہی	۳۴۷		
۳۲۳	۳۔ تنزیہ القرآن عن المطامع الزناہی	۳۴۸		
۳۲۴	۴۔ تنزیہ القرآن عن المطامع الزناہی	۳۴۹		
۳۲۵	۵۔ تنزیہ القرآن عن المطامع الزناہی	۳۵۰		
۳۲۶	۶۔ تنزیہ القرآن عن المطامع الزناہی	۳۵۱		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵۳	شیعہ اور تفسیر قرآن - اہل تشیع کے عقائد وغیرہ۔	۳۸۳	شیعہ کی کتب حدیث۔
۳۵۸	اشنا عشریہ کی اہم تعلیمات۔	۳۸۷	امامیہ اشنا عشریہ کی اہم کتب تفسیر۔
۳۵۹	امامیہ اسماعیلیہ اور اس کے القاب۔	۳۹۰	۱ - مرآة الافراد مشکوٰۃ الاسرار، از عبد اللطیف گازرونی۔
۳۶۱	تفسیر قرآن سے متعلق شیعہ کا زاویہ نگاہ۔	۳۹۳	اہم تفسیری اصول۔
۳۶۲	فرقہ سبئیہ - فرقہ بیانہ۔	۳۹۶	۲ - تفسیر حسن عسکری۔
۳۶۳	فرقہ منصوریہ۔	۴۰۰	خلافت علی رض۔
۳۶۴	فرقہ خطابیہ۔	۴۰۱	اہل بیت کی فضیلت میں جھوٹی روایات
۳۶۹	تفسیر قرآن کے متعلق امامیہ اشنا عشریہ کا موقف۔	۴۰۴	انبیائے سابقین کا نبی کریم اور اہلبیت کے ساتھ توسل۔
۳۷۱	اشنا عشریہ کی تفسیر پر معتزلہ کے اثرات۔	۴۰۷	فقہی مسائل میں شیعہ مسلک کی پیروی۔
۳۷۲	شیعی تفسیر پر فقہی مسائل کا اثر۔	۴۰۸	۳ - مجمع البیان العلوم القرآن از طبرسی۔
۳۷۳	شیعی عقائد کو فروغ دینے کے سعی۔	۴۰۹	مولف کا نام و نسب و علمی مقام۔
۳۷۴	قرآن کا ظاہر و باطن۔	۴۱۱	انداز تفسیر۔
۳۷۵	نصوص قرآنی کا مذاق اڑانے میں باطنی تفسیر کے اثرات۔	۴۱۳	امامت علی رض۔
۳۷۸	۲ - ائمہ اہل ان کے احباب و علماء کے بارے میں موقف۔	۴۱۳	عصمت ائمہ۔
۳۸۰	۳ - تحریف القرآن۔	۴۱۴	رحمت۔
۳۸۲	احادیث و آثار سے متعلق شیعہ کا زاویہ نگاہ۔	۴۱۹	مہدی و تقیہ۔
		۴۱۹	نکاح متعہ۔
		۴۱۹	پاؤں پر مسح۔
		۴۲۰	اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح۔
		۴۲۰	میراث انبیاء۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۲	اجماع -	۲۵۲	از سلطان محمد خراسانی -
۲۲۳	شفاعت -	۲۵۵	اہم افکار و عقائد -
۲۲۴	احادیث موضوعہ -	۲۵۶	اسماعیلیہ باطنیہ کے افکار و عقائد اور اس کے بانی -
۲۲۹	۴ - العاصی فی تفسیر القرآن الکریم از ملا عثمان کاشی -	۲۵۷	اسماعیلیہ کی مختصر تاریخ اور باطنیہ کی وجہ تسمیہ -
۲۳۲	تعارف تفسیر -	۲۵۸	باطنیہ کے اصول اساسی -
۲۳۳	اہل بیت ہی ترجمان القرآن ہیں -	۲۵۹	فرقہ حاکمیت، فرقہ نصیریہ -
۲۳۴	تفسیر بالرائی کا مجاز کون ہے؟	۲۶۰	حسن بن صباح اور اس کے اتباع -
۲۳۵	اہل بیت کی تفسیر ہی معیاری و مثالی ہے -	۲۶۳	باطنیہ کے مراتب و دعوت -
۲۳۷	قرآن کریم اہل بیت کی شان میں اُترا -	۲۶۴	باطنیہ کی تفسیری مساعی -
۲۳۸	تخریفات القرآن -	۲۶۸	تفسیر قرآن کے بارے میں متاخرین باطنیہ کا موقف و تاویلات -
۲۴۰	قرآن اور اہل بیت -	۲۶۹	فرقہ بابیہ و بہائیت کے وجود میں آنے کا سبب -
۲۴۱	صحابہ پر نقد و طعن -	۲۷۰	بانی بہائیت کے عقائد و اعمال -
۲۴۲	حضرت عثمانؓ پر طعن -	۲۷۱	علیؑ محمد باب کے اتباع و تلامذہ -
۲۴۳	حضرت ابو بکرؓ پر طعن -	۲۷۳	بہاء اللہ کے افکار و عقائد -
۲۴۴	۵ - تفسیر القرآن از سید عبداللہ علوی -	۲۷۴	بہاء اللہ کا جانشین عباس آفندی -
۲۴۷	تعارف مولف -	۲۷۷	یہود و نصاریٰ میں بہائیت کی اشاعت
۲۴۷	تعارف تفسیر -		
۲۴۸	ہر زمانہ میں ایک امام ہوتا ہے -		
۲۴۹	تقیہ -		
۲۵۱	۶ - بیان السعاده فی مقامات العیاقہ -		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۷۸	بہائی مذہب کے متعلق مصری حکومت کا فیصلہ۔	۵۰۷	خوارج کا باہمی اختلاف۔
۲۷۹	فرقہ باہرہ بہائید کا تفسیر قرآن کے متعلق طرز عمل۔	۵۰۹	خوارج کے اوصاف خصوصی۔
۲۸۰	مرزا علی محمد المعروف باب کی تادیلات	۵۱۲	خوارج کے فرقتے۔
۲۸۱	بہاء اللہ کی تادیلات۔	۵۱۵	خوارج کے غالی فرقتے۔
۲۸۲	عبدالہما عباس کی تادیلات۔	۵۱۶	تفسیر قرآن کے متعلق خوارج کا موقف۔
۲۸۳	فرقہ زیدیہ اور اس کا ظہور شیوع۔	۵۱۹	خوارج کے فہم قرآن کا طرز و انداز۔
۲۸۵	امام زید کا علم و فضل، انکار و معتقدات۔	۵۲۲	خوارج کی تفسیری خدمات۔
۲۸۷	امام زید کے جانشین۔	۵۲۳	خوارج کی کتب تفسیر۔
۲۸۹	قرآن کریم کے بارے میں زیدیہ کا نقطہ نظر	۵۲۴	خوارج کی تفسیری ماسعی کے قلت کے اسباب۔
۲۹۰	زیدیہ کی اہم کتب تفسیر۔		فصل پنجم
۲۹۳	فتح القدر الشوکانی۔ تعارف مولف		تفسیر صوفیہ۔ لفظ تصوف کی اصل و مفہوم۔
۲۹۴	تعارف تفسیر۔	۵۲۷	تصوف کا ارتقاء۔
۲۹۵	تقلید و تقلدین کی مذمت۔	۵۲۸	۱۔ نظری صوفیہ کی تفسیر۔
۲۹۷	عقیدہ حیات شہداء۔	۵۲۹	فلسفیانہ تصوف اور ابن عربی۔
۲۹	مسئلہ ترسل۔	۵۳۳	۲۔ تفسیر فیضی یا اشاری۔
۲۹۹	مشابہات کی بحث۔	۵۳۹	باطنی معانی کے فہم میں فرق مراتب۔
۵۰۰	معتزلی عقاید و انکار۔	"	تفسیر اشاری کے معیار و مدار۔
۵۰۳	خوارج	۵۴۶	تفسیر اشاری کے بارے میں علماء کے اقوال۔
۵۰۴	خوارج کا تشدد۔		ابن عربی پر نقد و جرح۔
۵۰۵	خوارج کے انکار و معتقدات۔	۵۴۸	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۴۶	تفسیر اشاری کی قبولیت کے شرط۔	۶۳۲	الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم
۵۵۱	تفسیر اشاری پر مشتمل اہم کتب۔		از شیخ طنطاوی جوہری
۵۵۳	۱۔ تفسیر القرآن العظیم از تشریحی۔	۶۵۲	عصر حاضر میں فرقہ دارانہ تفسیر نویسی۔
۵۵۷	۲۔ حقائق التفسیر از سلمیٰ ج۔	۶۵۳	جدید موجدانہ تفاسیر۔
۵۶۱	عرائس البیان فی حقائق القرآن۔	۶۷۶	عصر حاضر میں تفسیر کا ادبی و اجتماعی
۵۶۳	التاویلات النجمیہ۔		اسلوب۔
۵۶۷	تفسیر منسوب باین عیذ۔	۶۸۱	مام شیخ محمد عبدہ۔
۵۷۲	ابن عربی اور اس کا انداز تفسیر۔	۶۸۵	امام عبدہ کا انداز تفسیر
۵۷۹	فصل ششم	۶۸۹	اجتماعی سائنس اور امام عبدہ۔
"	(تفسیر نلاسفہ)	۶۹۳	شیخ عبدہ کی نگاہ میں ملائکہ و ابلیس کی
۵۹۰	فصل سہم		حقیقت۔
"	(تفسیر فقہاء)	۷۰۲	سید محمد رشید رضا۔
۵۹۷	احکام القرآن از کیا ہراسی۔	۷۰۶	تفسیر آراء۔
۶۰۸	احکام القرآن از ابن العربی مالکی۔	۷۱۰	سحر کے بارے میں شیخ رشید کی رائے
۶۱۳	الجامع الاحکام القرآن۔	"	شیخ طہین و جن کے بارے میں سید
	از ابو عبد اللہ ڈیہی مالکی۔		رشید کا موقف۔
۶۱۹	کنز العرفان فی فقہ القرآن۔	۷۱۱	معجزات النبی اور سید رشید رضا۔
۶۲۲	الثرات الیائتہ۔	۷۱۳	فقہی مسائل میں سید رشید رضا کی
۶۲۳	فصل ہشتم		راشہ۔
"	علیٰ تنب۔	۷۱۷	استاذ آیت شیخ محمد مصطفیٰ امرامی۔
۶۳۱	علیٰ تفسیر سے انکار۔	۷۲۰	بہمنات قرآن کے اسے میں الماعنی
۶۳۷	تفسیر علیہ حاضر میں۔		کا موقف۔

صفحہ	مضمون
۷۲۲	اسرار الدین کے موضوع سے دلچسپی۔
۷۲۳	اجتماعی مسائل اور ان کا حل۔
۷۲۴	قرآن اور علوم جدیدہ میں یکانگت۔
۷۳۳	مصادر و ماتخذ۔
	ختم شد
	

تعارف کتاب

لفظ تفسیر کا سرحدی مادہ فسر ہے، جس کے معنی ہیں ظاہر کرنا، کھول کر بیان کرنا اور بے حجاب کرنا کسی لفظ کی تشریح و توضیح کو تفسیر کا نام اس لیے دیا گیا ہے، اگر گویا اس کے مطلوب و مقصود کو بے حجاب کر دیا جاتا ہے۔ یہ تفسیر کا لغوی مفہوم ہے۔ جہاں تک تفسیر کے اصطلاحی معنی کا تعلق ہے امام ندائشی نے البرهان میں تفسیر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے :

”تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے قرآن کریم کے مطالب و معانی معلوم کیے جاتے اور اس میں مندرجہ احکام و مسائل اور اسرار و حکم سے بحث کی جاتی ہے“

تفسیر کا ارتقاء

۱۔ تفسیر عہد رسالت میں

قرآن عزیز عربی میں نازل ہوا تھا۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے۔ عربی ان کی مادری زبان تھی۔ اس لیے قرآن کریم کے معانی و مطلوب معلوم کرنے میں انہیں کوئی وقت پیش نہیں آتی تھی۔ تاہم بعض مقامات میں جہاں زیادہ اجمال ہوتا ہے صحابہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم نے جہاں دیگر مناصب بلیغ پر نازل کیا تھا وہاں ایک منصب عالی قرآن عزیز کے تفسیر و ترجمان ہونے کا بھی تھا۔

ارشاد فرمایا :-

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي كَرَّمْتَهُ بِالنَّبِيِّينَ
مَا نَزَّلْنَا كَذِبًا لَئِنْ لَمْ نَنزِلْهُ لَبِئْسَ مَا كَرَّمْنَا بِهِ

اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے واضح کر دیں۔

(النمل - ۴۴)

چنانچہ تفسیر کا سب سے پہلا پیش قیمت سرمایہ تفسیری روایات ہیں جو مختلف کتب حدیث

میں منقول ہیں۔ امام بخاری نے انہی احادیث کو یکجا کر کے "کتاب تفسیر القرآن" کے نام سے صحیح بخاری میں ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے۔

۲۔ تفسیر عصر صحابہ میں:

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسلامی فتوحات کا دائرہ آگے بڑھا اور تمدن میں وسعت آئی تو دینی احکام میں نئی نئی صعوبتیں پیش آنے لگیں۔ اس کے زیر اثر قرآن عزیز کی آیات احکام پر غور و فکر کرنے کی بنا پڑی۔ بقول ابن خلدون تمام صحابہ فہم قرآن میں برابر نہ تھے اور تفسیر کا طرز و انداز بھی مختلف تھا۔ صحابہ قرآن کی وہی تفسیر بیان کرتے، جو بالواسطہ یا بلاواسطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ یا جس آیت کا سبب نزول انہوں نے خود ملاحظہ کیا ہو گا یا جو چیز بطریق اجتہاد ان پر منکشف ہوتی۔ صحابہ کرام میں دس حضرات کو اس فن میں امتیاز حاصل تھا۔ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ تفسیری روایات حضرت علیؑ سے مروی ہیں۔ مگر بحیثیت مجموعی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیری روایات حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی طرف منسوب ہیں۔ ان کے حلقہٴ درس نے نہایت وسعت حاصل کی۔ ہزاروں شاگرد پیدا ہوئے۔

۳۔ تفسیر عمدۃ تابعین میں:

عصر صحابہ کے ختم ہوتے ہی تفسیر قرآن کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس مرحلہ کی ابتدا عصر تابعین سے ہوئی۔ جنہوں نے صحابہ کے چشمہٴ فیض سے اپنی علمی پیاس بجھائی تھی۔ صحابہ کی طرح تابعین میں بھی بڑے نامور مفسرین پیدا ہوئے۔ ان میں سے مجاہد عطارد بن ابی رباح عکرمہ، سعید بن جبیر، حسن بصری، ابوالعالیہ ضحاک اور قتادہ بہت ممتاز ہیں۔ غالباً سب سے پہلے اس فن کی جس نے ابتدا کی وہ سعید بن جبیر تھے۔ عبدالملک بن مروان نے ان کی تفسیر لکھنے کی درخواست کی۔ چنانچہ انہوں نے اس کی فرمائش کے مطابق تفسیر لکھ کر دربار خلافت میں بھیج دی۔ عطارد بن دینار کے نام سے جو تفسیر منہور ہے وہ درحقیقت یہی تفسیر ہے۔ (میزان الاعتدال، دوہمی)

مکہ، مدینہ، بصرہ اور کوفہ اس دور میں تفسیر کے اہم مراکز تھے۔ مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے اصحابؓ غلامہ کا فیض جاری تھا۔ ان میں جناب مجاہد متوفی ۱۰۰ھ کا پایہ بلند تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ مجاہد کی تفسیر پر ان کے شاگردوں نے "امام شافعی، احمد بن حنبل اور امام بخاری اعتماد کرتے

تھے۔ مدینہ میں مکتب تفسیر کی تاسیس حضرت ابی بن کعب کی سامعی کی موہونِ منت ہے۔ اکثر تابعین نے آپ سے کعب فیض کیا۔ اور بکثرت تفسیری اقوال ابن سے سن کر آگے بچھائے۔ تابعین مدینہ میں زید بن اسلم، ابو العالیہ اور محمد بن کعب القرظی کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

کوفہ کے مکتب تفسیر کی بنا حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاتھوں پڑی۔ اس مدرسہ کے شاگردان دامن میں سے علقمہ بن قیس مسروق السودی بن زید اور عامر شعبی نے بہت شہرت حاصل کی۔ بصرہ میں حضرت حسن بصری کی ذات تفسیر قرآن میں مرجعِ خلائق تھی۔

۴۔ تفسیر عصرِ ندرین میں :-

اس دور کا آغاز عصرِ ندین سے ہوتا ہے۔ اسی دور میں صحیح منقول میں تفسیر نگاری کی نیا پڑی۔ یہ دور اُموی خلافت کے اواخر سے لے کر خلافت عباسیہ کے ادائل تک پھیلا ہوا ہے۔ عصرِ ندین سے پہلے تفسیری روایات اعاذیثِ نبویہ کے ساتھ محفوظ تھیں۔ حدیثِ نبوی مختلف ابواب میں منقسم تھی اور ان میں ایک باب تفسیری روایات پر مشتمل ہوا کرتا تھا اس مرحلہ پر پہنچ کر تفسیر حدیثِ نبوی سے منسلک ہو گئی۔ اور اس نے ایک جدا گانہ فن کی صورت اختیار کر لی۔ اب قرآنی ترتیب کے مطابق ہر آیت اور آیت کی تفسیر مرتب کی جانے لگی۔ اس میں ابن ماجہ، ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، امام حاکم اور دیگر کبار محدثین نے حصہ لیا۔ یہ تفاسیر سننِ انبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین و اتباع تابعین سے منقول ہیں۔ ان میں تفسیر بالماثور کے سوا دوسری کوئی چیز مذکور نہیں۔ البتہ ابن جریر طبری نے تفسیری اقوال ذکر کر کے ان کی توجیہ کی۔ اور بعض کو راجع اور بعض کو مرجع قرار دیا۔ جلال الدین سیوطی نے تفسیر ابن جریر کے بارے میں لکھا ہے :

”اگر تم مجھ سے دریافت کرو کہ کس تفسیر پر اعتماد کیا جائے تو میں کہوں گا کہ ابن جریر پر چلے

بارے میں علماء کا قول ہے کہ اس جیسی کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی“

تاہم اس فرق و اختلاف کے باوجود اس دور کی تفسیر بھی تفسیر بالماثور کے دائرہ میں محدود رہی البتہ اسناد کی شرط باقی نہ رہی۔ مفسرین سلف کے تفسیری اقوال کو بلا سند ذکر کرنے کا تقبیہ ہوا کہ بہت سے میں گھڑت اقوال نے تفسیر میں بار پائا اور اقوال صحیحہ و متقیہ کے مابین اختیار کرنے میں دشواری کا سامنا ہونے لگا۔

۵۔ تفسیر عصر تدوین کے بعد:

یہاں سے تفسیر کے پانچویں مرحلہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تفسیر کا طویل ترین تاریخی دور ہے جو عباسی فتلا سے شروع ہو کر عصر حاضر تک پھیلا ہوا ہے۔ قبل ازیں تفسیر کا انحصار مقول روایات پر تھا۔ اس دور میں عقل و نقل میں امتزاج و اختلاط کا آغاز ہوا۔ صرف و نحو اور عربیت سے متعلق علوم مدون ہوئے۔ فقہی مسلک منظر عام پر آئے اور کلامی مسائل نے سر نکالا۔ عباسی خلافت میں گردہ ہی تعصب آخری حد تک پہنچ گیا۔ مختلف اسلامی فرقے اپنے مخصوص افکار و عقائد کی دعوت دینے لگے۔ منطق و فلسفہ سے متعلق کتب کا یونانی سے عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب علوم تفسیر کے ساتھ گھل ل گئے۔ جو شخص کسی علم فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی تفسیر اسی علم تک محدود رہ گئی۔

چنانچہ نحوی علماء نے جو تفاسیر لکھیں ان کو نحوی مسائل سے بھر دیا۔ مثلاً زجاج نے اپنی تفسیر میں واحدی نے البیسط میں اور ابو حیان نے البحر المحیط میں نحوی مہارت و براعت ہی کا ثبوت دیا ہے۔ جو لوگ علوم عقلیہ میں بصیرت رکھتے تھے انہوں نے اپنی کتب تفسیر کو علماء و فلاسفہ کے اقوال کا پلندہ بنا دیا۔ امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ کی تفسیر اسی انداز کی ہے۔ رازی کی تفسیر "مفاتیح الغیب" المعروف تفسیر کبیر آپ کا شاہکار ہے۔ امام صاحب کا انداز تفسیر یہ ہے کہ عقلی و نقلی قسم کے جملہ تفسیری اقوال مختلف تفاسیر میں پراگندہ ہیں۔ امام صاحب نے ان سب کو اپنی تفسیر میں جمع کر دیا ہے۔ فلسفہ قدیم کی رد میں اکثر مقصد سے دور لکھ جاتے ہیں۔

مبتدعین نے جو تفاسیر لکھیں ان کو اپنی پسندیدہ بدعات کی تائید و حمایت پر مشتمل اقوال سے بھر دیا۔ مثلاً معتزلہ میں سے زنجیزی و ربانی جہانی اور شیعہ اثنا عشریہ میں سے طبرسی اور علامہ کاشانی وغیرہ جن فقہاء نے تفسیریں تحریر کی تھیں وہ صرف فقہی فروعات کے دلائل ذکر کرنے تک محدود رہے۔ مثلاً، جصاص اور قرطبی وغیرہما۔ مورخین کی تفاسیر دیکھنے سے یوں معلوم ہے کہ قرآن دنیا میں صرف تاریخ پڑھانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ صوفیاء نے قرآنی آیات سے ایسے اشارات کا استخراج کیا جو ان کے مسلک اور وجدان و ریاضت سے میل کھاتا تھا۔ ان میں ابن عربی اور ابو عبد الرحمن السلمی کے اسماء قابل ذکر ہیں۔

خلاصہ یہ کہ جو شخص بھی کسی فن یا مذہب میں ممتاز تھا اس نے قرآن عزیز کو اپنے فن کے قالب

میں ڈھالنے کی مقدار بھر کر کوشش کی۔

تفسیر کے علاوہ قرآن مجید کے خاص خاص مباحث پر جلد کا نہ اور مستقل تصانیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ کسی نے صرف مسائل فقہیہ پر بحث کی۔ کسی نے اسباب نزول پر کتاب لکھی۔ کسی نے صرف غیر زبانوں کے الفاظ کو جمع کیا۔ کسی نے اشغال قرآنی کو یکجا کیا۔ کسی نے آیات مکررہ کے نکات بیان کیے اس قسم کے مضامین کی تعداد اسی کے قریب پہنچی اور قریباً ہر ایک پر الگ الگ مستقل کتابیں لکھی گئیں (مقدمہ الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی)

یہ تصنیفات اگرچہ بے شمار ہیں، لیکن ان سب کو چھ قسموں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے :

۱۔ فقہی :

جس میں صرف ان آیتوں کو یکجا کیا ہے۔ جن سے کوئی فقہی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، مثلاً احکام القرآن، اسماعیل بن اسحاق۔ احکام القرآن، ابو جبر رازی۔ احکام القرآن، قاضی یحییٰ بن اکثم۔

۲۔ ادبی :

ان تصنیفات میں قرآن مجید کا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجز اور بے نظیر ہونا ثابت کیا ہے۔ اسی سلسلہ میں وہ تصنیفات بھی شامل ہیں جو قرآن مجید کی حقیقت و مجاز و تشبیہات و استعارات و کلمات فصیحہ و بدائع وغیرہ پر لکھی گئیں۔

۳۔ تاریخی :

قرآن مجید میں انبیائے سابقین اور بزرگوں کے جو قصے مذکور ہیں، ان کی تفصیل اور مزید حالات

۴۔ نحوی :

جس میں قرآن مجید کے نحوی مسائل سے بحث کی ہے۔ مثلاً اعراب القرآن رازی وغیرہ۔

۵۔ لغوی :

یعنی قرآن مجید کے الفاظ مفردہ کے معانی اور ان کی تحقیق۔ مثلاً مفردات القرآن، امام راغب

لغات القرآن ابو عبیدہ وغیرہ

۶۔ کلامی :

جو آیتوں سے عقائد کے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ان پر بحث۔

ان مضامین میں سے فقہی مباحث پر جو کچھ لکھا گیا اس پر اضافہ کی بہت کم گنجائش ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ اس بحث پر بڑے بڑے ائمہ فن نے طبع آزمائیاں کیں۔ امام بیہقی، قاضی بیہقی بن اکثم، ابو بکر رازی جس پایہ کے لوگ تھے۔ سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح لغات قرآن اور نحوی مسائل پر جو کچھ لکھا گیا اس سے بڑھ کر نہیں لکھا جاسکتا۔

فصاحت و بلاغت کے متعلق نہایت کثرت سے کتابیں لکھی گئیں۔ جو اعجاز القرآن کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں فصاحت و بلاغت کے تمام اقسام سے بحث کی ہے۔ غالباً سب سے پہلے جاحظ نے اس موضوع پر لکھا۔ پھر محمد بن زید واسطی، عبدالقادر جرجانی، رمانی خطابی زملکانی اور قاضی ابو بکر باقلانی نے بسط اور مفصل کتابیں لکھیں۔ یہ کتابیں آج بالکل مفقود ہیں۔

عبدالقادر جرجانی جو فن بلاغت کا موجود ہے۔ اسکی اعجاز القرآن آج دستیاب نہیں۔ البتہ اسکی دو کتابیں، دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ، جو خاص فن بلاغت میں ہیں عام طور سے ملتی ہیں۔ ان کتابوں میں اس نے جو نکتہ آفرینیاں کی ہیں۔ وہ حیرت انگیز ہیں۔ اس لیے اندازہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر اس نے جو کچھ لکھا ہوگا بے مثل ہوگا۔ اسی طرح جاحظ کی تصنیف بھی بے نظیر ہوگی۔

اعجاز القرآن کے علاوہ اور بہت سی تصنیفات ہیں جن میں انشاء پر وازی اور ابی نانس قسموں سے بحث کی ہے۔ مثلاً ابن ابی الاصبغ نے قرآن مجید کے ضائع و بلاغیہ پر مستقل کتاب لکھی۔ عزالدین بن عبدالسلام نے قرآن کے مجازات کو یکجا کیا۔ ابوالحسن ماوردی نے قرآن کی ضرب الامثال جمع کیں۔ اور انکی خوبیاں بیان کیں۔ علامہ سیوطی نے سورتوں کے طریق ابتداء پر ایک رسالہ لکھا جس کا نام الخواطر السوانح فی اسرار الفوارج ہے۔ امام ابن قیم نے کتاب البیان اس موضوع پر لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کثرت سے قسمیں کیوں کھائی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ آغاز نزول سے لے کر تا عصر حاضر مسلمانوں نے کتاب الہی کے ساتھ اعتناء کیا اور اس کے مطالب و معانی اور اسرار و نکات معلوم کرنے کے لیے جو سامعی جمیلہ انجام دی ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم اسکی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ مگر باری ہر جہد و سعی قرآن کریم کی وسعت و جامعیت کا یہ عالم ہے کہ اس کے بحر معانی میں غواہی کرنے والے ہر شخص کو عجز و تقصیر کا اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں۔ عہد رسالت سے لے کر دور حاضر تک ہزاروں تفاسیر لکھی گئیں، اور لکھی جا رہی ہیں۔ مگر فرمان رسول کے

مطابق قرآنی حکمت داسرا ختم ہونے میں نہیں آئے۔ امام رازی نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ دستل ہزار مسائل پر مشتمل ہے۔ اور اپنے دعویٰ کو دلائل کی روشنی میں ثابت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”قرآن میں پہلی اور پچھلی قزموں کے حالات مذکور ہیں۔ اس میں تمہارے فیصلہ جات بھی موزم ہیں۔ یہ فیصلہ کن کتاب ہے، مذاق پر مشتمل نہیں۔ جو ازہ بغاوت اس کو نظر انداز کرے گا۔ خدا اس کو نوز پھوڑ دے گا۔ جو اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے ہدایت طلب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہ خدا کی مضبوطی ہے۔ یہ ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے۔ اس کی وجہ سے خیالات میں بے راہ روی نہیں آتی۔ اور نہ ہی زبان میں الجھن پیدا ہوتی ہے۔ علماء اس کو پڑھتے پڑھتے سیر نہیں ہوتے۔ بار بار پڑھنے کے باوجود اس سے اکٹھا ہٹ اور دلائل پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہی کتاب ہے کہ جب جنوں نے اسے مستافوے ساختہ پکارا اٹھے۔ ”إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا“ (ہم نے عجیب قرآن سنا، جو شخص قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچ بولے گا۔ اور جو اس پر شل کرے گا اسے اجر دیا جائے گا۔ جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عدل و انصاف سے کام لے گا۔ اور جو اس کی جانب دعوت

دے گا، وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوگا!“ (ترمذی، ج ۲- ص ۱۴۹)

حیرت کی بات ہے کہ اردو زبان میں ایسی کوئی جامع کتاب موجود نہ تھی۔ جس سے علم تفسیر کی مفصل تاریخ اور مفسرین کرام کی جمود و مساعی کا تفصیلی علم ہو سکے۔ اپنے ناقص مطالعہ کی حد تک تاریخ تفسیر کا کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا گیا۔ اور ہر موضوع پر کھل کر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ زبان اردو اس موضوع پر بعض کتابیں دیکھنے میں آئی ہیں، مگر ان میں حدود و تشنگی پائی جاتی ہے۔ بحمد اللہ یہ کتاب اپنی جامعیت کے اعتبار سے اس موضوع پر مفر و حیثیت کی حامل ہوگی۔ اس کا نام میں نے ”تاریخ تفسیر مفسرین“ تجویز کیا ہے۔

اس کتاب کا اہم ماخذ و معیار علامہ محمد حسین الذہبی کی کتاب ”التفسیر و المفسرون“ ہے۔ علامہ مذکور جامع ازہم کے شریعت کا بیج میں پر و فیسر اور مصر کے شہرہ آفاق عالم ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے مندرجہ ذیل کتب سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔

- ۱ - البرهان فی علوم القرآن امام زرکشی -
- ۲ - الاتقان فی علوم القرآن جلال الدین سیوطی -
- ۳ - مناہل العرفان زرکانی -
- ۴ - اکسیر فی اصول التفسیر علامہ سید صدیق الحسن خاں بھوپالی -
- ۵ - مقدمہ ابن خلدون -

یہاں طور پر یہ کتاب تصنیف کے بجائے اخذ و تلخیص پر مبنی ہے جس کی اساس اکثر و بیشتر «التفسیر و المفسرون» پر رکھی گئی ہے۔ اور اس کے غیر ضروری مواد کو حذف کر کے دیگر کتب سے مفید معلومات کا انسااف کیا گیا ہے۔ نظر میں یہ کتاب اپنے موضوع پر اردو زبان میں ایک جامع اور ہمہ گیر تالیف کی صورت میں منصفہ شہور پر جلوہ گر ہوئی ہے۔ خداوند کریم اس تحقیر کاوش کو حسن قبول سے نوازے۔ اِنَّكَ سَمِيعٌ مُّجِيبٌ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

خادم العلم
غلام احمد حیرانی
شعبہ علوم اسلامیہ
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

یکم اگست ۱۹۷۱ء
ڈی۔ ۶۱۔ پیپلز کالونی
فیصل آباد

مقدمہ

مَبْحَثُ أَوَّل

تفسیر و تاویل کا مفہوم اور ان کا باہمی فرق

تفسیر کا لغوی مفہوم :

تفسیر کے لغوی معنی واضح کرنے اور کھول کر بیان کرنے کے ہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا :

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ
بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا
(الفرقان - ۳۳)

وہ جو مثال بھی آپ کے پاس لائیں گے

ہم اس کے عوض آپ کے پاس حق اور اس

کی بہترین تفصیل لائیں گے۔

اس آیت میں تفسیر سے بیان و تفصیل مراد ہے۔ لفظ تفسیر کا مادہ ”نَسَرَ“ ہے۔ اس کے

معنی ہیں ظاہر کرنا، کھول دینا، اور بے حجاب کرنا۔ فسر مصدر سے فعل فَرَّبَ اور فَرَسَ دونوں کے

وزن پر آتا ہے۔ (التاموس ج ۲ ص ۱۱۰)

صاحب لسان العرب فرماتے ہیں :

و فرس کے معنی ہیں اظہار و بیان۔ اس کا فعل باب فَرَّبَ و فَرَسَ دونوں سے آتا ہے۔ تفسیر کا

مفہوم بھی یہی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ فسر بے حجاب کرنے کو کہتے ہیں۔ تفسیر کرنے وقت

بھی مشکل لفظ کے معنی و مفہوم کو گویا بے حجاب کر دیا جاتا ہے۔ (لسان العرب، ج ۲ ص ۱۱۰)

مشہور مفسر اور نحوی ابو حیان رقمطراز ہیں :

”سواری کا پالان اتار کر اس کی پیچھے منگی کرنے کو بھی تفسیر کہتے ہیں۔ تفسیر لغوی کا یہی قول

ہے۔ ظاہر ہے کہ منگا کرنے میں کشف و اظہار کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ زین

اتارنے سے پیٹھ کھل کر سامنے آجاتی ہے۔ (البحر المحیط، ج ۱- ص ۱۳)

مذکورہ صدر دلائل سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ لفظ تفسیر لفظ لغت محسوسات اور عقولات دونوں کے کشف و انکشاف کے لیے مستعمل ہے۔ البتہ عقل اور غیر مادی اشیا کے سلسلہ میں یہ لفظ مقابلہٴ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔

تفسیر کا اصطلاحی مفہوم:

بعض علماء کے نزدیک تفسیر کا شمار ان علوم میں نہیں کیا جاتا جن کے لیے کسی جامع مانع تعریف کی ضرورت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم تفسیر دیگر علوم کی طرح کچھ بندھے ٹکے قواعد اور خاص ملکہ کا نام نہیں جو کسی علم کے بجز تکرار و اعادہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے عقلی علوم اور تفسیر کے مابین کوئی خاص مماثلت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے علم تفسیر کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ صرف یہ کہنا کافی ہے کہ کلام الہی کے ایضاح و تشریح کا نام تفسیر ہے۔ یا یہ کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جو قرآن کے الفاظ و معانی کو واضح کرتا ہے۔

بخلاف ان علماء کی ایک دوسری جماعت اس بات کی قائل ہے کہ تفسیر کا تعلق ان مسائل جزئیہ یا قواعد کلیہ اور یا اس ملکہ و اسخ کے ساتھ ہے جو قواعد کے تحفظ و نگہداشت سے پیدا ہوتا ہے۔ بنا بریں اس علم کے لیے تعریف کی بھی ضرورت ہے اور فہم قرآن کے سلسلہ میں دیگر علوم، مثلاً لغت و قرأت اور صرف و نحو بھی مطلوب ہیں۔

جن علماء نے علم تفسیر کی جامع مانع تعریف بیان کرنے کا تکلف کیا ہے۔ وہ مختلف الاراد ہیں۔ اور کسی ایک تعریف پر متفق نہ ہو سکے تاہم اختلاف و تنوع کے باوجود یہ تعریفات کثیرہ لفظاً مختلف لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے متحد ہیں۔ ابو حیان نے البحر المحیط میں تفسیر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

(۱) - "تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں الفاظ قرآن کے لفظ ان کے مفہوم و مدلول ان کے احکام و مفہوم و ترکیبی اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جن کے حالت ترکیب میں وہ حاصل ہوتے ہیں"

اس تعریف میں جو قیود ہیں اس کے فوائد بتاتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"اس تعریف میں "علم" کا لفظ جنس کی حیثیت رکھتا ہے جس میں سب علوم

شامل ہیں“

جس علم کی مدرسے قرآنی الفاظ کے نطق و تلفظ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ”علم القراءت“ ہے۔
 الفاظ کا معنی و مفہوم علم لغت سے معلوم ہوتا ہے، جس کی تفسیر میں شدید ضرورت پڑتی
 ہے۔ الفاظ کے احکام انفرادی و ترکیبی کا حال علوم صرف و نحو اور بیان و بدیع سے معلوم ہوتا
 ہے۔ باقی رہی یہ قید کہ حالت ترکیب میں الفاظ جن معانی کے حامل ہوتے ہیں تو اس سے حقیقی و
 مجازی معانی مراد ہیں۔ اس لیے کہ بعض الفاظ کی ترکیب ایک خاص معانی کی متقاضی ہوتی ہے
 مگر ظاہر ایک ایسا مانع موجود ہوتا ہے۔ جو حقیقی معنی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے اور اس لیے مجازی
 مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ اس تعریف میں جو تہمہ و تہمید کا لفظ وارد ہوا ہے اس سے ناسخ و منسوخ
 اور سبب نزول کی پہچان نیز ایسا واقع مراد ہے جو مبہمات قرآن کی توضیح کرتا ہو۔

(البحر المحیط، ج ۱، ص ۱۳)

(۲) - تفسیر کی دوسری تعریف امام زکریٰ نے ان الفاظ میں کی ہے :-

”تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کی مدرسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کے
 معانی سمجھے جاتے اور اس کے احکام و مسائل اور اسرار و حکم سے بحث کی جاتی ہے۔“

(الافتان، ج ۲، ص ۱۷۴)

(۳) - تفسیر کی تیسری تعریف یہ ہے :-

”تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں بشری استقامت کی حد تک اس امر سے بحث کی جاتی ہے
 کہ الفاظ قرآنی سے خداوند تعالیٰ کی مراد کیا ہے“ (منہج الفرقان، ج ۱، ص ۶)

دوسری اور تیسری تعریف سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ علم القراءت اور علم رسم الخط دونوں
 تفسیر سے فارغ ہیں۔ مگر درحقیقت معاملہ یوں نہیں۔ یہ دونوں تفسیر کا لازمی جزو ہیں۔ اس لیے
 کہ اختلاف قرأت سے معنی کا بدل جانا ایک واضح امر ہے۔ اس کے شواہد و امثال قرآن میں
 اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے بیان کی حاجت نہیں۔

(۴) - تفسیر کی چوتھی تعریف حسب ذیل ہے :-

”تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں قرآنی آیات کے نزول ان کے واقعات و متعلقہ اسباب نزول

نیز کہ دہدنی حکم و مشابہہ ناسخ و منسوخ خاص و عام مطلق و مقید، محمل و مفسر، حلال و حرام
و عدد و وعید، امر و نہی اور عبرت و امثال وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔“

(الاتقان، ج ۲، ص ۱۷۴)

مذکورہ صدر تعریفات چہارگانہ میں یہ بات قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہے کہ تفسیر ایک
ایسا علم ہے، جس میں انسانی استطاعت کی حد تک مراد الہی کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
بنابریں تفسیر ہر اس علم کو سموٹے ہوئے ہے جس پر بھی مراد خداوندی کا سمجھنا موقوف ہو۔

تاویل کا لغوی مفہوم:

تاویل کا سہ حرفی مادہ اذّل (رجوع کرنا) ہے۔

صاحب قاموس فرماتے ہیں:-

”أَلَّ الْيَسْرَ أَوْ كَلَّ“ یعنی رجوع کرنا اور منحرف ہونا۔ تاویل الکلام سے مراد اس کی

توضیح و تشریح ہے۔ تاویل خواب کی تعبیر کو بھی کہتے ہیں“ (القاموس، ج ۳، ص ۲۳۱)

لسان العرب میں ہے:-

”أَذَّلَ كَيْ مَعْنَى هُوَ رَجَعُ كَرْنَا - أَوْ كَسَى حَيْزًا مِمَّا مَعْنَى مَعْرَفٌ هُوْنَا“

حدیث میں ارشاد ہے:-

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ فَلَا صَامَ

جس نے ہمیشہ روزہ رکھا نہ اس کا روزہ ہو اور

وَلَا آلَ -

تاویل الکلام کے معنی اظہار و بیان کے ہیں“ (لسان العرب، ج ۱۳، ص ۲۳۳)

نظر بریں تاویل کا لفظ اذّل یعنی رجوع سے ماخوذ ہے۔ گویا جو شخص تاویل کرتا ہے۔ وہ کلام کو

اس کے متعدد معانی میں سے کسی ایک کی جانب لوٹاتا ہے۔ اگرچہ احتمال ان تمام معانی کا ہوتا ہے

لیکن وہ ان میں سے ایک کو مراد لیتا ہے۔

بعض علماء کے نزدیک تاویل ”إِنَّا كَلَّ“ (سیاست و حکمرانی) سے ماخوذ ہے۔ نظر بریں گویا

مذکورہ تاویل کنندہ کلام پر حکمرانی کرتا اور اسے مناسب موقع و مقام پر رکھتا ہے

مشہور لغوی زعمشرفی لکھتے ہیں:-

اِنَّ الرَّعِيَّةَ اِيَاكَ حَسَنَةٌ وَهُوَ
اس نے رعیت پر بہت اچھی طرح حکمرانی کی
حَسَنُ الْاِيَاكَ اور وہ بہترین حکمران ہے۔

(اساس البلاغہ، ج ۱- ص ۱۵)

قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ تاویل کا لفظ متعدد آیات میں مختلف
معان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں :-

۱۔ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ذُرِّيُّعٌ يَّتَّبِعُوْنَ مَا تَسَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَاِبْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ
(آل عمران - ۷)

اس آیت میں تاویل کا لفظ تفسیر و تبیین کے معنی میں استعمال ہوا ہے :

۲۔ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا
(النساء - ۵۹)

اس آیت میں تاویل سے نتیجہ اور انجام مراد ہے۔

۳۔ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَكَ، يَوْمَ يَأْتِي تَاْوِيْلَهُ۔

(الاعراف - ۵۳)

۴۔ بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهُ۔

(یونس - ۳۹)

تیسری اور چوتھی دونوں آیات میں تاویل سے ایسے واقعہ کا ظہور پذیر ہونا مراد ہے جس
کی کسی رسول یا نبی نے اطلاع دی تھی۔

۵۔ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ۔

(یوسف - ۶)

۶۔ لَا يَاْتِيْكُمْ طَعَامٌ تَرْزُقَانِهٖ اِلَّا نَبَاْتُكُمْ بِتَاْوِيْلِهِ۔

(یوسف - ۳۷)

۷۔ وَمَا تَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعَالِمِيْنَ۔ (یوسف - ۴۴)

مؤخر الذکر ہر سہ آیات میں تاویل سے تفسیر خواب مراد ہے۔

۸ - سَأَيُّدُنكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (الکھف - ۷۸)

۹ - ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ هَنْبَرًا (الکھف - ۸۲)

مذکورہ بالا دونوں آیات میں تاویل سے ان اعمال کا موجب و محرک مراد ہے، جو خضر نے کشتی کو ٹوڑنے لڑکے کو قتل کرنے اور دیوار کی تعمیر کے سلسلہ میں انجام دیے تھے۔

تاویل کا اصطلاحی مفہوم سلف کی نگاہ میں:

علمائے سلف کے یہاں تاویل سے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں :-

اقول :- کلام کے معنی و مفہوم کو واضح کرنا، خواہ وہ ظاہر کلام کے موافق ہو یا مخالفت۔ اس صورت میں

تاویل و تفسیر مترادف ہیں اور ان میں کوئی معنوی فرق نہیں۔

شہور تابعی مجاہد جب کہتے ہیں کہ "علماء قرآن کی تاویل جانتے ہیں" تو ان کی مراد "تاویل" سے

تفسیر ہی ہے۔

امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں اکثر یوں کہتے ہیں :-

"القول في تاويل قوله تعالى كذا وكذا" (دلائل آیت کی تاویل پر ہے)

یہاں وہ تاویل سے تفسیر مراد لیتے ہیں۔

دوم :- علمائے سلف کی رائے میں کسی کلام سے جو مفہوم مراد و مقصود ہے وہی تاویل ہے۔ سلف

کے نزدیک یہ تاویل کے دوسرے معنی ہیں۔ چنانچہ اگر کلام کسی طلب یا خبر پر مشتمل ہو تو جو فعل

مطلوب ہے یا جو خبر وہی جارہی ہے، وہی اس کی تاویل ہے۔ پہلے اور دوسرے معنی کا

باہمی فرق و امتیاز اس قدر واضح ہے کہ محتاج بیان نہیں۔

متاخرین کے نزدیک تاویل کا مفہوم:

متاخرین فقہاء و متکلمین کی نگاہ میں تاویل کے معنی یہ ہیں کہ کسی دلیل کی بنا پر ایک لفظ کے راجح

معنی کو ترک کر کے مروج معنی مراد لیے جائیں۔ اصول فقہ اور اختلافی مسائل میں تاویل سے یہی مفہوم مراد لیا

جاتا ہے۔ علمی مبادئ و افکار کے دوران جب ایک فریق کتا ہے کہ یہ حدیث یا نص مؤول ہے یا غلاں بات

پر محمول ہے۔ تو دوسرا فریق اس کے جواب میں کتا ہے کہ یہ تاویل ہے۔ اس لیے محتاج دلیل ہے۔

مذکورہ صدر بیان سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ تاویل کرنے والے سے دو باتوں کا مطالبہ کیا جائے گا۔

(۱) پہلی بات یہ ہے کہ کسی لفظ سے جو مفہوم وہ مراد لیتا ہے وہ ثابت کرے کہ آیا وہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے یا نہیں۔

(۲) دوسرے وہ بیانات ہیں کہ کون سی دلیل راجح معنی مراد لینے سے مانع اور مرجوح معنی کی مقتضی ہے۔ اور اگر وہ یہ دونوں باتیں ثابت کرنے سے قاصر رہتا ہے تو اس کی تاویل نامساعد ہوگی اور وہ شرعی نسخوں کا مذاق اڑانے والا ٹھہرے گا۔
جمع الجوامع اور اس کی شرح میں لکھا ہے :-

”ظاہر اور متبادر معنی کو ترک کر کے مرجوح معنی مراد لینے کو تاویل کہتے ہیں۔ اگر کسی دلیل و برصان کی بنا پر ایسا کیا جائے تو درست ہے اور اگر ظنی دلیل کی بنا پر مرجوح معنی مراد لیا جائے تو نامساعد۔ اور اگر یقینی یا ظنی کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو تو یہ نصوص کے ساتھ مذاق ہے تاویل نہیں“
(جمع الجوامع، ج ۲، ص ۵۶)

صفات باری کے سلسلہ میں جو تاویل متنازع فیہ ہے، وہ یہی ہے۔ چنانچہ بعض علماء و اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس سے باز رکھتے ہیں۔ بخلاف ازیں علماء کا دوسرا گروہ تاویل کی تعریف کرتا اور اس کو واجب قرار دیتا ہے۔ (الاکلیل فی التنبیہ والتاویل امام ابن تیمیہ، ج ۲، ص ۱۵)
تفسیر و تاویل کا فرق و امتیاز:

علماء کے یہاں اس امر میں اختلاف ہے کہ تفسیر و تاویل کے مابین کیا فرق و امتیاز پایا جاتا ہے اس فرق کا معلوم کرنا ایک دشوار علمی کام ہے اور وہی شخص اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ جو توفیق ربانی سے بہرہ ور ہو۔

ابن جبیب نیسابوری لکھتے ہیں :-

”ہمارے زمانہ میں ایسے مفسر پیدا ہو گئے ہیں جن سے اگر تاویل و تفسیر کا باہمی فرق دیکھا گیا جائے تو توبہ تباہ کیں“
(الاتقان، ج ۲، ص ۱۴۳)

تفسیر و تاویل کے مفہوم میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس کی وجہ مصر کے مشہور فاضل امین الخولی نے ان الفاظ

میں بیان کی ہے :

”میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں تاویل کا لفظ وارد نہیں ہوا۔ پھر علمائے اصول اس لفظ کو ایک خاص اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرنے لگے۔ حالانکہ یہ لفظ متکلمین اہل مذاہب کی زبان و قلم پر عام طور سے جاری و ساری ہے“ (التفسیر معالم حیاتہ، ص ۶)

قاری کو اختلاف اقوال سے آگاہ و آشنا کرنے کے لیے میں اس ضمن میں وارد شدہ احکام و آراء پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ قاری کے ذوق پر منحصر ہے کہ وہ ان میں سے حسبِ مرقعہ جو قول چاہے اختیار کرے۔

اس ضمن میں علماء کے اقوال :

(۱) ابو عبیدہ اور علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ تفسیر قنابیل کے الفاظ مترادف ہیں، اور ان میں کوئی فرق و اختلاف نہیں پایا جاتا۔ متقدمین اہل تفسیر کا زاویہ نگاہ بھی یہی ہے۔

(الاتقان، ج ۲ - ص ۱۷۳)

(۲) امام راعب الصغمانی فرماتے ہیں :-

”تفسیر کے لفظ میں تاویل کی نسبت زیادہ عموم پایا جاتا ہے۔ تفسیر کا لفظ عموماً الفاظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور تاویل معانی کے لیے مثلاً خواب کی تعبیر کو ”تاویل الرؤیا“ کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں تاویل کا لفظ اکثر و بیشتر کتب مقدسہ کے لیے بولا جاتا ہے اور تفسیر کتب مقدسہ و دیگر کتب کے سلسلہ میں۔ اسی طرح تفسیر کا لفظ زیادہ تر الفاظ معرفہ کے ضمن میں بولتے ہیں۔ اور تاویل جملوں اور مرکبات کے دوران مزید براں تفسیر کا لفظ، الفاظ نادارہ غریبہ کی شرح و توضیح کے لیے بولا جاتا ہے مثلاً البحرۃ السابغہ اور الوصیۃ وغیرہ۔ یا جو معنی مقصود و مراد ہوا اس پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ جیسے سورہ بقرہ کی یہ آیت، ”وَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ“ یا ایسے کلام کے سلسلہ میں جس میں کوئی واقعہ مذکور ہوا اور اس کے بغیر کلام کا مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو۔ جیسے یہ آیت :-

”إِنَّمَا النَّسِيءُ ذِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ“ (التوبة - ۳۷)

بخلاف ازیں تاویل کا لفظ بعض اوقات عام استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات خاص۔

جس طرح کفر کا لفظ مطلق انکار کے معنی میں بولا جاتا ہے اور خاص باری تعالیٰ کے انکار کے لیے بھی۔ اسی طرح ایمان مطلق تصدیق کو بھی کہتے ہیں۔ اور خاص دین اسلام کی تصدیق کو بھی۔ (مقدمۃ التفسیر للاعجاب، ص ۲۰۲)

۳۔ امام بازیدری فرماتے ہیں :-

”تفسیر کے معنی قطعیت و یقین کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ اس لفظ کے یہی معنی ہیں اور خداوند کریم نے یہی مفہوم مراد لیا ہے۔ اس کی اگر کوئی قطعی و حتمی دلیل موجود ہو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ تفسیر بارائی ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ بخلاف ازیں ایک لفظ میں من مختلف معانی کا احتمال پایا جاتا ہے اس میں سے ایک کو ترجیح دینے کا نام تاویل ہے۔ اس میں قطع و یقین کا ہونا ضروری نہیں“ (الاتقان، ج ۲، ص ۱۶۳)

۴۔ ابو طالب ثعلبی رقمطراز ہیں :-

”لفظ جس معنی کے لیے موضوع ہو حقیقتہً یا مجازاً اس کے بیان کرنے کو تفسیر کہتے ہیں مثلاً لفظ صراط کی تفسیر راستہ اور صیبت کی بارش کے ساتھ۔ بخلاف ازیں کسی لفظ کے باطنی و اندرونی مفہوم کے واضح کرنے کو تاویل کہتے ہیں۔ تاویل کا سہ حرفی مادہ اذول ہے۔ جس کے معنی ہیں، کسی چیز کے نتیجہ و انجام کی جانب رجوع کرنا۔ بنا بریں حقیقت مراد سے آگاہ کرنے کو تاویل اور دلیل مراد کے اظہار و اخبار کو تفسیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے“ (الاتقان، ج ۲، ص ۱۶۳)

۵۔ مفسر بغوی اور الکواشی کا قول ہے :-

”تاویل کے معنی ہیں آیت سے ایسا مفہوم مراد لینا جس کی اس میں گنجائش ہو۔ وہ مفہوم آیت کے سیاق و سباق سے ہم آہنگ ہو اور کتاب و سنت نے خلاف نہ ہو۔ بخلاف ازیں کسی آیت کے شان نزول اور واقعہ متعلقہ کے ذکر و بیان کو تفسیر کہتے ہیں“

(معالم التنزیل، ج ۱، ص ۱۸)

۶۔ بعض علماء کی رائے میں تفسیر کا تعلق روایت کے ساتھ ہوتا ہے اور تاویل کا روایت کیساتھ

(الاتقان، ج ۲، ص ۱۶۳)

۷۔ بعض مفسرین کے نزدیک ترتیب عبارت سے جو مفہوم مستفاد ہو اس کے بیان کرنے کو تفسیر

کہتے ہیں۔ اس کے برعکس عبارت سے جو مفہوم اشارۃ معلوم ہوتا ہے اس کے کشف و اظہار کا نام تاویل ہے۔
متاخرین کے نزدیک یہ بات مشہور ہے۔ مشہور مفسر علامہ آکوسی بغدادی نے اپنی تفسیر روح المعانی
کے مقدمہ میں اسی کی تائید کی ہے۔ (مقدمہ روح المعانی، ج ۱- ص ۵)

یہ ہیں تفسیر و تاویل کے مابین فرق و امتیاز کے سلسلہ میں علماء کے اقوال!
اس ضمن میں کچھ اور اقوال بھی منقول ہیں۔ جن کو خوف طوالت کی بنا پر ہم نے قلم زد کر دیا ہے۔
مذکورہ صمدی اقوال میں سے جو قول اقرب الی الصواب ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر کا تعلق روایت کے
ساتھ ہوتا ہے۔ اور تاویل کا روایت کے ساتھ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تفسیر نام ہے کشف و بیان کا۔
اور مراد ربانی کا انساہ جزم و دہش کے ساتھ اسی وقت ممکن ہے۔ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا
صحابہ سے منقول ہو جو نزول وحی کے چشم دید گواہ اور اس سے متعلقہ واقعات و حوادث سے بخوبی آگاہ و
آشنا تھے۔ ان کے لیے یہ شرف کیا کم ہے کہ انہوں نے صحبت و رسولی سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اور
مشکلات قرآن کے فہم و ادراک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا۔

تاویل میں یہ بات پیش نظر ہوتی ہے کہ ایک لفظ میں جس تدر معانی کی گنجائش موجود ہے ان میں
سے ایک معنی کو بنا کر دلیل ترجیح دی جائے۔ ترجیح کا انحصار اجتہاد پر ہوتا ہے۔ اجتہاد کے سلسلہ میں اس کے
مناسب وسائل و ذرائع سے مدد لی جاتی ہے۔ مثلاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مفرد لفظ کے معنی لغت عرب
میں کیا ہیں؟ سیاق و سباق کے اعتبار سے یہاں کون سے معنی اقرب الی الصواب ہیں۔ پھر عربی اسالیب
کلام کو دیکھ کر معنی کا استنباط کیا جاتا ہے۔

امام زرکشی فرماتے ہیں :-

عہ علماء نے تفسیر و تاویل کے مابین جس فرق و امتیاز کو ملحوظ رکھا ہے اس کا سبب یہی
ہے کہ تفسیر میں منقولات پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور تاویل کا مدار و انحصار استنباط پر

(الاتقان، ج ۲- ص ۱۸۳)

ہوتا ہے۔

مَبْحَثِ دَوِّم

غیر عربی زبانوں میں تفسیر قرآن

اب ہم عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں قرآن حکیم کی تفسیر کی بحث اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس بحث کا کتاب کے موضوع سے نہایت گہرا ربط و تعلق ہے۔ قبل اس کے کہ اس بحث کا آغاز کیا جائے ایک مختصر تمہید کی ضرورت ہے۔ اس تمہید میں ہم یہ بتائیں گے کہ مترجم کا مفہوم کیا ہے، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں نیز یہ کہ ترجمہ کی کون سی قسم تفسیر میں شامل ہے اور کون سی نہیں؟

ترجمہ کا مفہوم و اقسام :

لفظ عرب میں ترجمہ کا لفظ دو معانی کے لیے بولا جاتا ہے :-

- (۱) - کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں نقل کرنے کو ترجمہ کہتے ہیں۔ بجز اس کے کہ جس کلام کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس کے معانی کی وضاحت کی جائے۔ اس کی مثال یوں ہے، جیسے ایک ہی زبان کے روایت کو مٹھا کر اس کی جگہ اسی زبان کا دوسرا روایت رکھ دیا جائے۔
- (۲) - ترجمہ کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک کلام کا مطلوب و مقصود دوسری زبان میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔

صاحب تاج العروس لکھتے ہیں :-

”کسی زبان کی تشریح و توضیح کرنے والے کو ”ترجمان“ کہتے ہیں کلام کو دوسری زبان میں واضح کرنے کا نام ترجمہ ہے۔ مشہور لغوی جوہری کا قول ہے کہ کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کو ترجمہ کہتے ہیں“ (تاج العروس، ج ۸ - ص ۲۱۱)

نظر میں ترجمہ کی دو قسمیں ہیں :-

(۲) تفسیری ترجمہ -

(۱) لفظی ترجمہ -

۱۔ لفظی ترجمہ :

لفظی ترجمہ کے معنی یہ ہیں کہ کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں اسی نظم و ترتیب کے ساتھ منتقل کر دیا جائے، جیسے کہ وہ پہلے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اصل کلام کے معنی و مفہوم کو بہ نفع قائم رکھا جائے اور اس میں کوئی تبدیل واقع نہ ہو۔

۲۔ تفسیری ترجمہ :

تفسیری ترجمہ سے مراد یہ ہے کہ ایک کلام کا مطلب دوسری زبان میں کھل کر بیان کر دیا جائے اس میں سابقہ نظم و ترتیب اور کلام کے اصل تمام معانی کا قائم رکھنا ضروری نہیں۔

ہم اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتے کہ قرآن کریم کا کون سا ترجمہ جائز ہے اور کون سا ناجائز؟ نیز یہ کہ علمائے متقدمین و متاخرین کے اقوال اس ضمن میں کیا ہیں؟ ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ترجمہ کی دونوں قسموں میں سے کون سی قسم تفسیر میں شامل ہے، آیا لفظی ترجمہ یا تفسیری ترجمہ یا دونوں؟

قرآن کا لفظی ترجمہ :

لفظی ترجمہ کی دو قسمیں ہیں :-

۱۔ ترجمہ بالمثل -

۲۔ ترجمہ بغیر المثل -

۱۔ ترجمہ بالمثل :

اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کا کسی دوسری زبان میں ایسا ترجمہ کیا جائے، جو ہر لحاظ سے اس کی مانند ہو۔ یہاں تک کہ ترجمہ کے مفردات قرآنی مفردات اور اس کا اسلوب و انداز اسلوب قرآن کی جگہ رکھے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ قرآن کی اصل عبارت میں معانی جس بلاغی کیفیت سے تکلیف اور حرج تشریحی مسائل پر عادی ہوں وہ ترجمہ کے اندر بلا کم و کاست موجود ہوں۔ واضح ہو کہ قرآن کریم کا ایسا ترجمہ ممکن نہیں۔ اس لیے زہلی قرآن کے اسامی مقاصد دو ہیں :

اول = قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل و برہان کے طور پر نازل ہوا اس کا یہ اعجاز ہے کہ اس و جن جمع ہو کر بھی اس جیسی ایک سورت نہیں بنا سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضورؐ کے رسول تھے۔ اور جو کلام ان پر نازل ہوا، وہ کلام ربانی ہے، انسانی نہیں۔

دوم = نزول قرآن کا دوسرا مقصد نبی نوع انسان کی دنیوی و اخروی فلاح و صلاح ہے۔

جہاں تک پہلے غرض کا تعلق ہے وہ بالاتفاق ترجمہ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجوہ اعجاز اگرچہ بہت سے ہیں مثلاً قرآن کریم میں اخبار غیبی کا پایا جانا یا ایک بے عیب شریعت کا حامل ہونا و علاوہ ازیں۔ تاہم ہر آیت میں جو اعجاز پایا جاتا ہے اس کا مدار و انحصار اس کی بلاغی خصوصیات پر ہے جو خاص اغراض کے تحت اس میں موجود ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان بلاغی خصوصیات کو دوسری زبانوں میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ ہر ترقی یافتہ زبان بلاغت کی حامل ہوتی ہے۔ تاہم ہر زبان کی ایک خاصیت ہوتی ہے جس میں کوئی دوسری زبان اس کی سہم و شریک نہیں ہو سکتی۔ بنا بریں اگر قرآن کریم کا لفظی ترجمہ کیا جائے۔۔۔۔۔ جو کسی طرح ممکن نہیں۔۔۔۔۔ تو اس کی بلاغی خصوصیات ضائع ہو جائیں گی۔ جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ قرآن اپنے مجزا مرتبہ سے گر کر بشری استطاعت کے دائرہ میں داخل ہو جائے گا اور وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ جس کے پیش نظر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔

نزول قرآن کا دوسرا مقصد لوگوں کے لیے سعادت و دارین کا حصول ہے۔ یہ سعادت قرآن سے احکام و مسائل استنباط کر کے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مدار و انحصار ان معانی الصلیہ پر ہے جس کو لوگ سمجھ سکتے اور ادا کر سکتے ہیں اور سب زبانوں میں یہ صلاحیت یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ اس قسم کے معانی کا ترجمہ اور اس سے احکام و مسائل کا اخذ و استنباط ممکن ہے۔ قرآن کے بعض احکام و ارشادات معانی ثانویہ سے مستفاد ہوتے ہیں۔ ائمہ مجتہدین کے استنباطات اسی پر مبنی ہیں۔ یہ معانی ثانویہ قرآن کے لوازم ہیں سے ہیں۔ ورنہ ان کے بغیر قرآن کی حیثیت قائم نہیں رہتی۔ لفظی ترجمہ میں معانی اولیہ کا تحفظ ممکن ہے، مگر ثانویہ کا نہیں۔ اس لیے کہ معانی ثانویہ قرآن کے لوازم میں سے ہیں دیگر زبانوں میں ان کا وجود نہیں۔

مذکورہ بالا بیان اس حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے کہ قرآن کا لفظی ترجمہ قرآنی مقاصد کی تکمیل میں کسی طرح بھی اصل کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے کہ اس سے نزول قرآن کی پہلی غرض کلیتہً اور دوسری غرض کسی حد تک رائگان ہو جاتی ہے۔

۲۔ ترجمہ بغیر المثل :

اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ اپنی استطاعت کی حد تک قرآن کریم کو صحیح صحیح ترجمہ کرے۔ یہ بات

کلام میں ممکن ہے مگر کتاب ربانی میں درست نہیں۔ اس لیے کہ اس سے نظم قرآن اور اس کے معنی و مفہوم میں خلل پیدا ہو جانا ہے۔ مزید برآں یہ محنت و کاوش عبث اور غیر ضروری بھی ہے۔

لفظی ترجمہ قرآن کی تفسیر نہیں :

سابقہ حقائق سے لفظی ترجمہ بہرہ و صفت کا معنی و مفہوم واضح ہوا۔ ہم نے دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت کر دی کہ قرآن کریم کا ترجمہ بالمثل ممکن نہیں۔ نیز یہ کہ ترجمہ بغیر المثل اگر یہ ممکن ہے گروہ جائز نہیں۔ اب باقی رہا یہ سوال کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ ترجمہ بالمثل ممکن اور ترجمہ بغیر المثل جائز اور درست ہے تو کیا ان کو تفسیر قرآن زبان دیگر قرار دے سکتے ہیں یا نہیں ؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ترجمہ بالمثل کو اگر ممکن فرض کر لیا جائے تو اسے قرآن کی تفسیر نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ کسی دوسری زبان میں قرآن کا ترجمہ بالمثل کرنے سے اس کی شکل و ہیئت وہی رہی ہے صرف زبان بدل جاتی ہے۔ لہذا جس زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا اس کے ٹولنے والے قرآن کی تشریح و تفسیر اور اس کے اسرار و احکام معلوم کرنے کے اسی طرح محتاج ہوں گے جس طرح ایک عربی شخص جس کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ اس لیے کہ اس ترجمہ میں صرف ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک شرح و تفصیل کا تعلق ہے۔ اس کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔

اسی طرح اگر ترجمہ بغیر المثل کو جائز فرض کر لیا جائے تو یہ بھی قرآن کی تفسیر نہیں کہلا سکتا۔ اس ترجمہ کی صورت میں قرآن کریم ایک ناقص اور نامکمل حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ترجمہ کے الفاظ قرآن کے ناقص مفہوم کو پیش کرتے ہیں۔ کامل معنی کی صورت گری نہیں کرتے۔ اس میں شرح و تفسیر کا شاہدہ تک موجود نہیں ہوتا۔ اس ترجمہ میں نہ جمل کی تفصیل پیش کی جاتی اور نہ مطلق کر مقید کیا جاتا ہے۔ استنباط احکام توجیہ معانی اور دیگر امور متعلقہ تفسیر کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔

قرآن کا تفسیری ترجمہ :

تفسیری ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ کلام کا معنی و مقصود دوسری زبان میں واضح کر دیا جائے اور ایسا کرتے وقت اصل کلام کی نظم و ترتیب اور اس کے جملہ معانی مقصودہ کو ملحوظ نہ رکھا جائے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اصل کلام سے جو معنی مراد ہوتا ہے اس کو سمجھ کر دوسری زبان میں منتقل کر دیا جائے۔

سابقہ بیانات سے لفظی ترجمہ اور تفسیری ترجمہ کا فرق واضح ہو چکا ہے۔ ایک مثال دے کر ہم اس پر زبرد روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا :-

وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ - اسراف کرو۔

ن آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہو گا کہ "اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھو، اور نہ ہی بالکل گلا چھوڑ دو" ظاہر ہے کہ اس ترجمہ سے قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ ترجمہ حد درجہ مضحکہ خیز ہے۔ رکوٹی وانا شخص اس فعل کا مترکب نہیں ہوتا جس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ جب اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا جائے گا تو صاحب زبان کے قلب و ذہن میں اس بات کا تصور مطلقاً نہیں آئے گا۔ کہ اس شبیہ بلیغ سے قرآن کا مقصد کیا ہے۔

اس کے برعکس مذکورہ صدر آیات کا تفسیری ترجمہ یہ ہو گا کہ "بخل و اسماک سے کام نہ لو اور ہی اسراف کرو" گویا بخل و اسماک اور اسراف سے روکنے کا یہ مؤثر ترین انداز ہے جو قرآن نے تیار کیا۔ جس زبان میں اس کا تفسیری ترجمہ کیا جائے، اس کے مناسب حال ایسے الفاظ میں اس کی عورت گری کی جائے۔ جس سے بخل و اسماک اور اسراف کے خلاف انسان میں نفرت کے جذبات پاہوں۔ اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ اس آیت سے قرآن کا جو مطلوب و مقصود ہے وہ سیری ترجمہ سے منکشف ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ سے نہیں۔

مندرجہ صدر بیان سے اس بات کا فہم و ادراک آسان ہو گیا کہ قرآن کا تفسیری ترجمہ کسی ترو و جذب کے بغیر جائز اور روا ہے۔ نیز یہ کہ تفسیری ترجمہ کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے اس کی شرح و تفسیر دوسری زبان میں بیان کر دی جائے۔

جس طرح جملہ اہل اسلام کا اجماع اس بات پر منعقد ہو چکا ہے کہ جو شخص بشری استطاعت کی تک قرآن کریم کی شرح و تفسیر کی اہل بیت سے بہرہ ور ہو —————۔ بجز اس کے کہ وہ مراد بانی کے مطلقہ کا دعویٰ دار ہو —————۔ وہ قرآن کی تفسیر کرنے کا مجاز ہے۔ اسی طرح کسی شک و شبہ سے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیری ترجمہ بھی اس اجماع میں شامل ہے، اس لیے کہ تفسیری ترجمہ اور تفسیر میں مابین فرق و امتیاز نہیں پایا جاتا۔ جس طرح تفسیر کرنے وقت مفردات قرآن کی وضاحت کی جاتی ہے۔

جمال تفسیل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تفصیل سے کام لیا جاتا ہے۔ توجیہ مسائل کی ضرورت ہو یا تقریر دلائل کی حسب موقع و مقام سب سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ ہر کام کیا جاتا ہے جس کی قرآن کے فہم و تدبیر کے سلسلہ میں ضرورت ہوتی ہے۔ تفسیری ترجمہ میں بھی یہ سب باتیں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں۔

تفسیر اور تفسیری ترجمہ کے مابین فرق :

غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیری ترجمہ اور تفسیر میں دو پہلوؤں سے فرق کیا جاسکتا ہے۔

(۱) - قرآن کریم کی تفسیر اکثر و بیشتر عربی زبان ہی میں کی جاتی ہے۔ جس میں کہ وہ نازل ہوا۔ بخلاف ازیں تفسیری ترجمہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کیا جاتا ہے۔

(۲) - دوسرا فرق یہ ہے کہ تفسیر کا فادی قرآن کریم کی نظم و عبارت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ بنا بریں اگر تفسیر میں غلطی پاتا ہے تو اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ بالفرض اگر وہ تفسیر کی غلطی سے آگاہ نہیں ہوتا تو دوسرا فادی اسے ٹھیک کر دیتا ہے۔ بخلاف ازیں تفسیری ترجمہ میں اس کا امکان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اس کا فادی قرآن کے معنی و مفہوم سے نااہل ہوتا ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو ترجمہ وہ پڑھ رہا ہے وہ قرآن کریم کی صحیح تشریح و توضیح پر مشتمل ہے قرآن کی زبان سے بے گانہ ہونے کی بنا پر وہ قرآن کریم کی عبارت اور ترجمہ میں موازنہ کرنے کی استطاعت سے محروم ہوتا ہے۔

تفسیری ترجمہ کے شرائط :

تفسیر قرآن ہو یا تفسیری ترجمہ اُمت کے لیے اُن کا سیکھنا دینی فرائض میں سے ہے۔ تفسیری ترجمہ تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ لاتعداد فوائد کا حامل ہے۔ تفسیری ترجمہ عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بدولت قرآن کے مطالب و معانی کو ان مسلمانوں اور غیر مسلموں تک پہنچایا جاتا ہے۔ جو عربی بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مزید برآں اس کے ذریعہ ملحدین کے کروفریب سے اسلامی عقیدہ کی حمایت و حفاظت کی جاتی ہے۔ مسیحی مشنریوں کے فضالت و جمالت کا پردہ چاک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے دانستہ قرآن کریم کے ایسے ترجمے کیے جو عقائد باطلہ اور تعلیمات فاسدہ کے طومار تھے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ زبان قرآن سے نا آشنا لوگوں کے

سائنس قرآن کو ایسی صورت میں پیش کریں جس سے وہ نفرت کرنے لگیں۔ اسی قسم کے تراجم ناسدہ تھے جن کے خلاف اہل اسلام نے صدائے احتجاج بلند کی۔ اسی لیے ہم ایسی شرائط کے ذکر و بیان کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جن کے ملحوظ رکھنے سے تفسیری ترجمہ صحیح اور مقبول ہو سکے۔

شرائط حسب ذیل ہیں :-

(۱) اس ترجمہ میں وہی شرائط ملحوظ ہوں گے، جو تفسیر میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی پر اسی صورت میں اعتماد کیا جائے گا جب وہ احادیث جموید عربی لغت اور اسلامی شریعت کے معتبر اصول و ضوابط سے ماخوذ ہو۔ مترجم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ قرآنی مطالب کے بیان کرنے میں ایسی تفسیر پر بھروسہ کرے جو ان مآخذ سے منقول ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی رائے سے قرآن کریم کا مطلب بیان کرے۔ یا ایسی تفسیر پر اعتماد کرے جو ان مصادر سے ماخوذ نہ ہو تو اس کا کیا ہوا ترجمہ اسی طرح ناقابل اعتماد ہے جس طرح وہ تفسیر بھروسہ کے لائق نہیں، جو ان سرچشمہ ہائے علمی سے مستفاد نہ ہو۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ مترجم گمراہانہ عقائد و افکار کا حامل نہ ہو۔ اس شرط کا مفسر کے اندر بھی پایا جانا ضروری ہے۔ مفسر و مترجم کا رجحان و میلان جب کسی باطل عقیدہ کی جانب ہوگا تو وہ عقیدہ ناسدہ اس کے فکر و نظر پر چھائے گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ قرآنی نکتہ سے بہت دور نکل جائیں گے اور ان کے ترجمہ و تفسیر میں بھی اس چیز کی رنگ آمیزی ہوگی۔

(۳) تیسری شرط یہ ہے کہ مترجم جس زبان سے ترجمہ کر رہا ہے، اور جس میں کر رہا ہے ان دونوں زبانوں کا نجوبی ماہر اور ان کے اسرار و رموز طریق استعمال اور وضع و دلالت سے پوری طرح آگاہ ہو۔

(۴) چوتھی شرط یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم کی عبارت اور پھر اس کی تفسیر قلم بند کی جائے۔ بعد ازاں تفسیری ترجمہ تحریر کیا جائے۔ تاکہ کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ یہ ہیں وہ شرائط جن کو پیش نظر رکھنا اس شخص کے لیے ازلیس ناگزیر ہے، جو کسی د

زبان میں قرآن مجید کی ایسی تفسیر تحریر کرنا چاہتا ہے جو ہر قسم کے نقار و جرح اور عیب و نقض سے پاک

(ماخوذ از المدخل المفیر، ص ۴۱۔ و نیز الفرقان، ج ۱، ص ۶۱۔ ۹۰)

تصانیف و تراجم

اثر خانبہ سپہ روفیہ سر غلام احمد حریری

برائے عام قارئین

تاریخ تفسیر و مفسرین

تاریخ حدیث و محدثین

حدیث رسولؐ کا تشریحی مقام

علوم الحیث

علوم القرآن

اسلامی مذاہب

المنہجۃ امام ذہبیؒ اُردو ترجمہ

حیات حضرت امام ابوحنیفہؒ

حیات امام ابن حزمؒ

حیات امام ابن قیمؒ

عربی بول چال

مقالات حریری

تعمیر سیرت و کردار



باب اول

پہلا دور:

تفسیر عہد رسالت و عصر صحابہ میں

فصل اول: علم تفسیر کی ضرورت و اہمیت

فصل دوم: رسول کریم اور صحابہ کا فہم قرآن

فصل سوم: مفسرین صحابہ

فصل چہارم: تفسیر صحابہ کی اہمیت

فصل پنجم: عہد رسالت و عصر صحابہ کی تفسیری خصوصیات



فصل اول

علم تفسیر کی ضرورت و اہمیت

سرسری نگاہ ڈالنے سے تفسیر کی دو قسمیں معلوم ہوتی ہیں:-

اول = تفسیر کی ایک قسم وہ ہے جس میں شکل الفاظ کو حل کیا جاتا، جملوں کی نحوی حالت بتائی جاتی اور بلاغت کے نکات اور فنی اشارات کے ذکر و بیان پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ اس قسم کا تعلق علم تفسیر اور خداوندی احکام و ہدایات کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے۔

دوم = تفسیر کی دوسری قسم ان حدود و قیود سے بالاتر ہے۔ اس کا نصب العین قرآنی ہدایات و تعلیمات پر روشنی ڈالنا اور اسلامی شریعت کے اسرار و رموز کو ایسے طریق پر واضح کرنا ہے جو روح کے لیے پرکشش ہو۔ جس سے شرح صدر نصیب ہوتا ہو اور نفوس انسانی کشاں کشاں ہدایت بانی کی طرف چلے آئیں۔ صحیح معنی میں اسی کا نام تفسیر ہے۔ اور اس کی ضرورت و اہمیت ذیل میں ہم بیان کر رہے ہیں۔

تفسیر کی ضرورت و اہمیت :

افراد و اہم کی ترقی کا راز قرآنی تعلیمات کی پیروی اور اس کی حکیمانہ نظم و ترتیب میں مضمر ہے۔ قرآن حکیم نبی نوع انسان کی فلاح و صلاح کے جملہ اجزاء و عناصر پر مشتمل ہے۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ قرآنی تعلیمات کی تعمیل قرآن کے فہم و تدبر کے بعد ہی ممکن ہے قرآن عزیز جس رشتہ ہدایت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اور اس کا معجزانہ اسلوب بیان جن حکمتوں کا جامع ہے جب تک ان سے آگاہی حاصل نہ کی جائے تب تک اس کی پیروی کا کوئی امکان نہیں۔ یہی اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم قرآنی الفاظ کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علم تفسیر اسی سلسلہ میں معارف ثابت ہوتا ہے۔

عصر حاضر میں عربی زبان و ادب میں مہارت باقی نہیں رہی۔ عربی الاصل خاندانوں میں عربیت کی خصوصیات مفقود ہیں۔ اس لیے اس دور میں علم تفسیر کی بیش از بیش ضرورت ہے۔ کتاب الہی جو

بنی نوع انسان کی صلاح و فلاح اور ان کے اعزاز و اکرام کو برقرار رکھنے کے لیے نازل ہوئی ہے فقیم، علمی و فاضل کی جامع ہے۔ علم تفسیر ان خزینہ ہائے علمی کی کنجی ہے جس کے بغیر قرآنی علوم و معارف کا باب و انہیں ہو سکتا۔ خواہ لوگ قرآنی الفاظ کو دن میں ہزاروں مرتبہ دہراتے رہیں۔ ان کا مفہوم و معنی تفسیر کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا۔

نسخہ ہائے قرآن اور حفاظ کی کثرت کے باوجود مسلمان جس منزل و انحطاط میں مبتلا ہیں، اس کی بڑی وجہ مندرجات قرآن سے لاعلمی کے سوا کچھ نہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد کچھ کم نہیں اور ان کے بلاد و امصار بھی بدر دراز تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اسی قرآن کی برکت سے ترقی کے جو منازل طے کیے تھے تاریخ اور مورخین اس پر وہمشت زدہ ہیں اور رہیں گے۔ باوجودیکہ ان کی تعداد کم تھی۔ وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ قرآن کے نسخے بھی انہیں سہولت میسر نہ تھے۔ حفاظ قرآن کی تعداد بھی نہایت محدود تھی۔

ہمارے اسلاف کی ترقی کا راز اسی بات میں مضمر ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ قرآن عزیز کے درس و مطالعہ اور اس کے بحر معانی میں غواصی کرنے کی جانب مبذول کی۔ اس ضمن میں انہوں نے اپنی فطری صلاحیتوں اور خالص عربی آداب و اطوار سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال و اقوال اور اخلاق و احوال سے قرآن کریم کی جو توضیح کی تھی اس سے بھی کسب فیض کیا۔

ارشاد فرمایا :-

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ بِهِ لَهُمْ
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ بِهِ لَهُمْ
اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں
کے لیے اس کتاب کی وضاحت کریں جو آپ پر
نازل کی گئی ہے۔ (المحل)

قرآن صحابہ کا اڑھنا بچھونا تھا، وہ اسے حفظ کرتے۔ مگر حفظ سے پہلے اسے سمجھنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ پھر دل و جان سے اس کی تعلیمات کی پیروی کرتے اور پوری مستعدی سے اس کی نفاذی ہوئی راہ پر گامزن ہو جاتے تھے۔ اتباع قرآن کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی روحیں پاک و صاف ہو گئیں۔ ان کے نفوس پاکیزہ اور ان کے آثار میں عظمت پیدا ہو گئی۔ اس لیے کہ جسم انسانی میں قوی ترین چیز دماغ ہے

جب حسن تربیت سے اس میں صفائی نفاست اور پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے عجائبات کا ظہور ہونے لگتا ہے۔

نبی نوع آدم کی اصلاح و ارشاد کے سلسلہ میں امت مسلمہ سے عجائبات کا ظہور ہوا تھا۔ وہ جہاں بھی گئے کامیابی و کامرانی نے ان کے قدم چومے۔ اس دور میں اسلامی دعوت کی نشر و اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ مشرق میں ایرانی حکومت اور مغرب میں رومی سلطنت تھی۔ ان دونوں سلطنتوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان کے زیر تسلط جو علاقے تھے ان کے رہنے والے آغوش اسلام میں آ گئے۔ اکثر ممالک ان کے زیر نگیں ہو گئے یہاں تک کہ وہ یورپ کے کافی علاقہ پر چھا گئے۔ مسلمانوں نے یورپ میں ایک بلند پایہ سلطنت کی بنا ڈالی۔ یہ سلطنت نہایت سرسبز و شاداب اور پر رونق تھی۔ اسی علاقہ سے آفتاب اسلام کی کرنیں یورپ کے دورِ اُتادہ گوشوں تک پہنچیں۔ یہ تھا اندلس کا فروس گم گشتہ! عصر حاضر کے مسلمانوں کی غالب اکثریت قرآن کریم کو گھردل مجلسوں اور قبرستانوں میں خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرنے پر فائق ہو گئی ہے۔ یا حصول برکت و تقدس کے لیے قرآن کریم کو گھروں میں زینت طاق بنا کر رکھا جاتا ہے۔ انہیں مطلقاً یا دینیں کہ قرآن کی برکتِ عظمیٰ اس کے فہمِ قدیم سے اس پر خلوت میں سوچ بچار کرنے اور اس کے بیان کردہ آداب و اطوار سے کسبِ فیض کرنے میں پرشیدہ ہے۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ قرآن کی اصل برکت اس امر میں مضمر ہے کہ خداوند کریم کے احکام و ادا پر عمل کیا جائے اور اس کے نہایت و محرمات سے اجتناب کیا جائے۔

قرآن کریم میں فرمایا:

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مَبَآرَكًا
لِيَذَّبَ بَرًّا أَيْتَهُ -

ہم نے بابرکت کتاب آپ پر اتاری تاکہ اس کی
آیات میں تدبیر کریں۔

نیز فرمایا:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَنْ أُمِرَ عَلَى
قُلُوبٍ أَتَقَاءُ كَهَا -

کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا دلوں پر
تالے چڑھے ہوئے ہیں؟

دوسری جگہ فرمایا:

وَلَعَدَّ بَيْتَنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

ہم قرآن کو آسان بنا کر بھیجا ہے کوئی ہے

فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ - اس سے نصیحت کرنے والا؟

دور حاضر کے مسلمانوں کی حالت اس پیاسے آدمی کی ہے جو پیاس سے مر رہا ہو اور پانی اس کے سامنے پڑا ہو۔ یا اس راہ گم کردہ حیوان کی طرح جو ٹھکان سے ہلاک ہو رہا ہو، اور وہ آنکھ کھول کر دیکھتا نہ ہو کہ چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ ذَلَاكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمَيِّبُ۔

اُتْمَتِ سَلَمَہ کے اس آخری دور کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے۔ جیسے خیر القردن میں ہوئی تھی۔ اس کا داعی بقیہ یہ ہے کہ کتاب الہی سے رشت رو ہدایت کا پیام اٹھ کیا جائے اور زندگی کے آداب اظہار کو اسی سانچہ میں ڈھالا جائے۔ ہمارے آباء و سلف کا اور صنایع جو ناقراں ہی تھا۔ وہ غور و فکر کے ساتھ اپنی مجالس و مساجد اور اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ فرضی اور نفل نمازوں خصوصاً تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے جب کہ لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے۔ اس کے خوش آئند اثرات ظہور پذیر ہوئے اور وہ پرستی کی بست سطح سے اٹھ کر اخلاق جلیلہ کی بلندیوں پر فائز ہو گئے۔ اخلاق و آداب میں مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ علوم و فنون کے یکتا عالم بن گئے اور اس ضمن میں دنیا کی تمام اقوام سے گوٹے سبقت لے گئے۔

امام جلال الدین سیوطی تفسیر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”قرآن کریم انفع العرب علی اللہ علیہ وسلم کے عصر و عہد میں بزبان عربی نازل ہوا۔ حضرات صحابہ اس میں بیان کرد، مسائل و احکام سے آگاہ تھے۔ البتہ اس کے باطنی و ظاہری و حقائق و حقائق و نظری اور آنحضرت سے دریافت کرنے پر ہی معلوم ہو سکتے تھے۔ جب یہ آیت قرآنی نازل ہوئی:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ۔

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا۔

ترجمہ نے عرض کی ”ہم میں کن شخص ہے جس نے ظلم نہیں کیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے شرک مراد ہے۔ اس کی تائید میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَظِيمٌ۔

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ تَوَقَّشَ الْحَسَابَ مَحَابَّةَ اَعْمَالِ كَيْ وَتَقْتِ جَسْمِ بِرَجْرَحِ تَدْوَعِ كَيْ كُنْ اَسَ

عَدَّتْ بَ

عذاب دیا جائے گا۔

یہ سن کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ:

فَسَوْفَ يَحْسَبُ حَسَابًا يَلِيًّا۔ عَابِدًا عَمَلِ آسَانِي سَهَ كِيَا جَانِي كَا۔

پھر یہ سمجھتی کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ سہولت تو اعمال میں کرتے وقت دی جائے گی۔

اسی طرح عدی بن حاتم کا واقعہ قبل ازیں لکھا جا چکا ہے کہ انہوں نے نیکہ کے نیچے سیاہ اور سفید بھاگڑ لکھ لیا تھا اور رات کو اٹھ اٹھ کر دیکھتے رہے کہ ان میں امتیاز ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جس طرح صحابہ کو تفسیر نبوی کی ضرورت تھی۔ ہم ان کی نسبت آپ کی رہنمائی کے زیادہ محتاج ہیں۔ اس لیے کہ ہم عربی زبان کے اسرار و رموز سے بے گانہ ہیں۔

سابقہ بیانات سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ تفسیر کا فائدہ یاد دہانی، عبرت آموزی اور عقائد و عبادات و معاملات اور اخلاق میں خداوندی ہدایات کا معلوم کرنا ہے۔ تاکہ فرد اور معاشرہ دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ علم تفسیر اگر سب علوم سے بڑھ کر نہیں تو کم از کم بہترین دینی و عربی علوم میں ضرور شامل ہے۔ اس کی وجہ اس کے موضوع کی بلندی اور اس کی افادیت ہے۔ تفسیر کے معنی ہیں کشف و اظہار۔ چونکہ اس علم میں قرآن کریم کے مطالب و معانی کی توضیح کی جاتی ہے اس لیے یہ علم اس نام سے موسوم ہوا۔ اگرچہ دوسرے علوم میں بھی کشف و بیان پایا جاتا ہے۔ مگر یہ نام اسی علم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے کہ یہ علم جلیل القدر ہے اور زیادہ استعداد کا محتاج ہے۔ اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس سے اس کی مراد کیا ہے۔ اس لیے یہ نام صرف اسی علم کو دیا گیا ہے۔ گویا کشف و اظہار کا حامل صرف یہی علم ہے، اور کوئی نہیں۔

(مشاہل العرفان نذر قافی جلد اول)

فصل دوم رسول کریم اور صحابہ کا فہم قرآن

تمہید :
قرآن کریم نبی اُمّی پر نازل ہوا۔ آپ کی قوم یوں تو ناخواندہ تھی مگر قلب و زبان سے محو دم نہ تھی۔ ان کے اسالیب کلام گونا گوں اور بوقلمون تھے۔ ان کا انداز تکلم اور طرزِ خطاب تنوع و تغنن کے باوصف اسرار و حکم اور اخبار و انساب سے بھر پور ہوا کرتا تھا۔ اس میں حقیقت و مجاز، تصریح و کنایہ اور ایجاز و اطناب سب انواع سخن شامل تھے۔

سنتِ ربانی کے مطابق قرآن عربی زبان میں اُترا۔ اس نے وہی اسلوب و انداز اختیار کیا جو عربوں کا تھا۔ سنتِ خداوندی یہی رہی ہے کہ وہی انبیاء کی زبان میں اُترتی رہی ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
يَلْسَنَ قَوْلِهِ لِيَبَيِّنَ لِقَوْمِهِ
ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان
دے کر بھیجا تاکہ ان کے لیے اچھی طرح بیان
کر دے۔

(سورہ ابراہیم - ۱۷)

چند ایک کے ماسوا قرآن کے سب الفاظ عربی ہیں۔ ان الفاظِ قلیلہ کے بارے میں علماء کے نظریات مختلف ہیں۔ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ یہ دیگر زبانوں کے الفاظ ہیں۔ عربوں نے ان کو لے کر عرب بنا لیا اور ان کو عربی قواعد کی سان پر چڑھایا ہے۔ علماء کی دوسری جماعت یہ نظریہ رکھتی ہے کہ یہ خالص عربی الفاظ ہیں۔ البتہ دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بہر کیف ان چند الفاظ کی بنا پر قرآن کو غیر عربی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

قرآن نے عربی اسلوب و انداز کے مطابق حقیقت و مجاز، تصریح و کنایہ اور ایجاز و اطناب سبھی سے کام لیا ہے۔ البتہ قرآن اپنی معجزانہ خصوصیات کی بنا پر دیگر عربی کلام پر فائق ہے۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے

کہ قرآن کلام الہی ہے۔

رسول کریمؐ اور صحابہ کا فہم قرآن :

یہ ایک نظریاتی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عزیز کو اجمالا و تفصیلاً سمجھتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں قرآن کو محفوظ کرنے اور اس کے مطالب کو سمجھانے کی ذمہ داری خداوندیکم نے قبول کی تھی۔ ارشاد فرمایا :

إِنَّ عَلَيْكُمْ جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔

قرآن کو آپ کے سینہ میں جمع کرنا اور پڑھا

دینا ہمارے ذمہ ہے۔

(القیامۃ ۱۷)

پھر اس کو واضح کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔

تَعْرَاتٍ عَيْنًا يَكُونُ - (القيامة ۱۹)

سورکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی قرآن کریم کے ظاہری احکام و مسائل کو سمجھتے تھے جہاں تک ان کے قرآن کریم کو تفصیلاً سمجھنے اور اس کے باطنی اسرار و حکم کو معلوم کرنے کا تعلق ہے تو یہ صرف زبان دانی کے بل بوتے پر ممکن نہ تھا۔ اس ضمن میں عربی دانی کے ساتھ بحت و نظر اور مشکلات قرآن کا حل معلوم کرنے کے سلسلہ میں آنحضرتؐ کی جانب رجوع بھی ضروری تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں مجمل و مشکل اور متشابہ سمجھی قسم کے احکام ہیں جن کے سمجھنے کے لیے صرف زبان دانی کافی نہیں بلکہ دیگر امور کی جانب رجوع بھی ناگزیر ہے۔

ابن خلدون مقدمہ میں لکھتے ہیں :

”قرآن حکیم عربی زبان میں اُترا۔ اس کا اسلوب و انداز بھی خاص عربی ہے۔ سب صحابہ

قرآن کریم کو سمجھتے اور اس کے مفردات و تراکیب سے آگاہ تھے“

(مقدمہ ابن خلدون، ص ۲۸۹)

ہمارے خیال میں ابن خلدون کا یہ قول درست نہیں کہ سب صحابہ قرآن کریم کو سمجھتے تھے۔ قرآن کے عربی میں نازل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام عرب اس کے مفردات و تراکیب کو بخوبی جانتے تھے اس کی سب سے نمایاں دلیل یہ ہے کہ بہت سی کتب مختلف زبانوں میں تالیف کی گئی ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ بہت سے لوگ جو زبان بولتے ہیں اس میں رقم کردہ کتب کے معانی و مطالب کو سمجھنے پر قادر نہیں۔ اس لیے کہ رقم کتاب کے لیے صرف زبان دانی ہی کافی نہیں بلکہ اس کے لیے عقل رسا اور

ایسی خداداد ذہانت و فطانت بھی مطلوب ہے جو کتاب کے مرتبہ و مقام کے شایان شان ہو۔

فہم قرآن کے سلسلہ میں صحابہ میں اختلاف مراتب:

عہد صحابہ پر غور کرنے سے یہ حقیقت کھم کر سامنے آتی ہے کہ سب صحابہ فہم قرآن میں مساوی الدرجہ نہ تھے۔ بلکہ مختلف مراتب کے حامل تھے، یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کے لیے جو چیز چمچیدہ تھی۔ دوسروں کے لیے نہایت آسان تھی۔ اس کی وجہ ذہن عقلی میں فرقی مراتب اور قرآن حکیم کے اعمال و ظہور کا تند و تند وقوع ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم اس بات کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ مفردات جن مسانی کے لیے موضوع ہوتے ہیں صحابہ ان کے فہم و ادراک میں بھی یکساں مرتبہ کے حامل نہ تھے چنانچہ قرآن کے بعض مفردات ایسے ہیں جن کے معنی سے کئی صحابہ آشنانہ تھے۔ اس میں صحیح بھی نہیں زبان کا اسطر اور استقصاء ایک معسوم ہی کر سکتا ہے کسی شخص نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ امت کا ہر فرد اپنی زبان کے تمام مفردات سے واقف ہے۔

اس کی دلیل وہ روایت ہے جو ابو عبیدہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، کہ جناب فاروق اعظم نے منبر پر یہ آیت پڑھی ”وَقَاكِهَةٌ وَاَبَا“۔

فرمانے لگے ”قَاكِهَةٌ“ سے تو ہم واقف ہیں کہ پھل کو کتنے میں یہ ”آبَا“ کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی فرمانے لگے عمر! یہ تو تکلف پر مبنی ہے کہ ہر مفرد لفظ کا مفہوم معلوم کیا جائے،

(الانفان، ج ۲- ص ۱۱۳)

حضرت عمر ہی سے مروی ہے کہ آپ نے منبر پر یہ آیت تلاوت فرمائی:

اَذْيَا خُذْهُمْ عَلَى نَخْوَيْبِ

پھر پوچھنے لگے کہ ”نَخْوَيْبِ“ کے معنی کیا ہیں۔ تبیلہ نبوہذیل کا ایک شخص موجود تھا۔ وہ کہنے لگا! ہماری زبان میں اس کے معنی نقص اور کمی کے ہیں۔

ابو عبیدہ بطریق مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں ”وَقَاكِهَةٌ“ کے معنی سے واقف نہ تھا۔ دو دیباچی آئے اور وہ ایک کنوئیں کے بار سے میں جھگڑنے لگے۔ ایک نے کہا

وَدَاكَا فَكَّرْتُمْهَا مَرِيضٌ نَسِيَتْ اس کی ابتداء کی تھی۔ (الانفان، ج ۲- ص ۱۱۳)

ظاہر ہے کہ جب جناب فاروق خداداد ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا سوال سے کراہ

بعض مفردات قرآن کے معانی دوسروں سے معلوم کرتے ہیں تو دیگر صحابہ کا کیا عالم ہوگا؟ اس میں شک نہیں کہ اکثر صحابہ قرآن کے اجمال معانی پر اکتفا کرتے تھے۔ مثلاً آیت قرآنی "فَاكْهَنَةً وَّآبًا" میں ان کے نزدیک یہ جان لینا کافی تھا کہ اس میں انساناتِ ربانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس آیت کے ہر لفظ کا مفہوم الگ الگ سمجھا جائے۔

(تفسیر استاذ محمد عبدہ پارہ ۳۰ - ص ۲۱)

مجھے معلوم نہیں ابن خلدون صحیح بخاری کی اس روایت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ حضرت عدی بن حاتم آیت فرماتے:

"النَّخِيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ النَّخِيْطِ الْاَسْوَدِ"۔ (بقرہ - ۱۸۷)

کا مفہوم نہ سمجھ سکے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تکبیر کے نیچے سیاہ و سفید دو دھانگے رکھ لیے اور رات کو اٹھ اٹھ کر دیکھتے رہے کہ دونوں میں فرق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ صبح ہوئی تو رسول کریمؐ سے ماجرا کہ سنایا۔ تب آپ نے آیت کا مطلب سمجھایا اور فرمایا کہ تم کم عقل آدمی ہو۔

(فتح الباری، ج ۸ - ص ۱۲۷)

یہی بات تو یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فہم قرآن اور اس کے معانی و مطالب کے اظہار و بیان میں مسادہ و اللہ نہ تھے۔ اس کے وجہ و اسباب یہ تھے کہ جمع صحابہ ذہانت و فطانت اور زبان و دلی میں یکساں نہ تھے۔ بخلاف ازیں بعض صحابہ اس حد تک ماہر اللسان تھے کہ غریب الفاظ تک ان کی نگاہ سے اوجھل نہ تھے۔ بعض اس سے کم مرتبہ تھے۔ بعض صحابہ صحبت نبویؐ سے مقابلتہ زیادہ مستفید ہوتے اور اس کے نتیجہ میں آیات کے اسباب نزول سے دوسری کی نسبت زیادہ واقف ہوتے۔ مزید براں خدا واد استعداد اور ذہنی صلاحیتوں میں بھی سب صحابہ مسادہ نہ تھے۔ بلکہ اس ضمن میں ان میں نمایاں فرق و اختلاف پایا جاتا ہے۔

مسروق تابعی فرماتے ہیں :-

"مجھے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے کا شرف حاصل ہے۔ صحابہ ایک تالاب

کی مانند تھے۔ تالاب سے ایک آدمی بھی سیر ہو سکتا ہے، دو بھی، دس بھی اور سو بھی۔ بعض

تالاب ایسے ہوتے ہیں کہ اگر روٹے زمین کے تمام لوگ پانی چینی آئیں تو سیر ہو کر جا نہیں

(مذکرۃ تاریخ التشریح الاسلامی، ص ۱۸۳)

ابن قتیبہ جن کا زمانہ ابن خلدون سے کئی صدیاں پیشتر تھا فرماتے ہیں :-
 ”قرآن کریم کے غریب و متشابہ کے علم و معرفت میں سب عرب برابر نہیں ہو سکتے
 بلکہ اس ضمن میں ان۔۔۔ کے درجہات مختلف ہیں“ (السائل والاجوبہ، ابن قتیبہ، ص ۸)
 کچھ یوں نظر آتا ہے کہ ابن خلدون کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا۔ چنانچہ آگے چل کر لکھتے ہیں :
 ”نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محل آیات کی تشریح فرماتے۔ ناسخ و منسوخ کے مابین
 امتیاز قائم کرتے۔ اور صحابہ کو بھی اس سے آگاہ کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ آیات کے اسباب نزول
 اور ان کے موقع و محل سے آشنا تھے۔ انہوں نے یہ سب کچھ آپ ہی سے معلوم کیا تھا“
 (مقدمہ ابن خلدون، ص ۲۸۹)

ابن خلدون نے ان الفاظ میں اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے، مگر عربوں کے لیے صرف عربی دانی
 اس امر کے لیے کافی نہیں تھی کہ وہ قرآن کریم کے مطالب و معانی سے پوری طرح واقف ہوں۔ بلکہ وہ اس
 بات کے محتاج تھے، کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چشمہ علم و معرفت سے اپنی علمی پیمان بچھائیں۔
 اور قرآن کریم کے معارف و حقائق معلوم کریں۔

عمد رسالت میں تفسیر کے مصادر :

صحابہ عمده رسالت میں تفسیر قرآن کے سلسلہ میں چار مصادر پر اہتمام کرتے تھے :-

- ۱ - قرآن کریم -
- ۲ - نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم -
- ۳ - اجتماع -
- ۴ - یہود و نصاریٰ -

اب ہم ان مصادر اربعہ کی تشریح کرتے ہیں :

مصدر اول، قرآن کریم :

قرآن کا قاری اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اس میں ایجاز بھی ہے اور اطناب بھی، اجمال بھی
 ہے اور تبیین بھی۔ یہ مطلق و قید اور عام و خواص سبھی کو شامل ہے۔ جو چیز ایک جگہ مختصر بیان ہوئی ہے۔
 دوسری جگہ تفصیلاً مذکور ہے۔ اور جو ایک جگہ مجمل ہے دوسری جگہ مفصل ہے۔ جو چیز ایک اعتبار سے

مطلق ہے وہ دوسری جگہ دوسرے پہلو سے مقید ہے۔ جو چیز ایک آیت میں عام ہے، دوسری آیت میں خاص ہے۔ لہذا جو شخص قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک موضوع میں وارد ہونے والی تمام مکرر آیات کو جمع کر کے ان کا تقابل کرے۔ اس طرح مفصل آیات سے مجمل آیات کے سمجھنے میں مدد ملے گی اور متین آیات کا مفہم و ادراک مبہم کا مفہم متعین کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ مطلق کو مقید پر اور عام کو خاص پر محمول کرے۔

یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ اس سے تجاوز کرنا کسی شخص کے لیے بھی موزعن نہیں۔ اس لیے کہ صاحب کلام سے بڑھ کر اور کوئی اس کے اسرار و رموز سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔

تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک قسم یہ ہے کہ جو چیز قرآن میں ایک جگہ مختصراً آئی ہے اس کی تفسیر ان آیات کے ساتھ کی جائے جہاں وہی مفہم تفصیلاً وارد ہوا ہے۔ مثلاً آدم و ابلیس کا واقعہ بعض جگہ مختصراً آیا ہے اور دوسری جگہ مفصلاً۔ یہی حال حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعہ کا ہے۔

تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ مجمل کو متعین پر محمول کر کے اس کے ساتھ مجمل کی تفسیر کی جائے۔ مثلاً قرآن میں فرمایا:

وَأَنَّ يٰۤاٰدَمُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اٰيَاتِهِ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُوْنَ
اور اگر یہ رسول سچا ہے تو جس عذاب کا وعدہ وہ تم سے کرتا ہے اس میں سے کچھ تمہیں ضرور پہنچے گا۔

(المومن - ۲۸)

اگے چل کر اسی صورت میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا:

وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ
میں سے کچھ آپ کو دکھا دیں۔ (المؤمن - ۷۷)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آیت نمبر ۲۸ میں جس وعدہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے دنیوی عذاب

مراد ہے۔

قرآن میں فرمایا:

يٰۤاٰدَمُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اٰيَاتِهِ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُوْنَ
ان تَبَيِّنُوْا مَبْلَغًا عَظِيْمًا۔
جو لوگ شہوات کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بالکل ہی جھک جاؤ۔

(النساء - ۷۷)

اسی سورت کی دوسری آیت میں بتایا کہ یہاں اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے :-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا
مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَالَهٗ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُضِلُّوا السَّبِيلَ -
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب
کا ایک حصہ دیا گیا تھا وہ خود بھی گمراہی اختیار
کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔

(النساء - ۴۴)

تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مطلق کو مقید اود عام کو خاص پر محمول کیا جائے۔
اول الذکر کے سلسلہ میں امام مغزالی نے اکثر شافیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب دو حکم الگ
الگ ہوں اور ان کا سبب ایک ہو تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے۔ امام مغزالی نے اس کی مثال یہ دی
ہے کہ آیت وضع میں فرمایا :

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ - (المائدہ - ۶) دھولو۔
اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کنٹیوں تک

اس آیت میں ہاتھ دھونے کی حد کستی تک مقرر کی ہے۔

اسی آیت میں تیمم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا :-

فَامْسِحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ - (المائدہ - ۶) تل لہ۔
اپنے چہروں اور ہاتھوں کو اس سے

اس آیت میں ہاتھ کی تحدید و تعیین نہیں کی گئی۔ لہذا اس آیت میں بھی ہاتھ کنٹیوں تک مراد ہوں گے۔

(مسلم الثبوت و شرح، ج ۱ - ص ۲۶۱)

عام کو خاص پر محمول کرنے کی مثال یہ ہے کہ آیت قرآنی :

مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بِنِعَّةٍ
فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ -
اس سے قبل کہ وہ دن آئے جس روز نہ
سودا بازی ہوگی نہ دوستی اور نہ

(البقرہ - ۲۵۴) سفارش۔

میں دوستی اور سفارش کی نفی بطریق عموم فرمائی۔ پھر متقیوں کو دوستی کی نفی سے مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے
فسرمایا :-

الْأَخْلَافُ يَوْمَئِذٍ لَّيَعْلَمُونَ
عَدُوًّا لِّلْمُتَّقِينَ ۝

اس روز دوست ایک دوسرے کے دشمن
بن جائیں گے، مگر متقی نہیں۔

(الزخرف - ۶۷)

اسی طرح اذین ربانی پر مبنی سفارش کو مستثنیٰ قرار دیا :
وَكَمْ مِّنْ مَّلَآئِكَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُحِصُّوْنَ
شَعًا عَنَّهُمْ وَاَلَا مِّنْ بَعْدِي اَنْ يَّآذَنَ
اللّٰهُ (البقرہ - ۲۷۶) کے بعد۔

آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش
کوئی ٹائمرہ نہیں دیتا مگر اذن خداوندی

تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک قسم یہ ہے کہ جو چیز بظاہر مختلف نظر آتی ہے، اس کو یک جا کر دیا جائے
مثلاً تخلیق آدم کے بارے میں بعض آیات میں ذکر کیا کہ ان کو تراب (مٹی) سے پیدا کیا۔ بعض میں طین (کچھڑ)
کا ذکر کیا اور بعض میں صلصال (کھر کھڑائی ہوئی مٹی) کا۔ ان بظاہر مختلف آیات میں جمع و تطبیق کی صورت
یہ ہے کہ ان میں تخلیق آدم کے مختلف مراحل و احوال کا ذکر کیا گیا ہے جن سے وہ آغاز تخلیق سے لیکر
نفع روح تک گزرے۔

یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن جس کی جانب صحابہ، قرآن کے معانی و مطالب کے معلوم کرنے کیلئے
رجوع کیا کرتے تھے! یہ ایک سطحی کام نہیں ہے جو کسی غور و فکر کا محتاج نہ ہو۔ بخلاف اذین یہ ایک
ایسا عمل ہے جس کی اساس ہی فکر و نظر پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے کہ قبل کو مبین مطلق کو مقید اور عام کو
خاص پر محمول کرنا کوئی معمولی کام نہیں جو ہر انسان انجام دے سکتا ہو۔ بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے،
جس سے اہل علم ہی عمدہ برآ ہو سکتے ہیں۔

گولڈزیر کی بہتان طرازی :

مشہور بیرونی مستشرق گولڈزیر اپنی کتاب "الذہاب الاسلامیۃ فی تفسیر القرآن" میں لکھتا ہے :

"تفسیر قرآن کا ادنیٰ مرحلہ اور اس کا نقطہ آغاز خود قرآن ہی میں موجود ہے۔ بالفاظ

دیگر ہم قرآن کی مختلف قراءتوں میں اس کی تفسیری کوششوں کا پہلا دور ملاحظہ کر سکتے ہیں"

(الذہاب الاسلامیۃ، ج ۱ - ص ۱)

اس ضمن میں ہم گولڈزیر کے ساتھ متفق ہیں اور اس کے نظریہ کی تائید کرتے ہیں۔ قرآن کے

اولین مرکز تفسیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو آیت مشابہ ہے اس کا مفہوم معلوم کرنے کے سلسلہ میں حکم آیت کی جانب رجوع کیا جائے۔ مجمل آیات کی تفسیر میں معین سے مدد لی جائے۔ اسی طرح عام کو خاص اور مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے۔ قرآن کریم کی بعض متواتر قراءتوں کو بھی مرکز تفسیر قرار دیا جاسکتا ہے اگرچہ غیر متواتر قراءتوں کو قرآن ہونے کی حیثیت حاصل نہیں، تاہم ان کو نصوص قرآنی کی تفسیر تسلیم کر سکتے ہیں۔ مشہور تالیف مجاہد کی روایت سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی مختلف قراءتوں کو تفسیر کا اہم مرتبہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ فرماتے ہیں :

”اگر قبل ازیں میں عبداللہ بن مسعود کی قرأت سے آگاہ ہوتا، تو جو تفسیری سوالات میں نے ابن عباسؓ سے کیے تھے، اس کی ضرورت پیش نہ آتی“

(نظرۃ عامۃ فی تاریخ الفقہ الاسلامی، ج ۱، ص ۱۶۳)

مگر اس بیرونی نے آیات خداوندی میں الحاد کا جو دعویٰ کیا اور مسلمانوں پر یہ اتہام باندھا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی مختلف قراءتوں کو قبول کرنے کے سلسلہ میں سہل انگاری سے کام لیا ہے ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے۔

مستشرق مذکور لکھتا ہے :

”سب مسلمانوں نے ان قراءتوں کے قبول کرنے میں چشم پوشی سے کام لیا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک ایک کلمہ نازل کیا ہے، جو کلام لوح محفوظ سے اُترا ہوا اور اس کو ایک مامور فرشتہ بزرگ و زیدہ رسول کی جانب لے کر آیا ہو اس کا ایک شکل و صورت اور ایک ہی قسم کے الفاظ میں ہونا ضروری ہے“

(المنہاج الاسلامیہ، ص ۱-۲)

ہم گولڈنیزر کے اس بتان کا ساتھ نہیں دے سکتے کہ قرآن کریم کی مختلف قراءتیں کلام الہی نہیں بلکہ صحابہ کے ذہن کی اختراع ہیں۔ اس کے ثبوت میں اس نے جو بود سے دلائل پیش کیے ہیں تاریخی ثبوت سے بھی کمزور ہیں۔ اور ان کی اساس اس کے من گھڑت ادہام و تخیلات پر رکھی گئی ہے۔

وہ لکھتا ہے :

”آیت قرآنی ”لَنْ نَّوَدَّ أَنْ نَرَاكَ كَذِبًا“ اور ”وَقَعْنَ دُورًا“ میں ایک قرأت

”لَقِّنْ زُوْجًا“ یعنی راہ (الفتح - ۹) کے عوض زواہ کے ساتھ ہے، جس کا مادہ عزت ہے۔ میرے خیال میں اس تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر ۴۰ سورہ محمد کی آیت نمبر ۱۱ اور سورہ حشر کی آیت نمبر ۸ میں ”نہر کا لفظ وارد ہوا ہے۔ نصر اور عزت کے الفاظ ہم معنی ہیں اور اطلاق و تمثیلی امانت کے لینے استعمال ہوتے ہیں۔ بخلاف ازیں ”عزز“ کا لفظ عبرانی لفظ ”عزاز“ کا مترادف ہے جس کے معنی ماویٰ اعانت کے ہیں۔ ماویٰ اعانت کے مفہوم کو اخلاقی امداد کے ساتھ تبدیل کرنے کے لیے اس قرأت کو تبدیل کر دیا گیا“ (کتاب مذکور - ص ۶۰)

گوکہ زیر نے حسب عادت نیم دل کے ساتھ اس رائے کا اظہار کیا ہے اور بزم و وثوق کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس کا یہ نظریہ اس امر کا بین ثبوت ہے کہ وہ عربوں کے اسالیب کلام اور اصول بلاغت سے یکسر بے گانہ ہے۔ عرب ”لَقِّنْ زُوْجًا“ بالراء کے لفظ سے ماویٰ نصرت کا مفہوم مراد نہیں لیتے۔ بلکہ جو سنی یہ کلمہ ان کے کانوں سے ٹکراتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے دین اسلام اور رسول کریم کی نصرت و اعانت مقصود ہے۔ یہودی مستشرق نے لفظ ”نہر و عوز“ کے مابین جو فرق بیان کیا ہے کہ پہلے لفظ سے اخلاقی و تمثیلی اور دوسرے سے ماویٰ اعانت مراد ہوتی ہے بالکل بے بنیاد ہے اور عربی لغت سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔

مستشرق مذکور مزید لکھتا ہے :

”اب میں خصوصی اہمیت کی حامل چند قرأتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے ان کی بڑی وجہ اس امر کا اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو ان کے شایان شان نہ ہو۔ یا جو موقع و محل کے مناسب نہ ہو۔ اسی خطرہ کے پیش نظر قرأت میں مناسب تبدیلی کر دی گئی۔ اس کی مثال یہ آیت کریمہ :

شَهِدَا اللّٰهَ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
 اللّٰهُ تَعَالٰی فَرَسْتُوْا اِدْوَالِ عِلْمِ نَسْتَهَادَاتِ
 الْمَلٰٓئِكَةِ وَاُوْلٰٓئِ الْعٰلِمِیْنَ۔
 وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں

(آل عمران - ۸)

اس آیت سے انسان کے حاشیہ خیال میں یہ بات آسکتی تھی کہ ذات خداوندی ملائکہ اور ممالک علم کو مساوی حیثیت دی گئی ہے۔ اس لیے ”شَهِدَا“ کے عوض ”شَهِدَا اللّٰهَ“

پڑھائی۔ اس طرح یہ آیت اس سے ما قبل کی آیت:

شَهَدَاءُ اللَّهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ

سے ہم آہنگ ہو جائے گی اور اعتراض رفع ہو جائے گا (کتاب مذکور، ص ۱۹-۲۰)

مستشرق مذکور کا یہ خیال سراسر بے بنیاد ہے۔ اس نے جس وہم کا دعویٰ کیا ہے اس کا گزر کسی دانش مند آدمی کے دماغ میں ممکن نہیں۔ کسی عالم کو آج تک اس کا خیال نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ اور اہل علم کے شہادت کو حیدر پر متفق ہونے سے ان کی مسادات کیوں کر لازم آگئی؟

گو لڈ زیر لکھتا ہے:

”آیت قرآنی“

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ
لِيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے گا جو سچے ہیں
اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔

(العنکبوت - ۳)

سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں اس بات کا علم ہوا، پہلے اسے معلوم نہ تھا۔ اسی خدا شرکے پیش نظر حضرت علیؑ اور امام زہری نے اسے بدل کر ”فَلْيَعْلَمَنَّ“ (اعلام باب تفعیل سے) کر دیا۔ اب اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی بد اخلاقی سے مطلع کرے گا یا یہ معنی کہ ان پر سیاہی یا سفیدی کی قسم کی کوئی علامت مقرر کر دے گا جس سے ان کی پہچان ہو سکے گی یا ان کی آنکھیں سرنگیں یا نیلی ہوں گی۔ عربوں کے نزدیک نیلی آنکھ غدر اور حسد و بغض کی علامت ہے“ (کتاب مذکور، ص ۲۱-۲۲)

مستشرق مذکور کا یہ خیال باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی موجود چیز کو اسی صورت میں جانتا ہے جب وہ وجود پذیر ہو چکی ہو۔ اس طرح اس کے علم کا تعلق کسی حادث چیز کے ساتھ اس کے حدوث ہی کے اعتبار سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ انزل میں اس کے وقوع پذیر ہونے سے قبل بھی اسے جانتا تھا۔ مستشرق مذکور نے سمجھا کہ جو علم فتنہ پر مترتب ہوا وہ ازلی علم ہے۔ وہ اس بات کو بھول گیا کہ انکشاف و ظہور کا بھی ایک علم ہوتا ہے۔ پھر اسی پر اس نے اس بات کی بنیاد رکھی کہ — کی قرأت اسی اعتراض سے بچنے کے لیے اختراع کی گئی ہے۔ یہ قول باطل ہے۔ اصحاب

رسول پر یہ بات پوشیدہ نہ تھی کہ بندوں کی جس آزمائش کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بات روز ازل سے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی، اس کا لوگوں پر اظہار کیا جائے۔ مستشرق مذکور دراصل لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اصحاب رسول حسب مرضی قرآن کریم کو تبدیل کرتے رہے تھے۔

گولڈزیبر نے کتاب مذکور میں اسی غرض کے پیش نظر بہت سی مثالیں ذکر کی ہیں۔ اس ضمن میں اس نے قرأت متواترہ و شاذہ کے مابین کوئی فرق و امتیاز قائم نہیں کیا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کے نزدیک کسی قرأت کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کریم سے تواتر منقول ہو۔ اس کی سند صحیح ہو۔ وہ عربیت کے قواعد و عثمانی رسم الخط سے ہم آہنگ ہو، تو اس باطل راٹے کو اختیار نہ کرتا۔ اور حضرات صحابہ کو تحریف قرآن کا مجرم قرار نہ دیتا۔ خصوصاً جب کہ خداوند کریم نے اس کی صحت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فرمایا ہے :-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ • (الحجر-۹)

مصدر دوم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم :

دوسرا ماخذ و مصدر جس کی طرف صحابہ کرام تفسیر قرآن کے سلسلہ میں رجوع کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ جب کسی آیت کا معنی و مفہوم ان کی سمجھ میں نہ آتا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب دریافت کرتے اور آپ اس پر روشنی ڈالتے۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق آپ کا فرض منصبی ہی کتاب الہی کی تشریح و توضیح تھی۔ ارشاد فرمایا :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ • (النحل-۴۴)

اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ
اُسے لوگوں کے لیے واضح کر دیں اور تاکہ
وہ غور و فکر کریں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”سنو کہ مجھے کتاب وی گئی ہے اور اس کی مانند ایک اور چیز بھی۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بیٹو
آدمی سند سے ٹیک لگائے یوں کہ قرآن کا دامن تمام رکھو۔ جس چیز کو اس میں ملال یا ڈانٹ
ملال سمجھو۔ اور جس کو حرام پاؤ، اُسے حرام خیال کرو۔“

(تفسیر القرطبی، ج ۱ ص ۴، بحوالہ ابو داؤد)

کتب حدیث کا قاری اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ ان میں تفسیر قرآن کے لیے ایک باب مخصوص کیا گیا ہے۔ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور و منقول تفسیر مندرج ہے۔ چند امثلہ ملاحظہ ہوں:

۱ - حضرت عدی بن حبان روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "مَفْضُوبٌ عَلَيْكُمْ" سے یہودی مراد ہیں اور "الصَّالِيْنَ" سے نصاریٰ۔ (احمد و ترمذی)

۲ - حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "الصَّلَاةُ الْوَسْطَى" سے عصر کی نماز مراد ہے۔ (ترمذی و ابن حبان)

۳ - حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ۗ

تو لوگوں پر نہایت ناگوار گزری۔ صحابہ نے عرض کی "حضور ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا" آپ نے فرمایا "آیت کا مطلب وہ نہیں جو تم نے سمجھا ہے۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی:

إِنَّ الشِّرْكَ لَكُفْرٌ كَبِيرٌ ۗ

میان ظلم سے شرک مراد ہے" (صحیح بخاری و مسلم نیز مسند احمد)

۴ - حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پر سر منبر یہ آیت پڑھی:

"وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ"

(کفار کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار کرو۔)

آپ نے فرمایا قوت سے اس آیت میں نیز اندازی مراد ہے۔ (صحیح مسلم)

۵ - حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے آنحضرت سے دریافت کیا "حج اکبر کادن کونسا ہے؟" آپ نے فرمایا "ذوالحجہ کی دسویں تاریخ۔" (ترمذی)

۶ - حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے آیت قرآنی "وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاةِ رَبِّهِمْ سَاهُونَ" میں "كَلِمَةَ التَّقْوَى" سے کلہ طیبہ مراد ہے۔

(ترمذی و ابن جریر)

۷ - حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نر ہے جو خداوند تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ (صحیح مسلم و احمد نیز الاتقان، ج ۲، ص ۱۹۱)

علاوہ ازیں بکثرت احادیث صحیحہ میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔

تفسیر کے سلسلہ میں احادیث موضوعہ:

واقعیین حدیث اور انشاء گو قسم کے لوگوں نے تفسیری روایات میں بہت اضافہ کر دیا۔ انہوں نے آپ کی طرف ایسے اقوال کو منسوب کر دیا جو آپ نے ارشاد نہیں فرمائے تھے۔ حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ "القناتطیر المقتطیة" کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا "قطار" ہزار اوقیر (ایک سکہ) کو کہتے ہیں۔ (مسند رک حاکم)

بخلاف ازیں حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قطار" بارہ ہزار اوقیر کو کہتے ہیں۔ (مسند احمد - ابن ماجہ)

قطار کی مقدار بیان کرنے کے سلسلہ میں یہ دو متناقض اقوال آپ سے منقول ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کا کلام تناقض سے پاک ہے۔ اس لیے ان دونوں کی نسبت آپ کی جانب درست نہیں مفسر ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قطار کی تحدید و تعیین کے سلسلہ میں کوئی صحیح حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ البتہ بعض صحابہ کے اقوال اس کی تفسیر میں وارد ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اکثر تفسیری روایات کو جو آپ کی جانب منسوب ہیں قبول نہیں کیا۔

امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

"میں چیزوں کی کوئی اصل نہیں۔ تفسیر، تلاطم اور مغازی"

منکر حدیث احمد امین کی دروغ بانی و قضاویانی:

حنبل مسلک کے علمائے محققین نے امام احمد کے قول کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اکثر تفسیری روایات

کی اسانید صحیحہ متصلہ موجود نہیں۔ (آفاق، ۲۵-۲۶ ص ۱۷۸)

مصر کا مشہور منکر حدیث احمد امین امام احمد کے قول پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے :-

"امام احمد کے قول کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر کے سلسلہ میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اصل

ہیں اور صحیح نہیں۔ بظاہر یہاں بعض علماء کا قول ہے امام احمد کی مراد تفسیر کے سلسلہ میں وارد شدہ

احادیث موضوعہ ہیں۔ جہاں تک اقوال صحابہ و تابعین کا تعلق ہے ان کے آثار کے لیے کوئی وجہ

جواز نہیں۔ امام احمد نے بذات خود بھی صحابہ و تابعین کے بعض اقوال کا احترام کیا ہے۔ یاد ملاحظی الاسلام برآ

احمد امین مزید لکھتا ہے :

بعض علماء نے تفسیری روایات کو تسلیم کرنے سے قطعی انکار کر دیا ہے۔ مثلاً امام احمد فرماتے ہیں کہ ”تین چیزوں کی کوئی اصل نہیں۔ تفسیر، غلام اور منازعی“ (فجر الاسلام ص ۲۳۵) احمد امین کا قول درست نہیں۔ اس لیے کہ تفسیر کے باب میں بکثرت احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں اور امام احمد نے بذات خود بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ امام مذکور تفسیر سے متعلق تمام احادیث ہر فرعہ کی نفی کر دیتے؟ میرا خیال ہے کہ احمد امین نے جن بعض علماء کا ذکر کیا ہے اس سے جنہاں مسلک کے علماء مراد ہیں۔ البتہ اس نے ان کے کلام کو غلط معنی پہنائے۔ اور اس غلطی کا ارتکاب کیا۔

حیرت کی بات تو یہ ہے کہ احمد امین نے فجر الاسلام کے حاشیہ صفحہ ۲۴۵ پر تفسیر القان کے حوالہ سے بعض متبادرہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”بیشتر تفسیری روایات صحیح نہیں“ (ایسا نہیں کہ کوئی بھی روایات صحیح نہیں) علاوہ ازیں فجر الاسلام صفحہ ۲۴۵ اور ضعی الاسلام جزو دوم صفحہ ۱۳۸ پر تحریر کیا کہ قرآن کے بعض مشکل الفاظ کے معانی میں احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تحریر کر دیا کہ اس باب میں سرے سے کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں۔ یہ کس قدر کھلا ہوا تضاد ہے۔

اس کے کلام میں واضح تناقض کی دوسری مثال یہ ہے کہ اس نے لکھا ہے :-

”تفسیر کے سلسلہ میں جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ بکثرت ہیں اور

صحاح ستہ میں اس کے ابواب مقرر کیے گئے ہیں۔ پھر واضح حدیث اور اضافہ گو لوگوں نے

ان میں ہمنافذ کر دیا“ (فجر الاسلام، ص ۲۴۵)

پھر اس کے عین برضلاف تفسیری روایات کی قلت کا اظہار ان الفاظ میں کیا :-

”تفسیر کے باب میں انھنصوص صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم روایات منقول ہیں۔ حضرت عائشہ

فرماتی ہیں کہ آپ نے صرف چند آیات کی تفسیر بیان کی جو انگیلیوں پر شمار کی جاسکتی ہیں۔ جبریل نے

وہ آیات آپ کو سکھلائیں“ (ضعیف الاسلام، ج ۲، ص ۱۳۸)

احمد امین کی علمی خیانت :

احمد امین نے مطلقاً ذکر نہیں کیا کہ حضرت عائشہ کی مذکورہ حدیث مطعون ہے۔ اس نے

دلیل و برہان کی حیثیت سے اس حدیث کا ذکر تو کر دیا، مگر اس پر وائستہ نقد و جرح نہ کیا۔ حالانکہ اس نے طبری کے حوالہ سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اور طبری نے جہاں یہ حدیث نقل کی ہے وہاں اس کی علت بھی بتا دی ہے۔ علاوہ ازیں اس کی صحت فرض کر کے اس کی تاویل کی ہے۔

کیا آنحضرتؐ نے پورے قرآن کی وضاحت فرمادی تھی؟

ایک مستشرق یہ کہہ سکتا ہے کہ سورہ النحل کی آیت ۴۴ میں آنحضرتؐ کو توضیح قرآن کا فریضہ تفویض ہوا تھا۔ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پورے قرآن کی تفسیر بیان کر دی تھی؟ یا قرآن مجید کے کچھ حصہ کی تفسیر بیان کی اور باقی سے خاموشی اختیار کی؟ نیز یہ کہ صحابہ کے سامنے آپ نے یہ تفسیر کیسے اور کیوں کر بیان فرمائی؟

علماء اس ضمن میں مختلف الرائے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تفسیر کس حد تک بیان فرمائی۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ نے پورے قرآن کی تشریح فرمادی۔ ان کے سرخیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں۔ (اصول تفسیر ابن تیمیہ، ص ۵)

بعض اہل علم کا ناؤیہ نگاہ یہ ہے کہ حضورؐ نے قرآن کریم کے کچھ حصہ کی تفسیر بیان فرمائی تھی۔ اس جماعت کے رئیس اعلیٰ انجربی اور امام جلال الدین سیوطی ہیں۔ (الاتقان، ج ۲، ص ۱۷۴)

بہ فریق نے اپنے اپنے دلائل و براہین ذکر کیے ہیں۔ اب ہم یہ دلائل قلمبند کرتے ہیں تاکہ حق و صواب کھل کر سامنے آجائے۔

فریق اول کے دلائل :-

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ نے پورے قرآن کے معانی بیان فرمادیے تھے۔ ان کے

دلائل حسب ذیل ہیں :-

(۱) - پہلی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ -
اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے واضح کریں۔

(النحل - ۴۴)

اس آیت میں بیان کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی الفاظ و معانی دونوں کا واضح کرنا ہے۔ نبی کریمؐ نے

جس طرح الفاظ قرآن کی وضاحت فرمادی تھی۔ اسی طرح اس کے جملہ معانی کو بھی واضح کر دیا ہوگا۔ ورنہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی سے قاصر رہے۔

(۲) - عبداللہ بن جبیب ابو عبدالرحمن السلمیؒ دیکھتے ہیں کہ مشہور تابعی سلمیہؒ میں فوت ہوئے، بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ رسول کریمؐ سے دس آیات پڑھ لیتے تو اس وقت تک ان سے آگے نہ بڑھتے جب تک ان آیات کے معانی سے آگاہ نہ ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ علم و عمل بھی سیکھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک سورت کے حفظ کرنے میں کافی مدت صرف کر دیا کرتے تھے۔

امام مالک نے موطن میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے سورہ بقرہ حفظ کرنے پر آٹھ سال صرف کیے۔ صحابہ کو اس بات پر قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت نے آمادہ کیا تھا:

كَيْتَبُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ مِيسِرًا ۙ
يَكِيدُ بَرُّوْا آيَاتِهِ - آیات میں غور و فکر کریں۔

اس آیت میں تدبیر کی تلقین کی گئی ہے۔ معانی کو سمجھنے پر توجہ نہ رکھنا کوئی امکان نہیں۔
دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .
ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اُناما، تاکہ تم غور و فکر کرو۔

ان دلائل و دلوں سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ صحابہ نے آنحضرتؐ سے قرآن کے الفاظ و معانی دونوں سیکھ لیے تھے۔

(۳) - اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی فن کی کوئی کتاب پڑھتی ہے تو اس کا مطلب بھی سمجھتی ہے۔ مثلاً طب یا علم حساب کی کتاب بلا سمجھے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر کتاب الہی کے بارے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ نے بلا سوچے سمجھے اسے پڑھ لیا ہو۔
مالکان کہ اس کتاب پر ان کی دنیوی و اخروی فلاح و سعادت کا مدار و انحصار ہے۔

(۴) - اس کی چوتھی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ آیت ربنا سبح سے آخر میں اتنی

اور انھوں نے اس کی تفسیر سے قبل ہی داصل باللہ جوئے۔ (مسند احمد ابن ماجہ)

اس روایت کے معنیوں سے مستفاد ہوتا ہے کہ نبی کریم ہر آیت کی تفسیر فرمایا کرتے تھے۔ مگر اس آیت کی تفسیر سے قبل فوت ہو گئے۔ ورنہ یہ تخصیص بے معنی ہے کہ آپ نے آیت سبکی کی تفسیر سے قبل وفات پائی۔ (یہ دلائل اصول تفسیر ابن تیمیہ، ص ۵-۶ وائقان، ج ۲- ص ۲۰۵ سے ماخوذ ہیں)

فریق ثانی کے دلائل:

دوسرا فریق یہ نظر رکھتا ہے کہ انھوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کچھ حصہ کی تفسیر بیان فرمائی تھی سارے قرآن کی نہیں۔ اب ان کے دلائل ملاحظہ فرمائیں :-

(۱) - حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند آیات کی تفسیر بیان فرمائی تھی۔ جو جبریل نے آپ کو سکھلائی۔

(القرطبی، ج ۱- ص ۳۱، نیز ابن جریر، ج ۱- ص ۲۱)

(۲) - پورے قرآن کے معانی بیان کرنا، آپ کے لیے دشوار تھا۔ قرآن کے ایک خاص حصہ ہی میں اس کا امکان تھا۔ مراد الہی کا علم امارات و دلائل سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پورے قرآن کے معانی بیان کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تاکہ اس کے بندے کتاب الہی میں خود فکر سے کام لیں۔

(الائقان، ج ۲- ص ۱۷۴)

(۳) - اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کے معانی صحابہ کو سکھادیتے تو خصوصاً طوہر حضرت ابن عباس کے حق میں یہ طے فرماتے کہ اے اللہ! اس کو دین کی سمجھ عطا کر اور اس کو تفسیر قرآن سے بہرہ و فرما، بلکہ تمام صحابہ قرآن کے جملہ معانی سے آگاہ ہوتے اور اس میں سب صحابہ کا درجہ مساوی ہوتا۔ (القرطبی، ج ۱- ص ۳۳)

فریقین کے سابق الذکر دلائل پر ایک نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ افراط و تفریط پر مبنی ہیں۔ ہر فریق نے مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے۔ اور بیان کردہ دلائل میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس سے مذہبی کے خلاف حجت قائم ہو سکے۔ مگر ہم اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے۔

مسکب اعتدال :- اس ضمن میں جو بات قرین عقل و قیاس ہے، وہ یہ ہے کہ مسکب اعتدال ان

دونوں کے یمن یمن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے اکثر حصہ کے معانی بیان فرمائے تھے، جیسا کہ کتب حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر سارے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی۔ مفسر ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ تفسیر کی چار قسمیں ہیں :-

- (۱) - قرآن کریم کے وہ معانی جن کا تعلق عربی زبان کے فہم و ادراک کے ساتھ ہے۔
- (۲) - قرآن کا وہ حصہ جس کے نہ جاننے کی وجہ سے کسی کو مذکور قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یعنی عام طور سے بسہولت سمجھ میں آجاتا ہے۔

(۳) - وہ تفسیر جو علماء کا حصہ ہے، اور وہ بخوبی اللہ سے آگاہ ہیں۔

(۴) - وہ تفسیر جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (ابن جریر، ج ۱ - ص ۲۵)

یہ ایک بدیہی امر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اس حصہ کی تفسیر بیان نہیں کی تھی جس کا تعلق کلام عرب کی معرفت و ادراک کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ قرآن خود ان کی زبان میں نازل ہوا تھا اسی طرح آپ نے اس حصہ کی بھی توضیح نہیں فرمائی تھی جو آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اور اس کے نہ جاننے کی بنا پر کسی کو مذکور قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے کہ وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ نے ان چیزوں پر بھی روشنی نہیں ڈالی جن کا علم ذات باری کے ساتھ مخصوص ہے۔ مثلاً قیام قیامت، حقیقت روح اور دیگر غیبی حقائق جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مطلع نہیں کیا تھا۔ البتہ رسول کریمؐ نے ان بعض غیبی حقائق کی توضیح فرمائی تھی، جو لوگوں سے پوشیدہ تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے باخبر کر دیا تھا اور ان کے اظہار و بیان کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح تفسیر کی تیسری قسم جن کا تعلق علماء کے احتمال و استنباط کے ساتھ ہے آپ نے اس پر بھی روشنی ڈالی تھی۔ مثلاً آپ نے جہل کی تہذیب عام کی تخصیص اور مشکل کی توضیح کے بارے میں واضح بیانات دیے اور جہاں جہاں الفاظ قرآن کے معانی میں پوشیدگی اور التباس تھا، اس کو دُور فرمایا۔ حضرات صحابہ کے باین بعض آیات کی تاویل میں جو اختلاف رونما ہوا تھا وہ اس امر کا تین ثبوت ہے۔ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کے معانی بیان نہیں فرمائے تھے اگر ان کے یہاں آنحضرتؐ سے منقول کوئی نسخ ہوتی تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ یا اگر اختلاف بیا بھی ہوتا تو اس نص کے معرض ظہور میں آنے کے بعد رفع ہو جاتا۔

باتی رہا یہ سوال کہ آنحضرتؐ نے قرآن کی تفسیر کیوں کر بیان فرمائی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتابے

سنت کے مطالعہ سے آجا کر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تشریح و تویض آنحضرتؐ کا منقصبی فریضہ تھا۔ بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ حدیث نبویؐ مفسر ہے اور قرآن عزیز مفسر اور مبین۔ اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ النحل کی آیت ۴۴ "وَآنزَلْنَا آيَاتِكَ الذِّكْرَ" ہے۔

حدیث نبویؐ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا ہے، اور اس کی مثل ایک اور چیز۔ عنقریب ایک سیر شکم آدمی سند سے ٹیک لگاٹھے یوں کہے گا کہ قرآن کا دامن تھامے رکھو۔ جو چیز اس میں حلال ہو اس کو حلال سمجھو۔ اور جو حرام ہو اسے حرام خیال کرو۔ سن لو پالتو گدھا تمہارے لیے حلال نہیں اور وارڈوں سے کھانے والے ورنہ سے بھی حرام ہیں۔ ذبحی کی گری پڑی چیز بھی حلال نہیں الایہ کہ اس چیز کا مالک اس سے بے نیاز ہو۔ جو شخص مہمان کے طور پر کسی قوم کے یہاں جائے اس کی مہمانی ان پر لازم ہے۔ اگر وہ میزبان کے فرائض ادا نہ کریں تو اپنی مہمانی کے بقدر ان کے مال سے لے لے۔

(تفسیر القرطبی، ج ۱- ص ۳۴-۳۸)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ مجھے کتاب جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے کتاب النبی کے ساتھ ساتھ اس کی تویض و تفسیر بھی بارگاہ ربانی سے عطا ہوئی ہے۔ اسی کے پیش نظر آپؐ قرآنی آیات کی تقسیم و تخصیص کرنے اس پر اضاذ کرتے اور اس کی شرح و تویض فرماتے۔ بنا بریں آپ کی بیان کردہ تفسیر قرآن اسی طرح واجب العمل اور لازم القبول ہے جس طرح قرآن کے ظاہری الفاظ حرن کی تلاوت کی جاتی ہے۔

اس حدیث میں ایک دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے۔ وہ یہ کہ وہی متلو کے علاوہ مجھے ایک باطنی وحی بھی عطا ہوئی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس کی تائید مندرجہ ذیل آیت سے ہوتی ہے :-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

بولتا، بلکہ وہ تو وحی ہے جو کی جاتی ہے۔

(البقرہ - ۲-۳)

مذکورہ صدر حدیث میں اس سنت نبویؐ کی مخالفت سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے جس پر آنحضرتؐ نے عمل فرمایا ہو مگر قرآن میں اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ خواج اور شیعہ کے گمراہ ہونے کی وجہ یہی

ہے کہ دیکھا ہر قرآن سے وابستگی کا اظہار کرتے اور احادیث نبویہ کو ترک کرتے ہیں جن میں قرآن کریم کی شرح و تفسیر مذکور ہوتی ہے۔ (القرطبی، ج ۱- ص ۲۶-۲۸)

امام اوزاعی حسان بن علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور جبریل سنت لے کر حاضر ہوتے جو اس وحی کی تفسیر کرتی۔ اسی طرح اوزاعی نے کھول کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قرآن کو جس قدر سنت کی ضرورت ہے سنت کو اس حد تک قرآن کی حاجت نہیں۔
(تفسیر القرطبی، ج ۱- ص ۲۹)

حدیث کیوں کر شایع قرآن ہے؟

مندرجہ صدر آثار و دلائل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ کتاب و سنت کا باہمی ربط و تعلق اسی قسم کا ہے، جیسے زمین و زمین، دروزن اسم فاعل و اسم مفعول میں ہوتا ہے۔ اب ہم یہ بتائیں گے کہ حدیث کس طرح قرآن کریم کی شرح و توضیح کرتی ہے۔

(۱) قرآن حکیم میں جو آیات مجمل یا مشکل ہیں حدیث ان کی توضیح کرتی ہے۔ جو آیات عام ہیں حدیث ان کی تخصیص کرتی ہے۔ اور جو مطلق ہیں ان کو مقید کرتی ہے۔

بیان مجمل :

بیان مجمل کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا گیا مگر اس کی تفصیلات مذکور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کے اوقات رکعات کی تعداد اور کیفیت بیان فرمائی۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نصاب اوقات اور انواع بیان فرمائے۔ اسی طرح قرآن میں حج کو ایک فریضہ قرار دیا گیا تھا آپ نے احکام حج بیان کیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حُدِّدُوا عَيْتِي مَنَاسِكَكُمْ
صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوِّيَ أَصْلَى
مجھ سے احکام حج سیکھ لو
نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔

(صحیح بخاری)

عبداللہ بن مبارک نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو کہا تم بے وقوف آدمی ہو کیا قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ظہر کے چاند فرض ہوتے ہیں اور ان میں

قرأت ستر اڑھی جاتی ہے؟ پھر اس سے باقی نمازوں نیز زکوٰۃ اور دوسرے احکام و مسائل کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا تم ان کو قرآن میں تفصیلاً مرقوم پاتے ہو؟ قرآن نے ان سب امور کو سہم صورت میں بیان کیا تھا۔ حدیث نے ان کی وضاحت کر دی“ (القرطبی) ج ۱- ص ۳۹۔
توضیح مشکل:

اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ”الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ“ فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ سیاہ دھاگے سے رات اور سفید دھاگے سے دن مراد ہے۔
(البقرہ- ۱۸۴)

تخصیص عام:

قرآن مجید میں فرمایا:

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَلِمَاتٍ يُؤْمِنُونَ
بِطَلْحٍ
جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہ کیا۔
(الانعام- ۸۳)

اس آیت میں ظلم کا لفظ عام وارد ہوا تھا۔ آپ نے اس کو شرک کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ بعض صحابہ نے ظلم سے عموم کا مفہوم سمجھ کر اعتراض کیا تھا کہ ”ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا“ آپ نے فرمایا یہ مطلب نہیں ظلم سے شرک مراد ہے۔

تقیید مطلق:

چورد کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا:

فَأَقْصِبْهَا وَأُكْ
ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ (المائدہ- ۳۸)

مفسر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق ہاتھ کو ”وَأُكْ“ کے ساتھ تقید فرمایا۔

(۲) شرح قرآن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں وارد شدہ لفظ کی تشریح فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ ”مَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ“ سے یہی مراد ہے اور ”الْعَالَمِينَ“ سے نصاریٰ مراد ہیں۔

قرآن میں فرمایا:

وَمِنْ قَبْلِهَا آدَامُ مَقْتُولٌ
ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی۔

(البقرہ- ۲۵)

آپ نے اس کی تفسیر یوں فرمائی کہ جنت میں جو بیویاں ملیں گی وہ حیض تھوک اور ناک کی غلاطت سے پاک ہوں گی۔

(۳) شرح قرآن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے احکام بیان کیے جو قرآن میں بیان کردہ احکام سے زائد تھے اور اس میں مذکور نہیں مثلاً مندرجہ ذیل احکام :-

(۱) پھر پھیلتی تھی اور حالہ بھانجی سے بربک وقت نکاح کرنے کو حرام قرار دیا۔

(۲) صدقہ فطر کا حکم دیا۔

(۳) شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔

(۴) دادی کا حصہ مقرر فرمایا۔

(۵) دو گواہوں کے بجائے ایک گواہ اور حلف کی بنا پر مدعی کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا۔

کتاب فقہ میں اس کے علاوہ اور بھی بکثرت احکام مذکور ہیں۔

(۴) شرح قرآن کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ نے ناخ و منسوخ آیات کی نشاندہی فرمائی۔

مثلاً آپ نے فرمایا کہ آیت وصیت اگرچہ قرآن میں موجود ہے مگر اس کا حکم باقی نہیں رہا۔ اس لیے وارث

سے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ غیر شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کے

مترکب ہوں تو انہیں سو کوڑے مارے جائیں، اور ایک سال ملک بدر کیا جائے۔ اس حکم سے آپ

نے آیت قرآنی :

وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنَ

وہ عورتیں جو بدکاری کا ارتکاب کریں۔

يَسَاءَ كُفْرًا

(النساء آیت نمبر ۱۵)

کو منسوخ ٹھہرایا۔

(۵) تفسیر قرآن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں جو حکم مذکور ہو حدیث سے اس کی تائید و تاکید مزید

کی جائے۔ مثلاً قرآن کریم میں فرمایا :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

اپنے مال ناروا طریقہ سے مت کھاؤ۔

بِأَكْبَابٍ

(النساء - ۲۹)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبوی میں اس کی یوں تائید فرمائی :

”کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں“

مفسد رسوم، اجتهاد و استنباط :

عصر صحابہ میں تفسیر قرآن کا تیسرا ماخذ اجتهاد و استنباط ہے۔

حضرات صحابہ کا یہ دستور تھا کہ جب انہیں کسی آیت کی تفسیر قرآن میں اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا ہوتا تو وہ اپنی رائے و اجتهاد کی جانب رجوع کرتے تھے۔ یہ ایسی

آیات کے ضمن میں ہوتا، جہاں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جن آیات کا فہم و ادراک عربی لغت پر موقوف

ہوتا تھا وہاں اجتهاد سے کام لینے کی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے کہ صحابہ خالص عرب ہونے کی بنا پر عربوں کے

اسالیب کلام سے بخوبی آشنا تھے۔ جاہلیت کی شاعری میں بصیرت و مہارت رکھنے کے باعث وہ

عربی الفاظ اور ان کے معانی سے پوری طرح آگاہ تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ

جاہلی شاعری عربوں کا دیوان ہے۔

تفسیری اجتهاد میں صحابہ کے وسائل :

بکثرت صحابہ اپنے اجتهاد کے بل بوتے پر قرآن کی تفسیر فرمایا کرتے تھے۔

اس ضمن میں ان کے وسائل و ذرائع حسب ذیل تھے :

(۱) عربی زبان کے اسرار و اوضاع کی پہچان۔

(۲) عربوں کے اخلاق و عادات سے آشنائی۔

(۳) نزول قرآن کے وقت جزیرہ عرب میں یہود و نصاریٰ کے حالات سے آگاہی۔

(۴) قوت فہم و وسعت عقل۔

یہ حقیقت محتاج بیان نہیں کہ عربی زبان کے اوضاع و اسرار سے آگاہی ایسی آیات کے سمجھنے میں

معاون ثابت ہوتی ہے جن کا فہم و ادراک عربی زبان کی پہچان پر موقوف ہے۔ اسی طرح جو آیات

عربوں کے اخلاق و عادات سے متعلق ہیں ان کا مفہوم سمجھنے کے لیے عربوں کے عادات و اطوار

سے واقفیت ناگزیر ہے۔ مثلاً یہ آیت :

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ۔ مبینوں کو بھیجے کہ انہیں میں انصاف کا موجب ہے

اسی طرح یہ آیت :-

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا - (البقرة - ۱۸۹)

یہ نیکی نہیں کرتے گھروں کو پچھلی جانب سے آؤ۔

مذکورہ بالا ہر دو آیات کا مفہوم اسی صورت میں سمجھا جاسکتا ہے جب نزول قرآن کے وقت عربوں کے عادات سے واقفیت حاصل کی جائے۔ اسی طرح نزول قرآن کے وقت جزیرہ عرب میں جو یہود و نصاریٰ موجود تھے ان کے احوال و کوائف سے آشنا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ان آیات کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے جن میں اہل کتاب کے اقوال و اعمال پر تنقید کی گئی ہے۔

نزول قرآن کے اسباب اور واقعات متعلقہ سے آگاہی بھی اکثر قرآنی آیات کے فہم و معرفت میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے امام واحدی فرماتے ہیں :-

”جب تک کسی آیت کا واقعہ متعلقہ اور سبب نزول معلوم نہ کیا جائے، اس کی تفسیر کا جانا ممکن نہیں“ (منہج الفرقان، ج ۱ - ص ۳۶)

امام ابن دقیق العید کا قول ہے :-

”سبب نزول کا ذکر درمیان قرآن کے معانی کے سمجھنے میں بڑی حد تک مدد گار ثابت ہوتا ہے“ (حوالہ مذکور)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رقم طراز ہیں :-

”دو سبب نزول کی پہچان سے آیت کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے کہ سبب کے جان لینے سے سبب کا علم حاصل ہو جاتا ہے“ (حوالہ مذکور)

باقی رہا تو تہ فہم اور وسعت عقل و فراست کا معاملہ تو یہ خدا کی داد ہے جس کو چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے۔ بہت سی آیات قرآنیہ ایسی ہیں جن کا معنی و مفہوم نہایت دقیق اور پوشیدہ ہے اور صرف وہی شخص ان کے مطالب سے بہرہ یاب ہوتا ہے جو نور بصیرت رکھتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس سعادت سے حصہ وافر ملا تھا جنہوں نے دعا فرمائی تھی

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ - بارندایا اس کو دین کی سمجھ عطا کر اور اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے۔

الوَجِیْعَةُ بَيَانِ كَرْتِهِ فِي كَرَمِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرْضِ كِي " يَا قُرْآنُ كَسَمَا
بھی آپ کے یہاں وحی کا کچھ حصہ موجود ہے " فرمایا " اُس ذات کی قسم جو دانہ کو اگاتی اور رُوح کو
زندگی عطا کرتی ہے، ہمارے پاس اور تو کو کوئی چیز موجود نہیں بجز اس کے کہ خداوند کریم کسی شخص کو قرآن
کا فہم عطا کرے۔ اور یا جو کچھ اس رسالہ میں مرفوم ہے " میں نے عرض کی " اس رسالہ میں کیا لکھا
ہے " فرمایا " دیت کے احکام قیدیوں کو آزاد کرنا، اور یہ کہ مسلم کو کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے "۔
(صحیح بخاری)

یہ ہیں وہ آلات و وسائل جن سے صحابہ نے قرآن کریم کے فہم و استنباط کے سلسلہ میں مدد
لی تھی !۔ اور یہ ہیں کتاب عزیز کے اسرار و غوامض کے کشف و اظہار کے سلسلہ میں صحابہ کی مساعی
کے اثرات و نتائج !

فہم قرآن کے سلسلہ میں صحابہ میں فرق مراتب :

اس میں شک نہیں کہ مندرجہ صدر وسائل و ذرائع کے فہم و استعمال میں سب صحابہ یکساں نہ تھے۔
اور اسی وجہ سے ان کے یہاں بعض آیات قرآنی کے معنی و مضمون میں اختلاف رونما ہوا۔ اگرچہ یہ اختلاف
تالبعین و اتباع کے اختلاف کی نسبت بہت معمولی تھا۔

فہم قرآن کے سلسلہ میں صحابہ کے مابین جو سرسری اختلاف پیدا ہوا اس کی مثال یہ ہے کہ جناب
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت قلام بن مفلح کو بحرین کے علاقہ میں عامل مقرر کیا۔ جا رو و نامی
شخص نے جناب فاروق کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا کہ قدامہ نے شراب پی اور اس پر نشہ کی کیفیت ظاہر
ہو گئی۔ آپ نے فرمایا " کوئی گواہ پیش کیجیے " جا رو نے کہا " ابو ہریرہ اس کے گواہ ہیں "۔ حضرت عمر
نے قدامہ کو مخاطب کر کے کہا " میں آپ کو شراب نوشی کی سزا دوں گا " قدامہ نے کہا بعد ازاں میں نے
شراب نوشی کا ارتکاب کیا بھی ہو تو آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے۔

اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے :

كَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الْعَمَلِ حَتَّىٰ جَاءَتْهُمْ مَّا طَعَمُوا
إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا
بِرَّ اللَّهِ إِيمَانًا لَّا تُغْنِي عَنْهُمْ
أَعْمَالُهُمْ إِذْ هُمْ يُنصَبُونَ
نَبِيًّا يَشْفِئُهُمْ
وَهُمْ لَا يُنصَبُونَ

الطَّيْلِخَاتِ - (المائدہ - ۹۳) نیک اعمال کیے ہوں۔

تذامہ نے کہا میں اس آیت کا مصداق ہوں۔ میں ایمان لایچکا ہوں اور اعمال صالحہ بھی انجام دیتے ہیں۔ علاوہ انہیں نبی کریم کی رفاقت میں غزوات بدر احد خندق وغیرہ میں شرکت کرچکا ہوں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا "کوئی شخص اس کا جناب دوسے گا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا "جو لوگ حرمت شراب سے قبل فوت ہو چکے تھے۔ یہ آیت ان کو معذور قرار دینے کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی۔ شراب حرام قطعی ہے اور اس کی دلیل مندرجہ ذیل آیت ہے :-

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْبَيْسُ وَالْآنصَابُ
وَالْأَذْهَانُ لِرِجْسٍ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
شراب، بھڑا، تبوں کے ٹھکان اور پانے
کے تیر پیدا اور شیطان کا کام ہیں۔

(المائدہ - ۹۰)

یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کہا "آپ نے بجا فرمایا" (مخبر الاسلام، ص ۲۴۲)

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے جب یہ آیت سنی :-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّتْ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور
تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔

(المائدہ - ۳)

تو بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ اس آیت میں دین کے کامل ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ مگر حضرت عمرؓ نے آیت سن کر روپڑے اور فرمایا کہ کمال کے بعد نقصان دزدوال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ کا یہ خیال درست نکلا۔ اور اس آیت کے نزول کے ایک اسی دن بعد آنحضرتؐ نے وفات پائی۔ (الموافقات شاطبی، ج ۲، ص ۳۸۴۔)

سعید بن جبیر حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بدری صحابہ حضرت عمرؓ کی مجلس میں حاضر ہوتے تو آپ مجھے بھی بلاتے۔ ان میں سے بعض صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ ہمارے بیٹے بھی اس عمر کے ہیں اور انہیں کبھی شرف باریابی نہیں بخشا گیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا "ابن عباسؓ تم سب سے بڑے عالم ہیں" چنانچہ ایک روز آپ نے ان کو بلایا اور مجھے بھی آنے کا کہا۔ آپ نے فرمایا "لَا آجَاءَ نَصْرًا لِلَّهِ وَالْفَتْحَ" کے بارے میں کیا خیال ہے، بعض نے کہا اس میں حمد و استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض بالکل

ہی خاموش رہے۔ پھر بری طرف مخاطب ہو کر کہا ”ابن عباس کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بات یوں نہیں ”فرمایا“ پھر اور کیا مطلب ہے؟“ میں نے عرض کی ”اس سورتہ میں آپ کو قرب اجل سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا جب اللہ کی مدد اور قہر آجائے تو یہ آپ کے آخری وقت کی علامت ہے“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”میرا بھی یہی خیال ہے“

(بخاری باب التفسیر - فتح الباری، ج ۸، ص ۵۱۹)

مصدر چہارم، یہود و نصاریٰ :

عہد صحابہ میں تفسیر قرآن کا چوتھا مصدر دماخذ یہود و نصاریٰ تھے۔ یہ اس لیے کہ قرآن کریم بعض مسائل میں عموماً اور قصص انبیاء و اقوام سابقہ کے کوائف و احوال میں خصوصاً تورات کیساتھ ہم آہنگ ہے۔ اس طرح قرآن کریم کے بعض بیانات انجیل سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ اور ان کے معجزات وغیرہ۔

البتہ قرآن کریم نے جو طرز و منہاج اختیار کیا ہے، وہ تورات و انجیل کے اسلوب بیان سے بڑی حد تک مختلف ہے۔ قرآن کریم کسی واقعہ کی جزئیات و تفصیلات بیان نہیں کرتا بلکہ واقعہ کے صرف اسی جزد پر اکتفاء کرتا ہے جو عبرت و موعظت کے نقطہ خیال سے ضروری ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ تفصیلی واقعہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ بعض صحابہ ان واقعات کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے نو مسلم اہل کتاب صحابہ، مثلاً عبداللہ بن سلام کعب اللججاء اور دیگر علمائے یہود و نصاریٰ کی جانب رجوع کرنے لگے۔ مگر اہل کتاب کی جانب رجوع ایسے امور و واقعات کے بارے میں کیا جاتا تھا۔ جس کے سلسلہ میں صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا ہوتا تھا۔ اس لیے کہ جو چیز آپ سے ثابت اور منقول ہوتی تھی۔ اس کے ضمن میں صحابہ کسی دوسرے کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، خواہ وہ کسی درجے کا بھی انسان ہو۔

مصدر ہند کی اہمیت :

اس میں شک نہیں کہ تفسیر قرآن کا یہ مصدر چہارم سابقہ مصادر سے گانہ کے مقابلہ میں بہت کم اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے کہ تورات و انجیل میں تحریف ہو چکی ہے۔ یہ فطری بات تھی کہ اہل اسلام

اپنے دین کی حفاظت کرتے اور کتاب الہی کو ان محرف کتب کے اثرات سے بچاتے۔ اس لیے صحابہ اہل کتاب سے وہی بات اخذ کرتے تھے، جو ان کے عقیدہ سے ہم آہنگ ہو اور قرآن سے متصادم نہ ہو۔ اس کے خلاف جو بات ہوتی وہ اسے مسترد کر دیا کرتے تھے۔ بعض باتیں ایسی ہوتیں جو نہ تو قرآن کے موافق ہوتیں اور نہ مخالف۔ ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جاتا نہ تصدیق کی جاتی اور نہ اُسے جھٹلایا جاتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ایسے امور میں یہی تھا کہ نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔ ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ یہودیت و نصرانیت نے مختلف تاریخی ادوار میں تفسیر قرآن پر کیا اثرات ڈالے تھے۔ اِنْ شَاءَ اللهُ الْعَزِيزُ۔

فصل سوم مفسرین صحابہ

صحابہ میں سے مشہور مفسرین بہت کم تھے۔ صحابہ قرآن کی وہی تفسیر بیان کرتے جو بالواسطہ یا بلاواسطہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنتے۔ یا جس آیت کا سبب نزول انہوں نے خود ملاحظہ کیا ہوتا یا جو چیز بطریق اجتہاد و استنباط ان پر منکشف ہوتی۔
مشہور مفسر صحابہ:

امام جلال الدین سیوطی نے الاذقان میں مشہور مفسر صحابہ کے نام گناٹے میں جو حسب ذیل ہیں۔
(۱) حضرت ابوبکر (۲) حضرت عمر (۳) حضرت عثمان (۴) حضرت علی (۵) حضرت ابن عباس (۶) حضرت ابن مسعود (۷) حضرت ابی بن کعب (۸) حضرت زید بن ثابت -
(۹) ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔
مذکورہ مددراکار صحابہ کے علاوہ کچھ دیگر صحابہ سے بھی تفسیری روایات منقول ہیں۔ مگر وہ کم ہیں اور ان کو زیادہ شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ ان کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں :-

(۱) انس بن مالک (۲) ابو صریرہ (۳) عبداللہ بن عمر (۴) جابر بن عبداللہ (۵) عبداللہ بن عمرو بن العاص (۶) عائشہ صدیقہ۔

جن دست مفسرین صحابہ کا ذکر قبل ازین کیا گیا ہے۔ وہ تفسیری روایات کی قلت و کثرت کے اعتبار سے مساوی الدرجہ نہ تھے۔ مثلاً حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم سے بہت کم تفسیری اقوال منقول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ عرصہ تک بقید حیات نہ رہے۔ دوسری بڑی وجہ ان کی ہلکی دسیاسی مصروفیات ہیں۔ اس کی تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس دور میں ایسے صحابہ کی کمی نہ تھی جو قرآن ہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ کتاب الہی کے اسرار و غوامض اور احکام و معانی کے مازدان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص عرب ہونے کی بنا پر عربی زبان سے پوری طرح آگاہ تھے

اس لیے ان کی موجودگی میں خلفائے اربعہ کی جانب رجوع کرنے کی چندان ضرورت نہ تھی۔

خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ تفسیری اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عرصہ دراز تک تا خلافت عثمانی اور سلطنت سے الگ تھلگ رہے۔ پھر اس زمانہ تک یقید حیات رہے۔ جب اسلام مختلف اکنافِ ارضی میں پھیلا۔ عجمی اقوام دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں اور اس طرح تفسیر قرآن کی ضرورت پہلے سے بہت بڑھ گئی۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعبؓ سے بھی بکثرت تفسیری اقوال منقول ہیں۔ اس لیے کہ اس دور میں لوگ تفسیر قرآن کے محتاج تھے۔ علاوہ ازیں حضرت علی اور یزیدؓ صحابہ مندرجہ ذیل خصوصیات کے حامل تھے۔

(۱) عربی زبان میں مہارت اور اس کے اسالیب بیان سے گہری مناسبت۔

(۲) قوتِ اجتماع و استنباط۔

(۳) رفاقتِ نبوی کی بنا پر اسبابِ نزول سے مکمل آگاہی۔

البتہ حضرت ابن عباسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے زیادہ مستفید نہ ہو سکے۔ اس لیے کہ ان کی عمر ابھی تیرہ سال کے لگ بھگ تھی کہ آپ نے وفات پائی۔ البتہ کبار صحابہ کی صحبت میں رہنے سے انہوں نے بڑی حد تک اس کی تلافی کر لی تھی۔

سابق الذکر دس صحابہ میں سے باقی ماندہ تین صحابہ یعنی زید بن ثابتؓ، ابو موسیٰ اشعریؓ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اگرچہ تفسیر میں مشہور تھے مگر ان سے بہت کم تفسیری اقوال منقول ہیں اور وہ شہرت میں ان چار کثیر الروایت صحابہ تک نہیں پہنچتے۔

فقط یہیں ہم صرف چار صحابہ کا تفصیلی تذکرہ کریں گے جن سے بکثرت تفسیری اقوال منقول ہیں

اور وہ یہ ہیں :-

(۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباسؓ (۳) حضرت ابن مسعودؓ (۴) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ

تعالیٰ عنہم! جمیعاً۔

اگر کثرتِ روایات کی بنا پر ہم ان چاروں صحابہ کے اسماء مرتب کریں تو وہ یوں ہوں گے۔

(۱) عبداللہ بن عباسؓ (۲) عبداللہ بن مسعودؓ (۳) علی بن ابی طالبؓ (۴) ابی بن کعبؓ۔

ابن عباسؓ چاروں کا تفصیلی ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ تفسیر قرآن میں ان کا طرز و انداز کیا تھا۔

۱۔ عبداللہ بن عباسؓ:

حضرت عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدمناف قریشی حاشمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ ان کی والدہ کلبا بکہ کبریٰ بنت عارض بن حزن المملایہ تھیں۔ یہ ان کوں پیدا ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قبیلہ شعیب اہل طالب میں محصور تھا۔ جب پیدا ہوئے تو ان کو آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے تیر کا لب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ یہ ہجرت سے تین سال پہلے کا واقعہ ہے۔

آغاز طفولیت ہی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وابستہ و امن رہے۔ ان کی خالہ حضرت میمونہ حضورؐ کے نکاح میں تھیں۔ آپ کی وفات کے وقت ابن عباس کی عمر علی اختلاف الروایات تیرہ یا پندرہ برس کی تھی۔ حضورؐ کی وفات کے بعد کبار صحابہ کی صحبت اختیار کی اور ان کے شیخ و معلم سے اپنی علمی پائیں بھائی قول راجح کے مطابق ۶۵ھ میں ہجرت سے سال طائف میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ محمد بن حنفیہ نے آپ کو قبر میں اتارا اور ان الفاظ میں ان کو خراج تحسین پیش کیا:

مات والله المیوم جبر هذا الاھلۃ
خدا آج اس امت کے عظیم عالم نے منات پائی
ابن عباس کا علمی پایہ:

کثرت علم و فضل کی بنا پر آپ کو جبرد عظیم عالم، اور جبرد مند ر، کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ عظیم معرر قرآن اور محمد تھے۔ فتویٰ و تفسیر کی ریاست آپ کی ذات پر ختم ہو گئی تھی۔ حضرت عمر اپنی مجلس میں کبار صحابہ کے ساتھ آپ کو جھٹاتے اور اپنے قریب بلکہ دیتے تھے۔ جناب ماروق اعظم فرمایا کرتے تھے:-

”آپ ہمارے سب نوجوانوں سے حسین تر باعلاق اور ان سب سے زیادہ کتاب الہی کے کھنے

و اسے ہیں“

آپ ہی کا قول ہے:-

”ابن عباسی عمر کے اوصو سے اور عقل کے پورے ہیں۔ آپ وہن رسا اور زبان نکتہ بیان

کے مالک ہیں“

جناب عبداللہ بن عباسؓ اتنے متادب تھے کہ جب حضرت عمرؓ کی موجودگی میں ان سے کوئی سوال کرتے تو

کہتے ہیں اس وقت تک جواب نہیں دوں گا۔ جب تک دوسرے صحابہ اظہار خیال نہ کر لیں۔ نو عمری کے باوجود حضرت عثمان کی رائے پر اکتفا کرتے تھے۔

عبید اللہ بن عبد اللہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے پاس کوئی مشکل مسئلہ آتا تو ابن عباس سے کہتے ایک مشکل مسئلہ درپیش ہے جسے آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ پھر جو حل ابن عباس پیش کرتے آپ اُسے تسلیم کرتے۔ ایسی مشکلات کے سلسلہ میں آپ کسی اور کو نہیں بلاتے تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ عمر تو پھر عمر تھے۔ آپ کی نکتہ دہی اور اسلام و اہل اسلام کے ساتھ اخلاص کس سے مخفی ہے؟

(أسد الغاب لابن اثیر)

حضرت ابن مسعود کا قول ہے :

”ابن عباس ترجمان قرآن ہیں“

جناب عطاء فرماتے ہیں :

”میں نے ابن عباس کی مجلس سے بڑھ کر باعزت محفل نہیں دیکھی۔ مفسر آپ کے یہاں ہوتے تھے۔ فقہاء و شعراء کا جھمکنا آپ کے مدد و دولت پر رہتا تھا۔ اور یہ سب آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہوتے تھے“

طاؤس سے کہا گیا تھا کہ اکابر صحابہ کو چھوڑ کر آپ اس نوجوان (ابن عباس) کے وابستہ دامن ہو گئے ہیں۔ جواب دیا میں نے ستر صحابہ کو دیکھا کہ جب وہ کسی مسئلہ میں بات چیت کرتے تو بلاآخر ابن عباس کا قتل اختیار کرتے۔

اعمش البوہائل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے ابن عباس کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اپنے خطبہ میں سجدہ بقرہ یا نور تلاوت کی اور اس کی ایسی تفسیر بیان کی کہ اگر اہل روم ترک اور دیالمہ اسے سُن پاتے تو شرف باسلام ہو جاتے۔ حضرت علی بن ابی طالب ابن عباس کی تفسیری صلاحیتوں کی مدح و ستائش کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے :-

”یوں نظر آتا ہے کہ ابن عباس باریک پردہ کی اُوٹ سے غیبی حقائق کو بچشم خود دیکھ رہے ہیں“

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت ابن عباس ایک علمی زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ کا اور رضنا، بچھڑنا، پڑھنا پڑھانا اور علمی حقائق پر روشنی ڈالنا تھا۔ امارت کے ساتھ بس آپ کا اتنا ہی تعلق رہا۔ جب حضرت علیؑ نے

آپ کو بصرہ کا والی مقرر فرمایا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ صحیح معنی میں نابالغ و ذکاوار تھے۔ آپ علم و فضل و نسا و بلاغت اور وسعت معلومات میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ تفسیر قرآن میں تو آپ لائٹا نائی تھے۔ ان کے بارے میں سب سے بہتر بات وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمائی :-

ابن عباسؓ اعلیٰ امتہ محمدیہ ما نزل جو کچھ رسول کریمؐ پر نازل ہوا ابن عباسؓ است
علیٰ محمدیہ۔ (أسد الغابہ ج ۵ ص ۱۹۲) بھر میں اس کے سب سے بڑے عالم تھے۔

ابن عباس کی علمی برتری کے اسباب :

- ہمارے خیال میں ابن عباس کی علمی شہرت و وسعت کے اسباب حسب ذیل تھے :-
- (۱) اس کی سب سے بڑی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعا تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا :-
اللہم فقہہ فی الدین و علمہ
اسے اللہ اس کو دین کا فہم عطا کرادے اسے
القرآن کی تفسیر سکھا دے۔
التأویل۔

دوسری روایت میں یوں ہے :-

- اللہم علمہ الکتب والحکمة
اسے اللہ اسے کتاب و حکمت سکھا دے۔
جو شخص کتب تفسیر بالماثور سے آگاہ ہے وہ جانتا ہے کہ ابن عباس سے جو روایات صحیح تفسیر
کے سلسلہ میں منقول ہیں ان میں دعائے نبوی کی تاثیر صاف جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔

(۲) ابن عباس خاندان نبوت میں پروان چڑھے اور آغاز طفولیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
والستہؓ فرما رہے۔ اس کے قیمہ میں انہوں نے بہت کچھ آپ سے سنا اور ان احوال و
حوادث میں بذات خود شریک ہوئے۔ جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا تھا۔

(۳) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابن عباس اکابر صحابہ کی صحبت میں رہ کر ان
سے اخذ و استفادہ کرتے رہے۔ آپ نے ان سے وہ مقامات دریافت کیے جہاں جہاں قرآن
اُترتا تھا۔ تاریخ تشریح اور اسباب نزول کے بارے میں واقفیت حاصل کی اس طرح آنحضرت کی
وفات کے باعث ابن عباس جس چیز پر فیض سے محروم ہوئے تھے۔ بڑی حد تک اس کی تلافی کر لی۔
اس ضمن میں ابن عباس کا اپنا ارشاد یہ ہے :-

”مجھے اکثر احادیثِ نبویہ انسا سے ملیں۔ میری حالت یہ تھی کہ میں استفادہ کے لیے کسی شخص کے یہاں جاتا اور اسے مع خواب پاتا۔ اگر میں چاہتا تھا تو اسے بیدار کر دیتا مگر میں یوں نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ میں اس کے دروازہ پر بیٹھا رہتا۔ میرا چہرہ گردوغبار سے لوٹ جاتا۔ یہاں تک کہ وہ خود ہی جاگتا اور مجھے جو کچھ اس سے دریافت کرنا ہوتا تھا۔ پوچھتا اور وہاں لوٹ آتا۔“

۴ - اس کی ایک دوسری بھی تھی کہ آپ عربی زبان و آداب اور اس کے خصائص و اسالیب کے یگانہ روزگار ناضل تھے۔ بسا اوقات قرآن کے معانی و مطالب بیان کرنے میں آپ عربی اشعار سے استثناء دفرمایا کرتے تھے۔

۵ - آپ اجتہاد کے متمیز پرفاگز تھے اور بوقتِ ضرورت اس کے استعمال میں کوئی حرج تصور نہیں کرتے تھے۔ جس بات کو حق سمجھتے بلا جھجک اس کو بیان کر دیتے اور کسی ملامت یا تنقید کرنے والے کی پرواہ نہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ابن عباس کی تفسیری جرأت بے باکی پر مترس ہوتے تھے۔ تاہم اکثر ان کے قول کو قبول کرتے اور ان کی علمی صلاحیت کی داد دیا کرتے تھے۔

ایک دفعہ حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس آیت کی تفسیر دریافت کی:

أَذْكُرُ بِيَرِّ الذِّبْنِ كَقُرْوِ أَنْ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ كَأَنْتَارَتْنَا فَقَفْنَا هُمَا
کیا کفار نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔

(الانبیاء - ۳۰)

آپ نے کہا ابن عباس کے یہاں جاؤ اور جو تفسیر بیان کریں مجھے بتانے جاؤ۔ ابن عباس نے فرمایا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ آسمان خشک تھے ان سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بانجھ تھی اس سے کچھ اگت نہیں تھا۔ بارش کے طفیل یہ پودے اگانے لگی۔ گویا آسمان کا فسخ (پھٹنا) بارش کے ساتھ ہے اور زمین کا پھل پودے اگانے سے۔ اس شخص نے جا کر یہ تفسیر حضرت ابن عمرؓ کو بتائی انہوں نے یہ سن کر فرمایا ”میں کما کرتا تھا کہ ابن عباس کی تفسیر قرآن میں یہ جرأت مجھے پسند نہیں مجھے اب پتا چلا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی علم و ولایت ہوا ہے۔“

یہ ہیں وہ اہم اسباب و وجوہ جن پر حضرت ابن عباس کی تفسیری شہرت کا مدار و انحصار ہے۔

علاوہ ازیں ان پر کچھ امد کا اضافہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً آپ خاندان نبوت سے وابستہ تھے، جو نور و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ ذہین و فطین نہایت عاقل و فرزانہ صاحب الراضی اور مومن مخلص تھے۔ غرض یہ کہ ایک بہترین مفسر کے اوصاف و خصائص آپ میں مکمل طور پر جمع ہو گئے تھے۔

تفسیر قرآن میں ابن عباس کا مرتبہ و مقام:

حضرت ابن عباس کو تفسیر قرآن میں جو بلند مقام حاصل تھا۔ اس کا اندازہ ان کے لمبیدار رشید

مجادد کے قول سے ہوتا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں:-

”ابن عباس جیسا کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو اس سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں“

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول قبل ازیں ذکر کیا جا چکا ہے کہ ”ابن عباس گویا باریک پردہ کی ادٹ سے غیبی حقائق کو بچشم خود دیکھتے ہیں“

حضرت ابن عمر کا قول بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ”رسول کریم پر جو کتاب نازل ہوئی، ابن عباس اس کے سب سے بڑے عالم تھے“

ابن عباس کے عظیم مفسر ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ بعض صحابہ اکثر تابعین اور ابن عباس کے معاصرین مشکلات قرآن کو حل کرنے میں ان کی جانب رجوع کیا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت موسیٰ و شعیب کے واقعہ کے بارے میں بعض اہل علم یہ نہ سمجھ سکے کہ آیا حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کے ساتھ آٹھ سال بسر کیے تھے یا دس سال؟ چنانچہ اس اشکال کو حل کرنے کے لیے حضرت ابن عباس کی جانب متوجہ ہوئے۔

سید بن جبیر روایت کرتے ہیں، میں حج کی تیاری میں مصروف تھا کہ کوثر کے ایک یہودی نے کہا میں آپ کو علم کا شائق خیال کرتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا تھا؟ میں نے کہا ”مجھے کچھ علم نہیں۔ میں کہہ جاؤں وہاں حضرت ابن عباس سے دریافت کر دوں گا“ چنانچہ مکہ پہنچ کر ابن عباس سے دریافت کیا۔ اور یہودی کا قول ذکر کیا۔ ابن عباس نے کہا ”دس سال۔ انبیاء جب کسی بات کا وعدہ کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے“ جب میں عراق آیا تو یہودی کو یہ بات بتائی۔ اُس نے کہا ”ابن عباس نے سچ فرمایا، خدا کی قسم عالم تو وہ ہے“

(تفسیر ابن جریر، ج ۲۰-۲۱، ص ۴۳)

جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے کسی آیت کا معنی و مطلب دریافت کرتے اور

جب تسلی بخش جواب نہ پاتے تو ابن عباس کی جانب رجوع کرتے۔ آپ ابن عباس کی بیان کردہ تفسیر پر اعتماد کرتے تھے۔ مفسر طبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے صحابہ سے اس آیت کے معنی دریافت کیے

أَيُّوَدَّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَكَ بَيْتَةٌ
مَنْ تَخِيْلُ وَاعْتَابِ
کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس
کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو۔

(البقرة - ۲۶۶)

کوئی بھی شافی جواب نہ دے پایا۔ ابن عباس آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، بولے امیر المؤمنین! میرے جہی میں ایک بات آتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”آپ بھگتے کیوں ہیں، برطالیان کیجیے“ ابن عباسؓ نے کہا ”اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مثال بیان کی ہے۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عمر بھرنیکی کے کام کرتا رہے۔ جب اس کا آخری دقت آئے جب کہ نیکوں کی اُسے زیادہ ضرورت ہے۔ تو بُرا کام کر کے سب نیکوں کو بُرا بنا دو۔“ (ابن جریر، ج ۳- ص ۴۷)

حضرت مبارکی موجودگی میں سورہ النصر کے بارے میں جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا اور اس کا جو مشہور جواب ابن عباس نے دیا وہ اس بات کا شاہدِ عمل ہے کہ آپ اپنی قوتِ استنباط سے ان معانی کا استخراج کیا کرتے تھے جن کے بارے میں قرآن اشارہ کرتا ہے۔ اس سے وہی شخص برہنہ ہو سکتا ہے جو خصوصی طور پر نورِ الطافِ ربانی ہو۔ اکثر ایسے جمعیہ تفسیری مسائل پیش آئے جن کی عقدہ دری ابن عباس نے اس طرح فرمائی جیسے وہ شخص جو الہامِ ربانی کی مدد سے غیبی حقائق کا معائنہ کر رہا ہو۔ جیسا کہ حضرت علیؓ نے آپ کی شان میں فرمایا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہو گا کہ صحابہ آپ کے تفسیری اقوال کو دو وقت و اہمیت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ حضرت امین میں بھی اس کی صدائے بازگشت سنانی دیتی رہی۔ چنانچہ مکرمہ میں ایک مکتب قائم ہوا جہاں کے طلبہ حضرت ابن عباس سے علم تفسیر اخذ کرتے تھے۔ پھر یہ طلبہ مختلف بلاد و اقطار میں جا کر حاصل کردہ علم کو پھیلاتے۔ جملہ تاریخی ادوار میں ابن عباس کے تفسیری اقوال کی اہمیت کا یہ عالم رہا کہ تفسیر میں جب ان کا قول مل جاتا تو کسی دوسرے قول کو قابلِ اعتناء خیال نہ کیا جاتا۔ امام زرکشی نے صراحتہً لکھا ہے کہ تفسیر میں جب صحابہ کے اقوال متعارض ہوں تو ابن عباس کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔

(الاتقان، ج ۲- ص ۱۸۳)

اہل کتاب سے اخذ و استفادہ :

حضرت ابن عباسؓ دیگر مشہور مفسرین صحابہ کی طرح قرآن کریم کے مطالب و مسائل کے سلسلہ میں تکمیل صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں وہ نظر و اجتناد کو بھی کام میں لاتے۔ اسباب نزول اور ان احوال و ظروف سے فائدہ اٹھاتے جن میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوا ہو۔ ابن عباس اس ضمن میں اہل کتاب کی جانب بھی رجوع فرماتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض واقعات اجمالاً مذکور ہیں مگر تورات و انجیل میں ان کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ مگر عیسائے ہم بتا چکے ہیں، اہل کتاب سے استفادہ کا ذرہ نہایت محدود تھا اور یہ ان مسائل میں تھا جو قرآن سے لگا کھاتے اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ جو باتیں قرآن کے منافی ہوں اور شریعت اسلامیہ سے یک رنگ و ہم آہنگ نہ ہوں ابن عباس ان کو قبول نہیں کرتے تھے۔

یہودی مستشرق گولڈ زیمر اور منکر حدیث احمد امین کا گٹھ جوڑ :

یہودی مستشرق گولڈ زیمر نے اپنی کتاب ”المدہب الاسلامیہ فی تفسیر القرآن“ میں ابن عباسؓ پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ اہل کتاب سے بہت استفادہ کرتے تھے۔ حالانکہ رسول کریمؐ نے فرمایا تھا کہ ”نہ اہل کتاب کی تصدیق کیجیے اور نہ تکذیب“، ہم اس کی عبارت نقل کر کے پھر اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔

گولڈ زیمر لکھتا ہے :-

”اکثر کہا جاتا ہے کہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ابن عباس ایک شخص کی جانب رجوع کیا کرتے تھے جس کا نام ابوالجہلی عقیلان بن فروہ ازدی تھا۔ لوگ اس کی مدح و ستائش کیا کرتے تھے کہ وہ کتب مقدسہ کا عالم ہے۔ اس کی بیٹی مومنہ کا بیان ہے کہ میرا والد ہر مہنت میں ایک دفعہ قرآن مجید ختم کیا کرتا تھا اور توراہ پھردن میں۔ جس روز تورات ختم کرتا بہت سے لوگ جمع ہو جاتے وہ کہا کرتا تھا کہ اس کے ختم کے موقع پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کی بیٹی کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک تورات سے استفادہ کیا کرتا تھا“

تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ابن عباسؓ کے جو مصادر و ماخذ نہایت قبول اور ترجیح یافتہ تھے ان میں ہم کعب الاحبار اور عبداللہ بن سلام کو خصوصاً اور اہل کتاب کو مہتمماً پاتے ہیں۔

حالات کہ اہل کتاب سے استرازا کرنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ خود ابن عباس بھی ان کی جانب رجوع کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ حالانکہ مذکورہ صدر لوگ مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں مزید برآں یہ اہل علم میں شمار ہوتے تھے اور ان کو ہر لحاظ سے قابل اعتماد خیال کیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ابن عباس جو علمی استفادہ ان لوگوں سے کرتے تھے وہ انجیل و اسرائیل تک ہی محدود و مقصود نہ تھا۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ابن عباس نے کعب سے ام القرآن اور مرجان " (قیمتی موتی) کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تھا۔ عمد رسالت کے لوگ جانتے تھے کہ مذکورہ صدر یہودی علماء و قرآن کریم اور حدیث رسول کے معانی و مطالب سے پوری طرح باخبر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر قسم کے سوال کی ممانعت کے باوجود ان سے مسائل دریافت کرتے رہتے تھے۔"

(الذہاب الاسلامیہ، ص ۶۵)

یہ نہیں گولڈ زہیر کے ارشادات اس کی اپنی تصنیف میں! ان سے یہ حقیقت اُجاگر ہوتی ہے کہ یہ یہودی مستشرق عجیبہ کرام پر عموماً اور ابن عباس پر خصوصاً کس قدر مرعبان ہے؟ مشہور مصری منکر حدیث احمد امین نے اس نظریہ میں گولڈ زہیر کی پیروی کا پورا پورا حق ادا کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے :-

"اس قسم کے جنس یہودی اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے تھے۔ ان سے نقل ہو کر بہت سی خیالات مسلمانوں میں پھیل گئے۔ ان خیالات کی مدد سے وہ قرآن کی تفسیر کو مکمل کرنے لگے۔ اس کی ہدیہ ہے کہ ابن عباس جیسے کبار صحابہ تک ان کے اقوال کو قبول کر لیا کرتے تھے حالانکہ رسول کریم سے مروی ہے کہ "اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ نکذیب" مگر مسلمانوں کا عمل اس کے خلاف رہا اور وہ بدستور اہل کتاب سے نقل کرتے اور ان کی تصدیق کرتے رہے"

(ذخیر الاسلام، ص ۴۴۸)

مندرجہ صدر بیان سے معلوم ہوا کہ گولڈ زہیر اور احمد امین دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام اور خصوصاً ابن عباس حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اہل کتاب سے نہ صرف استفادہ کرتے بلکہ ان کی تصدیق بھی کیا کرتے تھے۔ نیز یہ کہ نو مسلم اہل کتاب سے اختلاط و اتصال کے

باعث تفسیر قرآن کے قدیم مکاتب اور خصوصاً ابن عباس کا تفسیری مکتب فکر یہودیت سے بہت متاثر ہو اٹھا۔

تردید اتمام:

حق بات یہ ہے کہ یہ اتہام کسی طرح بھی قرین عقل و قیاس نہیں۔ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ ابن عباس اور دیگر صحابہ اور علمائے یہود سے علمی مسائل دریافت کیا کرتے تھے جو مشرف باسلام ہو چکے تھے لیکن وہ ان سے ایسے امور کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے جن کا تعلق عقائد اور دین کے اصول و فروع کے ساتھ ہو۔ بخلاف ازیں وہ اہل کتاب سے گزشتہ واقعات کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ وہ اہل کتاب کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ وہ اسے دین و عقل کی تزاویں رکھ کر تولتے اور جو بات اس معیار پر پوری اترتی اس کی تصدیق کرتے تھے۔ جو اس کے خلاف ہوتی اس کو پرے پھینک دیتے۔ جس بات میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہوتا اور قرآن اس کے بارے میں خاموش ہوتا اس میں توقف سے کام لیتے۔ اس طرح صحابہ نے رسول کریم کے بظاہر دو متضاد ارشادات میں جمع و تطبیق کی راہ نکالی تھی۔ ایک حدیث میں حضور نے یوں فرمایا:

حدّثوا عن بنی اسرائیل ولا یغی اسرائیل سے سن کر آگے بیان کر دو اس میں کچھ مضافتہ نہیں۔

دوسرا ارشاد یوں ہے :-

لا تصدّوا اهل الکتاب لا تکذبوا اهل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔

پہلی حدیث میں بنی اسرائیل سے سن کر آگے بیان کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی یہ ایسے واقعات و حوادث کے بارے میں ہے جن میں عبرت آموزی کا پہلو موجود ہو۔ دوسری حدیث کا تعلق ایسے امور کے ساتھ ہے جس کے صدق و کذب کا پتہ نہ چل سکا اور اس میں یکساں طور پر دونوں احتمال موجود ہوں بعض باتیں نفس الامریں سچی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کی تکذیب مناسب نہیں۔ اسی طرح بعض باتیں حقیقت جھوٹی ہوتی ہیں ان کی تصدیق بھی درست نہیں۔ دوسری حدیث میں یہ بات مذکور نہیں کہ ان کی جو بات اسلامی شریعت کے خلاف ہو، اس کی بھی تکذیب نہ کی جائے۔ اسی طرح اس بات کا بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ جو بات دین اسلام کے موافق ہو اس کی بھی تصدیق نہ کی جائے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور

امام شافعیؒ نے اس حدیث کا یہی مطلب بتایا ہے۔ (فتح الباری، ج ۸، ص ۱۲۰)

حیرت کی بات ہے جس امر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے لیے کیوں کر مباح خیال کر سکتے تھے؟ وہ تو خود اس بات سے بڑی سختی سے روکتے تھے مندرجہ ذیل روایت ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت ابن عباسؓ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا:-

”اے گروہ اہل اسلام! تم اہل کتاب سے پوچھتے ہو حالانکہ تمہاری وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتاری تھی۔ تازہ ترین واقعات پر مشتمل ہے۔ تم ان واقعات کو پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے کہ اہل کتاب نے کتب خداوندی کو تبدیل کر دیا۔ اور کہا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ اس لیے کیا کہ اس کے عوض معمولی نفع حاصل کریں۔ مسلمانو! جو علم تمہارے پاس موجود ہے کیا وہ تمہیں اہل کتاب سے پوچھنے سے باز نہیں رکھتا؟ خدا کی قسم ہم نے آج تک اہل کتاب کے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو تم سے تم پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں سوال نہ کرنا ہو“ (فتح الباری، ج ۵، ص ۱۸۵)

ابن عباس کی لغت دانی :

قرآن کریم میں جو الفاظ غیر وارد ہوئے ہیں ان کے معانی معلوم کرنے کے سلسلہ میں ابن عباس شہر جاہلی کی جانب رجوع کرتے تھے۔ الفاظ غیر بہر کے فہم و ادراک میں دیگر صحابہ کا طریق کار بھی یہی تھا وہ لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے کہ قرآن میں وارد شدہ نادر الفاظ کو سمجھنے کے لیے قدیم عربی شاعرانہ کی جانب رجوع کریں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ سے اس آیت کے معنی دریافت کیے

”وَأَوْيَاتُ حُمُومٍ غَلِيظَةٍ“ (النحل - ۴۷)

تیبیلہ بنو عدیل کا ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، ہمارے زبان میں ”تخوف“ کی اور نقصان کو کہتے ہیں۔ جناب فاروق نے پوچھا ”کیا عربی اشعار میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اس نے کہا ”جی ہاں“ اور فوراً ایک شعر سنا دیا۔ حضرت عمرؓ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا ”اپنے دیوان کو نکالتے رکھو تم سے غلطی سرزد نہ ہوگی“ صحابہ نے عرض کی ”دیوان سے کیا

مرا ہے؛ فرمایا "جاہل شاعری! اس میں قرآن کی تفسیر اور تمہاری زبان کے معانی موجود ہیں"

(المواقفات ج ۲- ص ۸۸)

البتہ حضرت ابن عباسؓ اس ضمن میں خصوصی شہرت کے حامل تھے۔ بسا اوقات ایسا ہونا کہ آپ سے قرآن میں وارد شدہ کسی لفظ کے معنی پوچھے جانے اور آپ شعر پڑھ کر سنا دیتے۔ آپ سے بکثرت اشعار منقول ہیں۔ نافع بن ارزق نے آپ سے دو سو سوالات کیے اور آپ نے انہماک کے حوالہ سے ان کا جواب دیا تھا۔ ابن الانباری نخوی نے اپنی کتاب "الوقف والابتداء" میں ان میں سے کچھ سوالات کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے المعجم الکبیر میں بعض سوالات کا ذکر کیا ہے۔ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں بسند خود نافع اور ابن عباس کے باہمی مناظرہ اور سوالات و جوابات کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔

امام سیوطی لکھتے ہیں :-

"حضرت ابن عباس کعبہ کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ سوال کرنے والوں کا جھگمکا ہوا تھا۔ لوگ آپ سے تفسیر قرآن کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ نافع بن ارزق نے نجد بن عویمر سے کہا چلو اس شخص کے پاس چلیں جو علم کے بغیر تفسیر قرآن کی جرأت کرتا ہے چنانچہ دونوں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا "ہم آپ سے تفسیر کے بارے میں چند باتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی وضاحت کیجیے۔ اور کلام عرب سے استشہاد فرمائیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بیخ عربی میں نازل کیا ہے" ابن عباس نے کہا "جو دل چاہے پوچھیے" نافع نے کہا "اس آیت کے معنی بتائیے:

"عَنْ الْيَمِينِ وَرَحَى السَّمَاءِ عِزِينَ" دائیں اور بائیں حلقے باندھے ہوں گے۔

(المعارف ج ۳۷)

ابن عباس نے کہا "العزون" کے معنی ہیں ساتھیوں کے حلقے۔ انہوں نے کہا "کیا عرب اس معنی کے واقف ہیں؟ ابن عباس نے کہا "جی ہاں! کیا آپ نے عبید بن ابرص کا یہ شعر نہیں سنا:۔

فجاءوا يهرعون اليه حتى يكووا حول منبره عزيبا

وہ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اس کے منبر کے گرد حلقہ باندھ لیتے ہیں،

نافع نے کہا اس آیت کے معنی بتائیے :-

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
اس کا قرب تلاش کرو۔

(المائدہ - ۲۵)

ابن عباس نے کہا "الوسيلة" حاجت اور ضرورت کو کہتے ہیں "نافع نے کہا "کیا

عرب اس معنی سے آگاہ ہیں؟ ابن عباس نے کہا "کیا آپ نے عترہ کا یہ شعر نہیں سنا؟

ان الرجال لهم اليك وسيلة

ان ياخذوك تكحلي وتخصبي

اس شعر میں وسیلہ کا لفظ حاجت اور ضرورت کے معنی میں استعمال ہوا ہے "

(الاققان، ج ۱ - ص ۱۲۰)

ان سوالات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس لغت عرب اور غریب الفاظ میں اس قدر مہارت

رکھتے تھے کہ اس دور کا کوئی شخص ان کا تریف نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی کی بنا پر آپ محدثوں میں امام

التفسیر کہلائے اور عترت تابعین میں بھی مفسرین کے سرخیل تسلیم کیے جاتے رہے۔ تفسیر کے لغوی پہلو پر

آپ کو خصوصی عبور حاصل تھا۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ :-

"ابن عباس نے تفسیر قرآن کے لیے لغوی طریقہ اختراع کیا" (المدہاب الاسلامیہ ص ۶۹)

تفسیر قرآن کے سلسلہ میں یہ لغوی طریقہ عمدتاً تابعین تک باقی رہا۔ آگے چل کر فقہاء اور اہل لغت

کے مابین اس ضمن میں نزاع بپا ہوا۔ فقہاء اس طریقہ پر معترض ہوتے۔ اور کہتے تھے کہ تم نے شعر

کو قرآن کی اصل و اساس بنایا ہے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ قرآن و حدیث میں اشعار کی مذمت وارد ہوئی

ہے۔ پھر تفسیر قرآن کے سلسلہ میں اشعار سے احتجاج کیسے ہو سکتا ہے؟

(تفسیر نیسا بوردی ج ۱ - ص ۶)

حق بات یہ ہے کہ یہ جدال و نزاع جو اگلے ادوار میں بپا ہوا بالکل بے بنیاد تھا۔ معاملہ یوں نہیں

کہ شعر کو قرآن کی اصل قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ قرآن میں جو نادر و غریب لفظ وارد ہوا

ہو اس کی توضیح شعر کی مدد سے کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

إِنَّا جَعَلْنَاكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا - ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا۔

(الزمر)

نیز فرمایا :-

يَلِسَانِ عَرَبِيٍّ حَبِيبِينَ - واضح کرنے والی عربی زبان میں اترا۔

(الشعر ۱-۱۹۵)

یہی وجہ ہے کہ آج تک مفسرین اس بات پر متفق رہے ہیں کہ فہم قرآن کے سلسلہ میں شعر جاہلی استنشاہ کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔

ابن عباس کی تفسیری روایات اور ان کا پایہ صحیح :

حضرت ابن عباس سے لاتعداد تفسیری روایات منقول ہیں اور ان کے طرق و اسانید بھی متعدد و مختلف ہیں۔ اس کی حدیہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں آپ سے کوئی قول یا اقوال مروی نہ ہوں۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ نقاد و محدث ابن عباس سے منقول تفسیری اقوال کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے اس ضمن میں نقد و جرح کی بنا ڈالی اور ان روایات کی صحیح و ضعف کا پوچشیدہ راز و اشکاف کر دیا۔ اب ہم بتائیں گے کہ ابن عباس سے اخذ و روایت کی مشہور ترین سند کون سی ہے اور صحیح و ضعف کے اعتبار سے اس کا کیا درجہ ہے۔ اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی کہ ابن عباس پر بھروسہ کس حد تک باندھا گیا ہے اور ان سے منقول صحیح اقوال کس قدر ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے اخذ و نقل کی بہترین سند از معاویہ بن صالح از علی بن ابی طلحہ از ابن عباس ہے۔ اس سند کے بارے میں امام احمد کا قول ہے :-

”مصر میں تفسیر پر مشتمل بروایت علی بن ابی طلحہ ایک رسالہ ہے اگر اس کی طلب و تلاش

میں ایک شخص مصر کا سفر طے کرے تو یہ کچھ زیادہ نہیں“ (الالتقان، ج ۲، ص ۱۸۸)

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں :-

”یہ نسخہ لیبث کے کاتب ابو صالح کے پاس موجود تھا۔ ابو صالح نے اس کو بروایت معاویہ

بن صالح از علی بن ابی طلحہ از ابن عباس روایت کیا۔ یہ نسخہ بخاری میں بھی بروایت ابی صالح

منقول ہے۔ امام بخاری نے ابن عباس کی تعلیقات کے سلسلہ میں اسی سند پر اعتماد

کیا ہے ؟

(الاتقان، ج ۲ - ص ۱۸۸)

امام ابن جریر طبری ابن ابی حاتم، ابن المنذر، امام مسلم صاحب الصحیح اور اصحاب سنن یہ تمام محدثین علی بن ابی طلحہ کی روایت پر اعتماد کرتے ہیں۔

گو لڈز بہر کی علمی نخیانت :

گوڈز بہر لکھتا ہے :-

”اہل اسلام ناقدین حدیث نے مراختہ لکھا ہے کہ علی بن ابی طلحہ نے یہ تفسیری اقوال براہ راست

حضرت ابن عباس سے نہیں سنے۔ حالانکہ یہی ایک سند ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے

کہ ابن عباس کے تفسیری اقوال کے سلسلہ میں یہ صحیح ترین سند ہے“

(المدہاب الاسلامیہ)

یوں نظر آتا ہے کہ نقاد حدیث نے اس بے بنیاد اعتراض پر جو جرح و نقد کی تھی گو لڈزیر نے

ازرہ جہالت یا عارفانہ تجاہل اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر نے اس کی یوں تردید کی ہے۔

”جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ علی بن ابی طلحہ ثقہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس نے

ابن عباس سے براہ راست نہیں، بلکہ بالواسطہ سنا ہے“ (الاتقان، ج ۲ - ص ۱۸۸)

مشہور محدث ذہبی البیضان میں لکھتے ہیں :-

”علی بن ابی طلحہ نے ابن عباسؓ سے نہایت مفید تفسیری اقوال نقل کیے ہیں۔ محدثین کے

نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ علی بن ابی طلحہ نے مجاہد کے واسطے سے ابن عباس سے یہ اقوال

نقل کیے ہیں۔ اگرچہ علی بن ابی طلحہ مجاہد کا نام ذکر نہیں کرتا تاہم اس میں کچھ مضائقہ نہیں،

اس لیے کہ مجاہد ثقہ ہے۔ (ایثار الحق، ص ۱۵۹)

خلاصہ کلام یہ کہ ابن عباس کے تفسیری اقوال کے سلسلہ میں یہ صحیح ترین سند ہے۔ اس کی صحت و

ثقافت کیلئے یہ دلیل کافی ہے کہ امام بخاری جیسے محدث جلیل نے اس سند پر اعتماد کیا ہے۔

ابن عباس کی تفسیری روایات جن اسانید سے مروی ہیں ان میں ضعیف ترین سند محمد بن سائب کلبی

از ابو صالح از ابن عباسؓ ہے۔ ابن عدی الکامل میں لکھتے ہیں کہ کلبی کی تفسیر نہایت طویل اور حد درجہ مقبول

مشہور ہے۔ کلبی کے بارے میں محدثین کے اقوال ملاحظہ فرمائیں :

(۱) کلبی کی روایت تمام محدثین کے نزدیک متروک ہے۔

(۲) وہ فقہ نہیں۔

(۳) اس کی روایت کھنسنے کے قابل نہیں مہرتی۔

(۴) وہ حدیثیں وضع کیا کرتا ہے۔ (التفسیر معالم حیاتہ، ص ۹)

کلبی سے روایت کرنے والوں میں محمد بن مروان سدی الصغیر کا نام بہت مشہور ہے۔ محدثین اس کو واضعین حدیث میں شمار کرتے اور متروک الحدیث قرار دیتے ہیں۔
جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں :-

«اگر کلبی کی سند کے ساتھ سدی الصغیر کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ سند "سلسلۃ الکتب»

«جھوٹ کی راہ» تصور کی جائے گی،» (الاتقان، ج ۲ - ص ۱۸۹)

امام سیوطی مزید لکھتے ہیں :

«کلبی تمہم بالکذب ہے۔ جب وہ بیمار پڑا تو اپنے اصحاب و فلانہ سے کہا میں نے

جو کچھ بھی بروایت ابوصالح بیان کیا ہے وہ جھوٹ ہے،» (الدر المنثور، ج ۶ - ص ۴۲۳)

کلبی کے ضعیف راوی ہونے کے باوجود اسی قسم کے ضعیف یا اس سے بھی ضعیف تر راوی اس کے تفسیری اقوال نقل کرتے ہیں۔ مثلاً محمد بن مروان جس کو سدی الصغیر کہا جاتا ہے سخت ناقابل اعتماد راوی ہے اور وہ کلبی سے روایت کرتا ہے۔ علاوہ ازیں شعبی اور واحدی بھی کلبی سے روایت کرتے ہیں علاوہ ازیں اور بھی متعدد طرق و اسانید ہیں جن کے ذریعہ حضرت ابن عباس کے تفسیری اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ مگر اختصاراً ان کو نظر انداز کر کے صرف صحیح ترین اور ضعیف ترین سند پر اکتفاء کیا ہے۔

ابن عباس کی جانب منسوب تفسیر کی قدر و قیمت :

ایک ضخیم تفسیر ابن عباس کی جانب منسوب ہے جو مصر میں متعدد مرتبہ «تنویر المقاس» میں تفسیر ابن عباس کے نام سے چھپ چکی ہے۔ اس کے جامع محمد بن یعقوب فیروز آبادی شافعی مصنف القاموس المہیط ہیں۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس سے جو اقوال بھی اس کتاب میں نقل کیے گئے ہیں ان کا مدار و انحصار محمد بن مروان سدی الصغیر کی روایت از محمد بن سائب کلبی از ابوصالح از ابن عباس پر ہے۔ ہم اس سند کی قدر و قیمت قبل ازیں واضح کر چکے ہیں۔

ابن العکم کا قول ہے کہ میں نے امام شافعی کو یہ فرماتے سنا، ابن عباس سے تفسیر کے سلسلہ میں فرمایا
 ایک سوا حدیث ثابت ہوئی ہیں“ (الافتحان، ج ۲، ص ۱۸۹)

اگر یہ بات واقعی امام شافعی نے فرمائی ہو تو اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جو تفسیر ابن
 عباس کی جانب منسوب ہے اس میں واضعین نے کس عظیم جہارت سے کام لیا ہے۔ اس کی سب سے
 نمایاں دلیل یہ ہے کہ اس تفسیر میں ابن عباس سے جو اقوال نقل کیے گئے ہیں ان میں کھلا ہوا ناقص پایا
 جاتا ہے۔ آگے چل کر ہم اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس تفسیر کی بے وقعتی
 اس اعتبار سے نہیں کہ یہ علمی اہمیت کی حامل نہیں۔ بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کو حضرت ابن عباسؓ
 کی جانب منسوب کرنا درست نہیں۔

ابن عباس پر کثرت وضع کے اسباب:

اب رہا یہ سوال کہ ابن عباس پر کثرت وضع کے اسباب و وجوہ کیا تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ آپ خاندان نبوت سے وابستہ تھے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ تفسیری اقوال کو آپ کی جانب منسوب
 کرنے سے ان کی قوت و ثقاہت میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ کسی اور کی جانب منسوب کرنے میں یہ بات نہ ہو
 سکتی تھی دوسری وجہ یہ ہے کہ ابن عباس کی نسل سے عباسی خلفاء کا ظہور ہوا۔ بعض لوگ عباسی خلفاء کے
 جد امجد ابن عباس سے روایت کر کے ان کا تقرب حاصل کیا کرتے تھے۔ ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ
 تفسیر میں وضع کا آغاز کن وجوہ و اسباب کے پیش نظر ہوا۔ نیز یہ کہ موضوع تفسیر اس امر سے صرف
 نظر کرتے ہوئے کہ وہ موضوع ہے کس قدر علمی اہمیت کی حامل ہے۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود:

آپ کا نام نامی عبداللہ بن مسعود بن غافل اور کنیت ابو عبدالرحمن ہے۔ آپ بنو ہذیل کے قبیلہ
 سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام عبدمنہ تھا۔ وہ بھی بنو ہذیل کے قبیلہ سے تھیں۔ والدہ کی
 جانب منسوب کر کے آپ کو ابن ام عبدمنہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دبلے پتلے پست قامت اور گندم گون
 تھے۔ آپ بہت پہلے اسلام لائے۔ وہ خود کہا کرتے تھے ”میں چھٹا مسلمان تھا، ہمارے سوا دوسرے
 زمین پر ساتواں مسلمان کوئی نہ تھا“

حضرت عبداللہ رسول کریم کے بعد اولین شخص تھے جس نے جہاں قرآن پڑھ کر قریش کو سنا لیا اور

اس جرم میں مار کھائی۔ اسلام لانے کے بعد آپ اکثر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے۔ آپ کے بیٹے وضو کا پانی لاتے، مسواک مہیا کرتے۔ جب رسول کریم کھڑے ہوتے تو آپ کو جو تاپناتے اور جب بیٹھ جاتے تو جو تاپنا کرتا کر اپنے پاس رکھ لیتے۔ جب آپ چلتے تو عبد اللہ آگے آگے چلتے۔ جب آپ غسل کرتے تو وہ پردہ کرتے اور جب حضور سو جاتے تو وہ جگاتے۔ حضرت عبد اللہ رسول کریم کے گھر میں بے جلابانہ داخل ہوتے۔ اس کی قدر یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عبد اللہ کو خاندان نبوت کا فرد خیال کیا۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ:-

”میں اور جہانی مین سے کہ آئے۔ ہم نے کچھ عرصہ وہاں گزارا۔ دورانِ اقامت ہم عبد اللہ بن مسعود اور ان کی والدہ کو خاندان نبوت میں سے تصور کرتے تھے۔ اس لیے کہ آنحضرت کے گھر میں ان دونوں کی آمد وقت بہت زیادہ تھی“ (صحیح بخاری و مسلم)

حضرت عبد اللہ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ قبلیت کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کی سادت حاصل کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں غزوات بدر و احد و خندق و بیعت الرضوان اور دیگر لڑائیوں میں شرکت کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مگر کربوک میں شامل ہوئے۔ وہ حضرت عبد اللہ ہی تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں حملہ کر کے ابوجہل کو واصل جہنم کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی اور عالی مرتبت ہونے کی شہادت دی تھی۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر امیر بنا چاہتا تو عبد اللہ بن مسعود کو بناتا۔ (مسند امام احمد)

آپ خلافت فاروقی و عثمانی میں کوفہ میں بیت المال کے حازن رہے۔ پھر آخری عمر میں مدینہ تشریف لائے اور ۳۲ھ میں وفات پائی۔ حسب وصیت خود ان کو بقیع کے قبرستان میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر ساٹھ سال سے کچھ اوپر تھی۔

ابن مسعود کا مبلغ علم :

آپ صحابہ میں کتاب الہی کے سب سے بڑے حافظ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن سننا پسند فرمایا کرتے تھے۔ ابن مسعود خود روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”مجھے سورہ نساء پڑھ کر سناؤ“ میں نے عرض کی ”کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ قرآن آپ ہی پر

اڑا ہے ” فرمایا ” میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں ” چنانچہ میں نے پڑھنا شروع کیا جب اس آیت پر پہنچا :

كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
بِشَهِيدٍ قَرَجْنَا بِكَ عَلَى الْهَوَاءِ
تَهْتِدًا۔

کی کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں
گئے اور آپ کو ان پر گواہ بنا لائیں گے۔

(النساء - ۴۱)

تو بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے :
” جو شخص چاہے کہ قرآن کو اسی طرح تر و تازہ تلاوت کرے جیسے وہ اُترنا تھا تو وہ ابن مسعود
کی طرح پڑھے “

ابن مسعود خود بھی اپنی ذات کے اس پہلو سے آگاہ تھے اور اس پر نازاں تھے۔ جب عثمانی خلافت میں حضرت
زید بن ثابت کو قرآن نویسی کی خدمت تفویض ہوئی تو ابن مسعود نے اسے ناپسند کیا۔ وہ اپنے آپ کو اس خدمت
کا اولین حق دار خیال کرتے تھے۔ چنانچہ خود فرمایا :

” مجھے مصاحف نویسی سے الگ رکھا گیا اور اس شخص کو یہ منصب تفویض ہوا کہ جب
میں اسلام لایا تو وہ ابھی ایک کافر شخص کی پشت میں تھا۔ (یعنی زید بن ثابت) “
مسروق تابعی کا قول ہے :

” اصحاب رسول کا علم چھ صحابہ کی ذات پر ختم ہو گیا۔ یعنی عمر و علی و ابی بن کعب و
ابو الدرداء و زید بن ثابت و ابن مسعود۔ پھر ان چھ صحابہ کا علم دو آدمیوں کی ذات میں
مرکوز ہو کر رہ گیا۔ یعنی حضرت علی و عبداللہ بن مسعود۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین “
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کسی ایسے شخص کا پتہ ویجئے جس کے اخلاق و عادات
آنحضرت سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہوں اور ہم اس سے استفادہ کریں۔ آپ نے فرمایا :
” ہم صحابہ میں سے کسی کو نہیں جانتے جس کی پجال ڈھال ابن مسعود سے زیادہ آنحضرت
سے ملتی جلتی ہو۔ صحابہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ ابن مسعود کو سب سے زیادہ
تقرب ربانی نصیب تھا “

جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت مسعود کو کوڑے کا نال بنا کر بھیجا تو اہل کوڑہ کو لکھا :-

”میں نے عمر بن یاسر کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم و وزیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جلیل القدر بدمی صحابہ میں شامل ہیں۔ ان کی بات سنیئے اور ان کی اطاعت کیجئے۔ میں نے ابن مسعود کو تمہاری جانب بھیج کر تمہیں اپنی ذات پر ترجیح دی ہے“

جناب ابن مسعود کو فرہ میں سکونت پذیر رہے اور اہل کوفہ حدیث و تفسیر و فقہ کا درس آپ سے لیتے رہے۔ آپ کو فرہ کے قاضی و معلم تھے۔ نص کی عدم موجودگی میں اپنی رائے پر عمل کرتے تھے اور اسی طرح آپ اصحاب الائمہ کے مکتب فکر کے اولین مدرس و بانی قرار پائے۔ جب حضرت علی کو فرہ میں نزول فرمائے اجلال ہوئے تو لوگوں نے حضرت ابن مسعود کا ذکر کرتے ہوئے کہا :

”ہم نے آج تک ابن مسعود جیسا خلعتی نرم مزاج بہتوں ہم نشین اور ان سے بڑھ کر عابد ذہد شخص نہیں دیکھا“ حضرت علی نے فرمایا ”میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں آیا تم غلوصل میں سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! فرمایا ”میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میری رائے بھی یہی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر“

مقدمہ صدر بیانات اس حقیقت کی ائینہ داری کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب رسول میں کیا مرتبہ و مقام حاصل تھا۔ وَذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ۔ (أسد الغابہ، ج ۲-۳ ص ۲۵۶)

تفسیر میں ابن مسعود کا مقام :

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی شخص قرآن کریم کی دستاویزات سیکھ لیتا تو جب تک ان کا معنی و مفہوم اور ان پر عمل کرنا سیکھ نہ لیتا آگے نہ بڑھتا۔ (تفسیر ابن جریر)

اس قول سے واضح ہوتا ہے کہ ابن مسعود قرآن کریم کے مطالب و معانی معلوم کرنے کے کس حد تک شائق تھے۔

مشہور تابعی مسروق کا قول ہے :

”عبداللہ بن مسعود نے کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ اور

اگر مجھے کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ تفسیر قرآن مجھ سے بہتر جانتا ہے اور ساری اہل
پہنچ سکتی ہے تو میں اس کے یہاں حاضری دے کر استفادہ کرتا۔
اس قول سے مستفاد ہوتا ہے کہ علوم القرآن کی تحصیل کے سلسلہ میں ابن مسعود ہر طرح کی جانفشانی
اور جانکامی کے لیے بھی تیار تھے۔
مسروق فرماتے ہیں :-

”عبداللہ بن مسعود ہمیں ایک سورت پڑھ کر سنا تے اور ان کا اکثر حصہ اس کی تفسیر بیان
کرنے میں صرف کر دیتے۔“

ابو نعیم الحلیہ میں ابو الجری سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علیؑ سے کہا ابن مسعود کے بارے
میں ہمیں کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا :

”ابن مسعود نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا اور پھر اسی پر اکتفاء فرمایا۔“

عقبہ بن عامر فرماتے ہیں :-

”میرے علم کی حد تک ابن مسعودؓ سے بڑھ کر قرآن کا کوئی عالم نہیں۔“

عبداللہ بن مسعودؓ خود فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سُن کر ستر سورتیں یاد کیں۔
ابو داؤد فرماتے ہیں :-

”جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف عثمانی کے سوا باقی تمام مصاحف جلا دیے

اور حضرت ابن مسعودؓ کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا ”اصحابیہ صحیحانے ہیں کہ ہمیں سب بڑھ کر قرآن

کریم کا علم رکھتا ہوں مگر ان سے افضل نہیں ہوں۔ اگر مجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص مجھ سے

بڑھ کر قرآن کا علم ہے اور اونٹ و ہاں پہنچ سکتے ہیں تو میں اس کے یہاں ضرور حاضری

دوں۔“ ابو داؤد کہتے ہیں، میں یہ سننے کے لیے لوگوں کے حلقہ میں گس گیا کہ وہ اس

بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے کسی کو بھی اس کی تردید کرتے ہوئے نہ پایا۔“

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن مسعودؓ کی وفات کے بعد فرمایا :-

”ابن مسعودؓ نے اپنے پیچھے اپنے جیسا کوئی عالم نہیں چھوڑا۔“

حاصل کلام یہ کہ حضرت ابن مسعود صحابہ بھرتوں میں کتاب اللہ کے معانی و مطالب محکم و متشابہ حلال و حرام

تقصص و اشمال اور اسباب نزول کے عظیم ترین عالم بے مثال فقیہ اور عظیم التفسیر محدث تھے۔

حضرت ابن مسعود کی تفسیری روایات:

حضرت ابن عباس کے بعد سب سے زیادہ تفسیری اقوال ابن مسعود سے منقول ہیں۔

امام سیوطی فرماتے ہیں:-

”حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ابن مسعود سے زیادہ تفسیری روایات مروی

ہیں“ (الاتقان، ج ۲، ص ۱۸۷)

چونکہ ابن مسعود کو فرم میں بود و باش رکھتے تھے۔ اس لیے اہل کوفہ آپ کے چشمہ علم و فیض سے زیادہ مستفید ہوئے۔ آپ کے تلامذہ میں مسروق بن اجدع، علقمہ بن قیس نخعی، اسود بن یزید اور دیگر علمائے کوفہ شامل ہیں۔ حضرت تابعین کے مفسرین کا ذکر کرتے وقت ہم ان کے حالات پر مزید روشنی ڈالیں گے۔

کتب حدیث و تفسیر میں کثرت اسانید حضرت ابن مسعود پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ ان میں صحیح و ضعیف ہر قسم کی اسانید ہیں۔ بعض اسانید منقطع بھی ہیں۔ نقاد حدیث نے ان سندات کو خوب جانچا پرکھا۔ اور ان پر اچھی طرح و تدرج کی ہے۔ ابن مسعود سے اخذ و نقل کے مشہور ترین طرق حسب ذیل ہیں:-

۱۔ بسند اعش از ابوالفضل از مسروق از ابن مسعود۔

یہ صحیح ترین سند ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اسی پر اعتماد کیا ہے۔

۲۔ از طریق مجاہد الزبیری عن ابن مسعود۔ یہ سند بھی صحیح اور ضعف سے پاک ہے، اس کو بھی امام بخاری نے اپنی صحیح میں صحیح قرار دیا ہے۔

۳۔ بطریق اعش از ابوالفضل از ابن مسعود۔ یہ سند بھی صحیح ہے اور امام بخاری اس سند کی ساقہ روایت کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں دیگر اسانید کا پایہ صحت اس قدر بلند نہیں۔ بعض ضعیف اور منقطع بھی ہیں۔

۳۔ حضرت علی بن ابی طالب:

نام و نسب اور زندگی = آپ کا اسم گرامی علی بن ابی طالب اور کنیت ابوالحسن ہے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں تھیں۔ نبی کریم کی اولاد حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما سے آگے چلی۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں۔ آپ کے

والد اور والدہ دونوں حاشمی تھے۔ آپ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ چہارم اور نبی حاشمی میں سے اولین خلیفہ تھے۔ آپ نوجوانوں میں سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ آپ کی ہجرت کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ بقول بعض مفسرین یہ آیت آپ ہی کے بارے میں نازل ہوئی :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُكَ يَتَّبِعُكَ يَتَّبِعُكَ
 اِتِّبَاعًا مَّرَصَاتٍ لِلَّهِ (البقرہ - ۲۰۷) کے لیے اپنی زبان تک فروخت کر دیتے ہیں۔

آپ نے تبوک کے سوا تمام غزوات میں شرکت کر کے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہل و عیال کی حفاظت کے لیے خود مدینہ منورہ میں چھوڑ گئے تھے۔ متعدد غزوات میں آنحضرت نے آپ کو علم عنایت فرمایا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا :-

”میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ و رسول کو چاہتا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کو پسند کرتے ہوں گے۔ پھر آپ نے جھنڈا حضرت علی کو عنایت فرمایا“

جب آپ نے مدینہ ہجرت کر کے صحابہ میں رشتہ مواعجات استوار فرمایا تو حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اور فرمایا ”آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ جن صحابہ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت ملی تھی آپ ان میں سے ایک تھے۔ آپ ایسے فضائل و فواصل کے جامع تھے جو دوسروں کو نصیب نہ ہو سکے۔ مثلاً درع و تقویٰ زہد کثرتِ حلم و فضل اور حضور اکرم کی دامادی کا شرف آپ ستر سالہ ماہ رمضان میں عبدالرحمن بن لہم خارجی کے ہاتھوں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت تریستھ برس تھی۔

حضرت علی کا علمی مقام :

آپ علم کے سمندر تھے۔ زور بیان قوت استنباط فصاحت و بلاغت اور شعر و خطابت میں عظیم الشان تھے۔ آپ فیصلہ کن عقل کے مالک اور دور رس نگاہ رکھتے تھے۔ مشکل مسائل حل کرنے میں صحابہ اکثر آپ کے ملوث رجوع کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا نامی بنا کر بھیجا اور ان کے حق میں یوں دعا فرمائی ”اے اللہ اس کی زبان کو استقامت اور دل کو ہدایت عطا فرما“

چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور آپ ان صفات سے بہرہ ور ہوئے۔ آپ کی قوت فیصلہ ضرب الشل کی حد تک مشہور تھی۔ عربی مثل میں عموماً کہا جاتا ہے ”فَقِيصَةُ كَذَلَا أَبَا حَسِينٍ كَلَمًا“ (مجیدہ معاملہ ہے اور حضرت ابوالحسن علی موجود نہیں، اس میں حیرت کی بات نہیں۔ اس لیے کہ آپ نبوت کے گھرانے میں پلے بڑھے۔ علوم و معارف ان کی گھٹی میں پڑے تھے۔ سینہ مبارک مخزن العلوم تھا۔

علمہ حضرت ابن مسعودؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے ”مدینہ کے سب سے بڑے تافضی حضرت علی ہیں، عطا سے دریافت کیا گیا آنحضرتؐ کے صحابہ میں حضرت علی سے بڑھ کر عالم تھا؟ کہا خدا کی قسم مجھے کوئی ایسا شخص معلوم نہیں، جو ان سے بڑھ کر عالم ہو، سعید بن جبیر حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی سے کوئی بات ثابت ہو جاتی تو ہم کسی دوسرے کی جانب رجوع نہ کرتے“ (أسد الغابہ ج ۲ - ص ۱۶ - ۱۳۰)

آپ کا تفسیری پایہ:

بہترین تافضی و مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن عزیز کے اسرار و رموز کے بھی عظیم عالم تھے۔ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے :-

”میں نے تفسیر قرآن سے متعلق جو کچھ بھی سیکھا حضرت علیؓ سے سیکھا“

ابونعیم الحلیہ میں حضرت علی کا یہ قول نقل کرتے ہیں :-

”مجھ سے ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کس ضمن میں اور کہاں اتری۔ مجھے قرآن

ربانی نے روشن دماغ اور زبان گریا بخشی ہے“

ابوالطفیل کا قول ہے :-

”میں نے بذات خود سنا کہ حضرت علیؓ خطبہ فرما رہے تھے ”جو پوچھنا چاہو پوچھ لو،

خدا کی قسم تم جو بات بھی پوچھو گے میں وہی تمہیں بتاؤں گا۔ مجھ سے کتاب اللہ کے بارے

میں دریافت کرو۔ مجھ کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ وہ دن کو اتری

یا رات کو۔ میدان میں اتری یا پھاڑ پر“

حضرت علیؓ کے تفسیری ارشادات اور ان کا پایہ صحت و استناد:

حضرت علی سے بے شمار تفسیری اقوال منقول ہیں۔ حد سے تجاوز کرنے والی اس کثرت نے تفسیر کو

مجبور کیا کہ وہ ان اقوال پر جرح و قدح کریں اور اچھی طرح سے ان کی جھان پھٹک کر کے اقوال صحیحہ و صحیحہ کو باہم تمیز و ممتاز کریں۔

یہ حقیقت محتاج بیان نہیں کہ جناب علیؑ سے جو تفسیری اقوال منقول ہیں ان میں اقوال صحیحہ کی نسبت موضوع روایات زیادہ ہیں۔ اس کی بڑی وجہ غالی شیعہ کا وجود ہے جنہوں نے حجت علیؑ کے مذہم میں یہ اقوال گھر کر ان کی طرف منسوب کر دیے۔ حالانکہ ان کا دامن ان سے پاک ہے۔ یہ اقوال یا تو اپنے عقیدہ کی تشہیر و اشاعت اور استحکام کے لیے وضع کیے گئے اور اس ظن فاسد کی بنا پر کہ جس قدر علمی اقوال کو حضرت علیؑ کی جانب منسوب کیا جائے گا اسی قدر ان کی رفعت شان میں اضافہ ہوگا۔

حضرت علیؑ کی جانب جو یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ:-

”اگر میں چاہوں کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے شتر اونیٹوں کا بار تیار کروں تو ایسا کر سکتا ہوں“

بالکل بے اصل ہے اور شیعہ کے وہم و خیال کے سوا اس کا کبھی وجود نہیں۔

حدیثیں وضع کر کے حضرت علیؑ کی جانب منسوب کرنے کا دوسرا محرک یہ ہے کہ آپؑ خاندان نبوت کے ساتھ وابستہ تھے۔ اس میں شک نہیں کہ آپؑ کی زندگی کا یہ پہلو خاصا اہم ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو چیز آپؑ کی جانب منسوب ہو اسے خصوصی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ایسی بات کا مقبول و مشہور عوام ہو جانا کچھ بعید نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کثرت وضع نے حضرت علیؑ کے علم و فضل کے کثیر حصہ کو رائگاں کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے حضرت علیؑ سے منقول اکثر روایات پر اعتماد نہیں کیا، بجز ان روایات کے جو ان کے اہل بیت کے واسطے سے مروی ہوں یا حضرت ابن مسعود کے اصحاب و تلامذہ مثلاً عبیدہ سلمانی و شریح وغیرہما سے منقول ہوں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخذ و روایت کے صحیح ترین طرق حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ بطریق ہشام از محمد بن سیرین از عبیدہ سلمانی از علیؑ۔ امام بخاری اسی سند سے روایت کرتے ہیں۔
- ۲۔ از ابن الحسین از ابوالطفیل از علیؑ۔ یہ سند بھی صحیح ہے۔ محدث ابن عیینہ اپنی تفسیر میں اسی سند سے روایت کرتے ہیں۔

۳۔ بطریق زمری از زین العابدین از والد خود امام حسین از والد خود حضرت علیؑ۔ یہ سند بہت ہی صحیح ہے۔ بعض محدثین نے اس کو اصح الاسانید قرار دیا ہے۔ مگر یہ سند سابق الذکر و نون اسانید کی

طرح مشہور نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضعیف اور کذاب راویوں نے بہت سی جھوٹی روایات حضرت زین العابدین کی جانب منسوب کر دی ہیں۔ بنا بریں اس سند کو کبھی بے اعتمادی کی نگاہ سے دیکھا جائیگا

و مقدمہ ابن الصلاح، ص ۹)

۴۔ حضرت ابی بن کعب :

آپ کا اسم گرامی ابی بن کعب بن قیس انصاری خزرجی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو النذر اور حضرت فاروق نے ابو الطفیل مقرر کی۔ آپ نے عقبہ اور غزوہ بدر میں شرکت کی۔ جب سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابی آپ کے اولین کاتب قرار پائے حضرت عمر نے آپ کو ان الفاظ میں خراج تحمیں پیش کیا :-

”ابی مسلمانوں کے سردار ہیں“

آپ کی وفات کے بارے میں علماء مختلف الراءے ہیں۔ بقول اکثر علماء آپ کی وفات خلافت فاروقی میں ہوئی۔

آپ کا علمی پایہ :

حضرت ابی بن کعب سید القراءتھے اور کاتبین وحی میں شمار ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا :

وَأَقْرَبُ هُمْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ

اور سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں

حضرت ابی کے بہترین حافظ قرآن ہونے کی نسب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔

حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے حضرت ابی سے کہا ”اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو سورہ ”لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا تَكُونُ فِي يَدَيْنِ مَنْ شَاءَ“ پڑھ کر سناؤں حضرت ابی نے عرض کی ”کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ آپ نے فرمایا ”ہاں! یہ سن کر حضرت ابی رونے لگے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابی سے کہا گیا ”کیا آپ اس پر خوش ہو گئے تھے؟ حضرت ابی نے کہا ”میرے لیے خوشی سے کون چیز مانع تھی“

قرآن فرخو و کمتابہ :-

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ
 كَرِهِي كَمَا اللَّهُ كَرِهِي فَذَلِكَ
 فَلْيَفْضَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
 کہہ دیجیے کہ اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ پس
 اس پر خوشی کا اظہار کریں یہ اس چیز سے بہتر
 ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ (یونس - ۵۸)

تفسیر قرآن میں آپ کا مرتبہ و مقام :

حضرت ابی بن کعب صحابہ میں کتاب اللہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ غالباً ان کی قرآن دانی کے عوامل و محرکات یہ تھے کہ حلقہ گویش اسلام ہونے سے قبل یہ یہود کے علماء میں سے تھے۔ بنا بریں یہ کتب قدیمہ کے اسرار و رموز سے بخوبی آگاہ تھے۔ مزید برآں یہ آنحضرت ﷺ کے کاتب وحی بھی رہ چکے تھے یہ ان جملہ اسباب و وجوہ کی بنا پر آپ کو اسباب نزول ناسخ و منسوخ اور قرآن کے مقدم و مؤخر سے گہری مناسبت پیدا ہو گئی تھی۔ ان حالات کی موجودگی میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ کسی آیت کا معنی و مفہوم آپ کی سمجھ میں نہ آئے اور آپ رسول کریم سے دریافت نہ کریں۔ انہی وجوہ کے پیش نظر آپ کا شمار مشہور مفسرین صحابہ میں ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے تفسیری اقوال کو وقعت و اعتماد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

آپ کی تفسیری روایات کا پایہ استناد :

ابی بن کعب سے کثیر تفسیری اقوال مختلف و متعدد طرق و اسانید سے منقول ہیں اور علماء ان پر شدید نقد و تبصرہ کیا ہے۔ مشہور ترین اسانید حسب ذیل ہیں :-

- ۱ - بسند ابو جعفر رازی از ربع بن النس از ابوالعالیہ از ابی۔ یہ سند صحیح ہے اور اس کے ذریعہ منقول ہو کر حضرت ابی سے تفسیر کا ایک ضخیم نسخہ علماء تک پہنچا ہے۔
- ۲ - بطریق دیلم از سفیان از عبداللہ بن محمد بن عقیل از طفیل بن ابی بن کعب۔ امام احمد نے مسند میں اس سند سے روایت کی ہے۔ یہ سند حسن کے درجہ کی ہے۔ حافظ بیہقی نے مجمع الزوائد میں اس سند کو حسن کہا ہے۔ (خلاصۃ تہذیب الکمال ص ۱۸۰۔ و میزان الاعتدال ج ۲ ص ۶۸)

فصل چہارم

تفسیر صحابہ کی اہمیت

محدث حاکم نے المستدرک میں لکھا ہے کہ جو صحابی نزول وحی کے وقت موجود ہو اس کی تفسیر مرفوع حدیث کا درجہ رکھتی ہے بقول حاکم امام بخاری و مسلم کا زاویہ نگاہ بھی یہی ہے۔
امام حاکم رقمطراز ہیں :-

”حدیث کا طالب علم آگاہ رہے کہ جو صحابی نزول وحی کے وقت موجود ہو اس کی تفسیر شیخین (امام بخاری و مسلم) کے نزدیک حدیث مرفوعہ کا درجہ رکھتی ہے“
(تدریب الراوی، ص ۶۴)

محدث ابن الصلاح اور شراح نوذوی فرماتے ہیں کہ یہ اسباب نزول یا ان امور کے بارے میں ہے جن میں عقل انسانی کو کوئی دخل نہیں۔ چنانچہ ابن الصلاح فرماتے ہیں :-

”یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ صحابی کی تفسیر حدیث مرفوعہ کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ علی الاطلاق نہیں بلکہ اس تفسیر کے بارے میں ہے جس کا تعلق کسی آیت کے سبب نزول کے ساتھ ہو۔ یا کسی ایسی بات کے سلسلہ میں جو نبی کریم کے سوا کسی اور سے اخذ نہیں کی جاسکتی اور اس میں انسانی عقل کو کوئی دخل نہ ہو۔ مثلاً حضرت جابر کا یہ قول کہ یہودی کہا کرتے تھے۔ جو شخص اپنی بیوی سے بچھپی طرف سے مجامعت کرتا ہے، اس کے یہاں بھیدگا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی:

”نِسَاءٌ كَذَبْتُمْ لَكُمْ“ (البقرہ - ۲۲۳) تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔

جہاں تک صحابہ کے دیگر تفسیری اقوال کا تعلق ہے جن کو آنحضرت کی جانب منسوب نہ کیا گیا ہو ان کو موقوف ہی قرار دیا جائے گا مرفوع نہیں“ (مقدمہ ابن الصلاح، ص ۲۴)

مگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حاکم نے اپنی کتاب ”معرفة علوم الحديث“ میں ابن الصلاح کے قول کی تائید کی ہے

وہ لکھتے ہیں :-

”صحابہ سے اس قسم کے جو تفسیری اقوال منقول ہیں ان کو موقوف ہی کہا جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ صحابہ کے تفسیری اقوال کو ہم مرفوع حدیث تصور کرتے ہیں تو ان کی قسم دوسری ہے پھر حضرت بابر کی روایت نقل کر کے کہتے ہیں کہ اس نوع کے اقوال مسند ہیں اور موقوف روایات میں شمار نہیں ہوتے۔ جو صحابی کسی آیت کے نزول کے وقت موجود ہو اور اس آیت کے بارے میں کہے کہ یہ ظلال واقعہ میں نازل ہوئی تو اس کو حدیث مرفوع قرار دیں گے“ (تدریب الراوی، ص ۶۵ نیز معرفۃ علوم الحدیث، ص ۱۹-۲۰)

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام حاکم نے جو بات المستدرک میں مطلقاً کہی تھی اسی کو اپنی کتاب مفتر علوم الحدیث میں مقید کر دیا۔ لوگوں نے مقید پر اعتماد کیا اور مطلق کو نظر انداز کر دیا۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب تدریب الراوی میں حاکم کے صحابہ کے تفسیری اقوال کو مطلقاً مرفوع کہنے کی یہ توجیہ کی ہے کہ آپ المستدرک میں زیادہ سے زیادہ احادیث صحیحہ جمع کرنے کے حریص تھے۔ اس کی حد یہ ہے کہ جو احادیث مرفوع کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں امام حاکم نے ان کو بھی اس کتاب میں جگہ دی۔ امام سیوطی نے حاکم پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے ذکر آخرت سے متعلق ابوہریرہ کی روایت کو موقوف قرار دیا۔ جو صحیح نہیں۔ اس لیے کہ ایسی بات میں عقل انسانی کو دخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ حدیث ابوہریرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کی ہوگی۔ بنا بریں اسے مرفوع قرار دینا چاہیے“

(تدریب الراوی، ص ۱۶۵)

مندرجہ صدر بیان سے حسب ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں :-

- (۱) صحابی کی تفسیر حسب اسباب نزول یا ایسے امور سے متعلق ہو جن میں عقل انسانی کو دخل نہیں ہو سکتا حدیث مرفوع کے حکم میں ہوگی۔ جس تفسیر میں عقل انسانی کو دخل ہو اور اس کو صحابی نے آنحضرت کی جانب منسوب بھی نہ کیا ہو تو اسے موقوف قرار دیا جائے گا۔
- (۲) صحابی کی مرفوع روایت کو کسی طرح رد نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا مفسر لازمًا اس سے استناد کرے۔ اور کسی صورت میں بھی اس سے انحراف نہ کرے۔
- (۳) اقوال صحابہ کے بارے میں علماء کے مختلف نظریات ہیں۔

(الف) مفسرین کے ایک گروہ کے نزدیک صحابہ کے موقف اقوال سے اخذ و احتجاج واجب نہیں۔ اس لیے کہ جب صحابی اسے مرفوعاً روایت نہیں کرتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اس کے اجتہاد پر مبنی ہے اور مجتہد سے خطا و صواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ جہاں تک اجتہاد کا تعلق ہے۔ اس میں صحابہ اور دیگر مجتہدین برابر ہیں۔

(ب) دوسرے فرقے کے نزدیک صحابہ کے تفسیری اقوال واجب الاحتجاج ہیں۔ اس لیے کہ ممکن ہے انہوں نے آنحضور سے سن کر وہ تفسیر بیان کی ہو، تو ان کی رائے ہم سے بدرجہا اس لیے اولیٰ ہے کہ وہ اہل زبان ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم کا بہتر علم و فہم رکھتے تھے، وہ صحبت نبوی سے مستفید اور اخلاق نبوی سے متعلق تھے۔ انہوں نے ان قرآن و احادیث کا بچشم خود معائنہ کیا جن میں قرآن آرا تھا۔ وہ قرآن کریم کا فہم کامل اور علم صحیح رکھتے تھے خصوصاً خلفائے راشدین حضرت عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جمیع علوم قرآنی میں بصیرت تامہ رکھتے تھے۔

امام زرکشی البرہان میں لکھتے ہیں :-

”قرآن کی دو قسمیں ہیں :-

(۱) قرآن کا وہ حصہ جس کی تفسیر رسول کریم اور صحابہ سے منقول ہو۔

(۲) قرآن کا وہ حصہ جس کی تفسیر آنحضور اور صحابہ سے منقول و آثار نہیں۔

پہلی قسم پھر دو قسموں میں منقسم ہے :-

(۱) وہ تفسیر جو رسول کریم سے منقول ہو۔

(۲) وہ تفسیر جو صحابہ سے مروی ہو۔

ان میں سے قسم اول (وہ تفسیر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے) کی سند سے بجز ان کے گئی کہ زیادہ صحیح ہے یا نہیں۔

قسم دوم یعنی صحابہ کی تفسیر کے بارے میں دیکھیں گے۔ اگر وہ لغت کے اعتبار سے تفسیر کریں یا ان اسباب و قرآن کی بنا پر جو بچشم خود انہوں نے لائحہ عمل کے تو اس پر بلا شک و تردد اعتماد کیا جائے گا،

مفسر ابن کثیر ارشاد فرماتے ہیں :

”جب کسی آیت کی تفسیر ہمیں کتاب و سنت میں نہ ملے تو ہم اقوال صحابہ کی جانب رجوع کریں گے۔ چونکہ انہوں نے نزولِ قرآن کے احوال و قرآن مجسم خود ملاحظہ کیے تھے۔ اس لیے وہ قرآن کی تفسیر ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ ان میں فہم کامل علم صحیح اور عمل صالح پایا جاتا تھا۔ خصوصاً ان کے اکابر مثلاً علفائے راشدین آئمہ اربعہ و اہل علم صحابہ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین“ (ابن کثیر، ج ۱- ص ۳)

یہ آخری داٹھے ذہن و قلب کو اپیل کرنے والی ہر طرح موجب اطمینان اور قابل تسلیم ہے۔

فصل پنجم

عہد رسالت و عصر صحابہ کی تفسیری خصوصیات

اس دور کی تفسیر کی خصوصیات حسب ذیل ہیں:

(۱) دور زیر تبصرہ میں پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی گئی تھی بلکہ صرف اسی حصہ کی جس میں کچھ وقت مخصوص پایا جاتا تھا۔ عصر نبوت و صحابہ سے جوں جوں دوری ہوتی جاتی تھی اسی نسبت سے قرآن کے معانی میں خفاء و اشتباہ میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اور اسی کے زیر اثر تفسیر بھی بڑھتی جاتی تھی حتیٰ کہ اگلے تاریخی ادوار میں جملہ آیات قرآنی کی تفسیر مکمل ہو گئی۔

(۲) قرآن عزیز کے معانی و مطالب کے فہم و ادراک میں صحابہ کے یہاں بہت کم اختلاف پایا جاتا تھا۔
 (۳) حضرات صحابہ قرآن کریم کے اجمالی معنی پر اکتفا کرتے تھے۔ اور تفصیلات کی طلب و تلاش کو ضروری خیال نہیں کرتے تھے۔

مثلاً قرآن کریم کی آیت:

وَقَا كِهْفَةً وَاَبَا

اور پھل مینو سے اور سبزہ۔

میں وہ صرف اسی بات کے سمجھنے کو کافی تصور کرتے تھے کہ اس آیت میں بندوں پر انعامات ربانی کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۴) صحابہ مختصر ترین الفاظ میں لغوی معنی کی تشریح کرنے کو کافی خیال کرتے تھے۔ مثلاً یہ آیت:

غَيْرِ مَتَجَانِفٍ اِلَّا نَجْمٌ - گناہ کا ارادہ کرنے والا نہ ہو۔

صحابہ ”مَتَجَانِفٍ“ کا مطلب صرف ”مَتَّعِينَ جِزْ اِلَّا نَجْمٌ“ گناہ سے تعرض کرنے والا کے الفاظ میں بیان کر دینے کو کافی سمجھتے تھے۔

(۵) صحابہ قرآنی آیات سے فقہی احکام کا استنباط شاذ و نادر ہی کرتے تھے۔ چونکہ صحابہ متفق العقائد تھے اور ان میں الہمی تک مذہبی و حزبی اختلافات کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ اس لیے وہ گرد ہی نقصات کی

تائید و حمایت کے لیے آیات سے استدلال کرنے کے عادی نہ تھے۔

(۶) عصر صحابہ میں تفسیر کی تدوین نہیں ہوئی۔ بخلاف ازیں تدوین تفسیر کا آغاز دوسری صدی ہجری میں ہوا۔ البتہ بعض صحابہ نے اپنے مساحف ہی میں تفسیری الفاظ تحریر کیے تھے، جن کو بعض لوگوں نے قراءت کی مختلف صورتیں اور قرآن کا جزو خیال کر لیا ہے۔

(۷) اس عصر و عہد میں تفسیر کی کوئی جداگانہ منظم صورت نہ تھی۔ بلکہ تفسیری اقوال احادیث کے ساتھ جملے اور حدیث ہی کے فروع و اجزاء خیال کیے جاتے تھے۔ احادیث کی طرح متفرق آیات کی تفسیر بلا نظم ترتیب الگ الگ بیان کی جاتی تھی۔ احادیث بھی اسی طرح متفرق تھیں۔

نماز سے متعلق احادیث کے پہلو میں جہاد کی احادیث اور اس کے ساتھ میراث کی تفسیر پر مشتمل روایات و حکم تہرا۔

اس ضمن میں ہم پر یہ اعتراض وارد نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن کریم کی مکمل تفسیر قلبند کی تھی۔ اس لیے کہ تفسیر جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں آپ نے نہیں لکھی۔ بلکہ صاحب القاموس فیروز آبادی نے جمع کر کے اس کو ابن عباس کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ مزید یہ کہ اس کی بنیاد ایک نہایت ہی ضعیف سلسلہ اسناد پر رکھی گئی۔ وہ سلسلہ سند بروایت محمد بن مروان السدوسی از کلبی از ابوصالح از ابن عباس ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں اس کو ”سلسلہ الکذب“ کہتے ہیں۔




باب دوم

دوسرا دور

تفسیر عصر تابعین میں

- فصل اول: عہد تابعین میں تفسیری مکاتب فکر
- فصل دوم: تابعین سے ماثر تفسیر کی اہمیت
- فصل سوم: دور تابعین کی تفسیری خصوصیات
- فصل چہارم: تفسیر میں اختلافِ سلف



فصل اول

عصر تابعین میں تفسیری مکاتب فکر

دور تابعین کا آغاز:

عصر صحابہ ختم ہوتے ہی تفسیر قرآن کا پہلا دور اتمام کو پہنچا۔ تفسیر کے دوسرے مرحلہ کا آغاز عصر تابعین سے ہوا، جنہوں نے صحابہ کے چشمہ رفیض سے اپنی علمی پیاس بجھائی تھی۔ جس طرح صحابہ میں ایسے شہرہ آفاق اشخاص در حال موجود تھے، جن کی جانب تفسیر قرآن کے سلسلہ میں رجوع کیا جاتا تھا۔ اسی طرح تابعین میں بھی ایسے فضلاؤ کی کمی نہ تھی جنہوں نے اپنے معاصرین کو قرآن کریم کے چمپیدہ اور حل طلب مقامات کے مطالب و معانی سے روشناس کرایا۔

اس دور کے مصداق تفسیر:

تابعین کے عصر و عہد میں مصداق تفسیر حسب ذیل تھے :-

(۱) تفسیر القرآن بالقرآن -

(۲) احادیث مرفوعہ -

(۳) صحابہ کے تفسیری اقوال -

(۴) اہل الکتاب اور ان کی کتب مقدسہ -

(۵) تابعین کا اجتہاد و استنباط -

کتب تفسیر میں تابعین کے بکثرت اقوال منقول ہیں جو ان کے اجتہاد و استنباط پر مبنی ہیں اور اس ضمن میں ان کو نبی کریم اور صحابہ سے کچھ معلوم نہیں ہیں۔ ہم قبل ازیں بتا چکے ہیں کہ رسول کریم اور صحابہ سے جو تفسیر منقول ہے وہ جملہ آیات قرآن کو شامل نہیں بلکہ صرف انہی آیات پر مشتمل ہے جن کے معنی و مفہوم میں غموض و خفا پایا جاتا ہے۔ عہد رسالت و صحابہ سے جن جوں دوری ہوتی چلی گئی یہ غموض بڑھتا چلا گیا۔ بنا بریں جو تابعین تفسیر قرآن سے دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے ذاتی محنت و کاوش کر

کام میں لاکر اس کمی کی تلافی کرنا چاہی۔ چنانچہ آگے چل کر انہوں نے رفتہ رفتہ تفسیر قرآن کو مکمل کر دیا۔ تفسیر نویسی کے سلسلہ میں تابعین نے لغت عرب عربوں کے اسالیب کلام اور ان واقعات سے مدد لی جو نزول قرآن کے عصر و عہد میں پیش آئے تھے۔

عصر تابعین میں مدارس تفسیر:

عہد رسالت اور خلافت راشدہ میں اسلامی فتوحات کا دور دورہ ہوا۔ مسلمان مدینہ طیبہ کے مطلع الانوار سے نکل کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ جہاں جہاں اسلام کی روشنی پھیلی مسلمانوں نے وہاں بود و بولش اختیار کر لی۔ اہل اسلام میں ولایت و قضاة امراء و حکام اور معلم بھی قسم کے لوگ تھے یہ لوگ جہاں بھی گئے وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کردہ علم و فضل بھی ہمراہ لیتے گئے۔ بکثرت تابعین نے ان کی ہم نشینی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان سے علم حاصل کر کے لوگوں کو اس سے مستفیض کرنے لگے۔ چنانچہ ان بلاد و دیار میں علمی مدارس قائم ہو گئے جن کے اساتذہ صحابہ اور تلامذہ تابعین تھے۔ ان میں سے بعض مدارس نے خصوصی شہرت حاصل کی اور تابعین کی کثیر تعداد نے مشہور مفسرین صحابہ سے کسب فیض کیا۔ چنانچہ ایک مدرسہ مکہ دوسرا مدینہ اور تیسرا عراق میں چلا ہوا۔ یہ مدارس سہ گانہ اس دور کے مشہور تفسیری مکاتب میں شمار ہوتے تھے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :-

”تفسیر کے سب سے بڑے عالم اہل مکہ تھے اس لیے کہ یہ لوگ حضرت ابن عباس جیسے عظیم مفسر کے ساتھ پروا تھے۔ اصحاب ابن عباس میں مندرجہ ذیل بہت مشہور ہیں:

(۱) مجاہد (۲) عطاء بن ابی رباح (۳) عکرمہ مولیٰ ابن عباس (۴) طاؤس (۵) ابوالشقاء (۶) سعید بن جبیر وغیرہم۔

اہل کوفہ میں سے ابن مسعود کے اصحاب و تلامذہ نے بہت شہرت حاصل کی۔ ان میں سے بعض بہت ہی نمایاں تھے۔ اہل مدینہ میں بھی مفسرین کی ایک جماعت موجود تھی۔ ان میں زید بن اسلم جن سے امام مالک نے تفسیر کا درس لیا۔ خاصی شہرت کے حامل ہیں۔ زید بن اسلم سے ان کے بیٹے عبدالرحمن از عبداللہ بن وہب نے بھی استفادہ کیا۔

(مقرر اصول التفسیر ابن تیمیہ، ص ۱۵)

ابراہیم مذکورہ صدر ہر سہ مدارس ادران کے اساتذہ و تلامذہ کا تفسیلی تذکرہ کریں گے۔

۱۔ مکہ کا تفسیری مکتب :

مکہ کا تفسیری مکتب حضرت ابن عباس کے طفیل قائم ہوا۔ آپ اپنے تابعین تلامذہ کے درمیان بیٹھ کر درس و تدریس دیتے اور اس کے لئے کل مطالب کی توضیح کیا کرتے تھے۔ آپ کے تلامذہ ان سے جو باتیں سنتے ان کو درسوں تک پہنچاتے تھے۔

اس مکتب کے ساختہ پر اختہ اشخاص میں سے مشہور حسب ذیل تھے۔

(۱) سعید بن جبیر - (۶) مجاہد (۲) عکرمہ موالی ابن عباس (۴) طاووس بن کيسان الیمانی (۵) عطاء بن ابی رباح -

یہ سب آزاد کردہ غلام تھے۔ قلت و کثرت روایت کے اعتبار سے بھی ان میں فرق مراتب پایا جاتا ہے۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کا تفسیری مرتبہ و مقام بتائیں گے۔ نیز اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ وہ کس حد تک قابل اعتماد تھے۔

۱۔ سعید بن جبیر | آپ کا نام نامی سعید بن جبیر بن ہشام اسدی اور کنیت ابو محمد یا ابو عبد اللہ ہے۔ یہ حبشی الاصل اور سیباہ نام مگر عمدہ سیرت و کردار کے حامل تھے۔ آپ نے اکابر صحابہ خصوصاً حضرت ابن عباس اور ابن مسعود وغیرہما سے استفادہ کیا۔

تفسیر قرآن میں آپ کا مقام :

آپ کبار تابعین میں سے تھے اور حدیث و تفسیر و فقہ میں ان کے سرخیل تھے۔ حضرت ابن عباس سے قرأت و تفسیر کا درس لیا اور ان ہی کے وابستہ و امین رہے۔ (وفیات الاعیان، ج ۱، ص ۲۶۴)

جناب سعید نے مختلف صحابہ کی قراءتیں حفظ کر رکھی تھیں اور ان کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسماعیل بن عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر ماہ رمضان میں میں نماز پڑھایا کرتے تھے چنانچہ ایک رات ابن مسعود کی قراءت کے مطابق پڑھتے۔ دوسری رات زید بن ثابت کے مطابق اور اسی طرح ہر شب جلاگنا نماز سے تلاوت کرتے۔ (حوالہ مذکور، ج ۱، ص ۳۶۵)

اس میں شبہ نہیں کہ مختلف قراءتیں جمع کرنے کی بنا پر آپ قرآن کریم کے معانی و مطالب سے بھی پوری طرح آگاہ و آشنا ہو گئے تھے۔ مگر قرآن کریم کی تفسیر بالرائے بیان کرنے سے احتراز کیا کرتے تھے۔

ابن خلکان لکھتے ہیں :

”ایک شخص نے سعید سے تفسیر قرآن لکھنے کی فرمائش کی۔ وہ ناراض ہو گئے اور کہا میرے جسم کا ایک حصہ گر جائے تو وہ مجھے گوارا ہے مگر قرآن کی تفسیر لکھنا پسند نہیں“

(حوالہ مذکور، ج ۱ - ص ۳۶۵)

سعید بن جبیر کی ذات میں تمام تابعین کا علم یکجا ہو گیا تھا۔ دوسرے لوگ صرف ایک ایک فن میں مہارت و بصیرت رکھتے تھے۔ مگر آپ جامع الفنون تھے۔ خصیصاً ان کے بارے میں فرماتے ہیں :-

”تابعین میں مطلقاً کے مسائل سب سے زیادہ سعید بن السیب جانتے تھے۔ مناسب

حج کا علم عطاء کو حاصل تھا۔ حلال و حرام کے عالم طاؤس تفسیر کے جاننے والے مجاہد اور

ان سب کے جامع سعید بن جبیر تھے“ (کتاب مذکور، ج ۱ - ص ۳۰۵)

انہی وجوہ کے پیش نظر سعید کے استاذ و محترم حضرت ابن عباس ان کے علم پر بھرپور دوسہ کرتے اور جو شخص ان سے فتویٰ پوچھنے آتا، اس کو سعید کا پتہ دیتے تھے۔ جب اہل کوذ آپ سے مسائل دریافت کرنے آتے تو آپ فرماتے کیا سعید بن جبیر تمہارے یہاں موجود نہیں؟ عمرو بن میمون اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا :

”سعید بن جبیر خدا سے جا ملے۔ سطح زمین سے کوئی شخص نہیں جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو“

بعض علماء کی رائے میں ان کا علمی پایہ مجاہد طاؤس سے بھی بلند تر ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ سعید بن جبیر میں سب سے بڑے مفسر تھے۔ علما نے جرح و تعدیل نے آپ کو ثقہ قرار دیا۔ ہے۔ ابوالقاسم طبری فرماتے ہیں کہ سعید ثقہ محبت اور امام السلیمن تھے۔ ابن حبان نے آپ کو ثقہات میں شمار کیا اور کہا ہے کہ سعید فاضل اور متقی انسان تھے۔ اصحاب صحاح ستہ آپ سے روایت کرنے میں متفق ہیں۔

۹۵ھ میں شعبان میں جب کہ آپ کی عمر انچاس برس تھی صحاح میں آپ کو شہید کر دیا تھا۔ دوسرے شہادت سے قبل آپ کا صحاح کے ساتھ ایک مناظرہ منقول ہے جس سے آپ کے قوت و ایمان و ایقان اور توکل علی اللہ کا پتہ چلتا ہے۔

(تہذیب التہذیب، ج ۲ - ص ۱۳)

۲- مجاہد :

مجاہد بن جبیر ابوالحجاج مخزومی ۱۱۰ھ خلافت فاروقی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے حالت سجدہ میں صحاح

مکہ ۱۰۳ھ میں لغز تراسی سال وفات پائی۔
ایک مفسر کی حیثیت سے :

مجاہد نے حضرت ابن عباسؓ سے ان کے تلامذہ کی نسبت بہت کم تفسیری اقوال نقل کیے ہیں۔

(مغرب الاسلام، ص ۲۵۱)

اصحاب ابن عباس میں آپ سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی و بخاری نے ان کی تفسیر پر اعتماد کیا ہے۔ امام بخاری الجامع الصحیح کی کتاب التفسیر میں مجاہد کے بکثرت اقوال نقل کئے ہیں۔ آپ کی ثقاہت و عدالت کی شہادت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ فضل بن میمون روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مجاہد کو یہ کہتے سنا:

”میں نے حضرت ابن عباسؓ کو تیس مرتبہ قرآن سنایا، (میزان الاعتدال، ج ۳ ص ۹)

مجاہد سے یہ قول بھی مر دی ہے کہ:

”میں نے تین مرتبہ ابن عباسؓ کو قرآن سنایا۔ ہر آیت پر چھ رکھ کر دریافت کرنا کہ یہ کیسے

اور کہاں نازل ہوئی“ (تمذیب التہذیب، ج ۱ ص ۴۲)

ان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں۔ اسی لیے کہ قلت پر مشتمل خبر میں کثرت کی نفی ہوتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حفظ و ضبط اور تجرید و قراءت کے لیے مجاہد نے ابن عباسؓ کو تیس مرتبہ قرآن سنایا ہو۔ پھر اس کے بعد قرآن کے معانی و مطالب اور اسرار و رموز معلوم کرنے کے لیے تین مرتبہ اور سنایا ہو۔ جیسا کہ ابن ابی نیکہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا مجاہد ابن عباسؓ سے قرآن کی تفسیر دریافت کر رہے ہیں اور ان کے ہمراہ ان کی تختیاں بھی ہیں۔ ابن عباسؓ نے کہا لکھتے جاؤ۔ حتیٰ کہ مجاہد نے مطلوبہ تفسیر پوچھ لی۔

(مقدمہ اصول تفسیر ابن تیمیہ ص ۲۸)

امام ابن جریر اپنی تفسیر میں ابو بکر الحنفی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو کہتے سنا:

”جب مجاہد سے منقول تفسیر تمہیں میسر آجائے تو اُسے کافی خیال کرو“ (ابن جریر، ج ۱ ص ۱۲)

امام ذہبی رقمطراز ہیں:

”پوری امت مجاہد کی امامت اور اس سے اخذ و اجتماع کرنے پر متفق ہے۔ صحیح اس قدر

کے جامعین نے بھی آپ سے روایت کی ہے“ (المیزان)

علماء کے یہ بیانات اس بات کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ تفسیر قرآن میں مجاہد کا پایہ کس قدر بلند ہے مگر بایں بہر بعض علماء اس کی تفسیر سے استناد نہیں کرتے۔ امام ذہبی المیزان میں ابو بکر بن عیاش سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اعمش سے کہا:

”کیا بات ہے کہ مجاہد کے تفسیری اقوال پر اعتماد نہیں کیا جاتا؟ اعمش نے کہا لوگوں کا خیال ہے کہ مجاہد اہل کتاب سے روایت کرتا ہے“

مجاہد کی تفسیر پر صرف یہی حرف گیری کی گئی ہے۔ جہاں تک مداقت و عدالت کا تعلق ہے اس ضمن میں کوئی شخص بھی اسے مطعون نہیں کر سکا۔ نظر بریں مجاہد کے ثقہ ہونے میں کلام نہیں۔ باقی رہا اہل کتاب سے اخذ و استفادہ تو میں نہیں سمجھتا کہ مجاہد نے اس ضمن میں جائز حدود سے تجاوز کیا ہوگا۔ خصوصاً جب کہ وہ جبر امت ابن عباس سے کا نظیر رشید ہے جو اہل کتاب سے اخذ و روایت کے بارے میں تشدد سے کام لیتے تھے۔

۳۔ عکرمہ :

ابو عبداللہ عکرمہ بربری مدنی موٹی ابن عباس دیار مغرب علاقہ بربڑ کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابن عباس، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے کسب فیض کیا۔

عکرمہ کی توثیق میں علماء کا اختلاف :

عکرمہ کی توثیق میں علماء مختلف الاثنے ہیں۔ بعض ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں اور بعض غیر ثقہ۔

معتبر ضعیف کے دلائل :

جو علماء عکرمہ کو ثقہ قرار نہیں دیتے ان کا کہنا یہ ہے کہ عکرمہ جہالت و بے باکی سے کام لیتے تھے اور اس بات کے مدعی تھے کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ اسے جانتے ہیں۔ وہ اس سے بڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ عکرمہ ابن عباس پر عبوث باذھن کے خوگر تھے۔ نیز یہ کہ عکرمہ خارجی تھے اور کہا کرتے تھے کہ ابن عباس بھی خوارج میں سے ہیں۔ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں یہ سب اعتراضات نقل کر کے ان کے قائلین کے نام بھی بتائے ہیں۔

ایک شخص نے سعید بن السیب سے ایک آیت کے معنی دریافت کیے۔ فرمایا ”مجھ سے نہ پوچھیے اس شخص سے دریافت کیجیے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں (یعنی عکرمہ سے)“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے نافع سے کہا :

”نافع خدا سے ڈرو اور مجھ پر اس طرح جھوٹ نہ باندھو جیسے عکرمہ نے ابن عباس پر باندھا“

البطلان دلائل :

مقررین کے یہ تمام دلائل بے بنیاد ہیں اور ان میں کوئی صداقت نہیں۔ اس میں شک نہیں و عکرمہ حضرت ابن عباس کی صحبت و رفاقت میں رہا کرتے تھے۔ اس لیے ابن عباسؓ نے کثرت روایت کی بنا پر آپ کی صداقت و عدالت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ایک فطری امر ہے اور اس کو کسی طرح بھی اعتراض و تردید قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کثرت روایت ایسا عیب نہیں جس سے راوی کی ثقاہت جاتی رہے۔ حضرت ابوہریرہؓ کے زمانہ میں بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ وہ کثیر الروایت ہیں۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ لوگ اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے اور مجھے رفاقت جموی کے سوا دوسرا کوئی کام نہ تھا تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ کثرت روایت سے ابوہریرہؓ کی صداقت مشکوک ہوگئی؟

عکرمہ پر جو اعتراض کیا گیا ہے وہ اس سے باہر نہ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ کاش جو لوگ میری تکذیب کرتے ہیں میرے زور و رو کریں اور میں انہیں جواب دوں۔ عثمان بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں ابو امامہ سل بن حنیف کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ عکرمہ بھی آگئے۔ کہنے لگے ابو امامہ! میں آپ کو نکال کر تمہارا سبب بناؤں گا۔ کیا آپ نے ابن عباسؓ کو یہ کہتے سنا تھا کہ ”عکرمہ جو کچھ بھی مجھ سے سن کر بیان کرے کہ اس کی تصدیق کیجئے اس نے مجھ پر جھوٹ نہیں باندھا“ ابو امامہ نے جواب دیا ”جی ہاں!“

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عکرمہ خارجی تھے، تو یہ عظیم بہتان ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: ”اگر عکرمہ کا خارجی ہونا ثابت ہو بھی جائے تو اس سے ان کی روایت میں خرق نہیں آتا۔“
کیونکہ وہ اس بدعت کے داعی نہ تھے۔ مگر یہ بات کسی دلیل و برہان سے ثابت نہیں ہوتی“
(مقدمہ فتح الباری، ج ۲، ص ۴۸)

معدّلین کے براہین :

بالنصاف نقاد و حدیث کے اقوال سے مستفاد ہوتا ہے کہ یہ جلیل القدر تابعی قابل اعتماد تھا اور اس کی ثقاہت و عدالت شک و شبہ سے ملوث نہیں ہے۔ اس کی شان میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ رقابت کا نشانہ ہے اور اس کا مقصد ان سے لوگوں کو ہٹانا اور روکنا ہے۔

ذیل میں عملائے جرح و تعدیل کے چند اقوال درج کیے جاتے ہیں :-

- ۱ - امام مروزی کہتے ہیں میں نے جناب احمد بن حنبل سے پوچھا کیا عکرمہ کی روایت سے احتجاج کیا جاسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا "ہاں !"
 - ۲ - محدث ابن عیین فرماتے ہیں :-
"جب تم دیکھو کہ کوئی شخص عکرمہ اور حماد بن ابی سلمہ پر نکتہ چینی کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا اسلام مشکوک ہے۔"
 - ۳ - امام العجلی کا قول ہے :-
"عکرمہ ایک ثقہ تابعی ہے۔ اس پر خارجی ہونے کا الزام ایک بہتان ہے۔"
 - ۴ - امام بخاری کا ارشاد ہے :-
"ہمارے سب اصحاب عکرمہ کی روایات سے احتجاج کرتے ہیں۔"
 - ۵ - امام نسائی نے عکرمہ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ امام بخاری سلم ابو داؤد نسائی اور دیگر محدثین آپ سے بعایت کرتے ہیں۔ امام مسلم پہلے عکرمہ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ بعد ازاں ان کی تعدیل کرنے لگے۔
 - ۶ - امام مروزی فرماتے ہیں :-
"عکرمہ سے اخذ و نقل پر جملہ محدثین کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ ہمارے معاصر اکابر محدثین نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے۔ مثلاً احمد بن حنبل، ابن راہویہ، یحییٰ بن عیین، ابو ثور وغیر ہم۔ میں نے ابن راہویہ سے عکرمہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اس سوال پر اظہار حیرت کرتے ہوئے کہا "عکرمہ ہمارے نزدیک نام الدینا ہیں۔"
- اب سوال یہ ہے کہ گذرے صدر محدثین سمجھ کر جرح و تعدیل کا عالم اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ اکابر محدثین عکرمہ کی تعدیل و توثیق کرتے ہیں تو اس کو نظر انداز کر کے دوسروں کے جرح و نقد کو کیسے تسلیم کیا جائے؟
- عکرمہ کا تفسیری پایہ :-
- مرد غنیہ قرآن میں بہت ادنیٰ مقام رکھتے تھے۔ علماء نے بڑی فراخ دل سے اس کا اعتراف کیا

چند اقوال ملاحظہ ہوں :

۱ - محدث ابن حبان فرماتے ہیں :-

”عکرمہ اپنے زمانہ کے بہت بڑے فاضل قرآن و فقہ تھے“

۲ - عمرو بن دینار کا قول ہے :-

”جابر بن زید نے مجھے چند سوالات بتلا کر کہا کہ عکرمہ سے ان کے بارے میں پوچھیے

وہ علم کے بھر بیکراں ہیں“

۳ - امام شعبی کہا کرتے تھے :-

”عکرمہ سے بڑھ کر کتاب اللہ کا عالم آج روٹے زمین پر موجود نہیں“

خلاصہ کلام یہ کہ عکرمہ روایت حدیث میں امین علم و فضل میں دوسروں پر فوقی اور کتاب اللہ کے فہم و ادراک میں یکتائے روزگار تھے۔ اور ابن عباس کے درزہ علمی کا مالک ہونے کے اعتبار سے انہیں ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ عکرمہ نے ۲۵ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب ج ۷، ص ۲۴۲)

۴ - طاؤس بن کیسان یمانی :

اسم گرامی طاؤس بن کیسان کینت ابو عبد الرحمن اور نسبت الیمانی الحمیری ہے۔ صحابہ و اربعہ و عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عمرو بن العاص، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، اور دیگر صحابہ سے کسب فیض کیا۔ طاؤس کا قول ہے، کہ میں پچاس صحابہ کی صحبت میں رہ کر ان سے استفادہ کر چکا ہوں۔ آپ بہت بڑے عالم و فاضل اور مفسر قرآن تھے۔ دیگر صحابہ کی نسبت آپ نے حضرت ابن عباس کے چشمہ علم و فضل سے زیادہ نفع اٹھایا۔ اسی لیے ہم نے ان کا تذکرہ مکہ کے تفسیری مکتب فکر اور ابن عباس کے اصحاب و تلامذہ میں کیا ہے۔

طاؤس بڑے عابد و زاہد اور متقی انسان تھے۔ حتیٰ کہ ان کے استاد گرامی حضرت ابن عباس ان

کے بارے میں فرماتے ہیں ”میں طاؤس کو جنتی خیال کرتا ہوں“

عمرو بن دینار کا قول ہے ”میں نے طاؤس جیسا صالح آدمی نہیں دیکھا“ اصحاب صحابہ نے طاؤس سے روایت کی ہے۔

امام ابن عیین کہتے ہیں ”طاؤس ثقہ ہیں“

محدث ابن جان فرماتے ہیں :-

”طاؤس اہل میں نے عبادت گزاروں میں شامل تھے۔ آپ تابعین کے سردار اور مستجاب الدعوات تھے۔ آپ نے چالیس حج کیے“

امام ذہبی رقمطراز ہیں :-

”طاؤس اہل میں کے استاذ تھے۔ آپ نے بہت حج کیے ۱۶ھ میں مکہ ہی میں وفات پائی“ (تہذیب التہذیب، ج ۵، ص ۸)

۵۔ عطاء بن ابی رباح :

ابو محمد عطاء بن ابی رباح مکی القرشی ۳۷ھ کو پیدا ہوئے اور ۱۳۳ھ میں وفات پائی آپ جسمانی نقائص و عیوب کے باوجود پیکر علم و فضل تھے۔ آپ کا رنگ سیاہ آنکھ بھینگی ناک چوٹی ٹکڑے اور ہاتھ سے مندر صحنی تھے۔ آخر میں اندھے ہو گئے۔

جناب عطاء نے حضرت ابن عباس ابن عمر عبداللہ بن عمرو بن العاص اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے استفادہ کیا عطاء کا اپنا بیان ہے کہ میں نے دو صد صحابہ کا زمانہ پایا۔ آپ ثقہ فقیہ عالم اور کثیر الحدیث تھے۔ اہل مکہ کی فتویٰ نویسی آپ کی ذات پر ختم ہو گئی تھی۔ جب اہل مکہ حضرت ابن عباس سے استفادہ کرنے آتے تو آپ فرماتے :

”اہل مکہ! تم میرے پاس آتے ہو حالانکہ تمہارے اندر عطاء جیسا شخص موجود ہے“
امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا :

”میں نے اپنے ملنے والوں میں عطاء جیسا کسی کو نہیں پایا اور نہ جابر جعفی سے بڑھ کر گھوٹا آدمی دیکھا“

امام اوزاعی کا ارشاد ہے :-

”عجب عطاء فوت ہوئے تو وہ سب لوگوں کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے“

سکھ بن کثیر کا قول ہے :-

”رفعتہ النبی کے لیے علم حاصل کرنے والے میں نے صرف تین آدمی دیکھے ہیں۔ عطاء مجاہد۔ طاؤس۔

ابن سنان رقمطراز ہیں :-

”علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے اعتبار سے عطاء، تابعین کے سرخیل تھے“
اصحاب صحابہؓ آپ سے اخذ و نقل کرتے ہیں۔ (تہذیب التہذیب، ج ۷، ص ۱۹۹)
عطاء کا علمی مقام :

علماء کے مندرجہ صدر بیانات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ عطاء بہت اُونچے درجے کے عالم راست گفتار اور ثقہ تھے۔ ان کے استاذِ گرامی حضرت ابن عباس نے بھی اس کی شہادت دی ہے۔ احکام حج سے متعلق معلومات کے سلسلہ میں عطاء کو حضرت ابن عباس کے جملہ تلامذہ پر برتری حاصل ہے قتادہ لکارتے تھے :-

”تابعین کے حید علماء چار تھے :

- (۱) مناسک حج کے سب سے بڑے عالم عطاء تھے۔
- (۲) سب سے بڑے مفسر قرآن سعید بن جبیر تھے۔
- (۳) سیر و منازعی میں سب سے زیادہ شہرت عکرمہ کو حاصل ہوئی۔
- (۴) حلال و حرام کے عظیم عالم حسن بصری تھے۔

تحقیق و تدقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس کے تلامذہ میں عطاء کثیر الروایت نہ تھے بلکہ ان کے دوسرے رفقاء اس ضمن میں ان سے گونے سبقت لے گئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مجاہد اور سعید بن جبیر تفسیر قرآن میں عطاء کی نسبت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ مگر عطاء کو تفسیر قرآن میں جو مقام حاصل ہے اس کی وجہ سے اس میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی۔ قلت روایت کی وجہ ان کی کثرتِ احتیاط اور تفسیر بالرائے سے ان کا اجتناب و احتراز ہے۔ عبدالعزیز ابن رفیع بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے ایک مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ عطاء نے کہا ”مجھے نہیں معلوم“ سائل نے کہا ”اپنی رائے سے بیان کیجیے“ کہا مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میری رائے کو دین قرار دیا جائے“

۲ - مدینہ کا مدرسہ تفسیر :

اس مدرسہ کی تاسیس و تشکیل حضرت ابی بن کعب کی مرہونِ منت ہے۔ بکثرت صحابہ مدینہ ہی کے ہو کر رہ گئے۔ اور دیگر اسلامی بلاد و مسارک کی جانب نقل مکانی نہ کی۔ مدینہ میں اقامت پذیر رہ کر وہ اپنے اتباع

اصحاب کو قرآن کریم اور سنت رسول کا درس دیا کرتے تھے۔ اس طرح مدینہ طیبہ میں تفسیر کے ایک مدرسہ کی بنیاد پڑی اس مدرسہ میں کثیر تابعین نے مشاہیر صحابہ سے تفسیر کا درس لیا۔ ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حضرت اُبی اس مدرسہ کے اولین موصوف تھے اور اکثر تابعین نے آپ سے کسب فیض کیا۔ اس لیے کہ تفسیر قرآن میں حضرت اُبی دوسرے صحابہ کی نسبت زیادہ شہرت رکھتے تھے اور بجز تفسیری اقوال آپ سے نقل ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔

مدرسہ ہذا کے مشاہیر:

اس عہد میں مدینہ میں بہت سے تابعین سکونت پذیر تھے، جو تفسیر میں خصوصی شہرت کے حامل تھے ان میں سے مندرجہ ذیل تین بزرگ زیادہ مشہور ہیں:

(۱) ابوالعالیہ - (۲) محمد بن کعب القرظی (۳) زید بن اسلم۔

ان میں سے بعض نے حضرت اُبی سے براہ راست اور بعض نے بالواسطہ استفادہ کیا۔ اب ہم ان ہر سداکار کے مختصر سیر و سوانح اور ان کے علمی مرتبہ و مقام پر روشنی ڈالیں گے۔

۱۔ ابوالعالیہ :

اسم گرامی رفیع بن مہران اور کنیت ابوالعالیہ ہے۔ آپ نے جاہلیت کا زمانہ پایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سال بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ نے حضرت علی و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و ابی بن کعب اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے علمی استفادہ کیا۔ آپ ثقہ تابعین میں شمار ہوتے تھے اور تفسیر میں خصوصی شہرت رکھتے تھے۔

اکابر محدثین مثلاً ابن مہین البزدر اور ابوجاتم نے آپ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اصحاب صحاح ستہ آپ سے روایت کرنے پر متفق ہیں۔ ابوالعالیہ قرآن کریم کے بہترین حافظ تھے۔ قتادہ ابوالعالیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ :-

”نبی کریم کی وفات کے دس سال بعد میں نے قرآن کریم پڑھا“

حضرت اُبی بن کعب سے تفسیر قرآن کا ایک ضعیف نسخہ منقول ہے۔ اس کو ابوجعفر رازی نے بروایت رفیع بن انس از ابوالعالیہ از اُبی بن کعب نقل کیا ہے۔ یہ اسناد صحیح ہے۔ مفسر ابن جریر ابن ابی حاتم اور امام حاکم نے مستدرک میں اس نسخہ سے بجز تفسیر روایتیں نقل کی ہیں۔ امام احمد نے بھی مشابہ میں اس سے استفادہ

کیا ہے بقول صحیح تراجمی سنہ ۱۰۰۰ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب، ج ۲-۳ ص ۲۸۳)

۲۔ محمد بن کعب القرظی :

نام نامی محمد بن کعب بن سلیم بن اسد القرظی المدنی اور کنیت ابو کینت ابو حمزہ یا ابو عبد اللہ ہے۔ آپ نے حضرت علی و ابن مسعود و ابن عباس و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے کسب فیض کیا۔ حضرت اُبی سے بالواسطہ روایت کی۔ آپ ثقاہت و عدالت، زہد و تقویٰ کثرت حدیث و تفسیر قرآن میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ ابن سعد فرماتے ہیں :-

”محمد بن کعب ثقہ عظیم عالم اور مفسر قرآن تھے۔ اصحاب ستہ نے بالانفاق آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں“

ابن عون کا قول ہے :-

”میں نے محمد بن کعب سے بڑھ کر مفسر قرآن نہیں دیکھا“ (خلاصہ تہذیب الکمال ص ۳۰۵)

محض ابن جان فرماتے ہیں :-

”محمد بن کعب مدینہ کے فضلاء میں شمار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں دعا کہہ رہے تھے کہ اچانک چھت گریڑی۔ جس سے آپ اور چند رفقاء کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ۱۸ھ کا واقعہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر اثنی عشر برس کی تھی“

۳۔ زید بن اسلم :

اسم گرامی زید بن اسلم العدوی المدنی اور کنیت ابوالاسامہ یا ابو عبد اللہ ہے۔ آپ ان کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ جنہوں نے روایت تفسیر میں شہرت حاصل کی۔ امام احمد بن حنبل ابو ذر عبد الجوام نسائی اور دیگر محدثین نے آپ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ ان کی ثقاہت و عدالت پر ان عظیم محدثین سے بڑھ کر اور کس کی شہادت ہو سکتی ہے۔ ارباب صحاح ستہ ان سے اخذ روایت کرنے پر شغف نظر آتے ہیں۔

زید بن اسلم اپنے معاصرین میں کثرت علم کی بنا پر ممتاز تھے اور آپ کے بعض ہم عصر آپ سے استفادہ

کرتے تھے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ علی بن حسین (امام زین العابدین) زید بن اسلم کے یہاں حاضر ہو کر ان سے علمی استفادہ کیا کرتے تھے۔ ناخ بن حُبیر بن مطعم نے کہا ”آپ اپنی قوم کی علمی مجالس چھوڑ کر عمر بن الخطاب کے غلام زید بن اسلم کے یہاں جاتے ہیں“ زین العابدین نے فرمایا ”آدمی اس شخص کی

محبت اختیار کرتا ہے جس سے کچھ دینی فائدہ حاصل ہوتا ہو۔

علمائے مدینہ میں سے جن لوگوں نے زید بن اسلم سے تفسیر کا درس لیا ان میں سے مشہور ترین

حسب ذیل تھے :-

(۱) امام مالک بن انس صاحب مؤطا۔

(۲) زید بن اسلم کے صاحبزادے عبدالرحمن۔

زید بن اسلم ^{۱۳۶} صحیح میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب، ج ۳، ص ۲۹۵)

۳۔ عراق کا مکتب تفسیر:

عراقی مکتب تفسیر اپنے وجود و ظہور میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہون منت ہے آپ کے سوا وہاں اور بھی صحابہ مقیم تھے جن سے اہل عراق نے تفسیر قرآن کا درس لیا۔ مگر ابن مسعود اس مکتب فکر کے اولین اُستاد تسلیم کیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ آپ کی شہرت اور ان سے مرویات و منقولات کی کثرت ہے۔ نیز اس لیے کہ جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عماد بن یاسر کو کوفہ کا والی مقرر کیا تو ابن مسعود کو ان کے ہمراہ معلم و وزیر بنا کر روانہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل کوفہ آپ کی محبت اختیار کرنے اور دوسروں کی نسبت آپ سے زیادہ استفادہ کرنے لگے۔

اہل عراق کے عموماً اہل الراشے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اختلافی مسائل کے ذکر و بیان میں یہ لفظ اکثر سنسنے میں آتا ہے۔ علماء کا قول ہے کہ ابن مسعود اولین شخص تھے جس نے اس نظریہ استدلال کی طرح ڈال۔ پھر علمائے عراق بھی اسی ڈگر پر چل پڑے۔ اس کا فطری نتیجہ یہ ہوا کہ تفسیری مدرسہ فکر میں بھی اسی کی پیروی کی جائے گی اور قرآن کی تفسیر راٹھے و اجتماد کی اساس پر شروع ہوئی۔ اس لیے کہ شرعی مسائل میں استنباط نصوص قرآن و سنت میں اپنی راٹھے کو استعمال کرنے ہی کا نتیجہ تھا۔

عراقی مکتب تفسیر کے ساختہ پر و اتحہ لوگوں میں مندرجہ ذیل نے بہت شہرت حاصل کی:

علقمہ بن قیس۔ مسروق۔ اسود بن یزید۔ مخرہ صمدانی۔ عامر شعبی۔ حسن بصری۔ قتادہ بن

دعامر سدوسی

اب باری باری ہم ان پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔

۱۔ علقمہ بن قیس :

علقمہ بن قیس بن عبداللہ بن مالک النخعی الکوفی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے حضرت عمر و عثمان دغلی و ابن مسعود و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کی۔ علقمہ حضرت ابن مسعود کے ارشد تلامذہ سے تھے اور آپ کے علم و فضل سے خوب آشنا و آگاہ تھے۔ عثمان بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے ابن مبین سے پوچھا ”آپ کے نزدیک علقمہ بہتر ہیں یا عبیدہ؟“ کہا ”دونوں یکساں ہیں“

ابراہیم بن کثیر کا قول ہے :-

”جب تم علقمہ کو دیکھو تو ابن مسعود کو نہ دیکھنے میں کچھ مفاہقتہ نہیں جو ان سے بڑی حد

یک ملتے جلتے ہیں“

عبدالرحمن ابن زید بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا ”میں جو کچھ پڑھتا یا جانتا ہوں علقمہ بھی جانتے ہیں۔ علقمہ نہایت ثقہ، امین، راست باز اور زہد و تقویٰ سے بہرہ ور تھے“

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں :-

”علقمہ صالح اور ثقہ شخص ہیں۔ اصحاب صحیح سنیہ آپ سے روایت کرنے میں

متفق ہیں“

بقول ابو نعیم علقمہ نے ۳۲۳ھ میں ہجرت سے سال وفات پائی۔

تہذیب التہذیب، ج ۱، ص ۲۶۶

۲۔ مسروق :

مسروق بن ابدع بن مالک کوفی کی کنیت ابو عائشہ ہے۔ ایک دن حضرت عمرؓ نے ان کا نام دریافت کیا تو جواباً کہا ”میرا نام مسروق بن ابدع ہے“ جناب فاروقؓ نے فرمایا ”ابدع تو شیطان کو کہتے ہیں آپ مسروق بن عبدالرحمن ہیں“

مسروق نے خلفاء اربعہ ابن مسعود، ابی بن کعب اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے علمی استفادہ کیا۔ آپ ابن مسعود کے تلامذہ میں سب سے بڑے عالم اور زہد و تقویٰ میں ممتاز تھے۔ کوفہ کے مشہور مفتی قاسمی شریح مشکل مسائل میں آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔

امام شعبی فرماتے ہیں :-

” میں نے مسروق سے بڑھ کر علم کا شائق نہیں دیکھا“

امام بخاری کے استاذ علی بن مدینی کا قول ہے :-

” میں ابن مسعود کے تلامذہ میں سے مسروق پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا“

امام حدیث ابن مدینی کی مندرجہ صدر شہادت کی اساس یہ ہے کہ مسروق نے اکابر صحابہ خصوصاً

حضرت ابن مسعود کی صحبت و رفاقت سے مشرف ہو کر علم و فضل کا لازوال خزانہ جمع کر لیا تھا۔ یہ اصحاب

رسول اور حضرت ابن مسعود کی شاگردی ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ اپنے علم کے امام تفسیر اور کتاب اللہ کے معانی

و مطالب کے جید ماضل قرار پائے۔ مسروق کے قول سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تفسیر قرآن کے

سلسلہ میں حضرت ابن مسعود سے کس قدر استفادہ کیا تھا۔ خود فرماتے ہیں :-

” ابن مسعود ہمیں قرآن کریم کی کوئی سورت سناتے اور پھر دن بھر اس کی تفسیر بیان

کرتے رہتے۔“

جہاں تک آپ کی ثقاہت و عدالت کا تعلق ہے یہ ایک ایسا امر ہے جس پر علمائے جرح و

تعدیل نے اتفاق کیا ہے۔ محدث ابن معین فرماتے ہیں ” مسروق جیسے شخص کی عدالت کے بارے میں

پوچھنے کی ضرورت نہیں“

ابن سعد کا قول ہے :-

” مسروق ثقہ تھے اور انہوں نے ”احادیث صالحہ“ روایت کی ہیں“

ابن تہان نے بھی آپ کو ثقہ رواۃ و رجال میں شمار کیا ہے۔ صحابہ ستہ کے جامعین نے بالاتفاق آپ کے

حدیثیں روایت کی ہیں۔ مشہور محدث شعبہ نے ابواسحاق کا قول نقل کیا ہے کہ :

” مسروق حج کو گئے تو یہ کیفیت تھی کہ سوتے بھی سجدہ کی حالت میں تھے“

بقول مشہور آپ نے ۳۲ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب، ج ۱۰ - ص ۱۰۹)

۳ - أسود بن یزید :

ابو عبد الرحمن أسود بن یزید بن قیس غنمی کبار تابعین اور اصحاب ابن مسعود میں سے تھے۔ آپ نے

حضرت ابو بکر و عمر و علی و حفصہ و بلال و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے حدیثیں روایت کیں۔ آپ صالح ثقہ اور

علوم قرآن کے ماہر تھے۔ ابن سعد امام اعداد اور یحییٰ بن معین نے آپ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ صحاح ستہ کے مؤلفین آپ سے اخذ و نقل کرنے پر متفق ہیں۔

ابراہیم نخعی نے اسود کا شمار ابن مسعود کے ان تلامذہ میں کیا ہے جو فتویٰ دیا کرتے تھے محدث ابن جان بھی آپ کو ثقہ قرار دیتے ہیں۔ مسود نے ۳۲۳ھ یا ۳۲۴ھ میں وفات پائی۔

(تہذیب التہذیب، ج ۱- ص ۲۲۲)

۳۔ حمزہ ہمدانی :

ابراہیم بن حمزہ بن شریک ہمدانی کوئی بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر و عمر و علی و ابن مسعود و دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے علمی استفادہ کیا۔ امام شعبی اور دیگر اصحاب و تلامذہ نے آپ سے کسب فیض کیا۔ ابن مین اور ابوالعجلی نے حمزہ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ صحاح ستہ کے جامعین نے آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ نے ۳۳۵ھ میں وفات پائی۔

(تہذیب التہذیب، ج ۱۰- ص ۸۸)

۵۔ عامر شعبی :

ابو عمرو عامر بن شریک جیلی کوفی جلیل القدر تابعی اور کوفہ کے خاصی تھے۔ آپ نے حضرت عمرو علی و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اگرچہ حدیثیں روایت کی ہیں تاہم ان سے براہ راست استفادہ نہیں کیا۔ اسی طرح آپ نے حضرت البرہربرہ، عائشہ صدیقہ، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت کی ہے۔ شعبی خود کہتے ہیں کہ ”میں نے پانچ صد صحابہ کا زمانہ پایا ہے“ محدث العجلی فرماتے ہیں کہ ”شعبی نے اڑتالیس صحابہ سے احادیث بنوعریہ کا سماع کیا ہے“

امام شعبی کے بارے میں علمائے حدیث کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ ہوں :-

۱۔ مکحول کہتے ہیں ”میں نے شعبی سے بڑھ کر فقیہ آج تک نہیں دیکھا“

۲۔ ابن عیینہ کا قول ہے :-

”لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ کے بعد اپنے اپنے زمانہ میں تین آدمی یکٹائے روزگار تھے

۱) ابن عباس (۲)، شعبی (۳)، سفیان ثوری“

۳۔ مشہور محدث ابن شبرمہ کہتے ہیں میں نے شعبی کو فرماتے سنا کہ :-

”حجرات بھی میں نے لکھی یا کسی سے سنی وہ مجھے ازبر ہو گئی۔ جب بھی کسی نے کوئی حدیث مجھے سنائی تو میں نے اس کے اعادہ کی ضرورت محسوس نہ کی“

۴۔ ابن معین ابو زرہ اور بکرت دیگر محدثین نے کہا کہ ”شعبی ثقہ ہیں“ اصحاب صحاح مستتر نے آپ کے روایت کی ہے۔

۵۔ ابو جعفر طبری طبقات الفقہاء میں لکھتے ہیں کہ :-

”شعبی بڑے عالم فقیہ اور اديب تھے“

۶۔ ابو اسحاق اجمبال کا قول ہے :-

”شعبی مختلف علوم میں ماہر تھے“

۷۔ سلیمان بن ابی مجلز کہتے ہیں :-

”میں نے شعبی سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ ابن المسیب طاؤس عطاء حسن بصری اور ابن سیرین بھی ان کے ہم پلہ نہ تھے“

جید عالم ہونے کے باوجود امام شعبی قرآن کریم کی تفسیر بالرائے کرنے کی جسارت نہیں کرتے تھے۔ جب کسی آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں انہیں علمائے سلف کا کوئی قول معلوم نہ ہوتا تو مسائل کا جواب نہ دیتے۔

ابن عطیہ فرماتے ہیں :-

”اکابر علمائے سلف مثلاً سعید بن المسیب اور شعبی تفسیر قرآن کو بڑی وقعت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور علم و فضل کے باوصف زہد و تقویٰ کی بنا پر تفسیر بالرائے سے کنارہ کش رہتے تھے“

(مقدمہ تفسیر قرطبی، ج ۱، ص ۲۲)

ابن جریر طبری شعبی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ:

”میں نے ہر آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا ہے مگر اس میں احتیاط کی ضرورت ہے“

یہ کلام الہی کی تفسیر کا معاطہ ہے“ (مقدمہ تفسیر ابن جریر، ج ۱، ص ۲۸)

امام شعبی سنی اور ابوصالح کی تفسیر کو پسند نہیں کرتے تھے اور اس پر معترض ہوا کرتے تھے مفسر

ابن جریر نقل کرتے ہیں کہ شعبی ابوصالح کے پاس سے گزرتے اس کی گوشمالی کرتے اور کہتے تھے :-

”تم قرآن کی تفسیر کرتے ہو حالانکہ تم قرآن پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے“

(ابن جریر، ج ۱- ص ۲۰)

ابن جریر ساج بن مسلم سے مزید بیان کرتے ہیں کہ شیبی سدی کے پاس سے گزرے اور وہ قرآن کی تفسیر کرنا تھا فرمائے گئے :-

”اگر تم ساری ڈبر پڑھ لو بیجا جا۔ نئے تو وہ اس مجلس سے بہتر ہو گا“ (حوالہ مذکور)

امام شیبی کی ولادت و وفات کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ مشہور ترین قول یہ ہے کہ آپ ۱۱۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۰ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب، ج ۵، ص ۶۵)

۶۔ حسن بصری :

اس گرامی حسن بن الحسن یسار بصری اور کنیت ابو سعید ہے۔ والدہ کا نام خیرہ تھا جو صحیحہ ام سلمہ کی آزاد کردہ لونڈی تھیں۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ ”حسن بصری خلافت فاروقی کے آخری دو سالوں میں پیدا ہوئے اور وادی القرظی میں پروان چڑھے۔ آپ بڑے فصیح و بلیغ عابد و زاہد اور یکتائے روزگار خطیب تھے۔ سامعین ان کے وعظ سے بے حد متاثر ہوتے تھے۔ آپ نے حضرت علی و ابن عمرو انس اور کثیر سمعہ و ثابت بن عبد اللہ بن جحین سے حدیثیں روایت کیں“

ذہد و تقویٰ اور جادو بیان مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ قرآن و حدیث کے تیار فاضل اور احکام حلال و حرام میں اعلیٰ پایہ کی بصیرت رکھتے تھے۔ علمائے سلف کے چند اقوال ملاحظہ ہوں:

۱۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں :-

”دینی مسائل حسن بصری سے پوچھا کیجئے۔ انہیں وہ مسائل یاد ہیں اور ہم بھول گئے“

۲۔ سلیمان التیمی فرماتے ہیں :-

”حسن بصری اہل بصرہ کے استاذ ہیں“

۳۔ قتادہ کا قول ہے :-

”میں جس فقیر کی صحبت میں بیٹھا حسن بصری کو اس سے بڑھ کر پایا“

۴۔ بکر المزنی فرماتے ہیں :-

”جو شخص دوسرا مفسر کے منفر د عالم کو دیکھنا چاہے وہ حسن بصری کو دیکھے۔ ہم نے

ان سے بڑھ کر عالم نہیں دیکھا“

۵ - جناب ابو جعفر الباقر کے یہاں جب حسن بصری کا ذکر آتا تو فرماتے :-

”ان کا کلام انبیاء کے کلام سے ملتا جلتا ہے“

۶ - ابن سعد کہتے ہیں :-

”حسن بصری عظیم عالم بلند پایہ فقیہ نہایت ثقف بڑے عابد و زاہد در حد در فصیح و بلیغ

اور حسین و جلیل تھے“

اصحاب صحاح ستہ نے حسن بصری سے روایت کی ہے۔ آپ نے عمر اٹھاسی سال ۸۸ھ میں وفات پائی۔

(تذیب التذیب، ج ۲، ص ۲۶۳)

۷ - قتادہ :

قتادہ بن دعامہ السدوسی کی کنیت ابو الخطاب ہے۔ آپ مادر زاد نابینا تھے۔ آپ عربی الاصل تھے اور بصرہ میں بود و باش رکھتے تھے۔ قتادہ نے حضرت انس و ابو الطفیل و ابن سیرین و عکرمہ و عطاء بن رباح و غیر ہم رحمہم اللہ سے حدیثیں روایت کیں۔ آپ قوتِ حافظہ سے بہرہ ور عربی اشعار کے عظیم عالم ایام العرب اور علم الانساب کے زبردست ماہر اور عرب زبان و ادب میں بصیرت نامہ رکھتے تھے۔ قتادہ مفسر قرآن ہونے کے اعتبار سے بھی مشہور ہیں۔

عمر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قتادہ سعید بن السیب کے یہاں آئے اور کئی روز ان کے پاس قیام کر کے دینی مسائل و احکام دریافت کرتے رہے۔ جناب سعید نے دریافت کیا ”آپ نے جو کچھ مجھ سے پوچھا ہے وہ سب یاد ہے؟“ قتادہ نے کہا ”جی ہاں! میں نے آپ سے فلاں بات پوچھی اور آپ نے اس کا یہ جواب دیا اور فلاں سوال کا آپ نے یہ حل پیش کیا اور حسن بصری نے یوں کہا ”سعید بن السیب نے کہا ”میں نہیں سمجھتا تھا کہ خدا نے تمہارے جیسا انسان بھی پیدا کیا ہے“

ابن سیرین کہا کرتے تھے کہ ”قتادہ جیسا دوسرا کوئی حافظ میں نے نہیں دیکھا“

قتادہ کی ثقافت و عدالت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ صحاح ستہ کے مؤلفین ان سے استفادہ

استحاج کرتے ہیں۔

امام ابو حاتم کا قول ہے :-

”حضرت انس کے اصحاب و تلامذہ میں سے فقہ ترین شخص زہری ہیں اور پھر قتادہ“

قتادہ نے ۳۱۱ھ میں بمصر چھپن سال وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب، ج ۸، ص ۲۵۱)

بہر کیف یہ ہیں نامور تابعین کرام جنہوں نے تفسیر قرآن میں شہرت پائی! ان کے اکثر و بیشتر تفسیری اقوال حضرات صحابہ سے ماٹور و ماخوذ ہیں۔ بعض اہل کتاب سے لیے گئے ہیں۔ دیگر اقوال ان کے اجتہاد پر مبنی ہیں۔ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ تابعین علم و فضل کا زندہ پیکر اور بڑے و فقیہ رس تھے۔ اس لیے کہ ان کا مدعسہ نبوت سے قرب تھا اور عمد صحابہ نے ان کو زمانہ رسالت کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ مزید یہ کہ عربی زبان میں آگے چل کر جو بگاڑ پیدا ہوا وہ ماہروز اس سے محفوظ تھے۔

تابعین نے جو علمی ورثہ چھوڑا تھا اب اتباع تابعین اس کے وارث تھے۔ پھر بعد میں آنے والے ان کے علم و فضل کے امین قرار پائے۔ علیٰ ہذا القیاس سلف کا علم خلف کی جانب منتقل ہوتا رہا۔ ہر پچھلے دور کے علماء نے اپنے سابقین کے علم کو سمجھالا اور اس پر شاندار اضافہ کیا۔ یہ سنت الہی رہی ہے کہ آغاز کار میں علم کا دائرہ نہایت تنگ ہوتا ہے۔ اس کے وسائل محدود ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے نقطہ عروج و کمال تک پہنچ جاتا ہے۔

فصل دوم

تابعین سے ماثور تفسیر کی اہمیت

تابعین کی تفسیر کے قبول و عدم قبول میں علماء کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس ضمن میں کچھ بھی منقول نہیں امام احمد بن حنبل سے اس سلسلہ میں دو قول نقل کیے گئے ہیں۔ ایک میں تابعین کی تفسیر کا احوال کو قابل قبول قرار دیا گیا ہے اور دوسرے میں اس کے برعکس فیصلہ صادر فرمایا گیا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ تابعی کی تفسیر غیر مقبول ہے۔ ابن عقیل نے بذات خود بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے اور اسے شیعہ کی جانب بھی منسوب کیا ہے۔

اس قول کے قائلین یہ دلیل دربان پیش کرتے ہیں کہ تابعین نے براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض نہیں کیا۔ اس لیے صحابہ کے اقوال کی طرح ان کے افکار و آراء کو آنحضرت سے سماع پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ نیز اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر خود وہ ظروف و احوال ملاحظہ نہیں کیے جن میں قرآن نازل ہوا تھا۔ اس لیے کچھ بعید نہیں کہ فہم مراد و مقصود میں ان سے غلطی صادر ہوئی ہو۔ اور جو بات دلیل نہیں اس کو دلیل سمجھ لیا ہو۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح صحابہ کی عدالت نفس سے ثابت ہے اس طرح تابعین کے بارے میں کوئی نفس وارد نہیں ہوئی۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه	جوابات رسول کریم سے منقول ہووے ہر وجہ
وسلم فعلى الرأس والعين -	تسلیم! اور جو صحابہ سے منقول ہو اس میں سے
وما جاء عن الصحابة فخيرنا	ہم اپنی پسند کے قول پر عمل کریں گے۔ جہاں تک
وما جاء عن التابعين فم رجال	تابعین کے اقوال کا تعلق ہے تو وہ بھی آدمی
وفعن رجال -	ہیں اور ہم بھی آدمی۔

اکثر مفسرین کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ تابعین کے تفسیری اقوال قبول ہیں۔ اس لیے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر صحابہ سے منقول ہیں۔ مثلاً مشہور تابعی مجاہد کہتے ہیں :-
 ”میں نے تین مرتبہ قرآن کریم کو از اول تا آخر ابن عباس کو سنایا اور ہر آیت کی تفسیر کے بارے میں ان سے پوچھا رہا“
 قتادہ کا قول ہے :-

”قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جس کی تفسیر کے بارے میں میں نے کچھ سنا نہ ہو“
 یہی وجہ ہے کہ اکثر مفسرین نے تابعین کے اقوال اپنی تصانیف میں نقل کیے اور ان پر اعتماد کیا ہے۔

اس ضمن میں دل کو لگتی ہوئی بات تو یہ ہے کہ تابعی کا قول اسی صورت میں واجب الاتحاج ہے جب اس میں رائے کی گنجائش نہ ہو۔ اندر میں صورت وہ قول اس شرط کے ساتھ قابل اتحاج ہو گا کہ شک و شبہ سے بالا ہو۔ اور اگر اس تابعی کے بارے میں شک پڑ جائے کہ وہ اہل کتاب سے استفادہ کیا کرتا تھا تو ہم اسے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ البتہ جب کسی رائے پر تابعین کا اجماع منعقد ہو جائے تو ہم اسے ترک کر کے کسی دوسرے قول کو قبول نہیں کر سکتے۔
 شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :-

”شعبہ بن حجاج اور دیگر علماء کا خیال ہے کہ تابعین کے اقوال جب علی العموم حجت نہیں ہیں تو پھر تفسیر میں کیوں کر حجت ہو سکتے ہیں؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ تابعین کے اقوال سے مخالفت پر حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بجا ہے خود درست ہے۔ مگر جس بات پر تابعین کا اجماع منعقد ہو جائے اس کے حجت ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ جب تابعین کسی بات میں مختلف رائے ہوں تو نہ ایک قول دوسرے پر حجت ہو سکتا ہے اور نہ بعد میں آنے والے لوگوں پر۔ بخلاف ازیں ایسے موقع پر عربی زبان یا سنہ نبوی یا عربی زبان کے عموم اور یا اقوال صحابہ کی جانب رجوع کیا جائے گا“

مقدمہ اصول تفسیر ابن تیمیہ، ص ۲۸ و فروع الرعموت، ج ۲، ص ۱۸۸ نیز الاتقان، ج ۲، ص ۹۱

فصل سوم دور تابعین کی تفسیری خصوصیات

اس دور کی تفسیر مندرجہ ذیل خصوصیات و تمیزات کی حامل تھی :

اول :

اس دور کی تفسیر میں اسرائیلیات و نضرانیات کی آمیزش شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں بکثرت اہل کتاب حلقہ گویش اسلام ہوئے۔ ان کے قلب و ذہن کے ساتھ ایسے اخبار و دلائل پیوست تھے جن کا شرعی احکام کے ساتھ کچھ تعلق نہیں۔ مثلاً آغاز تخلیق کے واقعات یا ظہور کائنات اسرار وجود سے متعلق قصے کہانیاں۔ قرآن مجید میود و نصاریٰ کے جن واقعات کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ فنون انسانی کی تفصیلات سننے کے لیے بے تاب تھے۔

۳۔ اس ضمن میں سہل انگاری سے کام لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میود و نصاریٰ کے بکثرت احداث و دقائق تفسیر میں کسی نقد و تبصرہ کے بغیر شامل کر دیے گئے۔ اس قسم کی روایات زیادہ تر ان لوگوں سے نقل ہو کر مسلمانوں میں پھیل گئیں جو اہل کتاب میں سے مشرف باسلام ہوئے تھے۔ مثلاً عبداللہ بن سلام کعب الاحبار، وہب بن منبہ، عبدالملک بن عبد العزیز ابن جریر و غیر ہم۔ اس میں شک نہیں کہ تفسیر کے سلسلہ میں اسرائیلیات کی جانب رجحان و میلان تابعین و اتباع تابعین پر جرح و نقد کا موجب ہوا

(فجر الاسلام، ص ۲۵۲ - نیز منبع الفرقان ج ۲ - ص ۲۰)

ہم آگے چل کر اس پر تفصیلی بحث کریں گے۔

دوم :

دور تابعین کی تفسیر پر بھی نقل و روایت کی چھاپ بدستور رہی۔ مگر عدد رسالت و عصر صحابہ کی طرح اس اخذ و نقل میں عموم کا مفہوم شامل نہ تھا بلکہ اس پر اختصاص کی فہرگی ہوئی تھی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہر کے رہنے والے اپنے شہر کے امام اور عالم کے اقوال سے اعتقاد کرتے تھے۔ چنانچہ مکان

مگر حضرت ابن عباس سے مدینہ والے حضرت ابی سے اور عراقی حضرت ابن مسعود سے تفسیری اقوال نقل کیا کرتے تھے۔

سوم :

اس دور میں مذہبی اختلاف کی تخم ریزی ہوئی۔ اور اس قسم کے تفسیری اقوال منظر عام پر آئے۔ جن میں اس اختلاف کی رنگ آمیزی کی گئی تھی۔ مثلاً قتادہ بن دعامہ سندھی منکر تقدیر تھا اور اس کی تفسیر میں تقدیریت کی جعلگ دکھائی دیتی تھی۔ اسی کے پیش نظر بعض لوگ اس کی روایات سے احتراز کرتے تھے اس کے عین برخلاف حسن بصری کی تفسیر اثبات تقدیر کے عقیدہ پر مبنی ہے۔ وہ منکر تقدیر کی تکفیر کرتے ہیں۔

چہارم :

عہد صحابہ کے اندر تفسیر قرآن میں چنداں اختلاف نہ تھا۔ عصر تابعین میں اختلاف کی طبع بہت وسیع ہو گئی۔ تاہم تابعین کا یہ تفسیری اختلاف متاخرین کی نسبت بہت کم تھا۔

فصل چہارم

تفسیر میں اختلافِ سلف

ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام قرآن کریم کی تفسیر عربی زبان اور ان اسباب و احوال کے پیش نظر کرتے تھے جن میں قرآن نازل ہوا تھا۔ جب کسی آیت کی تفسیر میں کوئی وقت پیش آتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا معنی و مطلب دریافت کرتے۔ ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ تابعی مفسرین صحابہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے تفسیری اقوال اخذ کرتے اور آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ وہ راستے و اجتماع سے بھی قرآن کریم کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ عربی ان کی مادری زبان تھی اور ابھی اس میں وہ فساد و بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا، جو آگے چل کر ہوا۔

مزید برآں عمر صحابہ و تابعین تک فقہی و کلامی مذاہب و مسالک پیدا نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی ادبی و عقلی علوم و فنون کا کوئی نشان پایا جاتا تھا۔ اگرچہ اس بیج کی تخم ریزی ہو چکی تھی جس سے آگے چل کر علم و ادب کا تادور و رخت پروان چڑھا اور اس سے علوم و فنون کی نشاں بھوٹیں۔ عہد صحابہ و تابعین میں یہی حالت رہی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ان دنوں ادوار میں تفسیری اختلافات کا دائرہ نہایت محدود رہا اور اس میں وہ وسعت پیدا نہ ہو سکی، جو آگے چل کر ہوئی۔ عہد صحابہ میں تو اختلافات نہایت کم تھے۔ عہد تابعین کے اندر ان میں کچھ اضافہ ہوا۔ مگر تابعین کا اختلاف احکام میں زیادہ اور تفسیر میں کم تھا۔ کتب تفسیر میں جو تفسیری اقوال ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں ان میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک ہی مسئلہ میں کئی کئی مختلف و متضاد اقوال منقول ہیں۔ مثلاً ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی کے قول کے خلاف ہوتا ہے۔ اور ایک تابعی کا قول دوسرے تابعی کے قول سے ٹکراتا ہے۔ بلکہ اکثریوں ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلہ میں دو مختلف و متضاد قول ایک ہی قائل کی جانب منسوب ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ عہد صحابہ و تابعین میں تفسیری اختلافات کی خلیج و وسیع ہو گئی تھی؟ اور کیا ایک ہی صحابی و تابعی سے ایک ہی مسئلہ میں دو متضاد و متناقض فیصلے صادر ہوتے ہیں؟

معاہدوں میں نہ اختلاف کے دائرہ میں وسعت پیدا ہوئی اور نہ ہی صحابی و تابعی سے دو متخالف قول صادر ہوئے۔ اس لیے کہ تفسیر میں جو اختلاف منقول ہے وہ اکثر و بیشتر نزاع لفظی یا اختلاف تنوع کے قبیل سے ہے نہ تافض و تضاد پر مبنی نہیں۔ مگر ہمیشہ کرنے والوں نے ان کو متباہین و متضاد اقوال خیال کیا جی میں کسی طرح بھی کوئی موافقت و یکگتت نہیں پائی جاتی۔

ان بظاہر متخالف اقوال کو اگر باریک بینی ذررت نگاہی کی عینک سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی فرق و اختلاف سرے سے موجود ہی نہیں۔ تاہم اس ظاہری اختلاف کے کچھ وجوہ و اسباب بھی ہیں جن کی نشان دہی ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ کھل کر یہ بات سامنے آجائے کہ ان میں باہم کچھ توافقی و تباہین نہیں پایا جاتا۔

ظاہری اختلاف کے وجوہ مند جہ ذیل ہیں :-

(۱) اختلاف کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں مفسر اپنا اپنا مفہوم جداگانہ الفاظ و عبارت میں ادا کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام متعدد و مختلف ہیں مگر وہ سب ایک ہی سستی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کا ایک نام لے کر دعا کرتا ہے تو دوسرا اس کو جداگانہ نام سے یاد کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص کی دعا دوسرے کی دعا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّسُولَ
أَيُّمَا مَنَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

آپ کہہ دیں کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو تم سے
جس نام سے بھی پکارو اس کے بہت اچھے

(الاسراء - ۱۱۰) نام ہیں۔

اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عزیز کے بھی بہت سے نام ہیں جو سب ایک ہی سستی کو ظاہر کرتے ہیں اور ان میں کوئی تخالف و تضاد نہیں پایا جاتا۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک صفاتی نام سستی کی ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا نام کسی اور صفت کو۔ سستی واحد ہی رہتا ہے اس میں کچھ فرق نہیں آتا۔ مثلاً علیم کا وصفی نام ایک ذات اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح لفظ قدر ایک ذات اور قدرت کی نشان دہی کرتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اسماء مثلاً محمد و احمد و حامی و حاشرہ وغیرہ کا بھی یہی حال ہے قرآن کریم کے اسماء مثلاً القرآن - الفرقان - المدی - الشفاء وغیرہ بھی متعدد و مختلف ہیں۔

اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں "الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کے مندرجہ ذیل اقوال ہیں :-

- ۱۔ الصراط المستقیم سے قرآن کی پیروی مراد ہے۔
 - ۲۔ اس سے سنت نبوی اور جماعتِ مسلمین کا اتباع مقصود ہے۔
 - ۳۔ اس سے طریقی عبودیت مراد ہے۔
 - ۴۔ اللہ ورسول کی اطاعت کا نام صراط مستقیم ہے۔
- و علاوہ ازیں دیگر اقوال -

ظاہر ہے کہ ان اقوال میں کوئی سمانات نہیں۔ بخلاف ازیں یہ سب متحدہ الحقیقت ہیں۔ اس لیے کہ دین اسلام اتباع قرآن، اطاعت اللہ ورسول اور طریقی عبودیت سے عبارت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشتاق و مقصود ایک ہی ہے۔ مگر تفسیر نے اس کی ایک جداگانہ صفت بیان کی ہے۔^۴

۲۔ ظاہری اختلاف کی ایک قسم یہ ہے کہ بطور تشبیل ایک عام اسم کے بعض انواع کو ذکر کر دیا جاتا ہے اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ سامع کو اس نوع کا پتہ چل جائے۔ اس عام اسم کو عموم و خصوص کے اعتبار سے تعریف کرنا مقصود نہیں ہوتا۔

اس کی مثال قرآن عزیز کی یہ آیت کریمہ ہے :-

تَمَّارَاتِنَا الْكُتُبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا
 مِنْ عِبَادِنَا قَمِيْنَهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
 وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ
 بِالْخَيْرَاتِ يَا ذَرْ لِّلّٰهِ -

سبقت کرنے والے ہیں۔ (الفاطر - ۲۲)

اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ "سابق" اول وقت نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں "مقتصد" وہ ہے جو متوسط وقت میں نماز ادا کرے۔ اور "ظالم" وہ ہے جو نماز نفاذ کر کے پڑھے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ "سابق" وہ ہے جو فرضی زکوٰۃ نفعی صدقات سمیت ادا کرے۔ "مقتصد" وہ ہے جو صرف فرضی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور "ظالم" اس کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہ کرنا جو۔

استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے دو معانی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی اکثر فقہائے مالکیہ شافعیہ حنابلہ اور بہت سے متکلمین کا زاویہ نگاہ یہی ہے۔

۴۔ ظاہری اختلاف کی چوتھی صورت یہ ہے کہ مختلف مفسرین کسی آیت یا لفظ کا مفہوم ایسے الفاظ میں بیان کریں جو باہم قریب المعنی ہوں۔ لیکن بالکل مترادف (ہم معنی) نہ ہوں۔ اس لیے کہ مترادفات لغت میں بہت کم اور قرآن کریم میں نادر یا معدوم ہیں۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ کہ کسی لفظ کا مفہوم ظاہر کرنے کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو اس کے جملہ معانی کو واضح کرنا ہو۔ بلکہ ہونایوں ہے کہ کسی لفظ کی ترجمانی ایسے لفظ سے کی جاتی ہے جو اس سے قریب المعنی ہوتا ہے۔

مثلاً ایک شخص آیت کریمہ:

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ دُحُونًا - (الطور ۹) جس روز آسمان حرکت کرنے لگے گا۔

کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں کہے کہ ”مور“ کے معنی ”حرکت“ کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ”مور“ کے لفظ کی ترجمانی اس کے قریب المعانی لفظ کے ذریعہ کر دی۔ اس لیے کہ مور کے معنی صرف حرکت کے نہیں بلکہ ”حرکت خفیفہ سرریہ“ کے ہیں۔

اسی طرح آیت کریمہ:

أَنْ تُبْسَلَ نَفْسًا بِمَا كَسَبَتْ

کہ کسی جان کو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے تید

(الانعام - ۷۰) کیا جائے۔

کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین نے ”تُبْسَلَ“ کے معنی ”تَجَسَّسَ“ (قید کیا جائے) بیان کیے ہیں۔ اور بعض نے ”تُرْتَمَنَ“ (دہن رکھا جائے) یہ تضاد نہیں بلکہ ایک لفظ کے مفہوم کو قریب المعنی لفظ کے ذریعہ ادا کر دیا گیا ہے۔

۵۔ ظاہری اختلاف کی ایک دہریہ بھی ہوتی ہے کہ ایک ہی آیت میں ایک لفظ دو یا دو سے زیادہ قراءتوں کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ ایک مفسر ایک قراءت کے پیش نظر تفسیر کرتا جو اور دوسرا مفسر دوسری قراءت کے مطابق۔ اور غلطی سے اس کو اختلاف پر محمول کر دیا جائے حالانکہ دراصل یہ اختلاف نہیں۔ مثلاً مفسر ابن جریر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آیت :-

سَيَكُونُ أَبْصَارُنَا - (الحجر - ۱۵)

میں ”نیکرت“ کے معنی ہیں ”بندگی گنیں“ ابن عباس ہی کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی ”جادو کیا گیا“ ہیں قتادہ نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ جو ”نیکرت“ مشدو پڑھتا ہے وہ اس کے معنی ”بندگی گنیں“ بیان کرتا ہے اور جو اس لفظ کو بلا تشدید ”نیکرت“ پڑھتا ہے وہ ”مسحود“ مراد لیتا ہے۔

اس اختلاف کی ایک اور مثال حضرت ابن عباس سے یوں منقول ہے کہ آیت کریمہ اَوَّلَ مَا مَسَّمُ الْبَيْتَ (النساء - ۲۳) کے معنی آیا جماعت کے ہیں یا صرف چھوٹے کے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ”مَلَامَسْتُمْ“ پڑھا جائے تو اس کے معنی جماعت کے ہیں اور اگر ”لَمَسْتُمْ“ قرأت کی جائے تو پھر چھوٹے کا مفہوم مراد لیا جائے گا۔ اس لیے یہاں کوئی معنوی اختلاف نہیں پایا جاتا۔

یہ ہیں وہ طرق و وجوہ جن کے ذریعہ ہم سلف سے منقول بظاہر متعارض اقوال میں اتحاد و یکسانیت پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر بظاہر مخالف تفسیری اقوال میں مندرجہ صدر طرق کے مطابق جمع و تطبیق کا کوئی امکان نہ ہو۔۔۔۔۔ اور بقول امام ابن تیمیہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔۔۔۔۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اختلاف کس سے منقول ہے۔ اگر یہ دونوں متضاد قول ایک ہی مفسر کے ہوں اور دو مختلف مسندوں سے منقول ہوں جن میں سے ایک سند صحیح ہو اور دوسری ضعیف تو اندر میں صورت صحیح کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اور دوسری متروک قرار پائے گی۔ اور اگر صحت میں دونوں کا درجہ مساوی ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ ایک قول دوسرے سے متاخر ہے۔ تو متاخر قول قابل ترجیح ہوگا اور دوسرا غیر مقبول اور اگر متقدم و متاخر قول کا پتہ نہ چل سکے تو دیکھا جائے گا کہ کس قول کا سماع ثابت ہے۔ اگر سماع ثابت نہ ہو اور ایک قول کا بطریق استدلال قوی قرار دیا جاسکتا ہو تو وہ لاجہوگا اور دوسرا جرح۔ اور اگر ان دونوں اقوال کے حق میں دلائل موجود ہوں تو مراد الہی پر ایمان لانا چاہیے کہ اور دونوں میں سے ایک قول کی تیسین پر زور نہیں دینا چاہیے۔

امام زکریا لکھتے ہیں کہ اگر اختلاف صحابہ کے مابین ہو اور جمع و تطبیق کا کوئی امکان نہ ہو تو ابن عباس کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ ”اے اللہ ان کو تفسیر قرآن سکھائے“

(الاتقان ج ۲ - ص ۱۸۳ نیز مقدمہ اصول تفسیر ابن تیمیہ، ص ۶ و مبادی التفسیر للفضری، ص ۶)



باب سوم

تیسرا دور

تفسیر عصر تدوین میں

اس دور کے تدبیرگی مراحل اور ان کے اسالیب و اطوار

فصل اول: تفسیر بالماثور

فصل دوم: تفسیر بالرای و متعلقہ مباحث

فصل سوم: اہم کتب تفسیر

فصل چہارم: اصحاب بدعت کی تفاسیر

تیسرا دوس

اس دور کے تدریجی مراحل اور ان کے اسالیب و اطوار

تفسیر نویسی کے تیسرے دور کا آغاز:

تفسیر نویسی کے تیسرے دور کا آغاز عصر تدریس سے ہوتا ہے۔ یہ دور اموی خلافت کے اواخر سے لے کر خلافت عباسیہ کے اوائل تک پھیلا ہوا ہے۔

تفسیر نویسی کا پہلا دور :-

آغازِ کاری میں تفسیری اقوال کو بطریق روایت نقل کیا جاتا تھا۔ حضرت صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ اقوال نقل کرتے تھے اور باہم ایک دوسرے سے بھی۔ اسی طرح تابعین صحابہ سے بھی کسب فیض کرتے اور اپنے معاصر تابعین سے بھی۔ یہ تفسیر قرآن کا پہلا مرحلہ ہے۔

دوسرا دور :-

عصر صحابہ و تابعین کے بعد تفسیر کے دوسرے مرحلہ کا آغاز ہوا۔ یہ اس وقت ہوا جب تدریس حدیث کی داغ بیل پڑی۔ حدیث نبوی مختلف ابواب میں منقسم تھی اور ان میں ایک باب تفسیر پر بھی مشتمل تھا۔ زبردست دور میں ایسی کوئی کتاب تالیف نہیں ہوئی تھی جس میں ایک ایک سورت اور ایک ایک آیت کی تفسیر مستقلاً تحریر کی گئی ہو۔

اس عصر و عہد میں ایسے علماء موجود تھے جو مختلف دیار و اصصاریں گھوم پھر کر حدیثیں جمع کرتے اور تبتاً و منقادہ تفسیری اقوال بھی فراہم کرتے جو سورت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کی جانباً منسوب تھے۔

ان میں مندرجہ ذیل اکابر قابل ذکر ہیں :-

۱۱۷ھ

متوفی

(۱) زید بن ہارون السلمی

۱۱۸ھ

(۲) شعبہ بن جمہان

متوفی ۱۹۶ھ	۳ - دیکع بن الجراح
۱۹۸ھ	۴ - سفیان بن عیینہ
۲۰۵ھ	۵ - روح بن عبادہ بسری
۲۱۷ھ	۶ - عبدالرزاق بن ہمام
۲۲۰ھ	۷ - آدم بن ابی ایاس
۲۳۹ھ	۸ - عبد بن حمید
	دو دیگر محدثین کرام -

مذکورہ صدر علماء محدثین میں سے تھے اور تفسیری اقوال کو احادیث نبویہ کی حیثیت سے جمع کرتے تھے مستقل اور جداگانہ تفسیر کے اعتبار سے نہیں۔ مذکورین نے اپنے ہمیشہ رواۃ تفسیر سے جو کچھ بھی نقل کیا تھا اس کو ان کی جانب منسوب کر دیا تھا۔ افسوس ہے کہ گردش روزگار سے یہ سب مجموعے ضائع ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی ہم تک نہیں پہنچا۔ اس لیے ان کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ صادر کرنے سے قاصر ہیں۔

تیسرا دور :

تیسرے مرحلہ پر پہنچ کر تفسیر حدیث نبوی سے الگ ہو گئی اور اس نے ایک جداگانہ علم کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب قرآنی ترتیب کے مطابق ہر آیت کی تفسیر مرتب کی جانے لگی۔ اس میں مذکورہ ذیل علماء نے حصہ لیا :-

متوفی ۲۴۳ھ	۱ - ابن ماجہ
۳۱۰ھ	۲ - ابن جریر طبری
۳۱۸ھ	۳ - ابو بکر بن منذر خیسابوری
۳۲۴ھ	۴ - ابن ابی حاتم
۳۶۹ھ	۵ - ابوالشیخ بن حبان
۴۰۵ھ	۶ - امام حاکم
۴۱۰ھ	۷ - ابوبکر بن محمد روایتی
	دو دیگر محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ۔

مندرجہ سدر تفسیر سنہ ثانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین و انبیاء تابعین سے منقول ہیں ان میں تفسیر ماثورہ کے سوا دوسری کوئی چیز مذکور نہیں۔ البتہ ابن جریر طبری نے تفسیری اقوال ذکر کر کے ان کی توجیہ کی اور بعض کو راجح اور دوسروں کو مرجوح قرار دیا ہے۔

جمال ضرورت کا تقاضا تھا وہاں بعض کلمات کی اعرابی حالت بھی بتانی ہے جن آیات سے احکام کا استنباط ممکن تھا ان سے شرعی احکام استنباط کیے۔ آگے چل کر جہاں کتب تفسیر بالذکر کا ذکر آئے گا وہاں ہم تفسیر ابن جریر کی خصوصیات تفصیلاً بیان کریں گے۔

تفسیر کے تیسرے مرحلہ میں داخل ہو کر حدیث نبوی سے جداگانہ حیثیت اختیار کرنے کے یہ معنی نہیں کہ تفسیر کے سلسلہ میں قبل ازیں جو سماعی انجام دی گئی تھیں، وہ سب رانگاں جو گئیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر کا تدریجی ارتقاء جاری رہا۔ ابتدائی مرحلہ پر تفسیری اقوال صرف بطریق اخذ و روایت نقل کیے جاتے تھے۔ دوسرے مرحلہ پر تفسیر کی تدریس ابواب حدیث میں سے ایک باب ہونے کے اعتبار سے کی جانے لگی۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا اور اس میں ایک مستقل علم کی حیثیت سے جداگانہ طور پر تفسیر کی تدریس کا آغاز ہوا۔ مگر ابیں ہمہ کچھ ایسے محدثین بھی تھے جو تیسرے مرحلہ کے بعد بھی مرحلہ ثانیہ کی راہ پر گامزن رہے اور تفسیری اقوال کو حدیث کے ایک باب ہی کے ضمن میں جمع کرتے رہے۔ اس میں ان کا مدار انحصار صرف انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین سے منقول احادیث و آثار پر تھا۔

اولین مفسر کون ہے؟

اس سوال کا جواب آسان نہیں کہ قرآن کریم کا اولین مفسر کون تھا جس نے پورے قرآن کریم کی تفسیر قرآنی ترتیب کے مطابق مدون کی۔ ابن الندیم الفہرست صفحہ ۹۹ پر لکھتے ہیں کہ ابو العباس ثعلب کے ایما پر خزانہ غمی نے "کتاب السمانی" قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلہ میں مرتب کی تھی۔ قاہرہ کے دارالکتب المصریہ نے اس کتاب کی پہلی جلد ۱۹۵۶ء میں شائع کی تھی۔ یہ جلد سورہ یونس پر پہنچ کر ختم ہوتی ہے بعد ازاں اور کوئی جلد شائع نہیں ہوئی۔

واقعیوں جو کہ عمر بن کثیر امیر سن بن سہل کے ساتھ وابستہ تھا اس نے ایک مرتبہ قرآن کو لکھا کہ امیر حسن بعض اوقات تفسیر قرآن کے سلسلہ میں کوئی بات مجھ سے پوچھتا ہے اور میں جواب نہیں دے سکتا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس ضمن میں ایک کتاب تصنیف کر دیں۔ خزانہ نے اپنے اصحاب و تلامذہ کو مخاطب

کر کے کہا "آؤ میں تمہیں تفسیر قرآن پر مشتمل ایک کتاب لکھواؤں" فرما نے اس کام کے لیے ایک دن مقرر کر دیا۔ جب تلاذہ جمع ہو گئے تو فرما تشریح لائے۔ مسجد میں ایک شخص اذان لکھتا اور لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ فرما نے اسے مخاطب کر کے کہا "سورہ فاتحہ پڑھے تاکہ میں اس کی تفسیر بیان کروں" اسی طرح وہ شخص تلاوت کرتا اور فرما اس کی تفسیر اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کتاب تمام کو پہنچی ثعلب کا قول ہے کہ ایسا آج تک کسی نے نہیں کیا اور میرا خیال ہے کہ کوئی شخص اس پر اضافہ بھی نہ کر سکے گا۔

اب سوال یہ ہے کہ مندرجہ صدر بیان کی روشنی میں آیا۔ ہم یہ بات پورے وثوق و اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ فرما دعویٰ متوفی ۱۸۰ھ میں ادین شخص تھا جس نے قرآنی ترتیب کے مطابق پورے قرآن کریم کی تفسیر تحریر کی؟ نیز یہ کہ آیا فرما کے ہمیشہ مفسرین نے صرف حل مشکلات پر اکتفاء کیا تھا اور تفصیلاً قرآن کریم کی تفسیر قلم بند نہیں کی تھی؟

ایسا ہرگز نہیں اور ابن الندیم کی عبارت سے بھی حتمی طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگرچہ احمد بن معری نے اپنی کتاب ضحی الاسلام، ج ۲ ص ۱۴۱ پر اسی میلان درجمان کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے کہ فرما کی کتاب "معانی القرآن" ترتیب و تہذیب کے اعتبار سے ابو عبیدہ کی "مجاز القرآن" سے بڑی حد تک ملتی جلتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرما کو اس ضمن میں تقدم و ادبیت کا شرف حاصل نہیں۔

(التفسیر معالم حیات، ص ۳۱-۳۲)

علمائے سلف کے اقوال سے یوں معلوم ہے ————— اگرچہ اسے قطعی حتمی نہیں کہا جاسکتا کہ جملہ آیات و سورتوں کی تفسیر بالاستیعاب کا کام بہت پہلے شروع ہوا۔ اس کام کا آغاز دوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اوائل میں نہیں ہوا۔ ابن ابی ملیکہ کا قول ہے :-
 "میں نے دیکھا کہ مجاہد حضرت ابن عباسؓ سے قرآن کی تفسیر دریافت کر رہے تھے۔
 اور ان کے ہمراہ تختیاں بھی تھیں۔ ابن عباسؓ کہہ رہے تھے کہ کھٹے جاؤ۔ حتیٰ کہ مجاہد نے ابن عباسؓ سے پورے قرآن کریم کی تفسیر اخذ کر لی" (ابن جریر، ج ۱- ص ۳۰)

حافظ ابن حجر عسقلانی عطاء بن دینار مصری کے ترجمہ کے سلسلہ میں اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں رقمطراز ہیں:
 "احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ عطاء بن دینار صلحائے مصر میں سے ہیں۔ تفسیر کے سلسلہ میں عطاء

جو اقوال نقل کرتے ہیں وہ سعید بن جبیر کی کتاب سے مانوڑ ہیں۔ انہوں نے براہ راست سعید بن جبیر سے نہیں سنا۔

ابراہیم فرماتے ہیں :-

عطاء بن ابی ریحان نے سعید بن جبیر کی کتاب سے لیے ہیں عبد الملک بن مروان متوفی ۸۶ھ نے سعید بن جبیر کو قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے مانوڑ کیا تھا۔ آپ نے تعیل ارشاد کر دی۔ عطاء بن دینار کو یہ تفسیر کہیں سے مل گئی چنانچہ اس نے اس تفسیر کو مرسل سعید بن جبیر سے روایت کر لیا۔

مندرجہ صدر بیان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سعید بن جبیر نے تفسیر قرآن پر مشتمل ایک کتاب تحریر کی تھی۔ پھر عطاء بن دینار نے اس کتاب سے تفسیری اقوال روایت کیے۔ یہ بات مشہور ہے کہ، جناب نے جناب سعید بن جبیر کو باختلاف روایات ۹۲ھ یا ۹۵ھ میں شہید کر دیا تھا۔ نظریں لازماً سعید بن جبیر کی یہ کتاب مروان کی موت (۸۶ھ) سے قبل کی تالیف ہونی چاہیے۔

اسی طرح زینت الاعیان، ج ۲-۳ پر مرقوم ہے کہ شیخ المقترہ عمرو بن عبید نے حضرت حسن بصری سے روایت کر کے ایک تفسیر مرتب کی تھی۔ مشہور ہے کہ حضرت حسن بصری نے ۶۵ھ میں وفات پائی تھی۔

ہم نبل ازیں تحریر کر چکے ہیں کہ ابن جریر متوفی ۱۵۰ھ نے تین ضخیم اجزاء پر مشتمل ایک تفسیر لکھی تھی جس کو محمد بن ثور نے ان سے روایت کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی زندگی کے ساتھ قرآن کریم کا کس قدر گہرا ربط و تعلق ہے۔ اہل اسلام قرآن کریم سے شرعی احکام کا استنباط کرنے کے کس قدر دلدادہ تھے۔ اور اس کی کس قدر شدید ضرورت بھی تھی۔ تو یہ حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ تفسیر نویسی میں فراء، نحوی کو سبقت و اولیت کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ اس سے قبل اس کام کی داغ بیل پڑ چکی تھی۔ تحقیقی طور پر ہم یہ بتانے سے نا صاف ہیں کہ دراصل اس سعادت سے کون شخص بہرہ اندوز ہوا۔ عصر تدوین سے لے کر تفسیر پر جو کام ہوا تھا۔ اگر ہم تک پہنچ جاتا تو ہم بسہولت اس بات کی تعیین کر سکتے تھے کہ اولین مفسر کون تھا جس نے اس انداز پر پہلے پہل تفسیر قرآن پر مشتمل کتاب تالیف کی۔

چوتھا دور :- تفسیر نویسی تیسرے مرحلہ پر پہنچ کر ٹھہری نہیں رہی بلکہ چوتھے مرحلہ میں داخل

ہو گئی۔ تاہم وہ تفسیر بالماثور کے دائرہ سے باہر نہ نکلی۔ صرف یہ فرق پڑا کہ روایت بالاسناد کی قید باقی نہ رہی۔ اب تفسیر میں بکثرت تصانیف منظر عام پر آنے لگیں۔ اسناد میں اختصار کیا جانے لگا۔ جو تفسیری اقوال مفسرین سلف سے منقول تھے ان کی جانب منسوب کیے بغیر ان کو نقل و روایت کیا جانے لگا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تفسیر میں وضع و اختراع کا عمل دخل شروع ہوا۔ اقوال صحیحہ و سقیمہ میں فرق و امتیاز ممکن نہ رہا۔ ان کتب تفسیر کا ناظر اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا کہ ان میں جو کچھ بھی ہے صحیح ہے۔ چنانچہ متاخرین بلاشبہ اسرائیلیات کے طے بار کو ایک حقیقت ثابتہ سمجھ کر نقل کرتے گئے۔ اس سے تفسیر میں موضوعات اور اسرائیلیات کا دروازہ چرپٹ کھل گیا۔

ان مفسرین میں وہ بھی تھے جن کا مقصد وحید مختلف اقوال و آثار کو جمع کرنا تھا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جب بھی انہیں کسی قول کا پتہ چلتا یا کوئی نئی بات سوجھتی تو فوراً اسے منبط تحریر میں لے آتے ان کے پیچھے آنے والے ان اقوال کو بلاسوچے سمجھے نقل کر دیتے اور مطلقاً اس جانب توجہ نہ دیتے، کہ مفسرین سلف نے اس ضمن میں کیا لکھا ہے۔ اس کا محرک ان کا یہ حسن ظن تھا کہ ان کتب میں جو کچھ بھی مرقوم ہے وہ صحیح اور درست ہے۔ کثرت نقل کے وہ جس قدر لرہیں تھے اس کی دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ بعض مفسرین نے ”غَيْرَ الْمَقْصُودِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْفَضْلَيْنِ“ کی تفسیر میں دس اقوال نقل کیے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کرام سے اس کی جو تفسیر منقول ہے وہ یہود و نصاریٰ ہی ہے۔ حتیٰ کہ محدث ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ اس میں سرے سے مفسرین کے مابین کوئی اختلاف موجود ہی نہیں۔ (الاتقان، ج ۲، ص ۱۹۰)

پانچواں دور :

اب تفسیر کا علم پانچویں مرحلہ میں داخل ہو گیا۔ یہ تفسیر کا طویل ترین تاریخی دور ہے جو عباسی خلافت سے شروع ہو کر عصر حاضر تک پھیلا ہوا ہے۔ قبل ازین تفسیر کا انحصار منقول روایات پر تھا۔ اس دور میں عقل و نقل میں باہم آمیزش و اختلاط کا آغاز ہوا مگر یہ رفتہ رفتہ ہوا، فوراً نہیں ہوا۔ عقلی تفسیر میں تدریج

عقلی تفسیر کا آغاز پہلے پہل انفرادی فہم و ادراک سے ہوا اور اس کی روشنی میں بعض اقوال کو بعض کے مقابلہ میں ترجیح دی جانے لگی۔ اس کو بظہر استحضار دیکھا گیا۔ بشرطیکہ عقلی دلیل کا انحصار

عربی لغت اور قرآنی کلمات کے معنی و مفہوم پر جو۔ پھر مختلف و متنوع علوم و معارف اور تضاد افکار و آراء کے زیر اثر اس کے دائرہ میں دست آئی گئی۔ نتیجہ کے طور پر ایسی کتب تفسیر منظر عام پر آئیں جن میں تفسیر کے سوا اور سب کچھ موجود تھا۔

اس دور میں صرف و نحو اور عربی لغت سے متعلق علوم مدون ہوئے۔ فقہی مذاہب و مذاہمک ظہور پذیر ہوئے۔ کلامی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ عباسی خلافت میں گروہی تعصب اپنی انتہا کو پہنچ گیا مختلف اسلامی فرقے اپنے مخصوص افکار و عقائد کی دعوت دینے لگے۔ فلسفے سے متعلق کتب کا ترجمہ کیا گیا۔ یہ سب علوم اور ان کے متعلقات تفسیر کے ساتھ گھل گئے۔ جس کے نتیجے میں نقلی پہلو مطلوب اور عقلی پہلو غالب ہو گیا۔ مگر بایں ہمہ غلبہ عقلیت ان کتب تفسیر میں اسباب نزول وغیرہ سے متعلق کچھ عقائد بھی شامل تھے۔

علم تفسیر کا یہ ارتقائی عمل تدریجی طور پر جاری رہا اور کتب تفسیر مختلف رجحانات و میلانات کا مرکز و محور بن گئیں۔ تفسیر کے سلسلہ میں علمی اصلاحات وضع ہوئیں اور قرآنی عبارتوں سے مذہبی عقائد کو ثابت کیا جانے لگا۔ تفسیر قرآن کے پردہ میں مسلمانوں کے سامنے فلسفیانہ تہذیب تہذیب و ثقافت کے آئنا کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے پہلو بہ پہلو صوفیانہ نظریات بھی ان میں سمورے گئے۔ باطل مذاہب کے گمراہانہ عقائد و افکار نے بھی کتب تفسیر میں جگہ پائی۔

تفسیر کے ساتھ ان علوم کے استخراج و اختلاط کے وجوہ مندرجہ ذیل تھے :-

۱۔ علوم ادیبیہ :

جب اسلامی فتوحات کے دائرہ میں دست پیدا ہوئی۔ اور عرب و عجم باہم گھل گئے تو عربی زبان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہی۔ اس لیے الفاظ قرآن کو سمجھنے اور اس کی بلاغت سے آگاہ و آشنا ہونے کے لیے ان علوم کی ضرورت پیش آئی۔

۲۔ علوم عقلیہ :

آغاز اسلام میں علماء نے جن فلسفیانہ کتب کا عربی میں ترجمہ کیا تھا، ان کو تفسیر کے ساتھ ملانے کی ضرورت دو وجوہ سے پیش آئی۔ ایک تو اس لیے کہ فلسفیانہ افکار کی تائید و حمایت کی جائے۔ اور دوسرے ان کی تردید و ابطال کے لیے۔

۳ - علوم کلامیہ :

اس دور میں مختلف فرتے پیدا ہو گئے تھے اور وہ اپنے نظریات و افکار کے اثبات کے سلسلہ میں قرآنی آیات سے استدلال کرنے لگے۔ اس لیے علماء نے قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے ان کے گمراہانہ عقائد و افکار کی تردید کی۔ بدین وجہ علم الکلام کے مسائل تفسیر کے ساتھ مخلوط ہو گئے۔

۴ - علوم فقہیہ :

اس دور میں بڑے بڑے فقہاء پیدا ہوئے۔ مفسرین نے قرآن کریم سے فقہی احکام کا استنباط کرنے کے لیے فقہی اصول و ضوابط کو تفسیر قرآن کے ساتھ ملا جلا دیا۔

ہم دانشگاہ الفاظ میں اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی علم و فن میں کمال رکھتا تھا اس کی تفسیر اسی علم تک محدود رہ گئی۔ جو مفسرین علم نحو میں مہارت رکھتے تھے وہ صرف اشعار اور ان کے مختلف وجوہ بیان کرنے میں لگ گئے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ نحو کے مسائل و فروع اور اختلافات کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ زجاج نے اپنی تفسیر میں واحدی نے تفسیر البیضا میں اور ابویحییٰ نے "البحر المحیط" میں نحوی مہارت ہی کا مظاہرہ کیا ہے۔

جو لوگ علوم عقلیہ میں بصیرت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتب تفسیر کو علماء و فلاسفہ کے اقوال کا پلندہ بنا دیا۔ اس کی مثال امام فخر الدین رازی کی معارج العیب ہے جن فقہاء نے تفسیریں تحریر کی تھیں وہ صرف فقہی فروعات کے دلائل ذکر کرنے تک محدود رہے۔ مثلاً جصاص اور قرطبی وغیرہما۔ مورخین نے جو تفسیر لکھیں ان کو صحیح و سقیم واقعات و اجبار سے بھر دیا۔ مثلاً ثعلبی اور خازن کی تفسیریں۔

اصحاب بدعت نے جو تفسیر لکھیں ان میں کلام الہی کی تاویلات رکیکر کر کے ان کو اپنے باطل عقائد و افکار کے سانچہ میں ڈھالنے کی سعی لامحالہ کی۔ مثلاً معتزلہ میں سے زبانی جبائی قاضی ابو عبد اللہ اور زعفرانی اور شیعہ اثنا عشریہ میں سے طبرسی اور ماحسن کاشی وغیرہ۔

صوفیاء نے ترغیب و ترہیب کو نصب العین ٹھہرا کر قرآنی آیات سے ایسے اشارات کا استخراج کیا جو ان کے مسلک و مشرب اور وجدان و ریاضت سے میل کھاتے تھے۔ ان میں ابن عربی اور ابو عبد الرحمن اسکلی کے اسماء قابل ذکر ہیں۔

خلاصہ یہ کہ جو شخص بھی کسی فن یا مذہب و مسلک سے دلچسپی رکھتا تھا اس نے قرآن عزیز کو اپنے مذہب و فن کے قالب میں ڈھالنے کی سر توڑ کوشش کی۔ یہ علمی و عقلی رجحان و میلان جاری رہا۔ حتیٰ کہ بعض ادوار میں اس کو بڑی قبولیت حاصل ہوئی۔ عصر حاضر میں بھی ایسے مفسر موجود ہیں جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن حکیم کو ظاہر و باطن علوم عصریہ کا گنجینہ ثابت کر دیں۔ ان کے نزدیک گویا قرآن کے وجود و اعجاز میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ زمانہ کے ساتھ چل سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ بڑی زیادتی ہے جس سے قرآن اپنے ہدف و نصب العین سے نکل جاتا ہے جس کے لیے اسے اتارا گیا تھا۔ آگے چل کر ہم اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔

عقلی تفسیر کا جو سیلاب اُمتدا آیا تھا یہ طغیانی کی شدت کے باوصف نقلی تفسیر کو صغیر کائنات سے محو کر سکا۔ بخلاف ازیں مختلف فرقوں و عصور میں ایسے علماء بھی موجود تھے جو اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے خالص نقلی انداز میں صحیح و سقیم میں امتیاز کیے بغیر قرآن کی تفسیر لکھی۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی نے "الدر المنثور" میں اسی طرح کیا۔

تفسیر کے مختلف پہلو:

اس دور میں ایسے علماء بھی منظر عام پر آئے جنہوں نے تفسیر کے سلسلہ میں نظر و فکر کے دائرہ کو محدود کر دیا اور اس کے مختلف و متنوع گوشوں میں سے صرف ایک پہلو پر ساری توجہ مرکوز کر دی۔ اس ضمن میں چند علماء کے نام اور ان کے کام کا ذکر کیا جاتا ہے۔

- ۱ - امام ابن قیم نے ایک مستقل کتاب اقسام القرآن سے متعلق لکھی ہے، اس کا نام "التبسیان فی اقسام القرآن" ہے۔
 - ۲ - ابو عبیدہ نے مجاز القرآن پر ایک کتاب تصنیف کی۔
 - ۳ - امام راجب الصفحانی نے مفردات القرآن کے موضوع پر ایک کتاب لکھی۔
 - ۴ - ابو جعفر النحاس نے تاریخ و مسوغ کے بارے میں ایک کتاب رقم کی۔
 - ۵ - ابوالحسن داحدی نے اسباب نزول پر ایک مستقل کتاب قلمبند کی۔
 - ۶ - الجصاص نے احکام القرآن کے موضوع سے متعلق ایک کتاب تحریر کی۔
- علاوہ ازیں اور بھی بہت سے علماء تھے جنہوں نے قرآن عزیز کے ایک خاص موضوع کو اپنی توجہات

کا مرکز و محور قرار دے کر اس کے متفرقات کو یکجا کر دیا اور اس کو درس و بحث کا خصوصی موضوع ٹھہرایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم مفسرین نے تفسیر میں اس حد تک وسعت پیدا کر دی تھی کہ تم قرآن کے سلسلہ میں بعد میں آنے والے مفسرین کے لیے کسی محنت و کاوش کی ضرورت باقی نہ رہی۔ چنانچہ کسی زحمت کے بغیر انہوں نے کتب تفسیر مدون کر لیں۔ بعض مفسرین نے دوسروں کا تفسیری مواد لے کر اس پر اضافہ کر دیا بعض نے اختصار کیا۔ بعض نے دوسروں کی تفاسیر پر حواشی تحریر کیے۔ کچھ ایسے متاخرین بھی تھے جنہوں نے متقدمین کی تصانیف کے پیچیدہ مقامات کو واضح کیا یا دوسروں کی کتب تفسیر کو اعتراضات کا نشانہ بنایا یاں ہمہ تفسیری رجحانات اور ان کے رنگ و صنگ بدستور تغیر پذیر رہے۔

عصر حاضر میں تفسیر پر ادبی و اجتماعی طرز و انداز کا غلبہ ہے۔ اس دور میں کچھ ایسی تفاسیر بھی منظر عام پر آئی ہیں جن میں تکلف و تفتیح اور اغراق و مبالغہ کا عنصر نمایاں ہے۔ ہم آگے چل کر عصر حاضر کے تفسیری ادب پر سر حاصل تبصرہ کریں گے۔

یہ تھی تفسیر کی حالت عصرِ تدوین میں اور یہ ہیں وہ ارتقائی مراحل جن سے گذر کر یہ فن اپنے آغازِ ظہور سے ہمارے زمانہ تک پہنچا۔ یہ بتانا بے حد مشکل ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں تفسیر کا خصوصی طرز و منہاج کیا تھا؟ یہ علم ہر دور میں کن خصوصیات و سیلانوں کا حامل رہا؟ اور ہر عصر و عہد میں اس کا خاص رنگ و صنگ کیا تھا؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ قرونِ سابقہ میں تفسیر پر جو کام ہوا تھا اس کا اکثر حصہ گردشِ دوران کی نذر ہو گیا اور بہت کم مواد نقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ اس ضمن میں جو کام ہوا تھا، وہ بڑا کثیر المقاصد تھا اور اس کے دائرہ میں بڑی وسعت پائی جاتی تھی۔ جو کتب تفسیر ماضی میں لکھی گئی تھیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے نام سن کر ہی آدمی پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ ان کے لکھنے والے ایسے اشخاص و رجال تھے جو علمی دنیا میں بڑی اہمیت کے حامل تھے۔

مشتے نمونہ از خردارے کے طور پر چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

- ۱ - دوسری صدی ہجری میں عمرو بن عبید معزنی نے بروایت حسن بصری قرآن کریم کی ایک تفسیر مرتب کی تھی۔ ابن خلکان نے دنیات الاعیان، ج ۲، ص ۱۰۳ پر اس تفسیر کا ذکر کیا ہے؛
- ۲ - ابو الحسن اشعری نے ایک تفسیر "المختزن" نامی تحریر کی تھی۔ جندب عین نے اپنے گراہانہ افکار کے

اثبات کے لیے جن آیات قرآنیہ سے استدلال کیا تھا انہوں نے اس کا جواب دیا اور انہی آیات سے اہل

حق کے عقائد کو ثابت کیا۔ (تیسرین کذب المفسری، ص ۱۳۳)

المقرئیں لکھنے ہیں کہ یہ تفسیر ستر جلدوں میں ہے۔ بقول ابن عربی اس کی پانچ صد مجلدات ہیں۔ محدث ابن فورک اس کتاب سے بجزرت اقوال نقل کرتے ہیں۔ تاج الدین السبکی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ایک جلد دیکھی ہے۔

۳ - امام جوینی نے ایک ضخیم تفسیر مرتب کی تھی جس میں ہر آیت کی دس طرح تفسیر کی گئی تھی۔ (حوالہ مذکور ص ۲۵)

۴ - امام تیسری کی جانب بھی ایک ضخیم تفسیر منسوب ہے۔

۵ - علماء کا بیان ہے کہ ابن الانباری کو ایک سو بیس کتب تفسیر کے نام یاد تھے اور ان کی سندات بھی محفوظ تھیں۔

۶ - ابوہلال عسکری نے "کتاب الحاسن فی تفسیر القرآن" تحریر کی تھی جو پانچ جلدوں پر مشتمل تھی

(التفسیر معالم حیاتہ، ص ۱۵)

علاوہ ازیں بے شمار کتب تفسیر قرآن کے سلسلہ میں مرتب کی گئی تھی۔

برہر کیف جب ماضی کی اکثر کتب تفسیر کا آج کہیں وجود نہیں ملتا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تاریخی اہوار کے پیش نظر ہر دور میں لکھی جانے والی تفاسیر پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے، جب وہ تمام کتب تفاسیر ہمارے سامنے موجود ہوں جو شروع سے لے کر تاہنوز تحریر کی گئی ہیں اور تا وقت بھی کر ان کا تفصیلی مطالعہ کیا جا سکے۔ مگر افسوس کہ ان میں سے کوئی چیز بھی مہربانی نہیں۔ تاہم مفسرین کے رجحانات و میلانات دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اختلافات مشہور و آرمزہ

کے باوصف ان میں بعض باتیں قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہیں۔ مثلاً جس طرح متقدمین میں سے بعض نے تفسیر بالماثور کے طرز پر اپنی کتب تفسیر مرتب کی تھیں۔ اسی طرح متاخرین میں بھی ایسے مفسر موجود ہیں جنہوں نے اس طرز و انداز کو اپنایا۔ علیٰ ہذا القیاس اگر متقدمین میں سے بعض مفسرین نے اشارہ کے طرز و انداز پر تفسیر مرتب کی تھی تو بعض متاخرین بھی اسی ڈگر پر گامزن ہوئے۔ اسی طرح اگر متقدمین میں سے بعض نے قرآن کریم کو اپنے اٹکار و عقائد کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کی تھی، تو بعض متاخرین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ خلاصہ یہ کہ زمانی اختلاف کے باوجود مفسرین کے مسلک و مشرب میں

بڑی حد تک بگاڑ گئی پائی جاتی ہے اور وہ مختلف تفسیری پہلوؤں میں سے ایک خاص پہلو پر متفق نظر آتے ہیں۔
 بنا بریں ہر تاریخی دور کی کتب تفسیر پر نقد و تبصرہ کرنے کے بجائے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مفسرین
 نے اپنی تفاسیر میں کون سے تفسیری رجحانات اختیار کیے تھے۔ پھر بتائیں گے کہ تفسیر قرآن سے متعلق کوئی
 مشہور کتب تالیف ہوئی تھیں۔ اس ضمن میں پہلے ان مشہور ترین کتب تفسیر کا ذکر کیا جائے گا جو تفسیر بالماثور
 کے انداز پر مرتب کی گئی تھیں۔ پھر یہ کہ تفسیر بالرائی کے اصول پر کون سی تفاسیر لکھی گئیں۔ اسی ضمن میں ان
 تفاسیر کا ذکر بھی کیا جائے گا جو باطل فرقوں کے علماء نے مرتب کی تھیں۔ پھر علی الترتیب صوبیہ فقہاء اور
 فلاسفہ کی کتب تفسیر نیز علمی و ادبی تفاسیر کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آخر میں ہم یہ بتائیں گے کہ عصر حاضر میں
 کون سا تفسیری ادب منظر عام پر آیا اور اس کا معیار و مدار کیا ہے۔

فصل اول

تفسیر بالماثور

تفسیر بالماثور کا مفہوم :

تفسیر بالماثور کے مفہوم میں خاصی وسعت پائی جاتی ہے۔ کسی آیت کا معنی و مفہوم اگر قرآن کریم ہی کی کسی آیت سے واضح ہوتا ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نیز صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار سے اس پر روشنی پڑتی ہو تو اس کا نام تفسیر بالماثور (منقول تفسیر) ہے۔ آثارِ تابعین کے بارے میں علماء مختلف الرائی ہیں کہ آیا وہ تفسیر بالماثور کے قبیل سے ہے یا تفسیر بالرائی میں شامل ہے۔ مگر ہمارے خیال کے مطابق ان کو تفسیر منقول ہی میں شامل کرنا زیادہ قرین عقل و صواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کتب تفسیر منقولات تک محدود ہیں مثلاً تفسیر ابن جریر ان میں صرف احادیث نبویہ و اقوال صحابہ ہی کو شامل نہیں کیا گیا بلکہ آثارِ تابعین کو بھی جگہ دی گئی ہے۔

تفسیر بالماثور کا تدریجی ارتقاء :

تفسیر بالماثور کا تدریجی ارتقاء اس کے دونوں ادوار ————— دودر روایت و عصر تابعین ————— میں جاری رہا۔ جہاں تک دودر روایت کا تعلق ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات قرآن کی وضاحت فرمادیا کرتے تھے۔ پھر صحابہ باہم اس کو ایک دوسرے سے نقل و روایت کرتے اور آگے تابعین تک پہنچاتے۔

صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو احادیث صحیحہ یا اپنی رائے و اجتہاد کے پیش نظر تفسیر قرآن کے سلسلہ میں گفتگو کرتے تھے۔ مگر رائے و اجتہاد سے تنازع و ناوردی کا ہی کام لیا جاتا تھا۔ اس کا محرک عمدہ رسالت کا دینی ذوق و شوق اور حضرات صحابہ کا بلند ذہنی و عقلی مقام تھا۔ مزید برآں ان دنوں عملی زندگی کی ضروریات کا دائرہ نہایت محدود تھا۔ صحابہ خوب سمجھتے تھے کہ تفسیر قرآن کے معنی اس امر کی شہادت ہے کہ خداوند کریم نے فلاں لفظ سے یہ مفہوم مراد لیا ہے۔

آگے چل کر تابعین میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے تفسیر قرآن کو اپنی زندگی کا واحد نصب العین قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر احادیث مل سکیں ان کو جمع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ کو یکجا کر کے ان پر اسی حد تک اپنی رائے و اجتہاد کا اضافہ کیا جس قدر قرآن کریم میں غموض و حفا پیدا ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمدہ رسالت و محضر صحابہ سے جس قدر دوری ہوتی جاتی تھی، اُسی قدر قرآن کے معانی و مطالب لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے جا رہے تھے۔

پھر اتباع تابعین کا دور آیا اور انہوں نے تابعین کے اقوال و آثار کے اخذ و نقل کا اہتمام کیا۔ اس دور میں جو مزید غموض قرآن کے معنی و مفہوم میں پیدا ہو گیا تھا انہوں نے اس کے ازالہ کیلئے مساعی جمیلہ انجام دیں۔ اسی طرح اگلے تاریخی ادوار میں یہ تفسیری سرمایہ بڑھنا چلا گیا اور ہر پچھلا طبقہ اپنے سابقین کے اقوال و آثار کو روایت کرتا رہا۔

پھر عصر مدین کا آغاز ہوا، اور درست وہی ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ سب سے پہلے تفسیر بالماثور مدون ہوئی۔ اس کا ارتقاء تدریجاً ہوا جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔ اصحاب الحدیث اولین بزرگ تھے۔ جنہوں نے اس کا ذخیرہ کی طرح ڈالی۔ مختلف علوم کی تاریخ بیان کرنے والے علماء نے حسب عادت جہاں ہر علم کو اس کے واضع و مؤسس کی جانب منسوب کیا ہے وہاں علم تفسیر کا واضع و معنی جامع نہ کہ مدقون، امام دارالہجرات مالک بن انس اصبھی کو قرار دیا ہے۔ (المبادئی النصریہ، ص ۲۶)

اس حد تک تفسیر کی کوئی مخصوص صورت نہ تھی اور نہ ہی اس کو جداگانہ طور پر مرتب کیا گیا تھا۔ خلفائے ازیں کتب حدیث میں تفسیری روایات کے لیے ایک باب مخصوص کر دیا گیا تھا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار کو یکجا کر دیا جاتا تھا۔ آگے چل کر علم تفسیر حدیث سے الگ ہو گیا اور اس کو جداگانہ تالیفات کا موضوع قرار دیا گیا۔ اس سلسلہ میں اولین رسالہ جو ہمارے علم میں آیا ہے وہ ہے جس کو علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔ پھر چند اجزاء خصوصی طور پر علم تفسیر میں مرتب کیے گئے۔ مثلاً وہ مجزوء جو ابو روق کی جانب منسوب ہے۔ یا وہ اجزاء وہ گانہ جن کو محمد بن ثور نے ابن جریج سے نقل کیا ہے۔ (الاتقان، ج ۲، ص ۸۸)

پھر اس کے بعد تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ایسی ضخیم و عظیم کتب منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئیں جنہوں نے سابقہ تمام تفسیری ذخیرہ کو اپنے دامن میں سمویا۔ ان میں وہ تمام تفسیری اقوال شامل کر لیے گئے

تہذیبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز صحابہ و تابعین کرام سے مروی تھے۔ مثال کے طور پر ابن جریر طبری کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کچھ یوں دکھائی دیتا ہے کہ ابن جریر اور ان کے ہم نواؤں نے اسناد کا اہتمام کرنے کے باوجود نقل و روایت میں مبالغہ آمیزی سے کام لیا تھا۔

اس کی مدد یہ ہے کہ انہوں نے ناقابل اعتماد اقوال و آثار کو بھی اپنی کتب تفسیر میں جگہ دے دی یہ امر پیش نظر رہے کہ مفسر ابن جریر اور ان کے متبعین نے اگرچہ تفسیر کو ایک مستقل فن کی حیثیت دی تھی تاہم ان کے عصر و عہد میں اور اس کے بعد ایسے محدثین بھی موجود تھے جو بدستور تفسیر قرآن کو اپنی جمع کردہ کتب حدیث کے باب التفسیر میں جگہ دیتے رہے۔

بعد ازاں ایسے مفسرین آئے جنہوں نے تفسیر بالماثور کو مدقن کیا، مگر اسناد کو حذف کر دیا۔ انہوں نے صحیح و علیل میں فرق کیے بغیر بکثرت تفسیری اقوال اپنی تصنیفات میں شامل کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کتب تفسیر کا قاری ان کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگا کہ مبادا ان میں مندرجہ اقوال بوضوفاً ہوں۔ پھر اس کے بعد زندگی کے دھارے بدل گئے۔ قبل ازیں صرف تفسیر بالماثور پر انحصار کیا جاتا تھا اب رفتہ رفتہ تفسیر بالرئی کا چرچا ہونے لگا۔

تفسیر منقول میں شخصی رجحانات :

یہ امر محتاج بیان نہیں کہ ہر آیت کی تفسیر کرنے والا اس پر اپنا رنگ جماتا ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص کسی عبارت کا مطلب و مفہوم اپنی ذہنی و عقلی حدود کے اندر رہ کر ہی سمجھتا ہے اور اپنی فکری پرواز کی حد تک ہی اس کی تفسیر و تفسیر کرتا ہے۔ یہ ایسا ضابطہ ہے جس کے آثار ہمیں کتب تفسیر میں بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ کتب تفسیر میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں جس پر اس کے مصنف کے ذاتی رجحانات و امتیازات صاف چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہوں۔

مگر ایک نمایاں حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو تفسیر تفسیر بالرئی کے اصول پر لکھی گئی ہیں، ان پر مصنف کے ذاتی افکار و آراء کی چھاپ تفسیر بالماثور پر مشتمل کتب کی نسبت زیادہ واضح ہوتی ہے۔ البتہ جب ہم نظر تحقیق دیکھتے ہیں کہ ایک مفسر کسی آیت کا مفہوم اپنی عقل و فکر کے مطابق متعین کرنا ہے، اور پھر اس کی تائید و حمایت میں منقول اقوال و آثار کو یکجا کرتا ہے اور جو اقوال اس مفہوم سے لگان نہیں کھاتے ان کو رد کر دیتا ہے۔ اس سے مفسر کے ذاتی میلانات کا صاف پتہ چل جاتا ہے۔

چونکہ قدیم مفسرین اسباب تکوین آغاز تخلیق اور تاریخ انسانیت میں ہمیشہ آنے والے عظیم نعمات و معادلات کے بڑے مشتاق تھے۔ اس لیے بقول ابن خلدون اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتب تفسیر میں اسرائیلیات کی بھرمار ہو گئی اور عام طور سے ان کو نقل کیا جانے لگا۔ بلاشبہ یہ ایک شخصی امتیاز تھا، جو قرآن اول میں نمایاں ہوا۔ اور وہ تمام مفسرین اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ جنہوں نے اسرائیلی روایات کو پذیرائی بخشی اور ان کی روشنی میں قرآنی آیات کی تفسیر لکھی۔ (التفسیر معالم حیاتہ، ص ۲۸)

نقل تفسیر میں ایک انفرادی دشمنی اور ابھرا۔ اور وہ یہ کہ جو مفسرین روایات و رجال کے نقد و جرح میں مہارت و بصیرت رکھتے تھے اور اسباب ضعف پر ان کی کڑی نگاہ تھی۔ ان کی کتب تفسیر میں یہ امتیاز جھلکتا ہوا مسامحہ دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی مرقیات میں صحت کا التزام رکھتے ہیں اور کسی ضعیف و علیل روایت کو اپنی کتب تفسیر میں جگہ نہیں دیتے۔ بخلاف انہیں جو مفسرین اسباب ضعف فی الروایت سے بے گناہ اور نقد و رجال و ردوۃ کی قدرت و استطاعت سے بے بہرہ تھے وہ طلب لیل ثابت ہوئے اور صحیح و سقیم میں فرق و امتیاز ردار کھے بغیر اپنی تفاسیر کو ہر طرح کے اقوال سے بھر دیا اس سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آئی کہ منقول تفسیر پر بھی مفسر کے ذاتی نظریات و افکار کی چھاپ نمایاں ہوتی تھی۔

تفسیری روایات میں ضعف کے اسباب :

سابقہ بیانات سے واضح ہوا کہ تفسیر بالاثور کی اقسام حسب ذیل ہیں :-

۱۔ تفسیر القرآن بالقرآن -

۲۔ تفسیر القرآن بالحدیث -

۳۔ تفسیر قرآن باقوال صحابہ و تابعین -

مذکورہ مدار اقسام میں سے پہلی اور دوسری قسم کی تفسیر بلا نزاع و خلاف واجب القبول ہے۔ اس لیے کہ یہ تنگ و ضعیف سے بالا ہے۔ باقی رہیں وہ اعاذیث جن کے متن و سند میں ضعف و خلل پایا جاتا ہو تو وہ ہرگز قابل اعتماد نہیں جہاں تک صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار کا تعلق ہے۔ ان میں اس حد تک ضعف پیدا ہو گیا تھا کہ ان پر اعتماد و مسکن نہ رہتا اگر خداوند کریم اس عظیم علمی درخت کو شکوک و شبہات کی آمیزش سے محفوظ رکھنے کا اہتمام نہ کرتا۔ مگر نواہ کہ ایسے نقاد حدیث پیدا ہوئے جنہوں نے بال کی

کمال اتاڑ کر صحیح و سقیم کو الگ کر دیا اور اقوال صحیحہ اس قدر ذخیرہ جمع کر دیا جو کسی طرح بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ تاہم کثیر کتب تفسیر ایسی بھی ہیں جن میں ہنوز ہر قسم کے اقوال صحیحہ و سقیمہ موجود ہیں۔ ان کتب کے جامعین کا نصب العین متفرق اقوال کو یکجا کرنا تھا ان کی چھان پھٹک نہیں۔

تفسیری اقوال کے نقد و تبصرہ کا سب سے بڑا عامل و محرک ان کی حد اعتدال سے بڑھی ہوئی کثرت تھی خصوصاً حضرت ابن عباس و علی رضی اللہ عنہما سے تو ان گنت روایات منقول تھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :-

”حضرت ابن عباس سے صرف تین تفسیری روایات ثابت ہیں“ (الاتقان ج ۲ ص ۱۸۹)

امام شافعی کے مذکورہ صدر قول سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ نقلی تفسیر میں جھوٹی اور بناوٹی روایات کی آمیزش کس حد تک تھی۔

اسباب ضعف :-

ہمارے خیال میں تفسیر بالماثور کی نقل و روایت میں ضعف کے اسباب تین تھے۔

۱۔ موضوع روایات کی بھرمار۔

۲۔ اسرائیلیات کی آمیزش۔

۳۔ حذف اسانید۔

اب ہم ان تینوں اسباب و محرکات پر تفصیل روشنی ڈالیں گے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ تفسیری روایات کو ناقابل اعتماد بنانے کے سلسلہ میں ان میں سے ہر سبب کس حد تک مؤثر ثابت ہوا۔

۱۔ وضع فی التفسیر

وضع کا آغاز اور اس کے اسباب اثرات

تفسیر میں وضع کا آغاز :

تفسیر قرآن میں وضع کا آغاز حدیث کے ساتھ ہی ہوا۔ اس لیے کہ ابتدائی مرحلہ میں حدیث و تفسیر کے مابین کوئی فرق و امتیاز تھا ہی نہیں۔ جس طرح احادیث نبویہ صحیح بھی ہیں، احسن بھی اور ضعیف بھی اور ان کے رُواة درجہ اول میں سے بعض ثقہ ہیں اور بعض مشکوک و وقوع۔ اسی طرح تفسیری روایات اور ان کے نقل کرنے والے معتزین کا بھی یہی حال ہے۔

وضع کا آغاز ۴۴ھ میں اس وقت ہوا جب مسلمانوں میں سیاسی اختلافات کی بنا پر ہی اور وہ شیعہ خوارج اور عوام کے فرقوں میں بٹ گئے۔ اس دور میں ایسے اصحاب بدعت نے سر نکالا جنہوں نے اپنی اختراع کردہ بدعات کو رواج دینے کے لیے تعصب سے کام لینا شروع کیا۔ بعض لوگوں نے مسلمانوں کو دام فریب میں پھنسانے اور گمراہ کرنے کے لیے بظاہر اسلام کا بادہ اڑھ لیا اور دراصل کافر کے کافر ہے۔ انہوں نے اپنی اغراض خبیثہ کو بروئے کار لانے کے لیے جھوٹی روایات گھڑنے کا مذموم دھندا شروع کر دیا۔

اسباب وضع :

وضع کے متعدد اسباب تھے :-

۱۔ گروہی تعصب :-

ان میں سے ایک سبب گروہی تعصب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امت ان دنوں مختلف و متنوع فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک طرف شیعہ نے حبیب علی میں غلو سے کام لینا شروع کیا۔ دوسری جانب خوارج ان کے دشمن بن گئے۔ جمہور اہل اسلام نے ان دونوں کے خلاف مسلک اعتدال کو اختیار کیا اور ان دونوں میں کسی سے بھی متاثر نہ ہوئے۔ ان فرقوں کی مقدور بھریہ کوشش رہی کہ کسی طرح اپنے عقیدہ کو

قرآن سے ثابت کریں۔ چنانچہ شیعہ نے اپنے مذہب کی تائید و حمایت میں بکثرت تفسیری اقوال گھڑ کر نبی کریمؐ، حضرت علیؑ اور اہل بیتؑ کی جانب منسوب کر دیے۔ خوارج نے بھی یوں ہی کیا۔

موضوع روایات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی جانب منسوب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی ترویج و اشاعت اور قبولیت میں اضافہ ہو۔ اس لیے کہ کسی روایت کو آنحضرتؐ اور صحابہ کی جانب منسوب کرنے سے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جب کہ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔

۲۔ سیاسی مسلک :

سیاسی مذہب و مسلک بھی تفسیری اقوال کے وضع کے محرکات میں سے ایک ہے۔ جودیکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ و ابن عباس سے جس قدر تفسیری روایات منقول ہیں ان کی حد سے بڑھی ہوئی کثرت ہمیں یہ بات کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ دوسروں کی نسبت ان کی طرف زیادہ من گھڑت اقوال کو منسوب کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اکابر خاندان سے وابستہ تھے۔ اس لیے روایات کو ان کی جانب منسوب کرنے سے ان کی قدر و قیمت کا بڑھ جانا ایک لازمی امر تھا۔ جب کہ دوسروں کی جانب منسوب کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ مزید براں شیعہ کو حضرت علیؑ کے ساتھ جو تعلق خاطر تھا وہ کسی اور کے ساتھ ہرگز نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے آپ کی جانب ایسے تفسیری اقوال کو منسوب کر دیا جن کی بنا پر شیعہ کے خیال میں حضرت علیؑ کی عزت و عظمت میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ جو عباسی خلفاء کے جد امجد تھے اس لیے ایسے لوگ بھی منظر عام پر آئے جو ابن عباس سے بکثرت روایات نقل و روایت کر کے عباسی خلفاء کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی طرز و انداز بڑی حد تک وضع اقوال پر اثر انداز ہوا تھا۔

۳۔ جذبہ انتقام :

تفسیری روایات کے وضع کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ دشمنانِ دین جو حرب و پیکار اور دہل و برہان کے ذریعہ اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے تھے۔ وہ فریب دہی کے لیے اسلام کا باوجود اٹھ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے حدیثیں وضع کرنے لگے۔ وضع کے اثرات = جو کثیر تفسیری اقوال اعداء اسلام کی مذہبِ مساعی سے تفسیر قرآن میں در آئے

تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جلیل القدر علمائے سلف نے جو ہمیشہ قیمت تفسیر کی ذخیرہ چھوڑا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے کہ جو شکوک و شبہات اس میں پیدا ہو گئے تھے اس کے نتیجہ میں یہ پورا قیمتی ورثہ ناقابل اعتماد ٹھہرا اور جس روایت میں کچھ بھی ضعیف ہوتا اس کو رد کیا جانے لگا وہ بذات خود صحیح ہی کیوں نہ ہو۔
 صحیح و مستقیم روایات کے اختلاط و استزاج کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ جو معتبرین و دونوں میں فرق و امتیاز کی صلاحیت سے محروم تھے وہ ان کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنے اور دونوں ہی کو صحیح قرار دینے لگے۔ بسا اوقات اس کو ایک ہی مفسر سے منقول دو متناقض روایتیں مل جاتیں اور وہ اس مفسر کے تفسیر کا مترکب قرار دیتا ہے اور اہل اسلام پر یہ یمن توڑتا کہ وہ متناقض روایات کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔
 گولڈزیہر لکھتا ہے :-

”یہ امر کس قدر حیرت ناک ہے کہ ابن عباس کی جانب منسوب اقوال کو لائق نقد و جرح تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان اقوال میں ایسا شدید تناقض پایا جاتا ہے جس میں جمع تطبیقی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ اس کھلے ہوئے تضاد کی نمایاں مثال وہ اختلاف ہے جو اس امر میں پایا جاتا ہے کہ آیا ذبیح حضرت اسماعیلؑ تھے یا حضرت اسماعقؑ؟ ہر فریق اپنے عقیدہ کی تائید و حمایت میں علمائے سلف کے اقوال نقل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ہی فریق اپنے نظریہ کے اثبات میں سنن ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں جو لوگ حضرت اسماعق کو ذبیح مانتے ہیں، وہ بروایت عکرمہ ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں بخلاف ازیں حضرت اسماعیل کو ذبیح قرار دینے والے شعبی یا مجاہد کے واسطے سے ابن عباس کا قول روایت کرتے ہیں۔ دونوں فریق دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بذات خود ابن عباس سے یہ قول سنا اور اس ضمن میں ان کی رائے یہ تھی“

(المنہج الاسلامیہ ص ۷۸ -)

آگے چل کر مزید لکھتا ہے :-

”اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ابن عباس سے منقول اقوال کس قدر قدرت کے حامل ہیں اور وہ کمان تک قابل تسلیم ہیں! ابن عباس کے علاوہ دیگر صحابہ و تابعین سے منقول اقوال و آثار کا بھی یہی حال ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر کہ اکثر و بیشتر متناقض

اقوال ایک ہی مسئلہ سے بسند صحیح مروی و منقول ہوتے ہیں تحقیق بسیار کے بعد علم اس نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر بالماثور کسی صحیح اساس پر مبنی نہیں اور اس میں وحدت و یکگانگت کا فقدان صاف جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ ایک ہی آیت یا کلمہ کی تفسیر میں صحابہ سے متعدد و مختلف اقوال منقول ہوتے ہیں اور مختلف وجوہ سے یہ باہم متضاد ہوتے ہیں۔

یہ ہے وہ فیصلہ جو گوڈلزیر نے تفسیر بالماثور کے بارے میں اپنی کتاب میں صاوری کیا ہے! ان بے معنی اور بوردے خیالات کے ذکر و بیان سے گوڈلزیر یہ اثر دینا چاہتا ہے کہ حضرت ابن عباس خصوصاً اور دیگر معترضین صحابہ عموماً ایک ہی لفظ یا موضوع پر بارے میں مختلف و متضاد خیالات کا اظہار کرتے تھے دراصل گوڈلزیر کا منشا مقصود یہ ہے کہ اہل اسلام سلف صالحین کے چھوڑے ہوئے اس پیشتر قیمت تفسیری و زائد سے صرف نظر کریں اور یہ سمجھیں کہ ان روایات میں جو تناقض پایا جاتا ہے وہ صحابہ کے نظریاتی نزاع و خلاف کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جس تفسیر کا یہ عالم ہو اس کی پابندی ہمارے لیے کیسے ضروری ہو گئی؟ مزید یہ کہ صحابہ کے یہ تفسیری اقوال ان کے فکر و اجتہاد پر مبنی ہیں اور ہم بھی مسلمانانہ اجتہاد میں ان کے سہم و شریک ہیں۔

ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ تفسیر میں علمائے سلف کے بیان اختلاف موجود ہے ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی شخص کے دو یا دو سے زیادہ اقوال میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مگر یہ اختلاف تناقض و تضاد کے قبیل سے نہیں بلکہ نزاع لفظی کی قسم کا ہوتا ہے اور اس میں جمع و تطبیق کا امکان موجود ہوتا ہے۔ جن اقوال میں تطبیق کا احتمال نہ ہو اور دونوں قول صحیح ہوں تو متاخر قول پر عمل کیا جائے گا۔ اور اگر دونوں اقوال کا پایہ صحت مساوی نہ ہو تو صحیح پر عمل اور ضعیف کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ (الاتقان، ج ۲، ص ۱۴۹)

جب اقوال صحابہ باہم متعارض ہوں اور جمع و تطبیق یا ترجیح کا کوئی امکان نہ ہو تو ابن عباس کے قول پر عمل کیا جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ: "اے اللہ ابن عباس کو تفسیر قرآن کا علم عطا کر" امام شافعی نے تقسیم وراثت میں حضرت زید کے قول کو اس حدیث کا نیا ترجیح دی تھی کہ آپ نے فرمایا "زید تم سب میں فرائض کا زیادہ علم رکھتے ہیں"۔

گونا گونہ نے اس امر کی تعیین میں کہ ذبیح کون تھے حضرت ابن عباس سے جو مختلف روایات ذکر کی ہیں۔ ان کی تحقیق کے رسالہ میں جب میں نے تفسیر ابن جریر کی جانب رجوع کیا تو دیکھا کہ اس نے یہ دونوں روایات متصل اسناد کے ساتھ ذکر کی ہیں جن میں سے بعض از نواع ہیں اور بعض ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے۔ ابن جریر نے موابات کی نقل و روایت میں صحت کا التزام نہیں کیا۔ اگر دونوں روایتوں کو محمد بن حنفیہ کے قواعد نقد و جرح پر رکھ کر پرکھا جائے تو یہ حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ جس روایت میں حضرت اسماعیل کے ذبیح ہونے کا ذکر کیا گیا ہے وہ دیگر روایات کے مقابلہ میں صحیح تر اور قابل ترجیح ہے اس کے دلائل و براہین اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا ذکر موجب طوالت ہے۔ مزید برآں ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے جو مرفوع روایت بسند حسن بن دینار، از علی بن زید حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے سے متعلق ذکر کی ہے ضعیف ہے۔ اس کی سند میں حسن بن دینار ستر وک اور علی بن زید منکر الحدیث ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔

(تفسیر ابن کثیر، ج ۴ - ص ۱۷)

بات یہی حضرت ابن عباس کی موقوف روایات جن سے مستفاد ہوتا ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق تھے تو اگر یہ ان کی سند صحیح ہے مگر یہ اس امر پر معمول ہیں کہ ابن عباس پہلے ہی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ازاں اس سے رجوع کر لیا اور علانیہ اس کی مخالفت کرنے لگے۔ یہ عقیدہ آپ نے آغاز کلاہ میں اس لیے اختیار کیا تھا کہ آپ نے بعض صحابہ کو کعب الاحبار اور یہودیوں سے مشرت باسلام ہونے والوں کی زبانی سن کر اس کا اظہار کرتے ہوئے پایا تھا۔ چنانچہ مفسر ابن جریر حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ”ذبیح حضرت اسماعیل ہیں مگر یہود جھوٹ موٹ حضرت اسحاق کو ذبیح قرار دیتے ہیں“ (ابن جریر، ج ۲۳ - ص ۵۲)

مذکورہ صدر قول حضرت ابن عباس سے بسند صحیح منقول ہے اور اس سے یہود کے زعم فاسد کا ابطال ہوتا ہے۔ اس طرح اس ضمن میں ابن عباس سے متعلق مختلف اقوال کے درمیان بیخ و بن مطابقت کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ مفسر ابن کثیر حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے سے متعلق روایات ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

”یہ جملہ اقوال دائرہ کعب الاحبار سے ماخوذ ہیں۔ جب خلافت صدیقی میں وہ حلقہ گزشتہ

اسلام ہوئے تو حضرت عمر کو کتب قدیمہ کے مندرجات سے آگاہ کرنے لگے۔ بعض اوقات حضرت عمر بھی ان کی باتیں سنتے۔ ان کی دیکھا دیکھی لوگ بھی کتب الاحبار کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے سن کر رطب و یابس لوگوں کو سنانے لگے۔ حالانکہ اُمت کو ان باتوں کی مطلقاً ضرورت نہیں“ (ابن کثیر، ج ۴ - ص ۱۷)

جہاں تک گولڈ زیر کے اس بہتان کا تعلق ہے کہ تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرانی میں کوئی فرق امتیاز ہی نہیں۔ نیز یہ کہ تفسیر بالماثور کے لیے کوئی صحیح اساس سر سے موجود ہی نہیں۔ تو یہ سراسر الزام تراشی ہے، جس کے لیے کوئی دلیل و برہان موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بسند صحیح منقول ہو وہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا:

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - (انجم - ۴) وہ تو صرف وحی ہے جو آپ کی جانب کی جاتی ہے

اس آیت کریمہ میں فرمان رسول کو وحی قرار دیا گیا ہے۔ باقی رہے صحابہ کے تفسیری اقوال قرآن میں سے اکثر و بیشتر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں اور بہت کم ان کے مفکر و اجتہاد پر مبنی ہیں۔ اقوال صحابہ بھی خصوصی قدر و قیمت رکھتے ہیں اور بشرط صحیح ان سے انحراف درست نہیں۔ اس لیے کہ وہ ان قرآن و احوال کے زندہ گواہ تھے جن میں قرآن نازل ہوا۔ نابریں وہ قرآن کریم کا فہم کامل اور صحیح علم رکھتے تھے۔ پھر تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرانی کے مساوی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی منصف مزاج شخص ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

موضوع تفسیر کی قدر و قیمت:

موضوع تفسیر کو اگر اس کی ذاتی حیثیت سے دیکھا جائے اور اس کے اسنادی پہلو سے صرف نظر کر لیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ علمی قدر و قیمت سے بالکل ہی عاری نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ تفسیر میں وضع کا کس قدر بھی عمل دخل کیوں نہ ہو وہ محض سند و روایت پر اثر انداز ہوگا۔ جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے وہ ہمیشہ ظن و تخمین پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ ایک علمی اجتہاد کا نتیجہ ہوتی ہے جس کی ایک اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے۔

مثلاً جو شخص تفسیر کے سلسلہ میں کوئی بات وضع کر کے اسے حضرت علی یا ابن عباسؓ کی

جانب منسوب کرتا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ ایک قول کی ذمہ داری کا بوجھ ان کے کندھوں پر رکھتا ہے۔ بخلاف ازیں یہ اس کے ذاتی نکر و اجتناد کا نتیجہ ہوتا ہے جو بسا اوقات صحیح ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ وہ اپنی رائے کو مقبول عام بنانے کے لیے اسے صحابہ کی جانب منسوب کرتا ہے ظاہر ہے کہ حضرت علیؑ یا ابن عباسؓ کی جانب منسوب تفسیر علیؑ اہمیت سے عاری نہیں ہوتی۔ البتہ جو قابل اعتراض پہلو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان کی نسبت حضرت علیؑ یا ابن عباسؓ کی جانب درست نہیں۔ حتیٰ بات یہ ہے کہ وضعی تفسیر خود ساختہ دہم و خیال پر مبنی نہیں۔ بخلاف ازیں اس کی ایک علمی اساس ہے۔ اور تفسیر کا طالب علم اس کے درس و مطالعہ سے دلچسپی لیتا ہے۔ اس کو پہلو بہ پہلو اس کی اپنی ایک ذاتی اہمیت ہے اگرچہ وہ اسنادی قدر و قیمت کی حامل نہیں۔

(فجر الاسلام، ص ۲۵۱ وضعی الاسلام، ج ۲- ص ۱۴۳)

۲۔ اسرائیلیات

اسرائیلیات کا مفہوم :

اسرائیلیات کا لفظ اگرچہ بظاہر اس یہودی تہذیب و ثقافت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ جو تفسیر قرآن پر اثر انداز ہوئی۔ مگر اس کے مفہوم میں مسرت پائی جاتی ہے۔ لہذا اس سے وہ یہودی و نصرانی ثقافت مراد ہے جس نے تفسیر قرآن کو متاثر کیا۔ اس کو اسرائیلیات کا نام تعلیقاً دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہودیت کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور یہود سے بکثرت روایات نقل ہو کر مسلمانوں میں پھیل گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود کی تعداد زیادہ تھی اور وہ قوت و اقتدار سے بہرہ مند تھے۔ مزید برآں آغاز اسلام سے لے کر وہ اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ گھلے ملے رہے جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور لوگ جو حق و جرح حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ یہود و نصاریٰ ایک جداگانہ دینی ثقافت کے علم بردار تھے اور یہ دونوں تہذیبیں بڑی حد تک تفسیر پر اثر انداز ہوئیں۔ یہودی ثقافت کا مدار و انحصار تورات پر ہے جس کی مدح و توصیف قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے :-

لَا تَأْتِيكُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا هُدًى
دَعْوَىٰ - (المائدہ - ۴۴) نور ہے۔

اہل اسلام اور یہودی اکثر تورات کا لفظ بول کر اس سے یہود کی جملہ کتب مقدسہ مراد لیتے ہیں جن میں زبور بھی شامل ہے۔ تورات کو دیگر کتب موسوی کے ساتھ شامل کر کے ”عہدہ قدیم“ کہتے ہیں۔ تورات کے پہلو بہ پہلو یہود کے یہاں کچھ مواعد و نصاب اور تورات کی شرحیں بھی تھیں جو تحریری صورت میں حضرت موسیٰ سے حاصل نہیں کی گئی تھیں بلکہ سینہ بسینہ منتقل ہو کر ان تک پہنچی تھیں۔ پھر اس پر کئی صدیاں بیت گئیں جب کہ ان کو مدون کر کے تلمود کے نام سے پکارا جانے لگا۔ علاوہ آئین ان کے پاس یہودی لٹریچر تھا جس میں واقعات، حوادث، تاریخ و تزیین اور قصے کہانیاں بھی شامل تھیں۔

نصاری کی تہذیب و حضارت کا مدار اکثر و بیشتر انجیل پر تھا۔ قرآن کریم نے اس امر کی شہادت دی ہے کہ انجیل خداوند کریم کی نازل شدہ ہے۔ ارشاد فرمایا:

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آدَمَ وَهَبْنَا لِيْسَىٰ
وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ عِيسَىٰ بِنِ مَرْيَمَ وَأَيَّدْنَا
الْإِنجِيلَ - (العنكبوت - ۲۷)

پھر ان کے بعد ہم نے گاتا رسول بھیجے اور
پھر عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور ان کو انجیل
عطا کی۔

نصاری کے یہاں جو انجیل معتبر ہیں ان کے ساتھ انبیاء کے رسائل کو ملا کر ”عہد جدید“ کہتے ہیں نصاریٰ کی کتب مقدسہ میں تورات و انجیل دونوں شامل ہیں۔ تورات کو عہد قدیم اور انجیل کو عہد جدید کہتے ہیں۔ یہ ایک فطری امر تھا کہ انجیل کی متعدد شرحیں مرتب ہوئیں جو آگے چل کر نصرانی تہذیب کا منبع قرار پائیں۔ اس کے دو شش بدوش وہ اخبار و واقعات اور تعلیمات بھی تھیں جو نصاریٰ نے از خود گھڑ کر ان کو حضرت عیسیٰ کی جانب منسوب کر دیا تھا۔ یہ سب نصرانی تہذیب و ثقافت کے سرچشمے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہودی دینی تہذیب کا اولین سرچشمہ اگر تورات تھی تو نصاریٰ کی دینی ثقافت کا محور و مرکز انجیل تھی۔

تورات و انجیل پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان میں بکثرت ایسے مضامین پائے جاتے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تورات و انجیل کی طرح قرآن مجید میں بھی شامل ہیں۔ فرق جس قدر بھی ہے صرف اجمالی و تنسیلی کا ہے۔ قرآن کریم نے قبض انبیاء کے ذکر و بیان کا جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ تورات و انجیل کے انداز سے مختلف ہے۔ چنانچہ وہ واقعات کی تاریخ اور ان مقامات کا نام نہیں لیتا جہاں وہ پیش آئے اور نہ ہی ان اشخاص و رجال سے تشریح کرتا ہے۔ جن کے ہاتھوں وہ واقعات انجام پذیر ہوئے بلکہ قرآن واقعہ کے صرف اسی جزو سے سروکار رکھتا ہے جس کا موضوع کے ساتھ ربط و تعلق سے اور جس میں عبرت پذیری کا سامان موجود ہے۔

جن موضوعات کے ذکر کرنے پر قرآن و تورات یا قرآن و انجیل متفق ہیں ان پر گہری نگاہ ڈالنے اور ان کا موازنہ کرنے سے یہ فرق و اختلاف صاف جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ تورات اور قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ دوسرے آیتوں

ہیں یہ واقعہ مقابلہ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ مگر ان سورتوں میں ذکر نہیں کیا گیا کہ جنت کہاں واقع ہے؟ نیز یہ کہ حضرت آدم و حوا کو کس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا؟ اور شیطان کس جانور کے بھیس میں حضرت آدم و حوا کو گمراہ کرنے کے لیے جنت میں داخل ہوا تھا؟ اور اسی قسم کی دیگر تفصیلات کا ان سورتوں میں مطلقاً ذکر نہیں کیا گیا۔

بخلاف انہی تورات میں یہ تفصیلات پوری طرح مذکور ہیں۔ چنانچہ تورات میں مرقوم ہے کہ جنت عدن کے مشرق میں واقع تھی۔ اس درخت کا نام ”شجرہ حیات“ ہے اور وہ جنت کے وسط میں واقع تھا۔ جس جانور نے حضرت حوا کو درغلایا وہ سانپ تھا۔ اس کی سزا سانپ کو یہ ملی کہ وہ پیٹ کے بل رینگتا اور مٹی کھاتا ہے۔ اور اس واقع کے دیگر متعلقات۔

(عہد عتیق باب سفر التکوین، ص ۴-۵)

ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل میں جن موصوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے وہ قرآن عزیز میں بھی مختصراً مذکور ہیں۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کا تذکرہ۔ البتہ قرآن نے واقعہ کے صرف اسی جزو سے تعریض کیا ہے جس میں عبرت آموزی کا کوئی عنصر موجود ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت عیسیٰ کی حسب نسب ان کی کیفیت ولادت و جائے ولادت اور اس شخص کا ذکر نہیں کیا جس کے ساتھ حضرت مریم کو شتم کیا گیا تھا، نہ ہی یہ بتایا کہ آسمان سے جو کھانا اُترا تھا وہ کس قسم کا تھا اور نہ واقعات سے بخت کی جو ماورزادانہ صوں اور کڑھیلوں کو صحت یاب کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کے بائے میں حضرت عیسیٰ کو پیش آئے تھے۔ بخلاف انہی انجیل نے ان واقعات کی جزئیات تک کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔

اب ہم یہ بتائیں گے کہ اسرائیلیات کا عمل دخل تفسیر میں کیوں کر ہوا۔ نیز یہ کہ یہودی و نصرانی تعلیمات تفسیر قرآن پر کس حد تک اثر انداز ہوئیں؟

تفسیر میں اسرائیلیات کا امتزاج و ارتقا

ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر قرآن میں اسرائیلیات کا گزرد عمدہ صحابہ میں ہونے لگا۔ اس لیے کہ بعض امور کے ذکر و بیان میں قرآن کریم تو رات و نازل کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ البتہ ایجاز و اطناب کا فرق ضرور ہے۔ قرآن میں جو مباحث مختصراً بیان ہوئے ہیں تو رات و نازل میں تفصیلاً مذکور ہیں۔ قبل انہیں ہم بتا چکے ہیں کہ عمدہ صحابہ میں اہل کتاب کی جانب رجوع تفسیری مصادر میں سے ایک عظیم مصدر ماخذ تھا۔ جب ایک صحابی قرآن میں مذکور واقعات میں سے کسی واقعہ تک پہنچتا تو طبعاً اس کے جی میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ قرآن نے جس بات کو مجمل بیان کیا ہے اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے کس کی جانب رجوع کیا جائے۔ مگر ان اہل کتاب کے سوا کوئی شخص ان کے سوال کا شافی جواب نہ دے پاتا جو نئے نئے مشرف باسلام ہوئے تھے اور اپنے ہمراہ اپنی دینی ثقافت لائے تھے۔ چنانچہ وہ نو مسلم اہل کتاب صحابہ کو اخبار و واقعات کی تفصیلات سے آگاہ کرتے۔

مگر یہ امر ملحوظ رہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اہل کتاب سے نہ ہر بات پوچھتے تھے اور نہ ان کی ہر بات قبول کرتے تھے۔ ان کا سوال اکثر و بیشتر اس واقعہ کی تفصیل سے متعلق ہوتا تھا جس کو قرآن نے مختصراً بیان کیا ہے۔ مزید برآں صحابہ اہل کتاب کی بات سن کر توقف سے کام لیتے تھے اور فرمان رسول کی تعمیل میں اس کی تصدیق و تکذیب سے احتراز کیا کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اہل کتاب کی نہ ہی تصدیق کرو اور نہ تکذیب صرف یوں کہو کہ ہم اللہ اور اس کے نازل کردہ کلام پر ایمان لائے"

(فتح الباری ج ۸ - ص ۱۲۰)

مزید برآں صحابہ اہل کتاب سے عقائد و احکام کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے۔ آئیے کہ قرآن میں مندرج کسی حکم یا مسئلہ کی تائید و تقویت مقصود ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ رسول کریم سے ثابت شدہ حقیقت سے انحراف کر کے اہل کتاب سے سوال کریں۔ اسی طرح دود و ازکار اور از قسم لہو و لعب باتوں کے بارے میں بھی اہل کتاب سے نہیں پوچھتے تھے۔ مثلاً مندرجہ ذیل سوالات:

۱۔ اصحاب کعبہ کا کتا کس رنگ کا تھا؟

۲۔ گائے کے جسم کا وہ کونسا ٹکڑا تھا جو اسرائیلی مقتول کے جسم کے ساتھ لٹکایا گیا تھا؟

۳۔ کشتی نوح کی ضخامت کتنی تھی، اور وہ کس درخت کی لکڑی سے بنائی گئی تھی؟

۴۔ حضرت نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟

اور اس قسم کے دیگر لایہذا سوالات، شاء، وانشاء، دہوی ٹھکتے ہیں کہ ان قسم کے سوالات، بے کار تکلف سے زیادہ حقیقت نہیں دیکھتے۔ صحابہ کرام اس کو حقارت، ذمہ داری کی نگاہ سے دیکھتے اور انہیں اعتدال پر محمول کرتے تھے۔ (افروز الکبیر، ص ۲۵)

اسی طرح جو بات عقیدہ و شریعت کے منافی ہو صحابہ اس میں بھی یہودی کا تائید و تصدیق نہیں کرتے تھے۔ بخلاف انہیں صحابہ کا یہ عالم تھا کہ جب وہ اہل کتاب سے کوئی سوال کرتے اور وہ غلط جواب دیتے، تو اس کو رد کر دیتے اور ان کی غلطی کو ان پر واضح کرتے۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلم حالت نماز میں اس کو پالے اور خداوند کریم سے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دو چیز عطا کرتے ہیں، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ گھڑی نہایت مختصر ہوتی ہے۔

(صحیح بخاری، باب الجمعہ، ج ۲، ص ۱۳)

علمائے سلف کے یہاں اس گھڑی کی تعبیریں اور اس بات میں کہ آیا یہ گھڑی باقی ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ اگر بھی متنازع فیہ ہے اگر یہ باقی ہے تو آیا ہر جمعہ میں ہوتی ہے یا سال بھر میں صرف ایک جمعہ میں؟ اس ضمن میں جب حضرت ابو ہریرہؓ نے کعب الاحبار سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ یہ گھڑی دوران سال صرف ایک جمعہ میں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہر جمعہ میں ہوتی ہے۔ چنانچہ کعب الاحبار نے جب توہرات کا مطالعہ کیا تو حضرت ابو ہریرہؓ کی تائید کی اور اپنے نظریہ سے رجوع کر لیا۔ (شرح قسطلانی، ج ۲، ص ۱۹۰)

حضرت ابو ہریرہؓ نے مذکورہ بالا گھڑی کی تعبیریں کے بارے میں جب عبداللہ بن سلام سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ یہ روز جمعہ کی آخری گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا یہ روز جمعہ کی آخری گھڑی کیوں کہ ہو سکتی ہے جب کہ رسول کریمؐ نے فرمایا ہے کہ "جو شخص حالت نماز میں اس گھڑی کو پالے" ظاہر ہے کہ دن کی آخری گھڑی میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔"

عبدالشرین سلام نے اس کا یہ جواب دیا کہ آیا "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص اگلی نماز کے انتظار کے لیے بیٹھا رہتا ہے وہ گویا نماز ہی میں مشغول ہوتا ہے یہاں تک کہ نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے" (مؤطا امام مالک، نیز ترمذی و ابو داؤد)

مذکورہ حدیث بیان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ صحابہ اہل کتاب کی ہر بات بلا چون و چرا تسلیم نہیں کر لیا کرتے تھے۔ بجائے انہیں وہ حق و صواب کے طلب گار تھے اور اہل کتاب کے غلط اقوال کو رد کر دیا کرتے تھے۔

بہر کیف اس میں شبہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے استفادہ کرنے کا جو دائرہ متعین کیا تھا اس سے تجاوز نہیں کیا۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا تھا:

"ایک آیت بھی ہونو مجھ سے سن کر آگے پہنچا دو بنی اسرائیل کی روایات بیان کیجیے اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ اور جس نے مجھ پر دستہ جھوٹ باندھا اس نے اپنا گھر دو فح میں بنایا" (فتح الباری، ج ۶، ص ۳۲۹)

حضور کا دوسرا ارشاد یہ ہے:

"اہل کتاب، نبی تصدیق کیجیے اور نہ تکذیب۔ یوں کیسے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو کچھ ہماری طرف آتا رہا" (فتح الباری، ج ۸، ص ۱۳۰)

مذکورہ حدیثوں میں کوئی تعارض موجود نہیں۔ پہلی حدیث میں بنی اسرائیل کی عجیب و غریب واقعات بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن سے وہ دوچار ہوئے۔ اس لیے کہ ان واقعات میں عبرت پذیری و نصیحت آموزی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ مگر نقل و روایت کی یہ اجازت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان واقعات کا جھوٹا ہونا معلوم نہ ہو کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوٹی بات کے روایت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔

حافظ ابن حجر مغلبنی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :-

"امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ امر محتاج بیان نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا روایت بیان کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اس لیے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کے جھوٹے ہونے کا تمہیں علم نہ ہو بنی اسرائیل کے بارے میں وہ بیان کیجیے

کیوں کہ سچی بات کی نقل و روایت میں کچھ مضائقہ نہیں۔ دوسری حدیث بھی اس کی مانند ہے جس میں آپ نے فرمایا "اہل کتاب کی تصدیق کیجیے اور نہ تکذیب" جو بات سچی اور قطعی ہو اس کی روایت کرنے سے آپ نے منع نہیں فرمایا۔"

(فتح الباری، ج ۶ - ص ۳۲۰)

دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب کی بیان کردہ بات میں جب صدق و کذب دونوں کا احتمال ہو تو اس میں توقف سے کام لیا جائے۔ اس لیے کہ بعض اوقات سچی بات کو جھٹلایا جاتا ہے اور جھوٹی بات کی تصدیق کی جاتی ہے۔ جس سے نقصان ہوتا ہے۔ البتہ اہل کتاب کی جو بات ہماری شریعت کے خلاف ہو ہم اس کی تکذیب کر سکتے ہیں اور جو بات ہمارے دین سے لگا کھاتی ہو اس کی تصدیق کی ہمیں کھلی اجازت ہے چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں یہی بات تحریر کی اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس ضمن میں وارد شدہ سلف کے اقوال کو ہم اسی بات پر محمول کرتے

ہیں۔ (فتح الباری، ج ۸ - ص ۱۲۰)

باقی رہی وہ حدیث جو امام احمد بن حنبل و ابن ابی شیبہ و محدث بڑا نے بروایت جابر بن عبد اللہ از عمر فاروق نقل کی ہے کہ جناب فاروق کو اہل کتاب سے ایک رسالہ ملا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا ابن الخطاب! تم اس رسالہ کی وجہ سے پریشان ہو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے زیر تصرف میری جان ہے میں تمہارے پاس ایک صاف ستھری شریعت لایا ہوں۔ تم اہل کتاب سے جو بات بھی دریافت کرو گے اور وہ اس کے جواب میں حق بات کہیں تو تم اس کو جھٹلاؤ گے یا جھوٹی بات کہیں گے اور تم اس کی تصدیق کر دو گے۔ بخدا اگر حضرت موسیٰ آج زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ (مسند احمد، ج ۳ - ص ۳۸۷)

یہ حدیث اہل کتاب سے روایت کرنے کے خلاف نہیں۔ اس لیے کہ اس حدیث میں جو نبی ولید ہوئی ہے وہ آغاز اسلام اور استقرار حکام سے قبل ہوئی تھی۔ جب دینی احکام اچھی طرح جاننے پہنچانے لگے اور آئینہ سن کا خوف باقی نہ رہا تو اہل کتاب سے روایت کی اجازت دے دی گئی۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ نبی دینی قواعد و احکام میں نچسلی آنے سے قبل وارد ہوئی تھی۔ اس لیے کہ اس وقت فتنہ کا ڈر تھا۔ جب یہ اندیشہ باقی نہ رہا تو اجازت دے دی گئی۔ اس لیے کہ اہل کتاب کے اختیار و اوقات

شعنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے“ (فتح الباری، ج ۶، ص ۳۲۰)

محدث ابن بقال نے مُتَلَب سے نقل کیا ہے کہ اہل کتاب سے سوال کی ممانعت ایسے امور سے متعلق ہے جس میں کوئی نفس دار نہ ہوئی ہو۔ ایسے امور میں نفس کے نہ ہوتے ہوئے صرف فکر و استدلال سے کام لینا چاہیے ان سے سوال کی ضرورت نہیں۔ ان باتوں میں سوال کی ممانعت حدیث میں شامل نہیں جن سے ہماری شریعت کی تصدیق ہوتی ہو یا جن کا تعلق گزشتہ اقوام و اہل ام کے ساتھ ہو“

(فتح الباری، ج ۱۳، ص ۲۹۵)

مذکورہ مددی بیانات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ ہر سہ احادیث میں کسی قسم کا تضاد نہیں پایا جاتا۔ نیز یہ کہ اہل کتاب سے نقل و اخذ کی جو اجازت دیا گئی ہے۔ اس کے مدد و قیود کیا ہیں۔ ان احادیث کا معنی و مفہوم جاننے اور اس بات کا علم رکھنے کے بعد کہ حضرات صحابہ اطاعتِ رسول رسول کریم کے کس قدر عویس تھے۔ ہم گو لڈ زبیر اور احمدا میں کے اس ہتھان کی تائید نہیں کر سکتے جو انہوں نے حضرت ابن عباس پر خصوصاً اور صحابہ پر عموماً باندھا ہے کہ وہ ہر معاملہ میں اہل کتاب کی جانب رجوع کرتے اور رسول کریم کی ممانعت کے باوجود اہل کتاب سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کے تذکرہ کے دوران ہم گو لڈ زبیر اور احمدا میں کے اتمام کا ذکر کر چکے ہیں۔ ہم نے حضرت ابن عباس کے اس قول کا ذکر بھی کیا تھا۔ جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ جو صحابہ اہل کتاب سے روایت کرتے۔ اور ان کی ہر بات کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ ابن عباس ان کو ڈانٹتے اور متنبہ کیا کرتے تھے۔ سابعہ بیانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ صحابہ سہل انگار تھے اور وہ تعلیماتِ رسول کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔

باقی رہا گو لڈ زبیر کا یہ الزام کہ حضرت ابن عباس تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ایک شخص کے یہاں آمد و رفت رکھتے تھے، جس کا نام ابو الجعد غیلان بن فروہ آزومی تھا۔ اگر اس واقعہ کی صحت تسلیم کر لی جائے، تاہم یہ بات کسی طرح قابل تسلیم نہیں کہ ابن عباس ان سے ہر بات دریافت کیا کرتے تھے۔ بخلاف اُنہیں آپ ان سے وہی باتیں پوچھنے ہوں گے جن کے دریافت کرنے کی اجازت تھی۔ اس لیے کہ حضرت ابن عباس بذاتِ خود ان لوگوں پر معترض ہوتے تھے جو اہل کتاب سے اخذ و نقل کے خوگر تھے۔

گو لڈ زبیر کا یہ دعویٰ کہ مفسر ابن جریر طبری نے آیت کریمہ ”هُوَ الَّذِي يُدِيكُمُ الْبُرُوقَ“ کے

لفظ "البرق" کی تفسیر کے سلسلہ میں ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابو الجہاد غیلان کے نزدیک اس سے بارش مراد ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ طبری نے اس کو مسترد کر کے ہے وہ منقطع ہے۔ اس لیے کہ اس سلسلہ کے ایک راوی موسیٰ بن سالم نے ابن عباس کا زمانہ نہیں پایا موسیٰ نے ابو جعفر باقر سے روایت کی ہے جو ابن عباس کی مدت کے بعد پیدا ہوئے۔

(ابن جریر، ج ۱۳، ص ۸۰۔ و میزان الاعتدال، ج ۳، ص ۲۱۰)

مزید برآں حضرت ابن عباس نے "البرق" کے معنی سے متعلق جو سوال کیا تھا، اس کا اسلامی عقائد و احکام سے کچھ تعلق نہیں اور نہ ہی اس میں رسول کریم کی خلافت و زری کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اسی کتاب سے سوال کرنے سے منع کیا تھا۔ علاوہ ازیں حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ حضرت ابن عباس نے ابو الجہاد کا قول سن کر اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ اس روایت میں جو کچھ مذکور ہے وہ صرف یہ ہے کہ ابن عباس نے ابو الجہاد کا قول نقل کر دیا مگر بیچ۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی جانب جو یہ بات منسوب ہے کہ غزوہ بدر میں ان کو دو بار شتر بیوی کتب ملی تھیں اور وہ ان سے دیکھ کر روایت کیا کرتے تھے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ ان میں مندرج ہر بات کو آگے نقل کر دیتے تھے۔ بخلاف ازیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کی نقل و روایت جائز ہوتی وہ آگے پہنچاتے ورنہ نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صریحاً اسی طرح لکھا ہے۔

(مقدمہ اصول تفسیر، ص ۲۶)

یہ بے صحابہ کے اہل کتاب کی جانب رجوع کرنے اور ان سے اخذ و نقل کا ادارہ کا۔ "اجتنبوا" کا دور آیا تو اہل کتاب سے نقل و روایت میں وسعت پیدا ہوئی اور تفسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہو گئی۔ اس لیے کہ عبدالمعین میں بکثرت اہل کتاب جو حق و حقوق اسلام لائے قرآن میں یہود و نصاریٰ کے جن واقعات کی جانب اشارہ کیا گیا تھا مسلمانوں میں ان کی تفسیر سے سننے کا ذوق و شوق اعلیٰ چنانچہ اس خد میں ایسے مفسرین پیدا ہوئے جنہوں نے تفسیر میں پیدا کردہ اس خلا کو بھرا چاہا اور اس ضمن میں یہود و نصاریٰ سے مدد حاصل کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تفسیر قرآن متضاد و متناقض قسمہ کہانیوں کا باندھ بن گئی۔

ان مفسرین میں سے ایک مقاتل بن سلیمان متوفی سن ۱۰۰ھ بمطابق ۶۱۰ء کے بانی

میں تھا ہے کہ اس نے قرآنی علوم یورپ و نصاریٰ سے حاصل کیے اور ان کو اہل کتاب کی کتب مقدسہ کے قالب میں ڈھال دیا تھا۔ (وفیات الاعیان، ج ۲، ص ۵۶۸)

عصر تاجدین میں ہیں ایسے مفسرین بھی ملتے ہیں جنہوں نے آئندہ پیش آنے والے واقعات کو قرآن عزیز سے اخذ کیا۔ مثلاً مقاتل بن سلیمان کا توں ہے کہ آیت کریمہ:

وَأَنَّ قَوْمَ كُورَيْبِئَةَ لَا يَكْفُرُونَ هَلَّا ضَلُّوا لَوْلَا فِي الْكِتَابِ مَسطُورًا۔ (الاسرار: ۵۸)

میں قسطنطنیہ کی فتح اور اندلس کی بربادی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس نے قرآن کریم سے دیگر بلاد و دیار سے متعلق اشارات اخذ کیے ہیں۔

عصر تاجدین کے بعد ایسے لوگ منظر عام پر آئے جو اسرائیلیات پر دل و جان سے فریفتہ تھے۔ اور ان سے اس حد تک شغف رکھتے تھے کہ کسی قول کو بھی تو نہ کرتے وہ خلاف عقل ہی کہیں نہ ہو۔ اسرائیلیات کے ساتھ وابستگی اور دل بستگی کی یہ کیفیت جاری رہی یہاں تک کہ انہوں نے تفریحی کہانیوں کی صورت اختیار کر لی جب تاجدین تفسیر کا دور آیا تو مفسرین میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی کتب تفسیر کو اسرائیلی واقعات سے بھر دیا۔

اسرائیلیات کے بارے میں ابن خلدون کا زاویہ نگاہ :-

ہم ذیل میں اسرائیلی روایات کی کثرت کے اسباب و منسبہ تاریخ کے بانی علامہ ابن خلدون کے بقول ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ نیز یہ کہ مسلمانوں میں یہ مرن کیوں کر پیدا ہوا؟ ابن خلدون رقم طراز ہیں :-

”اس میں شک نہیں کہ تفسیر منقول کے بارے میں متقدمین نے بڑا مواد فراہم کیا۔ مگر سب حیف کہ ان کی تصانیف رطب و یابس اور مقبول و مردود سمجھی قسم کی روایات پر مشتمل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کلمے پڑھے نہ تھے۔ بخلاف ازیں ان پر جمالت و بدادوت کا غلبہ تھا۔ انسانی فطرت ہمیشہ۔۔۔ تکوینی اسباب اور آثار تخلیق سے متعلق امور کی ٹوہ میں لگا رہی ہے۔ چنانچہ عربوں نے جب بھی کوئی ایسی بات پوچھی ہو، تو اپنے معاصر یورپ و نصاریٰ سے دریافت کرتے۔ دوسری طرف اہل کتاب

بھی اس ضمن میں قرآن مجید کی طرح ان پڑھ تھے اور صرف انہی باتوں سے آگاہ تھے جو اہل کتاب کی زبان زد عام تھیں۔ اکثر یہود و جلیلہ حیر سے تعلق رکھتے تھے۔ مگر انہوں نے یہودی مذہب کو اختیار کر لیا تھا۔ یہ لوگ حلقہ گوش اسلام ہونے کے بعد بھی بدستور ان امور کے معتقد رہے جن کا شرعی احکام سے کچھ تعلق نہیں۔ مثلاً یہ کہ تخلیق بنی نوع انسان کا آغاز کب ہوا، غلاں غلاں واقعات و حوادث اور جنگیں کب اور کیسے رونما ہوئیں اور اس قسم کے دیگر امور! ایسے واقعات کے لادہ زیادہ ذکر کتب الاحبار، دہم بن مثنیہ اور عبد اللہ بن سلام جیسے لوگ ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نقل کردہ روایات سے کتب تفسیر پھر گئیں۔ ان میں کچھ ایسی روایات بھی تھیں جو مرفوع نہیں بلکہ وہ صرف ان لوگوں کے اقوال ہیں جن کا شرعی احکام سے کچھ تعلق نہیں تاکہ ان کی صحت کی جانب توجہ دی جاتی۔ چنانچہ مفسرین نے اس ضمن میں سسل انگاری سے کام لیا اور ان کی مرتبہ کتب تفسیر ایسے اقوال کا پلندہ بن گئیں۔ حالانکہ یہ اقوال بلا تحقیق نقل کر دیے گئے تھے۔ اور ان کو شہرت محض اس لیے حاصل ہو گئی تھی کہ ان کے ناظمین کو مذہبی تفتدس حاصل تھا۔ جس کی بنا پر ان کی جانب منسوب اقوال بلا شک و شبہ تسلیم کر لیے جاتے تھے! (مقدمہ ابن عدون۔ ص ۴۹۰)

مذکورہ سہ بیان اس خفیقت کی نمائندگی کرتا ہے کہ ابن عدون کی رائے میں تفسیری اقوال کی اشاعت دو امور کی مرصون منت تھی۔ ان میں سے ایک وجہ عربوں پر جہالت و بدادت کا غلبہ اور اسباب مکیوں اور اسرار وجود کا حد سے بڑھا ہوا شوق ہے۔ جو ہر انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عرب یہ سب باتیں اہل کتاب سے دریافت کرتے تھے۔ ان مرویات و اقوال کو بلا نقد و جرح تسلیم کر لینے کی دوسری وجہ بقول ابن عدون یہ ہے کہ ان امور کا دینی احکام سے کچھ تعلق نہ تھا۔ اس لیے اصحاب تفسیر بلا چون و چرا ان کو قبول کر لیتے تھے۔

بہر کیف تفسیری اقوال کی کثرت کے اسباب صرف یہی ہوں یا کچھ اور اس میں شک نہیں کہ کتب تفسیر میں ایسے اقوال کی بھر مار ضرور ہے۔ اس کی حد یہ ہے کہ بعض کتب تفسیر تو مختلف مذاہب کے انکار و نظریات کا مجموعہ مرکب نظر آتی ہیں۔

اسرائیلی روایات کا تفسیر پر اثر :

اسرائیلی روایات جن کو مفسرین نے اہل کتاب سے لے کر ان کی روشنی میں قرآن عزیز کی شرح و توضیح کی تھی تفسیر قرآن پر بہت بُرا اثر ڈالا۔ اس لیے کہ معاملہ وہیں ختم نہیں ہوا جہاں محدث صحابہ میں تھا بخلات ازیں اس میں خاطر خواہ ترقی ہوئی۔ اور روایت کرنے والوں نے تمام سنی سنائی باتوں کو ان میں شامل کر دیا قطع نظر اس سے کہ وہ جھوٹی ہوں یا سچی۔ اس پر طرہ یہ کہ ایسی تفسیر میں بہت سے من گھڑت خیالی افسانے بھی راہ پا گئے۔ اس کے نتیجہ میں ایسی کتب تفسیر کا قاری یہ سمجھنے پر مجبور ہوا کہ ان کتب میں مندرج کوئی بات بھی قابل قبول نہیں۔ حتی بات تو یہ ہے کہ اسرائیلی روایات کی بھرمار کرنے والے مفسرین نے قرآن کی شرح و توضیح کرنے والوں کی راہ میں کانٹے بو دیئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان جھوٹے من گھڑت افسانوں کے سیلاب میں بہت عادت صحیح کو بھی بہا لے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان میں سے بعض افسانوں کی نسبت چونکہ ان اہل کتاب کی جانب درست نہ تھی جو حلقہ تجوش اسلام ہو گئے تھے۔ لہذا بعض لوگوں نے ان مسلم اہل کتاب کو بھی شک و ریب کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا اور وہ ان کے یہاں ختم فرار پائے۔ ہم آگے چل کر ان شاء اللہ العزیز اس کی تردید کریں گے۔

اسرائیلی روایات کی قدر و قیمت :

اسرائیلی روایات کی حسب ذیل تین قسمیں ہیں :-

قسم اول :- وہ روایات جو بصد صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ مثلاً یہ روایت کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جس رفیق کا ذکر کیا گیا ہے وہ جناب خضر تھے۔ جیسا کہ فتح الباری باب التفسیر، ج ۸، ص ۲۹۷ میں مذکور ہے۔ یہ صحیح و مقبول ہے۔

قسم دوم :- اس قسم میں ایسی مرویات شامل ہیں جو اس لیے جھوٹی ہیں کہ شریعت کے معدود مسائل اور عقل سلیم سے ٹکراتی ہیں۔ ایسی روایات کو نہ قبول کرنا درست ہے اور نہ ان کی نقل و روایت جائز ہے۔

قسم سوم :- تیسری قسم کی وہ روایات ہیں، جو پہلی اور دوسری قسم میں شامل نہیں اور جن کے بارے میں محدثین نے سکوت اختیار کیا ہے۔ ایسی روایت کی نہ تصدیق کی جائے گی اور نہ تکذیب۔ بلکہ اس کے بارے میں قہقہے سے کام لیا جائے گا۔ اس کی نقل و روایت بھی درست ہے۔ کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ "اہل کتاب کی نہ تصدیق کیجیے اور نہ تکذیب۔ اور نبیوں کیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس

پر جو ہماری طرف اُتار گیا“

تیسری قسم کا تعلق زیادہ تر ان روایات کے ساتھ ہے، جن سے کوئی دینی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر اہل کتاب کے علماء کے یہاں ایسے امور کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ مفسرین بھی اس ضمن میں مختلف خیال ہیں مثلاً یہ کہ اصحاب کھف کے نام کیا کیا تھے؟ ان کا کتا کس رنگ کا تھا؟ حضرت موسیٰ کا عصا کس درخت سے بنایا گیا تھا؟ ان پرندوں کے نام کیا تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے زندہ کیا تھا؟ گاٹے کے گوشت کا وہ کون سا نکل اٹھا جس کو اسرائیلی مقبول کے جسم سے مس کیا گیا تھا؟ وہ کون سا درخت تھا جس کے ذریعہ خداوند کریم نے حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا اور اس قسم کے دیگر امور جن کو قرآن کریم میں مبہم رکھا گیا ہے اور جن کی تعیین کر کے لوگوں کو کوئی دینی یا دنیوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

جب کسی صحابی سے بسند صحیح کوئی ایسی بات نقل ہو کر ہم تک پہنچے جس کے بارے میں شریعت مجاموش ہو اور اس میں تصدیق و تکذیب کا کوئی پہلو بھی موجود نہ ہو تو اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لیں گے اگر صحابی پورے وثوق کے ساتھ وہ بات کہہ رہا ہو تو وہ قسم اول کی طرح مقبول ہوگی۔ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ آنحضرت کی ممانعت کے باوجود صحابی نے اسے اہل کتاب سے اخذ کیا ہو۔ اور اگر صحابی وہ بات پورے جزم و وثوق سے نہیں کہتا تو بھی اس روایت کو قبول کر لینا اقرب الی الصواب ہے۔ اس لیے کہ اس روایت کو آنحضرت یا کسی اور صحابی سے سننے کا احتمال اہل کتاب سے سننے کے احتمال سے قوی تر ہے۔ خصوصاً جب کہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ صحابہ تابعین و تابع تابعین کی نسبت اہل کتاب سے بہت کم استفادہ کرتے تھے۔

البتہ اگر کوئی بات تابعین سے منقول ہو کر ہم تک پہنچے تو اس میں توقف سے کام لیں گے اور اس کے صدق و کذب سے متعلق کوئی نا جملانہ فیصلہ صادر نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ اس میں اہل کتاب سے سماع کا احتمال غالب ہے۔ تابعین اہل کتاب سے اخذ و استفادہ کرنے میں معروف ہیں۔ مگر یہ اس صورت میں ہے جب مفسرین اس پر متفق نہ ہوں۔ بصورت دیگر اگر مفسرین اس ضمن میں متحد خیال ہوں کہ تابعین نے یہ روایت اہل کتاب سے نہیں لی تو، اس کو اہل کتاب کی روایت قرار نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ بشرح صدر اس روایت کو تسلیم کر لیا جائے گا۔

(مقدمہ اصول تفسیر ابن تیمیہ، ص ۱۲)

مفسر قرآن و اسرائیلی روایات

ہماری نگاہ سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ صحیح و سقیم میں امتیاز کیے بغیر اہل کتاب سے نقل و روایت اس دین کے خلاف ایک عظیم اور خطرناک سازش سے کم نہیں۔ ہم اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ :-

”اہل کتاب کی تفسیر کیجیے اور نہ تکذیب“

ایک بنیادی ضابطہ ہے جس سے انحراف کسی طرح بھی ممکن نہیں۔

نظر میں مفسر پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ حد درجہ بیدار مغزی اور مستعدی سے کام لے کر اسرائیلیات کے پلندہ میں سے وہ مواد چھانٹ لے جو روح قرآن سے لگا کھاتا اور عقل و نقل کے ساتھ ہم آہنگ و یک رنگ ہو۔ اسی طرح مفسر کے فرائض میں یہ امر بھی شامل ہے کہ جب قرآن کی کسی مجلس آیت کی تفصیل حدیث نبوی میں موجود ہو تو اہل کتاب سے اخذ و استفادہ کا ہرگز مرتکب نہ ہو۔ مثال کے طور پر قرآن عزیز کی آیت :-

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا هَلِيًّا كُورِيًّا ۖ وَجَسَدًا مِّنْ حَصِيدٍ (سورہ ص: ۳۴)

ہم نے سلیمان کو آزمایا اور آپ کی کرسی پر لیک جسم ڈال دیا۔

کی تشریح حدیث صحیح میں موجود ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے اس کو دوسرے من گھڑت واقعات پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ حضرت سلیمان نے کہا ”میں آج اپنی ایک سو جو بیویوں سے مجامعت کروں گا۔ ان میں سے ہر ایک مجاہد بچہ جنسی گی۔ آپ کے ساتھی نے کہا ”ان شاء اللہ“ کہہ لیجیے۔ مگر آپ نے نہ کہا چنانچہ ان میں سے صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی، اور جو بچہ اس نے جنا وہ بھی ادھورا تھا۔ آنحضرت نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر سلیمان ان شاء اللہ کہہ لیتے تو مجاہد بچے جنم لیتے جو سوار ہو کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔

(صحیح بخاری باب الجہاد)

مفسر قرآن پر ایک فریضہ یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ ضروری چیز کو بقدر حاجت و ضرورت ہی اخذ کرے۔ چنانچہ کسی آیت کی توضیح کرنے وقت صرف اتنا ہی واقعہ بیان کرے جس سے قرآن کے اجمال

کی تفصیل معلوم ہو سکے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ البتہ جب کوئی بات متقدمین کے یہاں متنازع فیہ ہو۔ اور اس کے بارے میں ان کے متعدد اقوال ہوں تو جملہ اقوال کو ذکر کر کے قول صحیح کی نشان دہی کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ مگر یہ بات کسی طرح مناسب نہیں کہ اختلاف کا ذکر کر کے اس کو یوں ہی چھوڑ دے اور یہ نہ بتائے کہ صحیح قول کون سا ہے۔ اس سے زیادہ بے کار کام اور کیا ہوگا کہ مفسر تخریج کے سامنے اقوال صحیحہ و سقیمہ کا انبار لگا کر اسے درطہ حیرت میں ڈال دے اور صحیح قول کی نشان دہی نہ کرے۔

مفسر یہ جیسے بہ طریق ہر ہی ہو سکتا ہے کہ وہ امکان حد تک غیر ذمہ داری اسرائیلیات سے صرف نظر کرے اور بے کار اسرائیلی افسانے بیان کرنے سے اجتناب کرے جو قرآن کا معنی و مفہوم معلوم کرنے میں سنگ راہ ہو سکتے ہیں۔ اس کی دلیل میں ہم قرآن کریم کی یہ آیت پیش کر سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا:

بعض لوگ، کہتے ہیں کہ اصحاب کعبہ تھے	سَيَقُولُونَ نَشَأُ آلَهُمْ كَذِبًا
چونکہ ان کا تعلق تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ پانچ تھے	وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
اور چھ یا آٹھ تھے۔ بلاشبہ غیب کی بنیاد پر۔	كَلْبُوعٌ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ
بعض کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھواں کنا تھا	سَبْعَةٌ وَرَأَىٰ مِنْهُمْ كَلْبُوعٌ
آپ کہہ دیں کہ میرا خدا ہی ان کی گنتی کو خوب جانتا	قُلْ سَبِّحِ بِحَمْدِ رَبِّكَ لَيْلًا نَّهَارًا
ہے۔ بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں۔ آپ	يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارَئِ
اس بارے میں ان سے زیادہ جھگڑا نہ کیجیے اور	بِهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَ لَا
نہ اس کے بارے میں ان میں سے کسی سے سوال	تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

(سورۃ اکہف: ۱۲)

بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خداوند کریم نے اس آیت میں یہ آیت مسکھایا کہ بلیسی غیر ضروری گفتگو سے اجتناب واجب ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین اقوال ذکر کیے۔ دو کی تضعیف کی اور تیسرے سے سلوک اختیار کیا جو اس کی صحت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر تیسرا قول باطل ہوتا تو پہلے دو اقوال کی طرہ سے اس کی بھی تردید کر دی ہوتی پھر بتایا کہ اصحاب کعبہ کی تعیین تعداد معلوم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی تعداد خدا ہی جانتا ہے یا چند گنے چنے لوگ جن کو اس نے اصحاب کعبہ کے صحیح شمار سے آگاہ کیا۔ ایسے بے مقصد باتوں میں اپنے آپ کو الجھانے اور ٹھکانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ (مقدمہ اصول تفسیر ابن تیمیہ، ص ۱۰۰)

اسرائیلی روایات کے مرکز و محور

تفسیر بالائزہ پر مشتمل کتب تفسیری و تفسیری و تفسیری کے حوالے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اسرائیلی روایات

کا مدار و انحصار زیادہ تر حسب ذیل چار راویوں پر ہے۔

عبداللہ بن سلام، کعب بن الجراح، دھب بن علیہ، عبدالملک بن عبدالمطلب بن عبدالمطلب بن عبدالمطلب۔

ان چاروں کی ثقاہت و مدار، کے بارے میں ناواقفین مختلف خیالات ہیں۔ بعض ان کو محبت

سے بالا قرار دیتے ہیں۔ بعض نے نزدیک یہ تمہیم بالانڈب اور غیر ثقہ راوی ہیں۔ اس لئے ہم انہیں۔

ہر ایک کے بارے میں تفصیلاً انڈبازیاں کر کے بتائیں گے کہ کس کا قوا، یعنی برعدان و انڈب انہ۔

۱۔ عبداللہ بن سلام :

سیرت و سوانح :- نام و نسب عبداللہ بن اہم بن حارث اسرائیلی اندازہ اور کنیت ابوہریرہ

ہے۔ حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے

تشریف لائے تو مشرکوں نے اسے ہجو کی۔ بیخ بخاری باب الحجرتین ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان

مذکور ہے۔

”عبداللہ بن سلام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں شہادت

دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پنے رسول ہیں۔ یہود اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں ان

کا سردار اور سردار کا بیٹا ہوں۔ میں ان میں سب سے بڑا ہوں اور بہت بڑے عالم کا

بیٹا ہوں۔ آپ یہود کو بلا کر میرے متعلق پر چھنے قبل اس کے کہ انہیں میرے اسلام

لانے کا پتہ چلے۔ اگر انہیں میرے اسلام لانے کا پتہ چل گیا تو میرے بارے میں وہ

باتیں کہیں گے جو مجھ میں نہیں پائی جاتیں“

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا۔ جب وہ آگئے تو آپ نے فرمایا ”اے گروہ یہود!

تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں خدا کا پیارا رسول ہوں۔ لہذا اسلام لے آؤ۔ یہود نے کہا ”تمہیں ہمیں معلوم“

آپ نے فرمایا ”تم میں عبد اللہ بن سلام کیرا آدمی ہے؟“ کہنے لگے ”وہ ہمارا سردار اور سردار کا بیٹا ہے

وہ بہت بڑا عالم اور عالم کا بیٹا ہے“ فرمایا ”اگر وہ مسلمان ہو چکا ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے“

کہنے لگے "پناہ بخدا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا "عبداللہ بن سلام باہر آجائیے۔" وہ نکل آئے اور یہ دو کو مخاطب کر کے کہا "اے گروہ! یہود! خدا سے ڈرو بخدا تم جانتے ہو کہ آپ سچے رسول ہیں۔" کہنے لگے "تم جھوٹ کہتے ہو۔" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو نکال دیا۔ (صحیح بخاری باب الحجۃ ج ۵ ص ۶۳)۔

بعض علماء کے نزدیک ان کا نام انحصین تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نام تجویز کیا اور ان کے جنتی ہونے کی شہادت دی۔ امام بخاری نے انصار کے اوصاف و مناقب ذکر کرتے ہوئے عبداللہ بن سلام کے تذکرہ کے لئے ایک مستقل باب باندھا ہے۔ اس باب میں دیگر روایات کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص سے ایک روایت نقل کی ہے کہ میں نے کعبہ زمین پر چلنے والے انسان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ جنتی ہے مگر عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ان کے بارے میں مذکورہ ذیل آیت نازل ہوئی: "شہداً کاشاف: من یبغی انفسہ اوئیل" (الاحقاف)۔ (صحیح بخاری ج ۵ ص ۳۷)۔

عبدالملک بن عمیر نے عبداللہ بن سلام کے بیٹے سے نقل کیا ہے کہ جب باغی حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لئے جمع ہوئے تو عبداللہ بن سلام حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان نے آنے کی دھم پوچھی تو کہا کہ آپ کی مدد کے لئے آیا ہوں۔ فرمایا جا کر لوگوں کو مٹائیے۔ آپ کا باہر جانا یہاں رہنے سے بہتر ہے۔ چنانچہ عبداللہ نے باہر جا کر باغیوں کو مخاطب کر کے کہا "لوگو! میرا نام دور جاہلیت میں کچھ اور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ رکھا۔ میرے بارے میں قرآن کریم کی آیت "شہداً کاشاف من یبغی انفسہ اوئیل" اور "قل کنفی باللہ شہیداً لیئیی و بینکم" (الرعد ۴۳) نازل ہوئی۔ خدا کی تلوار نیام میں ہے۔ اس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول اجمالی فرمایا تھا۔ یہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ عثمان کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو اور اس کو قتل نہ کرو۔ اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو تمہارے پڑوسی فرشتے یہاں سے چل دیں گے۔ اور خدا کی تلوار جو غلاف میں ہے باہر نکل آئے گی اور پھر کبھی واپس غلاف میں نہیں جائے گی۔ باغی یہ سن کر کہنے لگے "اس یہودی کو قتل کر دو" پھر انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔

عبداللہ بن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت حدیثیں روایت کیں۔ پھر ان سے ان کے دونوں بیٹوں ابو سعید و محمد اور دیگر صحابہ مثلاً عمار بن مالک ابو ہریرہ ابو بکرہ عمار بن یسار وغیرہم نے استفادہ کیا۔

بیت المقدس اور مدینہ کی فتح کے وقت ان کو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رفاقت کا شرف نصیب ہوا۔ آپ نے مدینہ میں ۳۳ھ میں وفات پائی۔ بعض مورخین نے آپ کو بدری صحابہ میں شامل کیا ہے۔ مگر ابن سعد طبقات میں ان کو صحابہ کے طبقہ ثالثہ میں شمار کرتے ہیں۔ انہوں نے غزوہ سندق اور بعد ازاں پیش آنے والے غزوات میں شرکت کی تھی۔

عبد اللہ بن سلام کا علمی پایہ اور ثقافت و عدالت :-

جہاں تک عبد اللہ بن سلام کے مسلخ علم کا تعلق ہے اس کے اظہار و اثبات کے لئے صحیح بخاری کی مذکورہ روایت کافی ہے جس میں انہوں نے خود کہا کہ میں یہود کا عظیم تر عالم اور ایک فاضل باپ کا بیٹا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہود نے بھی اس کا اعتراف کیا تھا۔ آپ صحابہ میں ایک عالم کی حیثیت سے مشہور تھے۔

مروی ہے کہ جب حضرت مواز بن جبل رضی اللہ عنہ کا آخری وقت قریب آیا تو ان سے کہا گیا کہ ہمیں وصیت فرمائیے۔ کہنے لگے مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ پھر فرمایا علم و ایمان کا مرکز و محور اہل انجاس ہیں :- ابو اللہ داء، سلمان فارسی، عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہم۔

میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ عبد اللہ بن سلام و دشش جنتی صحابہ میں سے ایک ہیں۔

عبد اللہ بن سلام کا علم و فضل کے اس درجہ عالیہ پر فائز ہونا کچھ بھی موجب حیرت نہیں۔ اس لئے کہ آپ کی ذات میں قرآن و تورات و دونوں کا علم جمع ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلامی و یہودی تہذیب و ثقافت کا سنگم تھے۔ اہل اسلام نے ان سے ہورویات نقل کی ہیں ان سے فاضح ہوتا ہے کہ آپ صحیح سنی ہیں تورات کے عالم تھے۔ ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں عبد اللہ بن سلام سے بکثرت تاریخی اقوال نقل کئے ہیں۔ اسی طرح مفسرین نے ان سے لاتعداد اسرائیلی مسائل اپنی کتب میں نقل کئے ہیں۔

عبد اللہ بن سلام کی مرویات کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ نہ ہم ان سب کا ابطال کرتے ہیں اور نہ سب کو قبول کرتے ہیں۔ بخلاف انہیں ہم ان کو روایات کی جانچ پرکھ کے لئے مقرر کردہ کسوٹی پر کس کر دیکھیں گے۔ جو صحیح ہوگی اس کو قبول کریں گے اور غیر صحیح کو ترک کر دیں گے۔

ننانوہ کلام یہ کہ ہماری رائے میں نہ عبد اللہ بن سلام کے علم و فضل میں کسی شبہ کی گنجائش ہے اور نہ

ثقافت و عدالت میں۔ یہ بھی درست ہے کہ آپ مقتنب اور اہل علم صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں اور امام بخاری اور دیگر محدثین نے آپ پر اعتقاد کیا۔ مزید برآں ہمارے پیش نظر جو کتب ہیں ان میں کسی نے بھی ان کے علم و فضل کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا اور نہ ان کو کعب الاجبار اور وھب بن غلبہ کی طرح مقسم کیا۔ (تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۱۲۹ و اسد الغابہ ج ۲ ص ۱۶۶)۔

۲۔ کعب الاجبار ۱۔

نام و نسب کعب بن مافع جُمہیری، کنیت ابواسحاق اور کعب الاجبار کے نام سے معروف تھے۔ یہ یمن کے یہودیوں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کعب نے جاہلیت کا زمانہ پایا اور خلافتِ صدیقی یا فاروقی میں ملحقہ بگوش اسلام ہوئے۔ بقول بعض علماء بہرہد رسالت ہی میں مشرک باسلام ہو گئے تھے۔ مگر ہجرت دیر سے کی۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ خلافتِ فاروقی میں ان کے اسلام لانے کی روایت مشہور تر ہے۔ اسلام لانے کے بعد بنایب مدینہ ہجرت کی۔

خلافتِ فاروقی میں رومیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا۔ خلافتِ عثمانی میں ملک شام میں سکونت پذیر ہوئے۔ بقول صحیح تریب اللہ میں بمقام حمص وفات پائی۔ ابن سعد نے ان کو تابعین شام کے طبقہ اولیٰ میں شمار کیا ہے۔ وفات کے وقت ان کی عمر ایک سو چالیس برس تھی۔

کعب الاجبار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلًا (صحابی کا نام لئے بغیر) حدیثیں روایت کی ہیں۔ کعب حضرت عمرؓ، حمیدؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ کعب سے روایت کرنے والوں میں حضرت موادؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، عطاء بن ابی رباحؓ اور دیگر اکابر کے نام شامل ہیں۔

کعب کا مبلغ علم ۱۔

کعب بن مافع عظیم عالم تھے۔ بنا بریں آپ کو کعب الجبر اور کعب الاجبار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جبر کے معنی میں عالم علی العموم یا عالم یہود۔ کتب تفسیر میں آپ کے جو اقوال منقول ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مدد و رجب و سبع العلم اور اسلامی و یہودی ثقافت کے بہت بڑے فاضل تھے۔ البتہ آپ نے وھب بن غلبہ کی طرح کوئی کتاب تالیف نہیں کی بلکہ آپ کا علم سینہ بسینہ آگے نقل ہوتا رہا۔ طبقات ابن سعد میں منقول ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ حاضرین

عبداللہ بیٹھے ہیں ان کے سامنے تورات پڑھی ہے اور کعب اسے پڑھ رہے ہیں۔ (تفسیر الاسلام ص ۱۶۸ بحوالہ طبقات ج ۱ ص ۷۹)۔

اس سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ کعب معلقہ بگوش اسلام ہونے کے یوں بھی کعب تورات اور دیگر اسرائیلی تعلیمات کی جانب رجوع کیا کرتے تھے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کعب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ”وہ بہت بڑے صاحب علم ہیں“ محمد بن عثمان بن ابی شیبہ نے بطریق ابن ابی ذئب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ”میرے عہد حکومت میں جو کچھ ہوا کعب الاجار نے قبل از توح اس کی اطلاع و۔۔۔ دی تھی“ (تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۳۸)۔

کعب کی ثقاہت و عدالت :-

ہمارے نزدیک کعب ثقہ تھے اور اسی طرح بھی مضعون نہ تھے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس و ابوہریرہ رضی اللہ عنہما اپنی بلالت قدر اور علمی عظمت کے باوصف ان سے استفادہ کرتے تھے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الادان کے اخیر میں کعب سے متعدد روایات نقل کی ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے بھی آپ سے روایت کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کعب ان سب محدثین کے نزدیک ثقہ راوی تھے۔

احمد امین کی کعب پر بہتان طرازی :-

حیرت کی بات ہے کہ محدثین کرام کے عین برعکاف احمد امین کعب کو ثقہ و عادل تو کہا ایک دیندار شخص بھی تصور نہیں کرتا، اور ان پر ایسے الزامات عاید کرتا ہے جن سے کعب کا دامن پاک ہے۔

احمد امین رقمطراز ہے :-

”بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابن قتیبہ اور امام نووی جیسے ناقدین کعب سے ہرگز روایت نہیں کرتے۔ ابن زبیر طبری نے کعب سے بہت کم روایتیں نقل کی ہیں۔ البتہ ثعلبی اور کسائی جیسے لوگوں نے نکایات انبیاء کے باب میں کعب سے بکثرت روایات ذکر کی ہیں۔ مثلاً حضرت یوسف اور ولید بن زبیر کا قصہ اور اس قسم کے دیگر واقعات، ابن زبیر طبری بیان کرتے ہیں کہ کعب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے

واقعہ سے تین روز قبل ان کے یہاں آئے اور کہا کہ آپ تین دن تک وفات پا جائیں گے۔ آپ نے کہا ”مجھے کیونکر پتہ چلا؟“ کعب نے کہا ”خدا کی کتاب تورات میں لکھا ہے“ آپ نے فرمایا ”تورات میں میرا نام مذکور ہے؟“ کعب نے کہا ”نام تو مذکور نہیں البتہ آپ کی صفات اور علیہ اور عربی کے ختم ہو جانے کا ذکر کیا گیا ہے“

احمد امین مزید لکھتے ہیں ۱-

”بشرط صحت اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کعب حضرت عمرؓ کے قتل کی سازش سے آگاہ تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ کعب اس قسم کے واقعات گھڑ کر ان کو آگے پہنچا دیا کرتے تھے۔ ماسل کلام یہ کہ کعب و دھب جیسے اہل کتاب کی بدولت مسلمانوں کے علوم و عقائد میں بہت سی باتیں داخل ہو گئیں۔ بن کے بذریعہ نتائج برآمد ہوئے؟“
(مغز الاسلام ص ۱۹۸)

ابطالِ اتہام ۱-

ہم اس ضمن میں احمد امین کے ہم خیال ہیں کہ ”بشرط صحت اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کعب حضرت عمرؓ کے قتل کی سازش سے آگاہ تھے“ مگر ہم اس واقعہ کو صحیح تصور نہیں کرتے۔ ابن جریر کے روایت کرنے سے اس واقعہ کی صحت ثابت نہیں ہوتی۔ ابن جریر کے بارے میں عام طور پر معلوم ہے کہ وہ نقل و روایت میں صحت کا التزام نہیں کرتے۔ ان کی تفسیر کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں بکثرت ضعیف روایات شامل ہیں۔ اسی طرح ابن جریر طبری کی تاریخ میں بھی لاتعداد ایسے اخبار و واقعات مذکور ہیں جن میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہے۔ آج تک کسی شخص نے یہ بات نہیں کہی کہ کتب تاریخ میں جو کچھ مذکور ہے وہ صحیح ہے۔

کعب الاحبار کی امانت و دیانت اور اصحاب صحیح نے ان کی جو توثیق و تعدیل کی ہے اس کے پیش نظر ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ من گھڑت واقعہ آپ کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ ہمارے خیال میں جناب کعب کا دامن اس سے پاک ہے کہ آپ حضرت عمرؓ کے قتل کی سازش سے آگاہ تھے مگر آپ نے حضرت عمرؓ کو بتایا نہیں تھا۔ آپ ہرگز کذاب و فاسق نہ تھے کہ آپ نے جھوٹا موٹ اس واقعہ کو تورات کی جانب منسوب کیا اور اس کو اسرائیلی قالب میں ڈھالا ہو۔

باقی رہا احمد امین کا یہ قول کہ ”اس سے مسلمانوں کے عقائد و علوم کو بڑا نقصان پہنچا۔“ اگر اس سے احمد امین کا مقصد یہ ہے کہ اس ضرر رسانی کے ذمہ دار کعب اور ان کے ہمنوا ہیں تو ہم اس کو درست قرار نہیں دیتے۔ اس لئے کہ کعب اور دیگر اہل کتاب نے جو روایات بھی نقل کی ہیں نہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا اور نہ کسی مسلمان پر انتراز پر وازی کی۔ بخلاف ازیں وہ ان کو اسرائیلیات کی حیثیت سے روایت کرتے تھے جو ان کی کتب میں موجود تھیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں نہ ان کی تصدیق کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ان پر ایمان لانے کا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس ضمن میں واضح ہے کہ ”اہل کتاب کی تصدیق نہ کیجئے اور نہ تکذیب۔“

اگر اسرائیلی روایات نے اسلامی عقائد و علوم کو متاثر کیا بھی تھا تو یہ کعب اور دیگر اہل کتاب کا قصور نہیں۔ کیونکہ انہوں نے اسرائیلی روایات کی روشنی میں قرآن کی شرح و تفسیر نہیں کی تھی بلکہ صرف اس اعتبار سے ان کو نقل کر دیا تھا کہ ان کی کتب میں یہ روایات موجود تھیں۔ جب متاخرین کا دور آیا تو انہوں نے اسرائیلیات کے پیش نظر تفسیر قرآن کا بیڑا اٹھایا اور بعد کی اس خلیج کو پانٹنے کی کوشش کی جو دونوں کے درمیان مائل تھی۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے بحیثیت واقعات گھڑ کر عوام کو دھوکہ دینے کے لئے ان کی جانب منسوب کر دیئے۔

پس حقیقی تصور وار وہ متاخرین ہیں جنہوں نے اسرائیلی روایات کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا، اور بہت سے افسانے انتراع کر کے ان کو جھوٹ موٹ ان اکابر کی طرف منسوب کر دیا حالانکہ ان کا دامن اس سے پاک ہے۔

سید رشید رضا کا کعب پر الزام ۱۔

سید محمد رشید رضا تفسیر المنار کے مقدمہ میں کعب اور وہب سے مروی اسرائیلیات کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام نقل کر کے لکھتے ہیں :-

”آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ جیسے محقق نے پورے جزم و وثوق کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ تمام اسرائیلی روایات کی تصدیق کرنے میں توقف سے کام لینا چاہئے اور یہ بات ایسے امور کے بارے میں کہی ہے۔ جہاں خود اس کے اندر اس کے بطلان کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ جہاں ایسی دلیل اس کے اندر موجود ہوگی وہ تو خود

ہی ناقابن تسلیم ٹھہرے گی۔ ابن تیمیہ نے یہاں خصوصی طور پر کعب اور وہب کا نام لے کر ذکر کیا ہے۔ حالانکہ متقدمین نقاد حدیث نے دھوکہ میں آکر ان کی تعدیل کی ہے۔ اگر ہماری طرح امام ابن تیمیہ کو کعب اور وہب کی دروغ گوئی کا پتہ چل جاتا اور یہ حقیقت ان پر آشکار ہو جاتی کہ انہوں نے تورات کی جانب ایسی باتوں کو منسوب کیا ہے جو اس میں بالکل موجود نہیں تو وہ ان کے بارے میں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے۔“

(المنار ج ۱ ص ۹)

جواب اعتراض ۱:

امام ابن تیمیہ نے مقدمہ اصول تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے اس سے مجال انکار نہیں۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ شیخ رشید رضا سے ان کی تحریر کا مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ تیسرا رشید رضا نے امام ابن تیمیہ کی جو عبارت نقل کی ہے اس سے وہ بات مستفاد نہیں ہوئی جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی اسرائیلی روایات کے بارے میں توقع سے کام لیا جائے گا جن کے بارے میں ہماری شریعت ناموش ہو اور اس کے باطل ہونے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ البتہ جو اسرائیلی روایت ہماری شریعت سے میل کھاتی ہو تو وہ بلا توقف صحیح اور مقبول ہوگی پہنا پنچ امام ابن تیمیہ نے مقدمہ اصول تفسیر کے صفحہ ۲۶-۲۷ پر صراحتاً اسی طرح لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محمولہ صدر کتاب کے صفحہ ۱۳-۱۴ پر انہوں نے جو کچھ ارقام فرمایا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے۔

شیخ رشید رضا نے کعب اور وہب پر دروغ گوئی کا جو الزام عاید کیا ہے افسوس ہے کہ ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمارے نزدیک یہ بات بھی درست نہیں کہ انہوں نے تورات کی جتنی ایسی باتوں کو منسوب کر دیا جو سرے سے اس میں موجود ہی نہیں۔ مزید برآں علمائے جرح و تعدیل پر شیخ رشید کا یہ الزام کہ انہوں نے غفلت کی بنا پر دھوکہ کھایا، ہماری رائے میں کسی طرح بھی درست نہیں، اس لئے کہ وہ یہی علماء تھے جنہوں نے سنت نبوی کو رطب و یابس اور موضوعات کی آمیزش سے پاک و صاف کر کے صحیح و سقیم روایات کو تمیز و ممتاز کیا۔ وہ ایسے فرق میں مہارت تامہ رکھتے تھے جس کے جاننے والے انھکیوں پر گئے جا سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ تیسرا رشید رضا پر کعب اور وہب کے کاذب ہونے کی حقیقت کیوں کر متکشف ہو گئی اور ابن تیمیہ اس سے نا آشنا رہے۔ اے کاش! کہ

شیخ رشید اس عظیم انکشاف کی وضاحت فرماتے۔

۳۔ وھب بن نمبہ :

نسب و سوانح :- نام و نسب وھب بن نمبہ یعنی سعفانی اور کنیت ابو عبد اللہ ہے۔

یہ مشہور قصہ گو اور علمائے تابعین میں سے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبد اللہ نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ یہ فارسی الاصل تھے اور ان کے والد اہل ہرات میں سے تھے۔ کسریٰ ایران نے ان کے والد نمبہ کو یمن کی جانب نکال دیا اور وہ عہد رسالت میں مشرف باسلام ہوئے تھے۔ وھب ہرات کی طرف جایا کرتے تھے۔ بقول بعض علماء وھب صنعا کے قاضی بھی مقرر ہوئے تھے۔ اسمعی بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عمرو کا قول ہے کہ وھب ۳۲ھ خلافت عثمانی میں پیدا ہوئے بقول ابن سعد صاحب طبقات آپ کی وفات ۳۸ھ میں ہوئی۔

وھب نے مندرجہ ذیل اکابر صحابہ سے کسب فیض کیا :-

ابو ہریرہؓ، ابو سعید خدریؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ، ابن عمر بن العاصؓ، جابرؓ، انسؓ وغیرہم رضی اللہ عنہم۔

وھب سے روایت کرنے والوں میں ان کے دونوں بیٹے عبد اللہ و عبد الرحمن اور عمرو بن دنیا جیسے لوگوں کے نام شامل ہیں، امام بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی اور ابوداؤد نے وہب کی مزیات کو اپنی کتب میں لکھ دی ہے۔

وھب کا علمی مرتبہ و عدالت :-

وھب بن نمبہ بڑے وسیع العلم اور کتب قدیمہ سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ قصص و واقعات اور آغا ز کائنات کے متعلق بہت کچھ جانتے تھے۔ وھب سے منقول ہے کہ اس نے مغازی سے متعلق ایک کتاب تحریر کی تھی۔ ابن خلیکان کا بیان ہے کہ انہوں نے وھب کی ایک تصنیف بحشم خود ملاحظہ کی تھی جس میں قبیلہ حمیر کے ملوک و سلاطین ان کے اخبار و واقعات اور اشعار کا ذکر تھا۔ یہ مفید کتاب ایک جلد میں تھی۔ (وفیات الاعیان ج ۲ ص ۱۸۰)۔

امام احمد بن حنبل عبد الرزاق سے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے کہ سنتہ میں بکثرت فقہ اہل حج کے لئے بہت مشاہدہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو وھب کے پاس کچھ آدمی آئے جن میں

عطار اور سن بصری جیسے لوگ تھے۔ واصل وہ تقدیر کے مسئلہ میں دھب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ دھب طلوع فجر تک گفتگو کرتے رہے۔ چنانچہ یہ لوگ رخصت ہو گئے، اور اس سے کچھ بھی دریافت نہ کیا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ دھب منکر تقدیر تھے مگر بعد ازاں اس سے رجوع کر لیا۔
 حماد بن سلمہ البوسان سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے دھب بن مہبہ کو یہ کہتے سنا کہ میں تقدیر کا انکار کیا کرتا تھا حتیٰ کہ میں نے انبیاء پر نازل شدہ کتب میں سے ستر سے زائد کتابیں مطالعہ کیں چنانچہ میں نے اس نظریہ سے رجوع کر لیا۔ جزر جانی فرماتے ہیں کہ دھب نے انکار تقدیر کے مسئلہ پر ایک کتاب تحریر کی تھی مگر بعد ازاں اس پر اظہار ندامت کیا۔

مذکورہ صدور واقعات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ دھب قدیم آسمانی کتب میں گہری بصیرت و جبارت رکھتے تھے۔ نیز یہ کہ انہوں نے انکار تقدیر کے عقیدہ سے رجوع کر لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نظریہ کے ترک کر دینے کے بعد دھب کو اس کا مجرم قرار دینا درست نہیں۔ دھب اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ وہ عبد اللہ بن سلام اور کعب دونوں کے علم کو اپنی ذات میں سموئے ہوئے ہیں وہ خود فرماتے ہیں:-

”لوگ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن سلام اور کعب اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔
 بتائیے جو شخص دونوں کے علم پر حاوی ہو وہ کیا انسان ہوگا؟“
 دھب کے مویدین:-

مگر بایں ہر عظمت و جلال بعض لوگوں نے دھب کو بھی تنقید شدید کا نشانہ بنایا اور اس کو کذب و تدلیس سے متہم کیا ہے۔ اس ضمن میں ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر یہ دھب نے بکثرت اسرائیلی قصص و اخبار روایت کئے ہیں مگر وہ دروغ گو یا اسلامی عقائد کے بگاڑنے والے ہرگز نہ تھے ہم اس ضمن میں ان کو قصور وار نہیں ٹھہراتے۔ اس کے مجرم و حقیقت وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان واقعات کو کتب تفسیر میں جگہ دی، اور بہت سے واقعات گھڑ کر ان میں شامل کر دیئے۔

دھب کے بارے میں نقاد حدیث کے اقوال ملاحظہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دھب کا دامن ان الزامات سے پاک ہے جو آپ پر عائد کئے جاتے ہیں۔ چند اقوال ملاحظہ ہوں۔
 امام ڈھبی فرماتے ہیں:-

”وہب نہایت ثقہ اور صادق تھے۔ آپ اسرائیلی روایات بہت کثرت سے بیان

کیا کرتے تھے۔“

مشہور محدث انجلی فرماتے ہیں :-

”وہب بڑے ثقہ تابعی اور صنعاء کے قاضی تھے۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :-

”وہب تابعی کو جمہور نے ثقہ قرار دیا ہے۔“

محدث ابو زرہ نسائی اور ابن جتان نے بھی وہب کی تعدیل کی ہے۔ امام بخاری ان پر اعتماد کرتے اور ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں وہب کی ایک روایت موجود ہے جو اس نے اپنے بھائی ختام سے اور اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کتابت حدیث کے بارے میں نقل کی ہے۔

(بخاری ج ۱ ص ۳۲)۔

پھر عمر نے بھی روایت ختام سے نقل کی ہے۔ ختام بن یونس نے ابو ہریرہ سے ایک مشہور صحیفہ روایت کیا ہے جس کا اکثر حصہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ نسخہ عمر نے ختام سے روایت کیا ہے۔ ثنی بن صباح بیان کرتے ہیں کہ وہب نے بیس سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ علاوہ ازیں لاتعداد دیگر واقعات سے بھی وہب بن یونس کا ثقہ و عدول ہونا ثابت ہوتا ہے۔

جمہور محدثین اور خصوصاً امام بخاری نے وہب کی جو توثیق و تعدیل کی اور ان کے زہد و تقویٰ کے بارے میں جو دلائل و شواہد ہم تک پہنچے ان کے پیش نظر ہمارا دعویٰ ہے کہ وہب اور کعب دونوں حد درجہ مظلوم ہیں۔ ان لوگوں نے ان پر ستم ڈھایا اور ان کی علمی عظمت و شہرت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جنہوں نے بہت سی غلط باتوں کو ان کی جانب منسوب کر کے ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا۔ اور ان کو تنقید شدید کا نشانہ بنایا۔ (تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۱۱۶ و نیز ان الاعتدال ج ۳ ص ۲۷۸)۔

۴۔ عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج ؛

نام و نسب ؛۔ اسم گرامی عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج اموی اور کنیت ابو خالد یا ابو الولید ہے۔ یہ دراصل رومی اور مکہ کے محدثین اور علماء میں سے تھے۔ یہ سرزمین حجاز کے اولین

مصنف تھے۔ عبد تابعین میں یہ اسرائیلی روایات کے مرکز و محور تھے۔ جو آیات قرآنیہ نفساریہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں تفسیر ابن جریر میں ان سے متعلق جو روایات مذکور ہیں ان کا مدار و انحصار عبد الملک بن عبد العزیز ہی پر ہے جن کو عموماً ابن جریر کے معروف نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ابن جریر نے اپنے والد اور عطاء بن ابی رباح زید بن اسلم امام زہری اور دیگر اکابر علماء سے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ خود ان سے ان کے دونوں بیٹوں عبد العزیز و محمد اور علاوہ انہیں اوزاعی یثیحی بن سید انصاری حماد بن زید اور دیگر اہل علم نے استفادہ کیا۔ بقول ابن سعد صاحب طبقات ابن جریر سنہ ۱۵۶ھ یا ۱۵۷ھ میں فوت ہوئے۔ علمی پایہ اور عدالت ۱۔

بقول مورخین ابن جریر ارض جو ازر کے اولین مصنف تھے۔ آپ کا شمار امام مالک کے طبقہ میں ہوتا ہے جنہوں نے جمع و تدوین حدیث کا بیڑا اٹھایا۔

امام احمد بن منیل کے بیٹے عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا سب سے پہلے کس نے کتاب تصنیف کی؟ فرمایا: "ابن جریر اور ابن ابی عروہ نے۔"

فہرست ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عبد الرزاق بن ہمام سے سنا اس نے ابن جریر کو یہ کہتے سنا کہ "میری طرح کسی نے علم کو مدون نہیں کیا۔"

ابن جریر کے بارے میں یہ بانی پچھانی بات ہے کہ آپ نے گھوم پھر کر علم حاصل کیا۔ یہ مکہ میں پیدا ہوئے اور طلب علم میں ختلف دیار و بلاد کی ناک چھانی۔ چنانچہ آپ طلب علم میں بصرہ، یمن اور بغداد گئے۔

علامہ ابن خلدون اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ابن جریر نے اوجھڑ عمر میں علم حاصل کیا۔ اگر آپ پچھن میں تحصیل علم کرتے تو آپ کو بہت سے صحابہ سے کسب فیض کے مواقع میسر آتے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ میں عرفی اشعار اور علم الانساب کی تحصیل میں لگا رہتا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ کاش! آپ عطاء کے وابستہ دامن ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے اٹھارہ سال عطاء کی صحبت و رفاقت میں گزارنے

(شذرات الذهب ج ۱ ص ۲۲۶)۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ سے بکثرت تفسیری روایات نقل کی ہیں۔ ان میں صحیح و تقیم

بموضوع کی روایات شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مرویات میں صحت کا التزام نہیں کیا بلکہ ہر آیت کی تفسیر میں وارد شدہ اقوال و آثار کو بلا امتیاز یکجا کر دیا ہے۔

جہاں تک ابن جریر کی ثقافت و عدالت کا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ اس پر علماء کا اجماع منعقد نہیں ہوا۔ بلکہ اصحاب علم اس میں مختلف الزیال ہیں۔ بعض ان کی توثیق کرتے ہیں اور بعض تالیف محدث ابوعبلی ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں۔ سلیمان بن نضر کا قول ہے ۱۔

”میں نے ابن جریر سے بڑھ کر سچ بولنے والا نہیں دیکھا“

یعنی بن سعید فرماتے ہیں ۱۔

”م ابن جریر کی تصانیف کو ”کتب امانت“ کہا کرتے تھے۔ اور اگر وہ اپنی کتاب سے

حدیث بیان نہ کرتے تو اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا تھا“

محدث ابن عیین فرماتے ہیں ۱۔

”ابن جریر اپنی کتاب کی مدرسے جو روایت بیان کرتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے“

امام دارقطنی قطنی کا قول ہے ۱۔

”ابن جریر کی تدلیس سے احتراز کیجئے کہ وہ بدترین تدلیس ہوتی ہے۔ ابن جریر اسی

روایت میں تدلیس سے کام لیتے ہیں جو کسی ضعیف راوی سے سنی ہوتی ہے“

ابن جبران فرماتے ہیں ۱۔

”ابن جریر ثقہ تھے۔ آپ حجاز کے قرا، وثقات میں شامل تھے مگر مدلس تھے۔“

(الانقار ج ۲ ص ۸۸ میزان الاعتدال ج ۲ ص ۱۵۱)

احمد امین ضحی الاسلامی ج ۲ ص ۷۰، پر لکھتے ہیں کہ امام بخاری ابن جریر کو ثقہ راوی تصور نہیں کرتے ہمیں نہیں معلوم کہ احمد امین نے جس بات کو امام بخاری کی جانب منسوب کیا وہ کہاں مرقوم ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ بات ہمیں کہیں نہیں ملی۔

یہ ہے ابن جریر کے بارے میں محدثین کا فیصلہ! ہم دیکھ رہے ہیں کہ بکثرت، علماء آپ کو مدلس قرار دیتے ہیں اور آپ کی مرویات پر اعتماد نہیں کرتے۔ مگر بایں ہمہ امام احمد ان کو علم کا خزانہ قرار دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک آپ کا ارشاد بجا ہے۔ خزانہ میں کھرا اور کھوٹا سب کچھ ہوتا ہے۔ غالباً

جناب امام کا مقصد بھی یہی ہے۔ آپ کا یہ قول مشہور ہے کہ ابن جریر بن روايات کو مرسلًا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض موضوع ہوتی ہیں۔ ابن جریر کو اس کی پرواہ نہ تھی کہ وہ کس سے کسب فیض کر رہے ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابن جریر اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ وہ کس سے حدیث روایت کر رہے ہیں۔ آپ ابن جریر کو مد ماطب لیل "رات کا کلڑ ہارا" کہا کرتے تھے جو خشک و تر ہر قسم کی کلڑیاں جمع کر لیتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ تفسیر پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ابن جریر سے منقول تفسیری روایات کو مزہم و احتیاط کی نگاہ سے دیکھے اور ضعیف و ستیم روایت کو قبول نہ کرے۔

یہ میں اسرائیلی روایات کے ستون بن پر کتب تفسیر میں بھیلی سوئی روایات کا مدار و انحصار ہے! خواہ ان کی جانب منسوب روایات، صحیح ہوں یا من گھڑت ان کی قدر و قیمت معلوم ہو چکی اور یہ بات بھی نکھر کر سامنے آگئی کہ کن روایات کا نقل کرنا درست ہے اور کن کا نہیں۔ آخر اس پیچیدہ و دشوار موضوع کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کہا جاسکتا ہے۔

۳۔ حذف اسناد

تفسیر ماثور کے اسباب ضعف میں سے تیسرا اور آخری سبب حذف اسناد ہے۔ اس ضمن میں مندرجہ ذیل امور کو پیش رکھنا ضروری ہے :-

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جو روایت بھی کسی سے اخذ کرتے اس میں صحت کا خیال رکھتے تھے۔ جب تک ان کو کسی روایت کے صحیح ہونے کا یقین نہیں ہو جاتا تھا وہ اس کو آگے نہیں پہنچاتے تھے۔ مگر وہ مند کے بارے میں پوچھنے کے عادی نہ تھے اور اس کی وجہ ان کی امانت و عدالت تھی۔ بعض صحابہ کے بارے میں جو یہ معروف ہے کہ وہ شہادت یا معلن لئے بغیر کوئی روایت قبول نہیں کرتے تھے تو اس کی وجہ مزید بڑھتی اور تاکید ہے عدم اعتماد نہیں۔ سردی ہے کہ ابی بن کعب نے ایک حدیث روایت کی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اس کی تائید میں شہادت پیش کیجئے۔ پڑنا پھر پند انصاری صحابہ نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے

یہ سن کہ جناب فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا :-

”میں نے آپ کو متم نہیں کیا میں صرف تائید چاہتا تھا۔“ (الاسلوب المحدث ج ۱ ص ۱۰)

جب تابعین کا دور آیا اور وضع حدیث کا چرچا ہونے لگا تو سند کے بغیر کسی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ جب سند میں کوئی غیر ثقہ راوی ہوتا تو اس کی روایت کو رد کر دیا جاتا تھا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں معروف تابعی ابن سیرین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”پہلے اسناد کے بارے میں دریافت نہیں کیا جاتا تھا جب فقہ کا آغاز ہوا تو اسناد و رجال کے بارے میں پوچھا جانے لگا۔“ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۲)

عصر تابعین معاملہ یونہی رہا۔ جو تفسیر بھی آنحضرتؐ یا صحابہ سے نقل کی جاتی۔ اس کے ساتھ سند مذکور ہوتی تھی۔ عہد تابعین کے بعد ایسے لوگ منظر عام پر آئے جنہوں نے تفسیر قرآن سے متعلق تمام مواد کو یک جا کر دیا۔ اس میں احادیث نبویہ کے ساتھ صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار و سندات مذکور تھے مثلاً سفیان بن عیینہ، وکیع بن الجراح اور دیگر علماء کی تفسیر۔

پھر ایسے لوگ منظر عام پر آئے جنہوں نے کتب تفسیر تالیف کیں۔ اسانید کو حذف کر کے تفسیری اقوال کو ان کے قائلین کی جانب منسوب نہ کیا۔ چونکہ انہوں نے صحت کا التزام نہیں کیا تھا۔ اس لئے صحیح و سقیم اقوال باہم مل جیل گئے۔ اس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ بس شخص کو بھی کوئی قول ملتا وہ اسے نقل و روایت کرنے میں باک نہ سمجھتا۔ پھر بعد میں آنے والے یہ سمجھتے ہوئے بے خطر اس کو نقل کر دیتے کہ یہ اصل صحیح پر مبنی ہے۔ ایسا کرتے وقت وہ سلف کی کسی تحریر کو تلاش نہیں کرتے تھے۔

(الاتقان ج ۲ ص ۱۹۰)

حق بات یہ ہے کہ اسناد کا حذف کرنا تمام اسباب ضعف سے زیادہ خطرناک تھا۔ حذف اسناد کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی ان کتب تفسیر کو دیکھتا ان کے مندرجات کو صحیح خیال کرتا۔ اکثر مفسرین ان اسرائیلی روایات اور من گھڑت واقعات کو صحیح سمجھ کر نقل کرنے لگے۔ حالانکہ وہ منقل و نقل دونوں کے خلاف تھے۔

اس میں شک نہیں کہ وضع حدیث اور اسرائیلی روایات دونوں خطرناک ہیں۔ مگر حذف اسناد کا خطرہ ان دونوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لئے کہ اسناد کو حذف کرنے کی صورت میں اس خطرہ کی تلافی ممکن تھی۔

مگر صد خیف کہ حذف اسناد نے ہمارے لئے ہر چیز کو تاریک کر دیا۔ اسے کاش! کہ جن لوگوں نے اسانید کو حذف کر کے مختلف اقوال و آثار کو جمع کیا تھا وہ ابن جریر کی طرح ہر قول کو صح سند ذکر کرتے۔ ابن جریر نے اپنی مرویات میں اگر یہ صحت کا التزام نہیں رکھا مگر ان کا عند یہ ہے کہ انہوں نے ہر روایت کی سند بیان کر دی ہے۔ علمائے سلف یہ سمجھتے تھے کہ جب وہ کسی روایت کی سند ذکر کر دیں تو ان کی ممداری ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ عبد سلف میں راویوں کے حالات عام طور سے معروف تھے۔ اور روایات کے صحیح و ضعیف ہونے کا پتہ اسی سے چلتا ہے۔

بہر نوع یہ ہیں اسباب سہ گانہ جن پر تفسیر مائور کا ضعف مبنی ہے۔ یہ تینوں اسباب یکساں طور سے تفسیر پر اثر انداز ہوئے۔ پچھلے تاریخی ادوار میں مسلمانوں کو اس خطرہ کا شدید احساس ہوا، اور انہوں نے ان اسباب کے اثرات کا جائزہ لیا۔ بنا بریں علماء و مشائخ نے چاہا کہ کتب تفسیر کو اسرائیلیات کی آمیزش سے پاک کیا جائے۔ مگر عملی طور پر کوئی شخص اس کام کے لئے کمر بستہ نہ ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ علماء و مشائخ کی جماعت میں سے خداوند کریم ایسے لوگوں کو تیار کرے گا جو روایات کے متن و سند کی نقد و جرح کے۔ لیسہ وضع کردہ قواعد کی روشنی میں اسرائیلیات کی چھان پھٹ کر کے ان کو حذف کر دیں گے۔ اس کا خوش گوار نتیجہ یہ ہوگا کہ کتاب الہی کے قاری و ناظر اس میں غور و فکر کرتے وقت بے اصل باتوں سے دوچار نہ ہوں گے۔ مگر یہ فرد واحد کام نہیں بلکہ اس کے لئے ایک جماعت کا وجود ناگزیر ہے۔ مزید براں اس کے لئے طویل مدت اور تمام مصادر و مراجع مطلوب ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجار ہے کہ اس دیرینہ آرزو کی تکمیل کے لئے وسائل و ذرائع مہیا فرمائے۔

مشہور کتب تفسیر بالماثور اور ان کی خصوصیات

تفسیر بالماثور کے سلسلہ میں جو کتب تحریر کی گئی ہیں ان تمام کا ذکر و بیان پیش نظر نہیں۔ اقل تو ان میں سے اکثر و بیشتر ہمارے پاس موجود ہی نہیں۔ اگر موجود ہوتیں بھی تو بھی ہم ان سب کا ذکر نہ کرتے۔ اس لئے کہ ہمارے پیش نظر صرف مشہور و متداول کتب تفسیر کا تعارف کرانا ہے۔ جملہ کتب تفسیر بالماثور کا تعارف و تذکرہ چنداں آسان نہیں۔

چنانچہ ذیل میں ہم آٹھ مشہور و متداول کتب تفسیر کا تعارف کرائیں گے۔ آغاز تعارف میں مختصراً مصنف کے سیر و سوانح بیان کئے جائیں گے۔ پھر ہر کتاب کی خصوصیات اور اس کے طرز تالیف پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وہ آٹھ کتب تفسیر مندرجہ ذیل ہیں:-

- ۱- جامع البیان فی تفسیر القرآن از ابن جریر طبری۔
 - ۲- بحر العلوم از ابولیت سمرقندی۔
 - ۳- الکشف والبیان عن تفسیر القرآن از ابراہیم نخعی۔
 - ۴- معالم التنزیل از ابو محمد حسین بغوی۔
 - ۵- المحرر الاوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز از ابن عطیہ اندلسی۔
 - ۶- تفسیر القرآن العظیم از حافظ ابن کثیر۔
 - ۷- الجوہر الحسان فی تفسیر القرآن از عبد الرحمن ثعالبی۔
 - ۸- الدر المنثور فی التفسیر الماثور از جلال الدین سیوطی۔
- اب باری باری ترتیب وار ہم ہر کتاب کا تعارف کرائیں گے۔

جامع البیان فی تفسیر القرآن

اسناد ابن جریر طبری

تعارف مؤلف :-

نام نامی محمد بن جریر بن زید طبری اور کنیت ابو جعفر ہے۔ یہ بڑے علیل القدر عالم مجتہد مطلق اور صاحب تصانیف مشہورہ تھے، آپ طبرستان میں ۲۲۴ھ میں پیدا ہوئے۔ اسی بارہ سال کے تھے کہ طلب علم کے لئے گھر سے نکل گئے۔ مختلف دیار و بلاد کی خاک چھانی۔ سرزمین مصر و شام اور عراق میں گھومے پھرے اور آخر میں بغداد کے ہو کر رہ گئے۔ حتیٰ کہ ۳۱۰ھ میں بغداد ہی میں وفات پائی۔

علم و فضل اور عدالت :

خطیب بغدادی فرماتے ہیں :-

”ابن جریر علم و فضل میں یکساںے روزگار تھے۔ آپ کے معاصرین میں کوئی شخص آپ کا ہمسر نہ تھا۔ آپ قرآن کریم کے حافظ و مفسر احکام قرآن کے ماہر، عظیم محدث، صحیح و سقیم اور ناسخ و منسوخ سے آگاہ، صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار سے آشنا، مسائل حلال و حرام سے واقف اور تاریخی اخبار و واقعات کے زبردست عالم تھے۔“

ابن جریر کے بارے میں یہ ایسے شخص کی رائے ہے جو ان کے احوال و کوائف سے پوری طرح شاسا تھا۔ اس لئے یہ شہادت ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہے۔ یہ امر کسی شک و سہ سے بلا ہے کہ ابن جریر نے متعدد علوم و فنون مثلاً علم قرأت تفسیر حدیث اور فقہ و تاریخ میں بڑا نام پایا۔ آپ نے متعدد علوم پر مفید اور بہترین کتب تصنیف کیں۔ آپ کی تصانیف حسب ذیل ہیں :-

۱۔ تفسیر قرآن۔

۲۔ تاریخ الامم والملوک۔

۳۔ کتاب القراءت۔

۴۔ کتاب العدد والتزیل۔

۵۔ اختلاف العلماء وتاریخ الرجال۔

۶۔ احکام شرائع الاسلام۔

۷۔ التبصر فی اصول الدین۔

دو دیگر تصانیف جو ان کے علم و فضل کی زندہ دلیل ہیں۔

مگر افسوس کہ یہ کتب عرصہ ہوا کہ نجات ارضی سے ناپید ہو چکی ہیں۔ البتہ ان کی تفسیر اور تاریخ موجود ہے۔ ان دونوں کتب کی بلند پایہ علمی سطح کے پیش نظر ابن جریر طبری کو علم تفسیر تاریخ دونوں کا وہابی قرار دیا گیا ہے۔

ابن خلیکان فرماتے ہیں :-

”ابن جریر ائمہ مجتہدین میں سے تھے اور کسی کے مقابلہ نہ تھے۔ شیخ ابواسلمیٰ شیرازی نے طبقات الفقہاء میں ان کو مجتہدین میں شمار کیا ہے۔ وہ ایک معروف فقہی مسلک رکھتے تھے، ان کے معتبرین کو ”جریریہ“ کہا جاتا ہے۔ مگر یہ مسلک دیگر فقہی مسلک کی طرح عیسر حاضرات زندہ نہ رہ سکا۔ درجہ اجتہاد پر فائز ہونے سے قبل ابن جریر، امام شافعی کے وابستہ دامن تھے۔ اس کی دلیل طبقات الکبریٰ امام بخاری میں مذکور ابن جریر کا یہ قول ہے کہ :-

”میں نے بغداد میں فقہ شافعی کا اعلان کیا اور اس کے مطابق دس سال تک بغداد میں فتوے دیتا رہا۔“

(وفیات)

امام سیوطی فرماتے ہیں :-

”ابن جریر پہلے شافعی مسلک تھے پھر ایک، ایک فقہی مسلک کی بنا رکھی۔ بہت سے لوگ آپ کے اتباع و مقصدین میں شامل تھے۔ اصول و فروع پر آپ نے بہت سی کتب تصنیف کی ہیں۔“

(طبقات المفتیین ص ۳)۔

صاحب لسان المیزان رقمطراز ہیں :-

”ابن جریر راست گفتار اور ثقہ تھے مگر آپ میں کسی حد تک تشیع پایا جاتا ہے، جو

چندان ضرر رساں نہیں۔ احمد بن علی سلیمانی نے ابن جریر کی شان میں یہ کہہ کر گستاخی کی کہ آپ "شیعہ کے لئے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے" یہ بدگمانی سفید جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ بخلاف ازیں ابن جریر کبار ائمہ اسلام میں سے تھے۔ اگرچہ ہم آپ کو معصوم قرار نہیں دیتے تاہم ان پر غلط الزام عائد کرنا بھی روا نہیں۔ ایک عالم کو دوسرے عالم پر تنقید کرتے وقت نرمی سے کام لینا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیمانی نے جس طبری کے حق میں یہ الفاظ کہے ہیں وہ محمد بن جریر بن رستم طبری رافضی ہو۔ بلکہ میں اس پر حلف اٹھانے کے لئے تیار ہوں کہ سلیمانی کا مقصد یہی ہے۔ سلیمانی حافظ حدیث تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان کے منہ سے کیا بات نکل رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے عظیم امام پر اس طرح طعن کرتے؟

(وفیات الاعیان ج ۳ ص ۲۲۳ و لسان المیزان ج ۵ ص ۱۰۰ و طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ابن بنگلی ج ۲ ص ۱۳۵ و معجم الادب ج ۱ ص ۱۸)

مختصر تعارف :-

تفسیر ابن جریر کا شمار مشہور ترین کتب تفسیر میں ہوتا ہے۔ مفسرین کے نزدیک منقولہ اسیر میں اس کو اولین مصدر و ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقلی تفسیر میں بھی تفسیر ابن جریر کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ ابن جریر کا استنباط اور اقوال کی توجیہ و ترجیح پر مشتمل ہونا ہے۔ یہ ایسی خصوصیات ہیں جن کا تعلق عقل اور حریت فکر و نظر کے ساتھ ہے۔ تفسیر ابن جریر تیس کبیر و ضخیم جلدات پر مشتمل ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے یہ تفسیر بالکل نادر الوجود تھی۔ بارگاہ خداوندی میں مفقود تھا کہ ایک روز یہ مفتہ شہور پر جلوہ گر ہوگی۔ چنانچہ تمام بلاد و دیار کے علماء یہ سن کر بے حد خوش ہونے لگے کہ امرائے نجد میں سے امیر محمد بن امیر عبدالرشید کی ملکیت میں تفسیر ابن جریر کا ایک کامل مخطوطہ موجود تھا۔ تھوڑی ہی مدت گزری کہ اس نسخہ سے منقول ہو کر یہ تفسیر زور طبع سے آراستہ ہو گئی۔ اور اس طرح ہم تفسیر کے اس انسایکلو پیڈیا سے بہرہ یاب ہو گئے۔

(المذاهب الاسلامیہ ص ۸۶)۔

تفسیر ابن جریر کے بارے میں علماء نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ مشرق و مغرب کے علماء اس کی وقعت و اہمیت پر متفق ہیں۔ نیز یہ کہ تفسیر قرآن کا یہ ایسا عظیم ماخذ ہے جس سے کوئی مفسر بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

امام بلال الدین سیوطی فرماتے ہیں :-

”تفسیر ابن جریر جلد کتب تفسیر سے اعظم و افضل ہے۔ اس میں تفسیری احوال کی توجیہ و ترجیح کلمات کی نحوی حالت اور استنباط مسائل سے تعرض کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ تفسیر سابقہ کتب تفسیر پر فوقیت رکھتی ہے۔“ (الاتقان ج ۲ ص ۱۹۰)

امام قزوینی لکھتے ہیں :-

”اس امر پر پوری امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ تفسیر ابن جریر جیسی کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی۔“ (حوالہ مذکور)

ابو حامد اسفیرائی کا قول ہے :-

”اگر کوئی شخص ابن جریر حاصل کرنے کے لئے چین کا سفر اختیار کرے تو یہ کچھ زیادہ نہیں۔“ (مغنی الأوبار ج ۱۸ ص ۳۲)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :-

”لوگوں میں جو کتب تفسیر متداول ہیں تفسیر ابن جریر ان سب سے صحیح تو ہے۔ ان میں علمائے سلف کے اقوال صحیح سند کے ساتھ مذکور ہیں۔ ابن جریر مقاتل بن سلیمان اور کلبی جیسے جھوٹے راویوں سے روایت نہیں کرتے۔“ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۱۹۲)

مصنیف لسان المیزان ذکر کرتے ہیں کہ محدث ابن خزیمہ نے ابن خلدون سے تفسیر ابن جریر مستعار لی اور چند سالوں کے بعد واپس کی پھر فرمایا کہ میں نے از ابتداء اتنا اتہار یہ تفسیر مطالعہ کی ہے میرے خیال میں روئے ارض پر ابن جریر سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ ابن خزیمہ نے یہ شہادت تفسیر ابن جریر سے متاثر ہو کر ہی دی ہوگی۔

مشہور جرمنی مستشرق فولدر کی نے ۱۸۶۷ء میں تفسیر ابن جریر کے چند فقرات دیکھ کر کہا: ”اگر یہ تفسیر ہمارے ہاتھ لگ جاتی تو ہم متاخرین کی تمام تفاسیر سے بے نیاز ہو جاتے۔“

مگر افسوس ہے کہ اسے ناہید خیال کیا جاتا رہا۔ ابن جریر طبری کی تاریخ کی طرح تفسیر ابن جریر کا چشمہ فیض جاری رہا اور متاخرین نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ (الماہب السلامیہ ص ۸۵)

ہمارے پیش نظر جو مآثر ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریر طبری نے جس طرح اپنی تاریخ کو پہلے مفصل لکھا اور پھر اختصار کیا۔ اسی طرح تفسیر ابن جریر بھی پہلے زیادہ ضخیم تھی پھر اس کو مختصر کیا۔ ابن سبکی طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ ابن جریر نے اپنے تلامذہ سے کہا: ”کیا تمہیں تفسیر قرآن سے دلچسپی ہے؟“ انہوں نے کہا: ”اس کی ضخامت کس قدر ہے؟“ کہا: ”تیس ہزار صفحات“ کہنے لگے: ”ایسی تفسیر کو پڑھتے پڑھتے تو عمر ختم ہو جائے گی۔“ چنانچہ آپ نے اس کو تین ہزار صفحات میں مختصر کر دیا۔ پھر کہنے لگے: ”تم حضرت آدم سے لے کر عصر حاضر تک کی تاریخ مطالعہ کرنا چاہتے ہو؟“ کہنے لگے: ”وہ کتنی بڑی ہوگی؟“ آپ نے تفسیر جتنی ضخامت بتلائی۔ تلامذہ نے مذکورہ صدر جواب دہرایا۔ فرمانے لگے: ”إنا لله! آج کل لوگوں کی ہمت پست ہو گئی ہے۔“ چنانچہ ابن جریر نے اس کو بھی مختصر کر دیا۔

ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تفسیر ابن جریر کو باقی کتب تفسیر کے مقابلہ میں دونوں قسم کا شرف تقدم حاصل ہے، چنانچہ یہ تفسیر زمانی سبقت و تقدم کی بھی حامل ہے اور فنی اعتبار سے بھی دیگر تفاسیر پر برتری رکھتی ہے۔ سبقتِ زمانی تو اس لئے کہ یہ اولین تفسیر ہے جو ہم تک پہنچی۔ اس سے قبل تفسیر کے سلسلہ میں جو کوششیں کی گئیں وہ گردشِ ایام کے ساتھ رخصت ہو گئیں اور ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں۔ ماسوا ان اقوال کے جن کو ابن جریر نے اپنی کتاب میں سمویا ہے۔ جہاں تک اس تفسیر کی فنی برتری کا تعلق ہے اس کا مدار و انحصار اس کے اسلوب نگارش پر ہے جو مؤلف نے اختیار کیا ہے۔

عمومی حیثیت سے کتاب پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد اب ہم ابن جریر کے طرزِ تالیف پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ قاری پر یہ حقیقت عیاں ہو سکے کہ یہ تفسیر اپنے باب میں عدم المثال ہے۔ اسی کے پیش نظر متاخرین نے اس کو معیار قرار دیا اور مفسرین کے یہاں اسے ایک مرجع و ماخذ کی حیثیت حاصل ہوئی۔

ابن جریر کا اسلوب تالیف :-

تفسیر ابن جریر کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے اس کا طرز و انداز کھل کر سامنے آتا ہے۔ پہلی

ہاں یہ نمایاں ہوتی ہے کہ ابن جریر جب کسی آیت کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ”القول فی تاویل قولہ تعالیٰ کذا وکذا“ (فلاں آیت کی تفسیر) پھر آیت کی تفسیر کرتے ہیں اور اس کی تائید میں اپنی سند کے ساتھ صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار روایت کرتے ہیں۔ جب کسی آیت کے بارے میں دو یا زیادہ اقوال منقول ہوں تو وہ ہر قول کے ضمن میں اقوال صحابہ و تابعین سے استشہاد کرتے ہیں۔

مزید برآں ابن جریر صرف تفسیری اقوال نقل ہی نہیں کرتے بلکہ ان کی توجیہ کرتے اور ایک کو دوسرے کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے پہلو بہ پہلو جہاں ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے وہاں نحوی بحث بھی کرتے ہیں۔ اگر آیت سے کوئی مسئلہ مستنبط ہوتا ہو تو ابن جریر اسنباط بھی کرتے ہیں۔

تفسیر بالرأی کرنے والوں پر نقد شدید :-

ابن جریر آزاد خیال مفسرین کی پرزور تردید کرتے اور اقوال صحابہ و تابعین سے استفادہ کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں تفسیر صحیح کی علامت یہی ہے کہ وہ صحابہ و تابعین سے مستفاد ہو۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

”لَهُ يَأْتِي مَنْ بَعْدَكَ ذَاكَ عَامًا يَنْهَوِي عَنِ النَّاسِ وَيُنْهَوِي عَنِ النَّاسِ وَيُنْهَوِي عَنِ النَّاسِ“

(سورہ یوسف - ۴۹)

اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر نے علمائے سلف کے مختلف اقوال اور اختلافات قرار دے کر کیا اور پھر ان مفسرین پر شدید رد و کد کی ہے جو محض عنایت کی مدد سے قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے قول کے ابطال و تردید کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ ابن جریر لکھتے ہیں :-

”بعض مفسرین جو اقوال سلف سے نا آشنا ہیں اور لغت کی مدد سے قرآن عربی کی تفسیر بالرأی کرنا چاہتے ہیں وہ ”فِيهِ يَعْصُرُونَ“ کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے وہ قحط سے نجات پائیں گے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ عصر نجات کے معنی

میں ہے اس ضمن میں وہ اشعار عجز سے بھی استشہاد کرتے ہیں۔ مگر تمام اہل علم صحابہ تابعین کا قول اس کے خلاف ہے۔“
(ابن جریر ج ۱۲ ص ۱۳۸)۔

بسا اوقات ابن جریر ابن عباسؓ سے روایت کرنے والوں مثلاً مجاہد و ضحاک کے اقوال کے بارے میں بھی اسی قسم کا موقف اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً

قرآن کریم میں فرمایا :-

”وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُوهَا لَئِنْ اَعْتَدْنَا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُذِّبُوا
فَتَذَكَّهُمْ خَاسِرِينَ۔“

ابن جریر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”مجاہد کہتے ہیں کہ نبی اسرائیل کو بندروں کی صورت میں تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ ان کے دلوں کو مسخ کیا گیا تھا۔ تمثیل کے انداز میں یوں فرمایا جیسے قرآن میں وارد ہوا ہے۔

”كَذَّبُوا الْجِمَارَ كَبْحِيلًا اسْفَانًا“
گدھے کی طرح جس نے کتابیں اٹھا رکھی ہوں۔ (ابن جریر ج ۱ ص ۲۵۲)۔

مجاہد کا یہ قول کتاب خداوندی کے ظاہری مدلول کے بالکل منافی ہے۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابن جریر اپنی تفسیر کے متعدد مقامات پر ایسے نظریات پر شدید کرتے ہیں جو ذہنی اوج اور لغت عرب کے سوا اور کسی دلیل پر مبنی نہیں ہیں۔

اسناد کے بارے میں ابن جریر کا موقف :-

ابن جریر نے اگرچہ اپنی تفسیر میں روایات کو مع اسناد ذکر کرنے کا التزام کیا ہے۔ مگر اکثر و بیشتر وہ اسناد کی جانچ پڑتال نہیں کرتے۔ اصول حدیث کی عام اصطلاح کے مطابق ان کا خیال یہ ہے کہ سند کو ذکر کر کے انہوں نے نقد و جرح کی ذمہ داری آپ پر ڈال دی اور بذات خود سبکدوش ہو گئے۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ مذکورہ اسناد کی چھان پھانگ کا اہتمام کریں اور دیکھیں کہ آیا وہ صحیح ہے یا ضعیف۔

بخلاف ازیں ابن جریر کا ہے ایک تجربہ کار ناقد کی حیثیت بھی اختیار کر لیتے ہیں اور اسناد پر

نقد و تبصرہ کر کے ناقابل اعتماد روایت کو رد کر دیتے ہیں۔

قرآن کریم میں ارشاد فرمایا :-

” قَهْلًا مَّجْعَلًا لَّكَ خَدَجًا حَلٰلِيْ اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا“

(سورۃ الکہف - ۹۴)۔

ابن جریر اس آیت کی تفسیر میں بسند خود عکرمہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ انسانوں کی تعمیر کردہ دیوار کو سد بفتح البین اور حائل تعالیٰ کی بنا کر وہ ہوا اس کو سد بعنم البین کہا جاتا ہے۔ مگر اس روایت کی سند درست نہیں۔ ہارون نے ایوب سے روایت کی اور ایوب نے عکرمہ سے۔ نقاد حدیث کے نزدیک ہارون کی ایوب سے روایت محل نظر ہے۔ ایوب کے جس قدر قابل اعتماد تلامذہ ہیں ان میں سے کسی نے بھی یہ روایت نہیں کی۔

(ابن جریر ج ۱۶ ص ۱۳)

اجماع کی اہمیت ابن جریر کی نگاہ میں :-

تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ابن جریر اجماع اہمیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

” فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا
حَتٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا“

اگر خاوند عورت کو طلاق دیدے تو وہ اس کے لئے حلال نہیں جب تک کسی اور خاوند سے نکاح نہ کرے۔

اس کی تفسیر میں ابن جریر فرماتے ہیں :-

”اگر کوئی شخص پوچھے کہ اس آیت میں نکاح کے معنی جماعت کے ہیں یا عقد نکاح کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عورت کسی شخص سے نکاح کرے اور وہ بلاجماع اس کو طلاق دے دے تو وہ پہلے خاوند کے لئے حلال نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس سے عقد نکاح کئے بغیر بدکاری کا ارتکاب کرے تو بھی وہ پہلے خاوند کے لئے حلال نہ ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس بات پر اہمیت کا اجماع منقذ ہو چکا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ عورت پہلے خاوند کے لئے اس وقت حلال

ہوگی جب کوئی شخص اس کے ساتھ عقد نکاح کر کے اس کے ساتھ جماعت کرے اور اسے طلاق دے دے۔ اگر دریافت کیا جائے کہ قرآن میں تو جماع کا ذکر موجود نہیں پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کا یہ مفہوم اجماع امت کی بنا پر متعین کیا گیا ہے۔“ (ابن جریر ج ۲ ص ۲۹۰)۔

قرآنت سے متعلق ابن جریر کا موقف :-

ابن جریر مختلف قراءتیں ذکر کرنے کا اہتمام کرتے اور ان کے معانی و مطالب پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ جو قراءت معتبرہ سے منقول نہ ہو یا اس کے اختیار کرنے سے کتاب اللہ کا مفہوم بدل جاتا ہو۔ ابن جریر اس کو رد کر دیتے ہیں۔ پھر آخر میں اپنی رائے بیان کرتے ہیں اور اس کے حق میں دلائل و براہین ذکر کرتے ہیں۔ ابن جریر نے مختلف قراءتوں کے سلسلہ میں جو اہتمام کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بذات خود مشہور قاری تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن جریر نے علم القراءت پر ایک ضخیم کتاب مرتب کی تھی جو ۸۰ مجلدات پر مشتمل تھی۔ اس میں تمام مشہور اور شاہد قراءتیں جمع کی تھیں۔ مگر افسوس کہ دیگر کتابوں کی طرح وہ کتاب بھی دست بردرمانہ کی نذر ہو گئی۔

اسرائیلیات اور ابن جریر :-

ہم دیکھتے ہیں کہ ابن جریر اپنی تفسیر میں بسند خود کعب الاحبار، وھب بن نفیثہ، ابن جریر ج ۱ ص ۱۰۰ سے بکثرت اسرائیلی اخبار و واقعات نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن جریر محمد بن اسماعیل سے بہت سے واقعات روایت کرتے ہیں جو انہوں نے نو مسلم نصاریٰ سے سنے۔

ابن جریر اس اسناد کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں نے ابن حنیڈ سے سنا اس نے سلمہ سے اس نے ابن اسحاق سے اس نے ابو عتاب سے۔ ابو عتاب قبیلہ تغلب کا عیسائی تھا۔ یہ عرصہ تک عیسائی رہا۔ پھر اسلام لاکر قرآن کریم اور دیگر دینی تعلیمات حاصل کیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ وہ چالیس سال تک عیسائی رہا، اور چالیس سال حالت اسلام میں بسر کئے۔

ابن جریر مذکورہ صدر اسناد ذکر کر کے اس نصرانی الاصل شخص کی زبانی نبی اسرائیل کے آخری نبی کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ابن جریر نے آیت کریمہ ”اِنَّ اَحْسَنَ شَعْبًا اَحْسَنُوْا (الانفصاۃ - ۸۰) کی تفسیر کرتے وقت ذکر کیا ہے۔ (ابن جریر ج ۱ ص ۲۳)۔

الغرض ابن جریر اسی طرح بکثرت اسرائیلی روایات ذکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تاریخی مباحث کے دوران اس قسم کے واقعات ذکر کرنے کے عادی ہیں۔ اگرچہ ابن جریر ایسی روایات پر نقد و تبصرہ بھی کرتے ہیں تاہم اس کے باوجود آپ کی تفسیر ایک جامع اور مہمگیر تنقید و تبصرہ کی محتاج ہے۔ جس طرح کہ بہت سی دیگر کتب تفسیر شریعہ نقد و جرح کی متعلق ہیں جن میں بیشمار من گھڑت اسرائیلی واقعات مندرج ہیں، مگر یہ پہلو بھی قابل طور ہے کہ ابن جریر نے ہر روایت کی سند ذکر کر دی ہے، اور اس طرح وہ اپنے فرض سے بکدوش ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ سند کی چھان چھنک کریں اور روایات کو جانچیں پرکھیں۔

بے مقصد امور سے احتراز :-

تفسیر ابن جریر کے بارے میں یہ امر قابل لحاظ ہے کہ اس کے مؤلف دیگر مفسرین کی طرح لایعنی اور بے کار باتوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ مثلاً آیت کریمہ :-

” هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدًا مِّنَ السَّمَاءِ ” المائدہ ۱۱۳ (۱۱۴) سکتا ہے۔

کی تفسیر کرتے ہوئے وہ روایات ذکر کرتے ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ جو کھانا آسمان سے اترتا تھا وہ کیا تھا۔ پھر اس پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس ضمن میں صحیح قول یہ ہے کہ دسترخوان پر کھانے کی چیزیں تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پھلی اور روٹی ہو۔ اس کا بھی امکان ہے کہ وہ جنتی پھلوں میں سے کوئی پھل ہو۔ اس بات کی تہ تک پہنچنے سے کچھ حاصل نہیں کہ وہ کھانا کیا تھا۔ نہ اس کے جاننے سے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ اس سے ناآشکارہنے سے کچھ نقصان ہوتا ہے۔

(تفسیر ابن جریر ج ۷ ص ۸۸)۔

قرآن عزیز میں فرمایا :-

” وَشَرَّوْهُ بِمَنْ جَحْسَ ذُرَاهِمَ ” اور انہوں (صحابیوں) نے ان (حضرت یوسف) کو بہت کم قیمت چند درہم کے عوض فروخت کر دیا۔

اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر متقدمین کے اقوال ذکر کرتے ہیں کہ جہائوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنے درہموں کے عوض فروخت کیا۔ آیا وہ بیس درہم تھے یا بائیس یا چالیس؟ پھر ان

اقوال پر یوں تنقید کرتے ہیں :-

”اس ضمن میں صحیح قول یہ ہے کہ خداوند کریم نے اس امر سے آگاہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو گنتی کے چند درہموں کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ یہ نہیں بتایا کہ ان درہموں کا وزن یا تعداد کتنی تھی۔ اس ضمن میں قرآن و حدیث میں ضمناً یا صراحتاً کچھ نہیں کہا گیا۔ اس لئے اس میں سبھی احتمالات کا امکان ہے کہ وہ بائیس ہوں یا پالیس یا اس سے کم و بیش۔ تعداد یا وزن کا علمی اعتبار سے کچھ فائدہ بھی نہیں اور اس سے نا آشنا ہونے سے کچھ حرج بھی نہیں۔ ایمان تو صرف ظواہر قرآن پر لانا ضروری ہے۔ باقی امور جاننے کا ہمیں تکلف نہیں بنانا چاہیگا“ (ابن جریر ج ۱۲ ص ۱۰۵)۔

کلام عرب سے استشہاد :-

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ایک انداز یہ بھی اختیار کیا ہے کہ تفسیر بالماثور کے ساتھ ساتھ وہ لغت سے بھی استشہاد کرتے ہیں۔ مثلاً جہاں قرآن کریم میں کوئی ایسی عبارت موجود ہو جس کے معنی و مطلب میں شک و شبہ کی گنجائش ہو تو وہ وہاں معنوی استعمال کو بطور دلیل و برہان کے پیش کرتے اور ایک مفہوم کو دوسرے کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں۔ مثلاً

قرآن کریم میں ارشاد ہوا :-

”حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَكُنَّا
الْمُتَنَوِّرُونَ“ (سورۃ ص ۴۰)

جب ہمارا حکم ہوا اور تنور نے بجھ مارا

اس آیت میں تنور کا جو لفظ وارد ہوا ہے اس کی تفسیر میں ابن جریر نے علمائے سلف کے مندرجہ ذیل اقوال نقل کئے ہیں :-

- ۱- تنور سے روئے زمین مراد ہے۔
 - ۲- تنور کے معنی صبح کے روشن ہو جانے کے ہیں۔
 - ۳- اس سے زمین کا بالائی اور عمدہ حصہ مراد ہے۔
 - ۴- تنور اس بھٹی کو کہتے ہیں جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔
- اس پر تبصرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :-

”اس ضمن میں صحیح تر قول یہ ہے کہ اس سے روٹیاں پکانے کا تنور مراد ہے۔ اس

کی وجہ یہ ہے کہ کلام عرب میں ہی معنی معروف ہیں۔ کلام الہی میں جو لفظ وارد ہو اس کے وہی معنی مراد لینے چاہئیں جو عرب میں مشہور تر ہوں۔ البتہ کسی دلیل سے کوئی اور مفہوم ثابت ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ کیونکہ خداوند کریم نے اس کلام کے ذریعہ عربوں کو اسی لئے مخاطب کیا تھا کہ آسانی سے وہ اس کا معنی و مفہوم سمجھ جائیں۔

(ابن جریر ج ۱۲ ص ۲۵)۔

جاہلی اشعار سے استدلال :-

ابن جریر اپنی تفسیر میں جاہلی اشعار سے بھی احتجاج و استنباط کرتے ہیں۔

مثلاً آیت کریمہ :-

” فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اٰنَادًا
فدا کے شریک نہ ٹھہراؤ۔

(البقرہ) ۲۲۱

کی تفسیر کرتے ہوئے ابو جعفر کا قول نقل کرتے ہیں کہ اناؤ کا واحد اناؤ ہے جس کے معنی ٹھیل اور نظیر کے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ شعر ہے :-

سہ اتحجرہ ولست له بند
فتندگما یخیرگما العداؤ

(کیا تو آپ نہی کرؤم) کی جو تباہی حالاکہ تو آپ میا نہیں تم (دونوں میں جو بڑا ہے وہ اچھے پر تران جو جائے)۔

اس شعر میں بند کے لفظ کو عدیل و نظیر کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اس ضمن میں علمائے

سلف کے اقوال نقل کئے ہیں۔

نحوی مسائل کا تذکرہ :-

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں مرئی و نحوی مسائل سے متعلق کوئی اور بصری نحووں کے بے شمار

اقوال ذکر کئے ہیں۔ غرض یہ کہ حسب موقع و مقام ابن جریر لغت عرب اور جاہلی اشعار سے استنباط

کرتے ہیں اور جہاں ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے وہاں بصری و نحوی مسائل کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔

بنابریں ان نحوی و نحوی مباحث نے کتاب کی شہرت میں معتد بہ اضافہ کر دیا ہے۔ دراصل اس گراں قدر

علمی خزانہ کا بڑا سبب موتلف کی اپنی ذات ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ابن جریر ایک جید عالم دین اور منہج

ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زبردست معنوی ادیب اور نقاد بھی تھے۔ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ نحوی و درنحوی

مباحث کا یہ عظیم ذخیرہ جہاں خود مفسرین نے تفسیر قرآن کے لئے اس کی نیت ایک موثر ذریعہ کی ہے۔

تفسیر ابن جریر اور فقہی احکام :-

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں علماء و فقہاء کے مذاہب و مسالک کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ پھر خاصہ کے طور پر اپنی رائے ذکر کرتے اور اس کی تائید و حمایت میں علمی دلائل دیتے ہیں مثلاً

”وَالْحَيْلُ وَالْإِعْجَالُ وَالْحَمِيرُ
لِكُلِّ كَبُورٍ أَوْ زَيْدٍ“ (بخاری ج ۸)

اور ہم نے گھوڑوں، چروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم سوار ہو اور یہ بھٹ زینت بھی ہیں۔

ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں گھوڑوں، چروں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے متعلق علماء کے اقوال اپنی سند کے ساتھ ذکر کئے ہیں۔ پھر اپنا قول یہ ذکر کیا کہ اس آیت سے ان حیوانات کے گوشت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

ابن جریر لکھتے ہیں :-

”اس سلسلہ میں صحیح تر تو یہ ہے کہ اس آیت سے ان حیوانات کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اس آیت میں ان حیوانات کی غرض یہ بتلائی ہے کہ یہ سواری کے لئے ہیں اس سے یہ کیونکر ثابت ہوا کہ ان کے حلال نہیں اگر اس کے یہ معنی لئے جائیں تو آیت :-

”فِيهَا رِدْفٌ وَمَسْنَعٌ وَرِجْمَةٌ
تَأْكُلُونَ“ (بخاری ج ۵)

ان میں گرمی اور فوائد ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔

کا یہ مطلب ہو گا کہ ہر چیز پر کھانے کے لئے ہیں اس لئے ان پر سواری جائز نہیں۔ حالانکہ اس پر علماء کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ ان پر سوار ہونا جائز اور درست ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن مویشیوں کی غرض سواری بتائی ہے ان کا گوشت کھانا بھی حلال ہے۔ اس واسطے جانور کے جس کی حرمت منصوص ہو۔ یا قرآن کریم کی کسی آیت یا حدیث نبوی سے اشارت اس کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہو۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے اس سے کسی جانور کی حرمت واضح نہیں ہوتی۔ پالتو گدھے اور خچر کی حرمت حدیث نبوی سے ثابت ہوئی۔ بہر کیف یہ حقیقت خوب بخیر کر سانسے

اگنی کہ اس آیت سے کسی طرح بھی گھوڑے کے گوشت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔“

(ابن جریر ج ۳ ص ۵۷)

ابن جریر ماہر علم الکلام کی حیثیت سے :-

اس امر کا ذکر کئے بغیر تفسیر ابن جریر پر تبصرہ نامکمل رہے گا کہ اکثر آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اس کے مؤلف نے علم الکلام کے بعض پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس فن میں بھی جہارت تامہ رکھتے تھے۔ وہ جب کسی آیت اور اصول عقائد میں تطبیق دیتے ہیں یا بعض کلامی نظریات کی تردید کرتے ہیں تو اس سے ان کا کمال فن ظاہر ہوتا ہے۔ کلامی جدلیات ہوں یا تطبیق و مناقشات وہ کسی صورت میں بھی اہل سنت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اختیار کے مسئلہ میں ابن جریر نے قدریہ کی بو تر دید کی ہے اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔

سورۃ فاتحہ کی آیت ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ کی تفسیر کرتے ہوئے ابن جریر لکھتے ہیں :-

”بعض غبی منکرین تقدیر نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ مندرجہ صدر آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو ”ضالین“ (مراہ) کہا کہ ضلال کی نسبت ان کی جانب کی ہے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو گمراہ کیا۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہا کہ وہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اس سے قدریہ کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ بندہ فعل مختار ہے۔ اس کا قائل عربوں کے اسلوب کلام سے یکسر بے گانہ ہے۔ اگر اس بات کو درست تسلیم کر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کو بھی کسی صفت سے موصوف کیا جائے یا جس کی جانب بھی کسی فعل کو منسوب کیا جائے تو وہ فعل سراسر اس کا ہوتا ہے، کسی دوسرے کا اس فعل کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہوتا۔“

اندریں صورت جب ہوا درخت کو حرکت دے رہی ہو تو یہ کہنا کہ ”درخت بلا“ غلط ہوگا اسی طرح جب زلزلہ آنے سے زمین حرکت کرنے لگے تو یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ ”زمین نے حرکت کی اس لئے کہ نہ درخت خود ہلا ہے اور نہ زمین نے خود حرکت کی ہے۔ بلکہ ان کو حرکت دینے والا کوئی اور ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ قدریہ نے سورۃ فاتحہ کی آیت سے جو استدلال کیا وہ قطعاً بے بنیاد ہے۔ اس لئے کہ بیشتر آیات میں خداوند کریم نے ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کی نسبت اپنی جانب بھی کی ہے۔

”وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَحَسَنَةً عَلَيَّ“ اور علم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا

سَمِعَهُ وَقَلْبِهِ ۖ (الجمادہ - ۲۲) اور اس کے کانوں اور دل پر ٹہر لگا دی۔

مذکورہ صدر آیت میں بتایا کہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا اسی کا کام ہے کسی اور کا نہیں۔ مگر قرآن عربی زبان میں اترا۔ اور عربی میں یہ عام و ستور ہے کہ فعل کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے جس سے ظاہر وہ صادر ہوا ہو، اگرچہ وہ فعل کسی اور کی مشیت و قدرت سے ظہور میں آیا ہو۔ جب ایک فعل بندہ خود انجام دے رہا ہو مگر اس کا حقیقی مُوجد اللہ تعالیٰ ہو تو اس کو فاعل کی جانب اس اعتبار سے منسوب کیا جائیگا کہ اس نے خداوند تعالیٰ کی وی ہوئی قدرت و اختیار سے وہ کام کیا اور اللہ تعالیٰ کی جانب اس لئے منسوب ہوگا کہ مُوجد حقیقی و راصل وہی ہے۔ (ابن جریر ج ۱ ص ۶۲)۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ابن جریر باجما معتزلی عقائد و انکار کی ترویج کرتے چلے آتے ہیں۔ مثلاً جن قرآنی آیات سے اہل سنت کے نزدیک رُؤیتِ خداوندی کا اثبات ہوتا ہے وہاں ابن جریر معتزلہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ابن جریر سلف کے اس عقیدہ کے ساتھ اظہار اتفاق کرتے ہیں کہ آیات صفات کو ان کے ظاہر پر معمول کیا جائے مگر اس کے ساتھ ساتھ تشبیہ و تجسیم کے عقیدہ کی مخالفت کرتے اور ان لوگوں کی سخت ترویج کرتے ہیں جو ذراتِ ہاری کو انسانوں کے مماثل قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آیت :-

”وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ“ اور یہود نے کہا کہ خدا کے ہاتھ بند ہیں۔

(نائدہ - ۶۲)

کی تفسیر ابن جریر ج ۶ ص ۱۹۲ پر ملاحظہ فرمائیے۔

نیز آیت کریمہ :-

”وَأَكَلُوا مِنْ جَمِيعًا قَبْلَئِذْ يَوْمَ أَلْقَيْنَا الْأَيَّامَ“ (الزمر - ۶۷)

اور سب زمین روز قیامت اس کی گرفت میں ہوگی۔

کی تفسیر ابن جریر ج ۲ ص ۱۶ پر۔

الغرض ابن جریر کے عصر و عہد میں جن کلامی مسائل میں نزاع پایا ہوا تھا۔ وہ دیگر مفسرین کی طرح اس سے پہلو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بلکہ اس میں بھر پور حصہ لیتے ہیں اور امر کے خواہاں نظر آتے ہیں کہ جیسے بھی بن پڑے مخالفین کے افکار و عقائد کے برعکس اہل سنت کے معتقدات کا تحفظ کیا جائے۔

تفسیر ابن جریر کا علمی پایہ :-

خلاصہ کلام یہ کہ ابن جریر نے اپنے پیش رو مفسرین کے جو اقوال اپنی کتاب میں جمع کئے اور حضرت ابن عباس، ابن مسعود، علی بن ابی طالب اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کے مکتب فکر سے جو کچھ بھی نقل کر کے ہم تک پہنچایا اور اسی طرح ابن جریج، سدی، ابن اسحاق اور دیگر علماء سے جو استفادہ کیا اس کی بناء پر یہ کتاب تفسیر بالماثور پر مشتمل کتب میں عظیم ترین کتاب شمار ہوتی ہے۔ مزید برآں تفسیر ابن جریر میں جو نحوی و لغوی مباحث مذکور ہیں اور استنباط مسائل اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دینے کے سلسلہ میں جو تفصیلات مذکور ہیں، انہوں نے اس کتاب کو تفسیر میں ایک انقلابی تہریر کا مرکز و محور بنا دیا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آگے چل کر جس تفسیر بالرائی کی بنا پڑی۔ اس کے لئے اس تفسیر نے ہی تخم کاری کی تھی۔ غرض یہ کہ ابن جریر کے عصر و عہد میں علم و ادب کی جو روح کارفرما تھی اس کتاب میں اس کی پوری جھلک ملتی ہے۔

اس عظیم کتاب کی مدح و توصیف میں چند فضلاء کے خیالات درج ذیل ہیں :-

علامہ داؤدی اپنی تاریخ میں ابو محمد عبداللہ بن احمد فرغانی سے نقل کرتے ہیں۔

”ابن جریر نے اپنی تفسیر میں قرآن کریم کے احکام ناسخ و منسوخ مشکل و غریب نحوی مسائل قصص و اخبار اور عجیب و غریب اسرار و نکات بیان کئے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ تفسیر ابن جریر کی مدد سے دس کتب مرتب کرے گا جن میں سے ہر ایک جداگانہ علم و فن سے متعلق ہوگی تو وہ ایسا کر سکتا ہے“

(طبقات المفسرین داؤدی ص ۱۲۳)۔

یا قوت حموی تفسیر ابن جریر کی تعریف میں رقمطراز ہیں :-

حضرت ابن عباس سے سن کر جو تفاسیر مرتب کی گئی تھیں، ابن جریر نے اس کے پانچ

طُرُق بیان کئے ہیں۔ سعید بن جبیر سے منقول تفسیر کی دو سندیں، مجاہد کی تین، حسن بصری اور عکرمہ کی تین، صفحاک بن مزاحم کی دو اور عبد اللہ بن مسعود کی ایک سند علاوہ انہیں اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ابن بزیج اور مقاتل بن حیان کی مرتبہ کتب تفسیر سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ تفسیر ابن جریر میں حسب موقع و مقام مشہور اور سند روایات بکثرت ہیں۔ ناقابل اعتقاد اقوال کثیرہ مفقود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن جریر محمد بن سائب کلبی مقاتل بن سلیمان اور محمد بن عمرو قادی کی کتب سے بالکل استفادہ نہیں کرتے۔ جہاں تک تاریخ و سیر اور انبار عرب کا تعلق ہے۔ ابن جریر ان لوگوں سے اس سلسلہ میں ضرور نقل و روایت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ دوسروں سے یہ معلومات حاصل نہیں ہو سکتے۔“

عمومی اور لغوی معانی و مسائل کے سلسلہ میں ابن جریر علی بن حمزہ کسایی، یحییٰ بن زناد الفزار ابو الحسن، اخفش اور ابو علی قطرب کی کتب پر انحصار کرتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ لوگ نحو و لغت کے علوم میں یکتا نے روزگار تھے۔ یہ عظیم کتاب دس ہزار اوراق پر مشتمل ہے۔ طبری نے یہ کتاب سات سالوں میں اپنے تلامذہ کو ادا کرائی تھی۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر ج ۸ ص ۲ پر ابو بکر بن بابویہ کا قول نقل کیا ہے کہ مجھ سے محدث ابن خزیمہ نے پوچھا کیا آپ نے ابن جریر طبری سے تفسیر نقل کی ہے؟ میں نے کہا ”جی ہاں!“ انہوں نے ہمیں یہ تفسیر ادا کرائی تھی۔“ کہا ”پوری تفسیر آپ نے لکھی“ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر پوچھا ”کہ یہ کس سال کا ذکر ہے؟“ میں نے کہا ”۲۸۳ھ سے لے کر ۲۹۰ھ تک“

بہر کیف تفسیر ابن جریر، تفسیر بلاثور پر مشتمل کتب میں نہایت مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ بلکہ یہ نقلی تفسیر کا اولین ماخذ ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو کتب تفسیر میں سے کسی میں بھی نہیں پائی جاتی۔

(مجم الادب ج ۱۸ ص ۶۴)

تفسیر بحر العلوم سمرقندی

مؤلف :- تفسیر زیر تبصرہ کو ابو الیث نصر بن محمد بن ابراہیم سمرقندی حنفی فقیہ نے مرتب کیا۔

یہ ابو جعفر الحندی دوانی کے شاگرد رشید تھے۔ آپ کی مشہور تصانیف سب ذیل ہیں :-

- ۱۔ تفسیر بحر العلوم جو تفسیر ابوالایٹ سمرقندی کے نام سے معروف ہے۔
- ۲۔ کتاب النوازل۔
- ۳۔ خزانة الفقہ۔
- ۴۔ تنبیہ الغافلین۔
- ۵۔ البتآن۔

آپ نے ۴۳۰ھ یا ۴۵۰ھ میں وفات پائی۔ (طبقات المفسرین اودی ص ۲۲۴)

تعارف تفسیر:

صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں :-

ابوالایٹ نصر بن محمد سمرقندی حنفی فقیہ متوفی ۲۵۵ھ نے نہایت عمدہ تفسیر مرتب کی ہے۔ شیخ زین الدین قاسم بن تطلوبغا حنفی متوفی ۵۴۲ھ نے اس کی امداد کی تخریج کی ہے۔ (کشف الظنون ج ۱ ص ۲۲۴)

یہ تفسیر تا بنوز طبع سے آراستہ نہیں ہوئی اور آیات مخطوطہ کی شکل میں تین ضخیم جلدوں میں دارالکتب المصریہ میں محفوظ ہے۔ مکتبہ الازھر میں اس کے دو ٹپے نسخے موجود ہیں۔ ایک نسخہ دو جلدوں میں ہے اور دوسرا تین جلدوں میں۔ محمد حسین ذہبی لکھتے ہیں کہ میں نے اس تفسیر سے بہت استفادہ کیا ہے۔ اس کے مولف نے مقدمہ میں علم تفسیر کی فضیلت و اہمیت واضح کی ہے اور علمائے سلف کی روایات کو دلیل و برہان کے طور پر پیش کیا ہے۔ مقدمہ میں تحریر کرتے ہیں کہ جو شخص دعوہ لغت اور احوال تنزیل سے کما حقہ آگاہ نہ ہو، اس کے لئے قرآن کی تفسیر کرنا جائز نہیں۔ پھر اپنی سند کے ساتھ سلف صالحین کی روایات نقل کی ہیں کہ تفسیر بارآئی قطعی حرام ہے۔

اس کتاب کے مولف بھی قرآن کی تفسیر صحابہ تابعین و تابع تابعین کے اقوال و آثار کی مدد سے کرتے ہیں۔ مگر روایات ذکر کرتے وقت وہ سند بہت کم بیان کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں جب وہ مختلف اقوال و روایات ذکر کرتے ہیں تو ان پر نقد و تبصرہ نہیں کرتے اور نہ ہی ابن جریر کی طرح ایک قول کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں۔ تفسیر ہذا کے مولف بعض جگہ مختلف قراروں کا ذکر بھی کرتے ہیں

مثلاً آیت کریمہ ”لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ“ (بقرہ - ۱۲۳) میں قرأتوں پر روشنی ڈالی ہے۔
تفسیر زیر قلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے مولف ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت
سے لرتے ہیں۔ مثلاً آیت قرآنی :-

”إِنِّي أَنبِئُكُمْ بِمَا لَكُمْ بِهِ خِزْيَانٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَصِفُ الرِّجْسَ الَّذِي تَرَىٰ فِي عَمَلِنَا وَمِنَ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَصِفُ الرِّجْسَ الَّذِي تَرَىٰ فِي عَمَلِنَا وَمِنَ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَصِفُ الرِّجْسَ الَّذِي تَرَىٰ فِي عَمَلِنَا“
میں اس کو اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔

کئی تفسیر کرتے ہوئے کتاب ہذا ج ۱ ص ۹۷ پر دوسری آیات کا حوالہ دیا ہے۔ مفسر اسرائیلی قصص
میں لکھتے ہیں ”بعض نے یوں کہا اور بعض نے یوں لکھا کہ وہ اس پر تنقید بالکل نہیں کرتے۔ اکثر یوں ہوتا
ہے کہ بعض نے یوں کہا اور بعض نے یوں لکھا کہ وہ اس پر تنقید بالکل نہیں کرتے۔ بعض اوقات
وہ ضعیف روایت ورجال سے بھی روایت کرتے ہیں۔ مثلاً وہ سُدی کلبی اور دیگر مجروح راویوں سے بھی
اخذ و نقل کرتے ہیں۔ گاہے آیت پر وارد شدہ اعتراض ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ مثال کے
طور پر آیت ”کیف تکفرون بالله وكنتم امواتا البقرة: ۱۰۰ کی تفسیر ہذا ج ۱ ص ۱۲ پر ملاحظہ
فرمائیے۔“

مفسر یہ کہ تفسیر زیر تبصرہ ہر لحاظ سے مفید نافع اور تفسیر الروایۃ والدرایۃ کا نادر گنجینہ ہے۔ مگر
اس میں نقل کا پہلو عقل پر غالب ہے۔ اسی بنا پر ہم نے اس کو تفسیر الماثورہ پر مشتمل کتب میں شمار کیا
ہے۔

الكشفُ البیانُ عن تفسیر القرآن، از ثعلبی

تعارُفِ مولف :- نام و نسب ابو اسحق احمد بن ابراہیم ثعلبی نیشابوری ہے۔ آپ

عظیم قاری مفسر حافظ وواظ ماہر عربیت اور نہایت دین دار تھے۔

ابن خلیکان فرماتے ہیں :-

”فن تفسیر میں آپ یکتائے روزگار تھے۔ ایسی تفسیر لکھی جو دیگر تفاسیر پر فائق ہے۔“

(وفیات ارجان ج ۱ ص ۳۷)۔

یا قوتِ حموی لکھتے ہیں :-

”ثعلبی ایک عظیم قاری مفسر و اعظم ادیب ثقہ حافظ اور صاحب تصانیف کثیرہ تھے۔

آپ کی تفسیر انواع و اقسام کے معانی و اسرار کی جامع ہے۔ اس میں اعراب قرابت کے بارے میں شاندار مباحثہ موجود ہیں۔“ (معجم الادب اربع ص ۵ ص ۳۷)

آپ کی تصانیف میں کتاب الغرائس بھی شامل ہے۔ جس کا موضوع انبیاء کے اخبار و واقعات ہیں۔ سماعی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ آپ کو ثعلبی بھی کہا جاتا ہے اور ثعلابی بھی۔ یہ آپ کا لقب ہے نسب نہیں۔ عبد الغفار بن اسماعیل فارسی نے تاریخ نیشاپور میں آپ کا ذکر بڑے مدحیہ انداز میں کیا اور آپ کو ثقہ قرار دیا ہے۔

ثعلبی نے ابوطاہر بن خزیمہ اور امام ابو بکر بن نصران قلمی سے استفادہ کیا۔ آپ کے تلامذہ میں ابوالحسن واحدی کا نام قابل ذکر ہے۔ واحدی نے آپ سے تفسیر پڑھی۔ وہ ثعلبی کے بہت بڑے مداح ہیں۔ ثعلبی عظیم محدث اور کثیر الشیوخ تھے۔ مگر علماء میں سے بعض ان کو ثقہ قرار نہیں دیتے۔ ثعلبی نے ۲۴۷ھ میں وفات پائی۔ ثعلبی کے تفصیلی ترجمہ کے لئے درج ذیل ماخذ کی جانب رجوع فرمائیں۔

(معجم الادب اربع ص ۵ ص ۳۶ وفیات الاعراب)

رج ص ۲۲ و شذرات لہبید رج ص ۱۳)۔

تعارفِ تفسیر :-

مؤلف نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اس کے اسلوب نگارش پر روشنی ڈالی اور یہ بتایا ہے کہ وہ عہد طفولیت ہی سے علماء کی خدمت میں ماضی دیتے اور علم تفسیر کے حاصل کرنے کے لئے کوشاں رہتے تھے۔ ان کی محنت و کاوش کی حد یہ ہے کہ وہ رات بھر جاگتے رہتے۔ حتیٰ کہ خداوند رحیم و کریم نے ان پر اس علم کے دروازے کھول دیے۔ جس سے وہ حق و باطل ادنیٰ و اعلیٰ جدید و قدیم اور بدعت و سنت میں فرق کرنے لگے۔ اور ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ مفسرین قرآن کی چند قسمیں ہیں۔

۱۔ اہل بدعت و ضلالت مثلاً جبائی و زمانی۔

۲۔ مفسرین کی وہ جماعت جو بہترین مصنف تھے۔ مگر انہوں نے اہل بدعت کے نظریات کو سلف صالحین کے اقوال کے ساتھ گڈمڈ کر دیا۔ مثلاً ابو بکر قتال۔

۲- وہ مفسرین جو نقل و روایت کے اندر محدود رہے اور نقد و روایت کی جانب توجہ نہ دی۔ مثلاً ابویقوب اسحاق بن ابراہیم سبکی۔

۳- ایک قسم کے مفسرین وہ تھے جنہوں نے اسناد کو حذف کر کے کتابوں سے روایت کی اور اپنی کتب کو رطب و یابس روایات کا پلندہ بنا دیا۔ یہ لوگ علماء میں شمار نہیں ہوتے اور میں نے کتاب میں ان کا ذکر نہیں کیا۔

۵- مفسرین کی ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے حسن تالیف کا حق ادا کر دیا۔ مگر ان کی تصانیف میں تکرار و اعادہ کی بھرمار ہے۔ ان جریر طبری بھی انہی میں شامل ہیں۔

۶- مفسرین کی ایک قسم وہ ہے جنہوں نے تفسیر قرآن کے دوران نہ ملامت و حرام پر روشنی ڈالی نہ اس کے غوامض و مشکلات کی گہر کشائی کی اور نہ گمراہ فرقوں کی تردید کا بیڑا اٹھایا۔ مثلاً مجاہد۔ سدی اور کلبی وغیرہم۔

مصنف کا بیان ہے کہ میں نے متقدمین کی تصانیف میں ایسی جامع کتاب نہیں دیکھی جو ان تمام صفات کی حامل ہو۔ چنانچہ لوگوں نے ایسی جامع تفسیر لکھنے کی فرمائش کی، اور میں نے ان کے حقوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے رضائے الہی کی خاطر بعد از استمارہ تہنیت ربانی اس کتاب کا آغاز کر دیا۔ اس کتاب میں میں نے قریباً ایک سو کتاب کا منتخب مواد جمع کر دیا ہے۔ تعلیقات اور متفرق اجزاء سے جو استفادہ کیا ہے وہ اس پر مزید ہے۔ علاوہ ان کے تین صد کبار شیوخ و اساتذہ سے جو علمی اسرار و رموز مل سکے وہ بھی اس کتاب میں نہایت اختصار اور حسن ترتیب کے ساتھ یکجا کر دئے۔ اس کا نام میں نے "الکشف والبیان عن تفسیر القرآن" تجویز کیا۔ جن اساتذہ سے تفسیری روایات اخذ کی تھیں۔ ان کا ذکر آغاز کتاب میں کر دیا ہے۔ آگے چل کر کتاب میں پوری سند ذکر نہیں کی۔ معاصر مصنفین جن سے استفادہ کیا اور الفاظ غریبہ و قرائت پر مشتمل جن کتب سے مدد لی ان سب تک اپنی سند ذکر کر دی ہے۔ ایک باب میں قرآن اور حاملین قرآن کے فضائل بیان کئے اور دوسرے میں تفسیر و تاویل کے معنی و مفہوم کی عقدہ کشائی کی اور پھر اصل تفسیر کا آغاز کیا۔

محمد حسین الدہمی صاحب التفسیر والمفسرون رقمطراز ہیں :-

"میں نے جامعہ ازھر کی لائبریری میں اس کتاب کا ایک ناقص قلمی نسخہ دیکھا ہے جو چار جلدات

پر مشتمل تھا۔ چوتھی جلد سورہ انفراق کے آخر تک پہنچ کر ختم ہوتی ہے۔ کتاب کا باقی حصہ تلاش بسیار کے باوجود ہمیں نہ مل سکا۔ مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ تک پہنچا کہ یہ علمائے سلف کے اقوال پر مشتمل ہے اسانید آغاز کتاب میں ذکر کر دی ہیں اور آگے سپرد کتاب میں ان کو حذف کر دیا ہے۔ مؤلف نحوی مسائل سے خصوصی دلچسپی لیتے ہیں مثلاً آیت ”بَلَسْنَا مَا اسْتَرَقْنَا بِهِ اَفْسُهْمُ“ (البقرہ - ۹۰) کی تفسیر کرتے ہوئے ”نَعَزَّ وَبَسَّ“ افعال مدح و ذم پر کھل کر گفتگو کی ہے۔

(دیکھئے کتاب زیر تصروح ص ۸۳)

اسی طرح مؤلف مشکل الفاظ کی مرئی و نحوی یوزیشن واضح کرتے وقت عربی اشعار سے بھی استشہاد کرتے ہیں۔ مثلاً آیت ”مَثَلُ الَّذِي نَفَرَ وَكَلَّمَ الْاِنْفِقُ“ (البقرہ - ۱۷۱) کی تفسیر کرتے ہوئے مؤلف نے ”يَتَّقُ“ کی توضیح میں خاصی طوالت سے کام لیا ہے۔ (الکشف والبيان ج ۱ ص ۱۲۲)

کتاب ہذا کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ مؤلف آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے فقہی احکام و غلایات کی تفصیل ذکر کرتے اور موافق و مخالف دلائل و براہین پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حتیٰ کہ آیت میں ذکر کردہ مسائے کا کوئی پہلو تشنہ نہیں رہتا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آیت کا معنی و مطلب کھل کر سامنے نہیں آتا۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

”يَوْمَ يَبْعَثُ اللهُ فِيْ اُوْدٍ اَدْكُھُ“

اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے

میں وصیت کرتا ہے۔

(النار - ۱۱)

اس آیت کی تفسیر میں مؤلف نے ورثہ کی تقسیم سے متعلق گویا ایک پوری کتاب تحریر کر دی ہے تقسیم وراثت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو اس میں مذکور نہ ہو۔ علاوہ ازیں مؤلف نے اس پر کھل کر گفتگو کی ہے کہ ظہور اسلام سے قبل وور باطلیت میں ورثہ کیوں کر تقسیم کیا جاتا تھا۔

(الکشف والبيان ج ۲ ص ۹۱)

”قرآن میں فرمایا :-

”وَ اِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ

اگر تم بیمار یا سفر میں ہو یا کوئی شخص تھکنے

حاجت کرے آیا ہو۔

جاءَ اَحَدًا مِّنَ الْغَائِطِ“ (النار - ۴۳)

مندرجہ صدر آیت کی تفسیر میں مولف پہلے لمس و ملامتہ کا مفہوم علمائے سلف کے اقوال سے واضح کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں فقہار کے پانچ مذاہب ہیں۔ امام شافعی کا مسلک واضح کرنے میں آپ نے خصوصی تفصیل سے کام لیا ہے۔ پھر تیم سے متعلق علماء کے اقوال و مذاہب پر روشنی ڈالی اور ہر فقیہ کے ذکر کردہ دلائل کا تجزیہ کیا ہے۔

(دیکھئے الکشف ج ۲ ص ۱۳۵)

الفرض مولف ہر علمی مسئلہ کے ذکر و بیان میں اس حد تک طوالت سے کام لیتے ہیں کہ کتاب تفسیر بالماثور کے دائرہ سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ (التفسیر والمفسرون) تفسیر زیر قلم کا افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ مولف نے اسرائیلی قصص و اخبار کے ذکر و بیان میں بڑی بیاضی دکھائی ہے اور اس پر طرہ یہ کہ کہیں نقد و جرح کا نام تک نہیں لیا۔ حالانکہ بحیران کردہ واقعات میں سے اکثر نہایت عجیب و غریب اور حیرت افزا ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ ثعلبی قصے کہانیوں کے نہایت دلدادہ تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کے اخبار و واقعات پر ایک مستقل کتاب لکھ ڈالی۔ اپنی تفسیر میں جہاں مولف نے آیت "أَدْوَىٰ الْفِتْنَةُ بِلَىٰ الْكَلْبِ" (سورۃ الکہف - ۱۰) کی تفسیر کی ہے وہاں اصحاب کہف کے اسماران کی تعداد اور ملک سے نکلنے کے اسباب و وجوہ کے سلسلہ میں سُدی، ذهب اور دیگر علماء کے بکثرت اقوال نقل کئے ہیں۔ پھر کعب الاحبار کی روایت سے اس واقعہ پر روشنی ڈالی ہے کہ کتاب کیوں کر اصحاب کہف کے ساتھ غارتگ چلا آیا۔ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ایزوی میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں اصحاب کہف کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا کہ دنیا میں یہ آرزو پوری نہیں کی جاسکتی۔ حکم ملا کہ آپ اپنے چار بہترین صحابہ کو بھیج کر اصحاب کہف کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ یہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کو عقل باور نہیں کر سکتی۔

(الکشف ج ۴ ص ۱۲۱)

سورہ کہف میں جہاں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ وہاں بھی ثعلبی نے بیدار عقل طویل افسانے بیان کئے ہیں۔ اس کی حد یہ ہے کہ ثعلبی نے علمائے سلف سے جو تفسیری اقوال نقل کئے ہیں، ان میں بھی صحت کا التزام نہیں رکھا۔ بخلاف ازیں وہ بہت سے اقوال پر روایت سُدی

از کلمی از ابوصالح از ابن عباس نقل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سلسلہ روایت نقاد حدیث کے نزدیک قابل اعتماد نہیں۔
(الاتقان ج ۲ ص ۱۸۹)

ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اکثر مفسرین قرآن کریم کی الگ الگ سورتوں کے فضائل سے متعلق موضوع امادیت سے دھوکہ کھا گئے، اسی طرح ثعلبی بھی اس دام فریب میں مبتلا ہوئے بغیر نہ رہے چنانچہ وہ ہر سورت کے اختتام پر بروایت اُبی بن کعب ایک حدیث اس سورت کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جو احادیث موضوعہ شیعہ کے یہاں زبان زبر عام تھیں، ثعلبی ان سے بھی دھوکہ کھا گئے۔ چنانچہ وہ بے شمار ایسی احادیث موضوعہ ذکر کرتے ہیں اور ان پر نقد و جرح بالکل نہیں کرتے اس سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ ثعلبی نقد امادیت کے فن سے یکسر پہلے گانہ تھے۔

ثعلبی نے اسرائیلیات اور احادیث موضوعہ کا جو طومار اپنی تفسیر میں اکٹھا کیا تھا۔ اس کی بنا پر نقاد حدیث نے ان کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں :-
”ثعلبی اگرچہ بذات خود دین دار اور بھلے آدمی تھے مگر عاطف بیل (رات کا ککڑ مارا) تھے۔ کتب تفسیر میں جو صحیح وضعین اور موضوع روایات ملتیں ان کو اپنی تفسیر میں جگہ دیتے۔“
(اصول تفسیر ص ۱۹)

امام ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں :-

”واحدی ثعلبی کے شاگرد ہیں اور عربیت میں ان سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ مگر ثعلبی میں یہ خوبی ہے کہ وہ بدعتی نہیں۔ انہوں نے جو کچھ تحریر کیا ہے دوسروں کی تقلید میں کیا ہے بذات خود وہ اس سے بری ہیں۔ واحدی کی تفسیر میں نادر فوائد بھی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں باطل کی آمیزش بھی کچھ کم نہیں۔“

(فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۱۹۳)

الکتانی رقمطراز ہیں :-

”واحدی اور ان کے استاد ثعلبی دونوں علم حدیث میں بے مایہ تھے۔ دونوں کی تفاسیر میں اور خصوصاً ثعلبی میں امادیت موضوعہ اور قصہ کہانیوں کی بھرمار ہے۔“

(الرسالۃ المستطرفہ ص ۵۹)

حق بات یہ ہے کہ ثعلبی علم حدیث سے بے گانہ تھے اگر یہ کہا جائے کہ وہ حدیث صحیح و حدیث موضوع میں فرق و امتیاز نہیں کر سکتے تو اس میں کچھ مبالغہ نہ ہوگا۔ ورنہ وہ اپنی تفسیر میں ایسی احادیث ذکر نہ کرتے جو شیعہ نے حضرت علی اور اہل بیت کے نام سے گھڑی ہیں اور علماء ان کی نقل و روایت سے احتراز کرتے ہیں۔

حیثیت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے باوجود ثعلبی تمام یا اکثر کتب تفسیر پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابن جریر طبری کو بھی مستثنیٰ نہیں کرتے جن کی تفسیر کی مدح و ثنا میں سب لوگ رطب اللسان ہیں۔

۴۔ معالم التنزیل بغوی

تعارف :- اسم گرامی ابو محمد حسین بن مسعود الفراء۔ (پوستین فروش) بغوی ہے۔ یغ یا بغوث خراسان میں ایک شہر کا نام ہے۔ جو مرو اور ہرات کے درمیان واقع ہے۔ اس کی جانب نسبت کر کے آپ کو بغوی کہتے ہیں۔ یہ شافعی المسلک محدث مفسر اور فقیہ تھے۔ آپ کا لقب محلی السنہ ہے۔ آپ نے قاضی حسین سے حدیث و فقہ کا درس لیا۔ امام بغوی بڑے عابد و زاہد اور قانع۔ ہمیشہ پاک و صاف سات میں درس دیتے۔ ماہ شوال ۱۵۸ھ میں بمقام مرو روز وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر اسی برس سے زیادہ تھی۔ آپ کو ان کے استاد قاضی حسین کے پہلو میں دفن کیا گیا۔

آپ کا مبلغ علم :-

بغوی تفسیر و حدیث اور فقہ کے جلیل القدر امام تھے۔ تاج الدین سبکی نے آپ کو کبار علمائے شافعیہ میں شمار کیا ہے۔ علامہ سبکی لکھتے ہیں :-

”بغوی بڑے جلیل القدر امام عابد و زاہد محدث، مفسر، فقیہ، علم و عمل کے جامع اور طریق سلف پر گامزن تھے۔ قرآن کریم کی تفسیر اور احادیث نبویہ کی مشکلات کے حل کرنے کے سلسلہ میں کتابیں تصنیف کیں۔ حدیث رسول کی نقل و روایت اور درس و مطالعہ میں حد درجہ دلچسپی لیتے تھے“

آپ کی مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں :-

- ۱- معالم التنزیل۔
- ۲- شرح السنۃ۔
- ۳- المصابیح۔
- ۴- الجمع بین الصحیحین۔
- ۵- التہذیب فی الفقہ۔

آپ کے اخلاص و حسن نیت کی بدولت آپ کی تصانیف کو بڑی قبولیت حاصل ہوئی۔

طبقات المفسرین سیوطیؒ و فی الاعیان
ج ۱ ص ۲۵ طبقات الکبریٰ ابن السکلی
ج ۲ ص ۲۱۴۔

معالم التنزیل :

صاحب کشف الظنون رقمطراز ہیں :-

”امام محی السنۃ بغوی کی تفسیر معالم التنزیل ایک متوسط الحجم کتاب ہے۔ اس میں آپ نے مفسرین صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے اقوال جمع کئے ہیں۔ شیخ تاج الدین ابو نصر عبد الوہاب بن محمد حسینی متوفی ۸۶۵ھ نے اس کا اختصار تحریر کیا ہے۔ مفسر خان نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ معالم التنزیل تفسیر کی نہایت بلند پایہ اور گراں قدر کتاب ہے۔ یہ صحیح اقوال کی جامع احادیث نبویہ سے آراستہ اور احکام شرعیہ سے پیراستہ ہے۔ اس میں ازمنہ سابقہ کے عجیب و غریب واقعات مندرج ہیں۔ اس کی عبارات دل نشین اور حسن و جمال کے سانچہ میں ڈھلی ہوئی ہے۔“

(کشف الظنون ج ۲ ص ۲۸۵۔)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رسالہ اصول تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”اگر پر بغوی کی تفسیر شعبی کی تفسیر سے مختصر ہے مگر یہ احادیث موضوعہ اور بدعتی نظریات و انکار سے پاک ہے۔“

(رسالہ اصول تفسیر ص ۱)۔

امام ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں :-

سائل نے دریافت کیا ہے کہ تفسیر قرآن پر مشتمل کون سی کتاب قرآن وحدیث سے قریب تر ہے؟ آیا زعشری کی کتاب، یا قرطبی وبنوی کی کتاب یا ان کے علاوہ کوئی اور کتاب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے خیال میں ان تینوں کتابوں میں بنوی کی تفسیر بدعت اور احادیث ضعیفہ کی آمیزش سے مقابلہ زیادہ پاک و صاف ہے۔ بنوی کی تفسیر ثعلبی سے مختصر ہے کیونکہ انہوں نے احادیث ضعیفہ اور بدعتیہ اقوال کو حذف کر دیا ہے۔“

(فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۱۹۳)

الکتانی لکھتے ہیں :-

”معالم التنزیل میں ایسے مندرجات و حکایات موجود ہیں جن کو ضعیف یا موضوع کہا جاسکتا ہے۔“

(الرسالۃ المنظرۃ ص ۱۹)

معالم التنزیل تفسیر خازن اور ابن کثیر دونوں کے حاشیہ پر الگ الگ مصرعے شائع ہو چکی ہے یہ مختصر اور سہل انداز میں قرآن کریم کی تشریح و توضیح کرتی ہے۔ بنوی علمائے سلف کے اقوال اکثر بلا سند ذکر کرتے ہیں۔ مثالیوں کہتے ہیں :-

قال ابن عباس کذا وکذا و قال
بجاء کذا وکذا
نے یوں -

اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی تفسیر کے مقدمہ میں بنوی نے ایسے تمام اساتذہ کتاب اپنی سند ذکر کر دی ہے جن سے وہ نقل و روایت کرتے ہیں۔ آگے چل کر کتاب میں اختصاراً سند ذکر نہیں کرتے۔ البتہ اگر وہ ایسے لوگوں سے روایت کریں جن کا ذکر انہوں نے مقدمہ میں نہیں کیا تو پھر وہ سند ذکر کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رُوایہ رجال پر نقد و جرح بھی کرتے جاتے ہیں۔ غیر متعلق اقوال و آثار اور منکر روایات سے احتراز کرتے ہیں۔

تفسیر کے مقدمہ میں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”کسی آیت کی تشریح یا حکم شرعی کی توضیح کے سلسلہ میں نے جہاں کہیں احادیث درج کی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب الہی کی وضاحت و سرحت کے لئے اس کی ضرورت تھی۔ کتاب الہی کی توضیح سنت سے طلب کی باقی ہے۔ اور امور دین کا

مدار و انحصار صفت ہی پر ہے۔ احادیث، نویر میں نے معتبر ائمہ مدنیہ کی کتب سے اخذ کی ہیں اور منکر و غیر متعلق روایات سے استرازا کیا ہے۔ (معاجم ص ۱۰۰)۔

تفسیر زبیر صہ کا بلند بارہ لینے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس کے ذمہ کئی سے ضعیف راویوں سے ہی روایت کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ وہ قرآنوں کا بھی ذکر کرتے ہیں مگر اس میں جانتہ نہیں کرتے۔ اکثر مفسرین اپنی تفاسیر میں نوی مسائل کی بھرمار کرتے ہیں مگر بنوی اس سے استرازا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ دیگر غیر متعلقہ علوم کے ذکر و بیان سے بھی بیت کم لکھتے ہیں۔ البتہ جہاں کسی آیت کا مفہوم بیان کرنے کے سلسلہ میں ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے وہاں بنوی بحث بھی کرتے ہیں۔ مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بعض اوقات امرائلی واقعات کا عقیدہ ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر واقعہ ہاروت و ماروت نیز آیت کریمہ "وَقُلْ دَاوُدُ جَاءَنَا وَسَمِعَهَا" کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔

(معاجم ص ۱۰۲)

بعض دوسروں ہوتا ہے کہ بنوی قرآن کے ظاہری الفاظ پر طرد شدہ احسن نقل کرتے خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ مثلاً آیت کریمہ "رَأَىٰ قُلُوبَنَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَوَكَّلَ عَلَيْنَا بَلِ اسْمَاءُ لَمَّا جَاءَنَا فَمَنْ يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَوَكَّلَ عَلَيْنَا بَلِ اسْمَاءُ لَمَّا جَاءَنَا" کی تفسیر معاجم ص ۱۰۲ پر مطالعہ فرمائیں۔ گاہے یوں ہوتا ہے کہ مؤلف کسی آیت کی تفسیر میں طوائف سلف کے مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں۔ مگر نہ کسی روایت کو دوسری پر ترجیح دیتے ہیں اور نہ ایک کی تضعیف اور دوسری کی تصحیح کرتے ہیں۔

بہر کیف یہ کتاب بذات خود نہایت عمدہ بہت سی کتب تفسیر بلائہ سے افضل و احسن اور ہر طبقہ کے علماء کے مابین مقبول و متداول ہے۔

۵۔ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز

از ابن عطیہ

مؤلف :- مؤلف کا نام و نسب ابو محمد عبد الحق بن غالب بن علی بن محمد بن فراتلی ہے۔ یہ عرب اہل سہیل میں منصب قضا پر فائز تھے۔ اس وقت نہایت مدد و انصاف سے حدیث فصل کیا کرتے

تھے۔ ۵۴۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۴۶ھ میں وفات پائی۔

مبلغ علم :-

قاضی ابو محمد بن عطیہ ایک بلند پایہ علمی قائدان میں پروان چڑھے۔ ان کے والد ابو بکر غالب

بن عطیہ بہت بڑے امام حافظ حدیث اور جلیل القدر عالم تھے۔ ان کے دادا عطیہ بھی زبردست فاضل شخص تھے۔ اس لئے ابن عطیہ کا عالم و فاضل ہونا کچھ بھی محل تعجب نہیں۔

ابن عطیہ فرہانت و لطانت اور حسن فہم میں عدم النظیر تھے۔ کتابیں صحیح کرنے کا بڑا شوق تھا کہ نہایت بلند پایہ عالم جلیل القدر فقیر محدث و مفسر نحوی لغوی اور شاعر و ادیب تھے۔ قللاً العیقان کے صنف نے آپ کو بہت بڑا ادیب شاعر اور شرفیوس قرار دیا اور آپ کے اشعار بھی قلمبند کئے ہیں۔ مفسر ابو حنیان اپنی تفسیر البحر المحیط کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ”جن لوگوں نے بھی تفسیر قرآن مرتب کی ہیں ان سب میں ابن عطیہ کا مقام بلند تر ہے“ (البحر المحیط ج ۱ ص ۹)

ابن عطیہ نے اپنی تصانیف کا جو گراں قدر ذخیرہ پیچھے چھوڑا، ان میں آپ کی زیر تہرہ تفسیر قابل ذکر ہے۔ ایک تصنیف میں ابن عطیہ نے اپنی مرویات اور اپنے شیوخ و اساتذہ کے اسامی ذکر کئے ہیں۔ یہ کتاب نہایت عمدہ ہے۔ الغرض ابن عطیہ مختلف و متنوع علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ابن فرحون نے الدیباج المذہب میں آپ کو مالکی فقہ کا ایک ستون قرار دیا ہے۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی نے ”بغیۃ الوعاۃ“ میں ابن عطیہ کو نحو کے معروف شیوخ و اساتذہ میں شمار کیا ہے۔ (الدیباج المذہب ص ۴، انیز بغیۃ الوعاۃ سیوطی ص ۲۱۵)۔

اسلوب نگارش :-

ابن عطیہ کی زیر قلم تفسیر جملہ مفسرین کے نزدیک کتب تفسیر میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن عطیہ بڑی فاضل شخصیت تھے۔ اس کے زیر اثر ان کی تفسیر کبھی حسن قبول نصیب ہوا۔ بقول ابن خلدون مولف نے اس کو جملہ تفسیر سے ملغص کیا۔ اور اس میں صرف صحیح مواد کو جگہ دی ہے۔ یہ کتاب دیار مغرب و اندلس میں نہایت مقبول و مستحسن خیال کی جاتی ہے۔ (مقدمہ ابن خلدون ص ۴۹۱)

اس میں خلک نہیں کہ ابن عطیہ نے اس تفسیر میں اپنے کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ کتاب

اس امر کی جیسی باگتی تصویر ہے کہ ابن عطیہ عہدیت اور دیگر علوم و فنون میں امامت کے درجہ پر فائز تھے۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ عظیم شہرت کے باوجود تاہم نوزیہ کتاب طبع ہو کر منصفہ شہود پر جلوہ فگن نہ ہو سکی۔ یہ دس ضخیم جلدات پر مشتمل ہے۔ دارالکتب المصریہ میں اس کے چار قلمی اجزاء (سوم پنجم، ششم اور دہم) موجود ہیں۔ صاحب التفسیر والمفسرون نے ان اجزاء سے استفادہ کر کے یہ تاثر دیا ہے کہ ابن عطیہ ایک آیت ذکر کر کے نہایت شیریں اور بیخ عبادت میں اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ پھر تفسیر میں وارد شدہ روایات و آثار تحریر کرتے ہیں۔ ابن جریر سے انہوں نے بہت استفادہ کیا ہے۔ بعض اوقات ابن جریر کی عبادت نقل کر کے اس پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ قرآنی الفاظ کی تشریح کے سلسلہ میں وہ اکثر عربی اشعار اور ادبی شواہد سے استدلال کرتے ہیں۔ نحوی مسائل کے ساتھ ہی انہیں خصوصی دلچسپی ہے۔ وہ اکثر مختلف قرأتیں ذکر کر کے ان کے جداگانہ معانی و مطالب پر روشنی ڈالتے ہیں۔

مفسر ابو حنیان نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں ابن عطیہ اور زعفرانی کی تفاسیر کے مابین مقابلہ کرتے ہوئے یہ تجزیہ کیا ہے کہ ابن عطیہ کی کتاب زیادہ جامع اور غریب مواد سے پاک ہے۔ اس کے مقابلہ میں زعفرانی کی تفسیر زیادہ گہری اور مختصر ہے۔ (البحر المحیط ج ۱ ص ۱۰)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دونوں میں یوں محاکمہ کیا ہے :-

”ابن عطیہ کی تفسیر زعفرانی سے بہتر اور صحیح تر مواد کی حامل ہے۔ بدعت سے متعلق آثار اس میں بہت کم ہیں۔ اس لئے ابن عطیہ کی تفسیر زعفرانی بلکہ جملہ تفاسیر سے افضل و احسن ہے۔“ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۱۹۲)

امام مدوح نے اسی قسم کا ایک تجزیہ اپنے رسالہ اصول تفسیر میں بھی کیا ہے۔

فرماتے ہیں :-

”ابن عطیہ اور ان کے ہم خیال مفسرین کی تفاسیر سنت سے بالکل یک رنگ و ہم آہنگ ہیں۔ ابن عطیہ کی تفسیر میں بدعت کی آمیزش زعفرانی سے کم ہے۔ تفاسیر ماثرہ میں علمائے سلف کے جو اقوال موجود ہیں بہتر ہوتا کہ ابن عطیہ منع عن ان کو نقل کر دیتے۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بسا اوقات وہ ابن جریر

میں سی عظیم تفسیر سے کچھ عبارت نقل کرتے ہیں مگر اس میں مذکور علمائے سلف کے اقوال
 نظر انداز کر جاتے ہیں۔ بزعم غوث وہ متعین کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ متعین سے
 ان کی مراد متکلمین کا وہ گروہ ہے جنہوں نے معتزلہ کی طرح کچھ اصول وضع کئے تھے
 اگرچہ وہ معتزلہ کی نسبت سنت سے قریب تر تھے۔ (مقدمہ اصول تفسیر ص ۲۳)
 اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ابن عطیہ کا رجحان ویلان کسی حد تک معتزلہ کی جانب
 تھا۔ یا کم از کم وہ ان کے افکار و معتقدات کو وقعت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مگر اس کے ساتھ
 ساتھ جمہور کی رائے کا بھی احترام ملحوظ رکھتے تھے۔ ابن عطیہ کے اسی طرز فکر و نظر کے پیش نظر
 امام ابن تیمیہ نے مذکورہ صدر فیصلہ صادر کیا تھا۔

۶۔ تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر!

تعارف مولف :- اسم گرامی عماد الدین ابوالفداء اسماعیل بن عمرو بن کثیر بصری اور پھر دمشق ہے۔ آپ شافعی مسلک تھے۔ والد کی وفات کے بعد سات سال کی عمر میں اپنے بھائی کی وفات میں دمشق آئے۔ آپ نے ابن شمرہ آمدی ابن عساکر اور دیگر علماء سے استفادہ کیا۔ آپ عمرہ و رازک ملہ ہرتزی کی صحبت میں رہے۔ اور ان سے تہذیب الکمال کا درس لیا۔ آپ نے ابن کثیر کو اپنی دامادی کا شرف بخشا۔ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے استفادہ کیا اور آپ کے اہل بیت و اہل بیت ہو گئے۔ حتیٰ کہ کثیر مصائب و آلام سے دوچار ہوئے۔ ابن قاضی شہب نے طبقات میں ذکر کیا ہے کہ امام ابن تیمیہ کے ساتھ ابن کثیر کو خصوصی لگاؤ تھا۔ اکثر نظریات میں ابن کثیر ان کے بنوا تھے۔ طلاق کے مسئلہ میں ابن کثیر امام ابن تیمیہ کے مسلک کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ اور اس وجہ سے آپ پر بہت سے مظالم ڈھائے گئے۔

علامہ داؤدی طبقات المفسرین میں لکھتے ہیں :-

”آپ اپنے عصر و عہد کے یکتائے روزگار فاضل اور حافظ حدیث تھے۔ امام ذہبی اور نسائی کی وفات کے بعد مدرسہ اشرفیہ کے صدر المدتزمین قرار پائے ؟“

(طبقات المفسرین داؤدی ص ۳۲۷)

ابن کثیر کی ولادت سن ۶۰۰ یا اس کے کچھ عرصہ بعد ہوئی۔ ماہ شعبان ۶۰۰ء میں وفات پائی۔ موصوف، کو مقبرہ سو فیہ میں ان کے گرامی قدا استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ عمر کے آخری دور میں نابینا ہو گئے تھے۔

علمی پایہ :-

ابن کثیر کا علمی پایہ بے حد بلند ہے۔ علامہ نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے تفسیر و حدیث اور تاریخ میں خصوصی بصیرت و مہارت رکھتے تھے۔

مانفہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں :-

”ابن کثیر نے حدیث کے متون و رجال کا بنظر فائر مطالعہ کیا۔ تفسیر قرآن سے متعلق

مواہر فرام کیا اور دینی احکام پر ایک کتاب لکھنے کا بیڑا اٹھایا مگر اس کی تکمیل نہ کر سکے۔ تاریخ اسلام کے موضوع پر اپنی عظیم کتاب "البدایہ والنہایہ" مرتب کی۔ طبقات الشافعیہ پر کتاب تحریر کی۔ آپ نے بخاری کی شرح لکھنے کا آغاز بھی کیا تھا۔ آپ کا حافظہ نہایت قوی تھا۔ نہایت شہسوس مقال تھے۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی تصانیف کا عام چرچا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے ان کی تصانیف سے بہت فائدہ اٹھایا۔ ابن کثیر کا شمار فقہائے محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ نے مقدمہ ابن الصلاح کا اختصار لکھا جو نہایت معین ہے۔

مشہور محدث ذہبی فرماتے ہیں :-

"ابن کثیر بہت بڑے محدث، فقیہ، مفسر اور صاحب تصانیف کثیر تھے"

صاحب شذرات الذهب رقمطراز ہیں :-

"ابن کثیر کا حافظہ نہایت قوی تھا۔ بہت کم بھولتے تھے۔ صاحب فہم و فراست تھے۔"

ابن جبیب کا قول ہے :-

"ابن کثیر مفسرین کے مرخبل تھے۔ کثرت سے احادیث سنیں اور ان کو جمع کیا۔ آپ عظیم

محدث معنی اور فقیہ تھے۔ آپ کے فتاویٰ کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ تفسیر و حدیث

اور تاریخ کی سیادت و ریاست آپ کی ذات پر ختم ہو گئی۔"

خلاصہ یہ کہ ابن کثیر کی تفسیر اور تاریخ کا قاری ان کے مبلغ علم سے پوری طرح آگاہ ہے۔ یہ دونوں

کتب دنیا کی بہترین تصانیف میں شمار ہوتی ہیں۔ ابن کثیر کے تفصیلی ترجمہ کے لئے دیکھئے۔

الدرر الکامنہ ج ۱ ص ۲۴۴ شذرات الذهب

ج ۶ ص ۲۲۱ طبقات المفسرین اودی ص ۲۲۷

تفسیر ابن کثیر پر تبصرہ :-

تفسیر ابن کثیر قرآن کریم کی تفسیر ماٹو۔ پر مشتمل کتب میں حدود پر شہرت رکھتی ہے۔ اس کا رتبہ

کتب تفسیر میں ابن جریر کے بعد ہے۔ اس میں مؤلف نے مفسرین سلف کے تفسیری اقوال کو یکجا کرنے

کا اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ اس میں آیات کی تفسیر احادیث مرفوعہ اور اقوال و آثار کی روشنی میں کی ہے۔ حسب ضرورت جرح و تعدیل سے بھی کام لیا ہے۔ یہ تفسیر چار ضخیم جلدوں میں چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔ شیخ احمد شاکر مرحوم نے ابن کثیر کو بحذوت اسانید شائع کیا۔

شروع میں ایک طویل مقدمہ ہے جس میں قرآن کریم سے متعلق علمی مباحث تحریر کئے ہیں۔ یہ مقدمہ زیادہ تر اپنے استاد گرامی امام ابن تیمیہ کے رسالہ اصول تفسیر سے اخذ کیا۔ ابن کثیر کا طرز و انداز یہ ہے کہ وہ سلیس اور مختصر عبارات میں آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو کسی دوسری قرآنی آیت سے اس کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ اس طرح آیات کے ماہم مقارنہ سے قرآن کریم کا مطلب کھل کر سامنے آجاتا ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں جس کو ”تفسیر القرآن بالقرآن“ کہا جاتا ہے۔ ابن کثیر کے یہاں اس کا خصوصی اہتمام ہے۔ دور حاضر میں تفسیر کی جس قدر کتب متداول ہیں۔ ان سب میں ابن کثیر قرآنی آیات کی تشریح میں دوسری آیات سے استدلال کرنے میں ٹیٹھا پیش ہے۔

آیت کی تشریح کرنے کے بعد ابن کثیر اس سے متعلق احادیث مرفوعہ ذکر کرتے اور ساتھ ساتھ شاندہی کرتے ہاتے ہیں کہ ان میں سے کون سی احادیث قابل احتجاج ہیں اور کون سی نہیں۔ بعد ازاں اس کی تائید میں صحابہ تابعین اور دیگر علمائے سلف کے اقوال تحریر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر بعض اقوال کے مقابلہ میں بعض کو ترجیح دیتے۔ بعض روایات کو صحیح اور بعض کو ضعیف قرار دیتے اور روایہ و رجال پر نقد و جرح بھی کرتے جاتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت الم نشرح ہوتی ہے کہ فنون حدیث اور اقوال رجال کے سلسلہ میں ابن کثیر کس قدر گہری بصیرت رکھتے تھے۔

ابن کثیر متقدمین کی تفاسیر مثلاً ابن جریر ابن ابی حاتم، ابن عطیہ وغیر ہم سے بھی بہت استفادہ کرتے ہیں۔ ابن کثیر کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ تفسیر ماؤد میں جو اسرائیلی واقعات مندرج ہیں وہ اجمالاً اور بعض اوقات تفصیلاً اس پر نقد و جرح کرتے ہیں۔ حلا آیت کریمہ **”اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذَكَّرُوْا بِالْاٰیٰتِ“** (سورۃ بقرہ - ۶۷) کی تفسیر کرتے ہوئے نبی اسرائیل کا گناہ کا طویل قصہ ذکر کیا ہے۔ پھر اس میں سلف سے منقول روایات تحریر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:- **”الْبُعْبُعِيَّةُ، الْوَالِغَالِيَةُ اور سُذَّيٌّ سے جو روایات منقول ہیں ان میں اختلاف ہے۔“**

ظاہر ہے کہ روایات نبی اسرائیل کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ بلاشبہ ان کو نقل کرنا درست ہے مگر ان کی تصدیق و تکذیب نہیں کی جاسکتی۔ لہذا ان پر اعتماد کرنا درست نہیں۔ ماسواں روایت کے جو اسلامی حقائق سے لگا کھاتی ہو۔

(ابن کثیر ج ۱ ص ۱۰۸-۱۱۰)

اسی طرح صحیح حق کی تفسیر کرتے ہوئے آغازِ سورت میں لکھتے ہیں :-

بعض علمائے مفسرین کا قول ہے کہ ”ق“ سے ایک پہاڑ مراد ہے جو روئے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کو ”کوہ قاف“ کہتے ہیں۔

حاصل یہی اسرائیلیات کا ایک حصہ ہے جس کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تکذیب۔ میرا خیال ہے کہ ایسی باتیں اہل کتاب زنا دقت کی وضع کردہ ہیں جو انہوں نے لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لئے گھڑی تھیں۔ جب علمائے حدیث اور حفاظِ دائرہ کی کثرت کے باوجود امت محمدی میں امارتِ حدیث وضع کر کے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا گیا ہے تو نبی رسول کی امت میں ایسا کیوں کر نہ ہوتا۔ حالانکہ اس پر عرصہ دراز گزر چکا ہے۔ مگر ہمیں ان میں حفاظ و نقاد کی شدید قلت پائی جاتی ہے وہ شراب کے مادی ہیں۔ نبی اسرائیل کے علماء نے کتب مقدسہ میں تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔ جامع تفسیر نبی اسرائیل سے جو نقل و روایت کی اجازت دی ہے تو وہ ایسی باتوں تک محدود ہے جو عقل کے معیار پر یوں اترتی ہوں۔ جو بات عقل سلیم کے مطابق ہو اور ظاہر جموٹ معلوم ہوتی ہو اس کا نبی اسرائیل سے روایت کرنا ہرگز درست نہیں۔

(ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۱)

تفسیریں تفسیر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ احکام پر مشتمل آیات کی تفسیر کرتے ہوئے تو قصی احکام اور علماء کے اقوال و دلائل ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آیت ”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّيْءَ فَلْيُحْسِبْهُ عَصَاكَ“ اس کی تفسیر میں مؤلف نے چار مسائل ذکر کر کے اس کے بعد میں علماء کے مختلف مسالک اور ان کے براہین و دلائل بیان کئے ہیں۔

(ابن کثیر ج ۱ ص ۲۱۶)

آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر اسی طرح فقہاء کے اختلافی اقوال اُن کے مسائلک و مذاہب اور دلائل و دلائل کی تفصیلات ذکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ مگر اِس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو اطمینان بخش ہے کہ ابن کثیر دیگر مفسرین کی طرح اس میں حد سے تجاوز نہیں کرتے بلکہ اعتدال کے دائرہ میں محدود رہتے ہیں۔

حاصل یہ کہ ابن کثیر تفسیر بالماثور پر مشتمل کتب میں نہایت عمدہ تفسیر ہے۔ جلال الدین سیوطی ذیل تذکرۃ الحفاظ میں اور زرقانی شرح المواہب میں لکھتے ہیں کہ "ابن کثیر جیسی تفسیر آج تک نہیں لکھی گئی۔"

(الرسالۃ المستطرفۃ لقتانی ص ۱۴۶)

۷۔ الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن از ثعالبی

مولف کا نام و نسب :- اسم گرامی ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ثعالبی جزائری ہے
مالکی المذہب تھے۔ آپ ایک باعمل فاضل حد درجہ عابد و زاہد بلکہ اولیاء اللہ میں سے تھے۔
ابن سلامہ البکری لکھتے ہیں :-

”ہمارے شیخ محترم ثعالبی نہایت صالح عابد و زاہد اور اکابر اولیاء اللہ میں شمار
ہوتے تھے“

ثعالبی نے اپنی تصانیف کے اکثر مقامات پر اپنا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ میں
آٹھویں صدی ہجری کے اواخر میں طلب علم کے لئے الجزائر سے نکلا۔ پہلے تونس اور پھر مصر پہنچا پھر
تونس واپس لوٹ آیا۔ ان دنوں تونس میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو علم حدیث میں مجھ پر فائق ہو۔ میں
جب بولنے لگتا تو اہل علم خاموش ہو کر میری بات سنتے اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے میری ہدایت کو
قبول کر لیتے۔ جب میں مشرق سے عازم مغرب ہوا تو بعض علمائے مغرب نے کہا ”علم حدیث میں آپ
ایک یگانہ عالم ہیں“ ثعالبی نام بنام ان تمام شیوخ و اساتذہ کا تذکرہ کرتے ہیں جن سے بلاد مشرق میں
وہ مستفید ہوئے تھے۔

ثعالبی بڑے لائق مصنف تھے۔ آپ نے حسب ذیل گرامر قدر تصنیفات کا ذخیرہ باقی چھوڑا۔

۱۔ الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن۔

۲۔ الذہب اللامع فی غرائب القرآن العزیز۔

۳۔ تحفۃ الاحوان فی اعراب بعض آیات القرآن۔

۴۔ جامع الاقبات فی احکام العبادات۔

(الضوء اللامع ج ۴ ص ۱۵۲)

ونیل لابتنجاج ص ۱۴۳)

آپ نے ۶۶۰ھ میں وفات پائی اور الجزائر میں مدفون ہوئے۔

اسلوب انداز :-

ثعالی تفسیر زیر تبصرہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں :-

”میں نے تمہارے اور اپنے لئے اس کتاب میں ایسا مواد فراہم کر دیا ہے جسے قاری کو سکون قلب نسیب ہوگا جو فوائد میں نے اس کتاب میں ودیعت کئے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر تفسیر ابن عطیہ سے ماخوذ ہیں۔ میں نے اس پر دیگر ائمہ و ثقافت کی کتب سے اخذ کر کے مفید اضافے کئے ہیں۔ میں نے قریباً یک صد کتب سے یہ قیمتی موتی جمع کئے ہیں۔ ان میں سے ہر کتاب ایک جلیل القدر محقق عالم کی تحریر کردہ ہے۔ میں نے جو کچھ بھی نقل کیا ہے معتبر مفسرین کی تفسیر سے کیا ہے روایت بالمعنی سے عدلاً احتراز کیا اور صرف علماء کے اصلی الفاظ نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ تفسیر ابن جریر طبری سے ہیں جو استفادہ کیا وہ کتاب مذکور کے اس اختصار سے ماخوذ ہے جس کا اہتمام شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ ندیمی نحوی نے کیا تھا۔ اگر کسی خاص لفظ کے سمجھنے میں وقت پیش آئے تو اصل ماخذ کی طرف مراجعت کر کے اس لفظ کو درست کر لیا جائے۔ مگر محض عقل و قیاس کی مدد سے اس کی تصحیح نہ کی جائے کہ اس سے غیر شعوری طور پر غلطی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔“

(جلد اول ص ۵)

یہ ہے مؤلف کا ذاتی بیان زیر تبصرہ تفسیر کے بارے میں! مندرجہ بیان اس حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے کہ ابن عطیہ کی کتاب دراصل ثعالی کی تفسیر کے لئے اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ البتہ ثعالی نے مقدمین سے اخذ کر کے اس پر مفید اضافے کئے ہیں۔ بنا برہس ہم بر ملا کہہ سکتے ہیں کہ ثعالی نے تفسیر زیر تبصرہ میں صرف جمع و ترتیب کی زحمت گوارا کی ہے اور اس میں ان کی فکری محنت و کاوش کا عمل دخل بہت کم ہے۔

ثعالی کی کتاب الجزائر میں چار جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ درالکتب المصریہ اور دوسرا المکتبۃ الازہریہ میں موجود ہے۔ کتاب کے آخر میں ایک فرہنگ ہے جس میں ان مشکل الفاظ کی تشریح کی گئی ہے جو کتاب میں وارد ہوئے ہیں۔ مزید برآں موطا امام مالک اور

صواری بہتہ کے بعض نادر الفاظ کے معانی و مطالب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مرثیے ہیں جو ثعلابی نے کہے ہیں۔

کتاب کے مطالعہ سے یہ حقیقت اباگر ہوتی ہے کہ مؤلف نے مقدمہ میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا التزام کیا ہے۔ وہ بعض جگہ مختلف قرار توں اور نحوی مسائل کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ بعض الفاظ کے معانی بیان کرنے کے لئے عربی اشعار سے استشہاد کرتے ہیں۔ تفسیری روایات ذکر کرتے ہوئے وہ اس کی سند بیان نہیں کرتے۔ گاہے ثعلابی اسرائیلی واقعات بھی ذکر کرتے ہیں مگر وہ ان پر شدید نقد و جرح کرتے ہیں جس سے ان کی عدم صحت عیاں ہو جاتی ہے۔ یا کم از کم اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی صحت قطعی نہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

وَتَفَقَّأَ الظَّمِيرَ فَقَالَ مَا لِي كَأَزَى

اور ایک ہندسے کو کم پایا تو کہا کیا ہا

الظَّمِيرَ هَذَا (النمل - ۲۰) کہیں ہندسہ کو نہیں دیکھ رہا۔

اس آیت کی تفسیر میں ثعلابی بعض اسرائیلی واقعات قلمبند کرتے اور آخر میں لکھتے ہیں کہ خدا ہی جانتا ہے کہ ان میں کا کون سا واقعہ درست ہے؟ (رج ۳ ص ۱۵۹)

ملکہ بلقیس کا ذکر کرتے ہوئے سابقہ سورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”بعض لوگوں نے بلقیس کا تذکرہ کرتے ہوئے بے شمار کہانیاں بیان کی ہیں مگر

عدم صحت کی بنا پر میں نے ان کو قلمرو کر دیا۔ جو بات آیت سے سمجھ میں آتی

ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ مین کے شہر مدائن کی ملکہ تھی۔ اس کی سلطنت بہت

بڑی تھی اور وہ کافرہ تھی“ (حوالہ مذکور)

الغرض اس کتاب کی افادیت میں شبہ نہیں۔ اس میں بھرتی کا مواد جو عام تفسیر کی

خصوصیت ہے موجود نہیں۔

۸۔ اللہ المنثور فی التفسیر الماثور از سیوطی

مؤلف کے سیر و سوانح :- نام نامی جلال الدین ابوالفضل عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی ہے آپ شافعی المذہب تھے۔ ماہِ رجب ۸۳۴ھ کو پیدا ہوئے۔ ابھی پانچ برس سات ماہ کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد نے آپ کو چند لوگوں کی تحویل میں دے دیا تھا جن میں کمال بن مہمام کا نام قابل ذکر ہے۔ آپ نے ان کی حفاظت و تربیت کا حق ادا کر دیا۔ آٹھ سال کی عمر میں قرآن کریم اور بہت سے متون زبانی یاد کر لئے۔ آپ کے تلمیذ علامہ داؤدی کا بیان ہے کہ سیوطی کے شیوخ و اساتذہ کی تعداد کا دن ہے۔ آپ پانچ صد سے زائد کتب کے مصنف و مؤلف ہیں۔ یہ کتب شرق و غرب میں پھیل گئیں اور عوام الناس میں ان کو شرف قبول حاصل ہوا۔ امام سیوطی سرعت تصنیف میں عدم الظہیر تھے۔ داؤدی کہتے ہیں میرا چشم دید واقعہ ہے کہ استاد گرامی ایک دن میں تین بڑے اجزاء تحریر کر لیا کرتے تھے۔

سیوطی علم حدیث اور اس کے متعلقہ فنون متون و اسانید کرواۃ درحال اور استنباط احکام میں بیگنائے مفاخر تھے وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے دو لاکھ احادیث یاد ہیں اور اگر کچھ اور حدیثیں ملتیں تو میں انہیں بھی یاد کر لیتا۔ جب چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو دنیوی علاقے سے علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو ذکر و عبادت کے لئے وقف کر دیا۔ فتویٰ اور تدریس تک ترک کر دی۔ روضۃ المقیاس میں سکونت پذیر ہوئے اور وفات تک وہیں رہے۔ آپ کے بہت سے مناقب و کمالات ہیں۔ آپ نے بہت عمدہ اشعار بھی کہے ہیں جو علمی فوائد اور شرعی احکام سے متعلق ہیں۔ آپ نے ۱۹ جمادی الاولیٰ ۹۱۱ھ شب جمعہ کی صبح کو وفات پائی۔

(شذرات الذہب ج ۸ ص ۵۱)

طرز تفسیر :-

جلال الدین سیوطی تفسیر زبیر مفرہ کی دہر تالیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
 میں نے تفسیر قرآن پر مشتمل ایک مستند تفسیر تحریر کی ہے جو کئی ہزار احادیث کو سمونے پر مشتمل ہے۔ اس میں طبع و قوت ہر قسم کی معایات موجود ہیں چنانچہ علم و ادب میں تکمیل پذیر ہوئی ہے۔ میں نے اس کا نام ”ترجمان القرآن“ تجویز کیا

(الاتقان ج ۲ ص ۱۸۳)

ہے۔

سیوطی مزید لکھتے ہیں :-

”جب میں تفسیر ترجمان القرآن کی تصنیف سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں اسنادیث کی اسانید تمام و کمال مذکور ہیں۔ حالانکہ دور حاضر میں ہمت پست جوہلی ہے اور لوگ اسانید سے قطع نظر صرف متن حدیث کا مطالعہ کرنا چاہتے اور طوالت سے گھبراتے ہیں۔ بنا بریں میں نے ترجمان القرآن کا خلاصہ الدر المنثور کی صورت میں تیار کیا۔ اس میں صرف متن روایت پر اکتفا کیا اور جس کتاب سے وہ روایت لی اس کا ذکر کر دیا۔“

(مقدمہ الدر المنثور ج ۱ ص ۲)

مندرجہ سدر عبارات اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ سیوطی نے الدر المنثور کو اپنی کتاب ترجمان القرآن سے ملخص کیا تھا۔ عام ہیزاری کے نون سے اسانید حذف کر دیں اور ہر روایت کو جس کتاب سے اخذ کی تھی اس کی جانب منسوب کر دیا۔

امام سیوطی ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

”میں نے ایک ایسی ہمہ گیر تفسیر تحریر کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے جو تفسیر سے متعلق ہر قسم کے ضروری مواد کی جامع ہوگی۔ اس میں عقلی اقوال بلاغی نکات صنائع و بدائع اعراب و لغات اور استباطات و اشارات سبھی امور ہوں گے۔ وہ تفسیر ایسی جامع ہوگی کہ دیگر تفاسیر سے بالکل بے نیاز کر دے گی۔ اس کا نام میں نے ”مجمع البحرین و مطلع البدرین“ جو نیز کیا ہے۔ میری کتاب ”الاتقان“ اسی تفسیر کا مقدمہ ہے۔“

(الاتقان ج ۲ ص ۱۹۰)

سیوطی کی یہ عبارت اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ ان کی زیر ترتیب کتاب ”مجمع البحرین و مطلع البدرین“ بڑی حد تک ابن جریر طبری کی تفسیر کے مشابہ و مماثل ہوگی۔ مگر اس بات کا پتہ نہ چل سکا کہ موصوف اس کتاب کی تکمیل کر سکے یا نہیں۔ ہمارے خیال کی حد تک تفسیر الدر المنثور کو مجمع البحرین سے کچھ نسبت نہیں۔ اس لئے کہ سیوطی نے مجمع البحرین کے جس اسلوب و انداز کا تذکرہ کیا ہے۔ الدر المنثور میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ اس میں استباط و اعراب اور بلاغی نکات کا کہیں وجود نہیں۔ اس میں جو کچھ ہے وہ صرف یہ ہے کہ علمائے سلف کے تفسیر کی

اقوال کسی نقد و تبصرہ کے بغیر درج کر دیئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بامعیت اس کتاب کا نثرۃً امتیاز ہے۔ امام سیوطی نے بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد، ابن جریر، ابن ابی عامر، عبد بن حمید اور ابن ابی الدینار سے اخذ کر کے اس تفسیر میں روایات کا خاصا ذخیرہ فراہم کر دیا ہے۔

امام سیوطی جمع و تالیف اور کثرت روایت کے دلدادہ ہیں۔ جلالِ قدر اور فنِ حدیث اور اس کے علل سے بخوبی آگاہ و آشنا ہونے کے باوجود انہوں نے اس تفسیر میں صحت کا التزام نہیں رکھا۔ اس لئے یہ کتاب صحیح و دقیق اور رطب و یابس کا ایک طومار بن کر رہ گئی ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ کانٹ چھانٹ کر کے اس کو ایسے مواد سے پاک و صاف کیا جائے یہ کتاب چھ جلدوں میں چھپ چکی ہے، اور اہل علم کے یہاں عام طور سے معروف دستاویزوں ہے یہ امر پیش نظر رہے کہ تفسیر بالماثور سے متعلق ہم نے جن کتب تفسیر کا ذکر کیا ہے ان میں تفسیر الدر المنثور، تنہا ایسی کتاب ہے جس میں صرف تفسیری اقوال و آثار کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا اور اپنی رائے کو جگہ نہیں دی گئی۔ دیگر تمام کتب میں ذاتی افکار و آراء کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ ان کو تفسیر بالماثور کے دائرہ میں داخل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اکثر و بیشتر اقوال و آثار پر انحصار و اعتماد کیا گیا ہے۔ جہاں تک ذاتی و عقلی افکار کا تعلق ہے ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ خوف طوالت اور احساس بیزاری کے اندیشہ کے پیش نظر ہم تفسیر بالماثور پر مشتمل دیگر کتب تفسیر سے بحث نہیں کرتے۔ نیز اس لئے کہ سابق الذکر جن کتب پر ہم نے نقد و تبصرہ کیا ہے اس کے پیش نظر تمام کتب پر جرح و قدح کی مطلقاً ضرورت۔

فصل دوم

تفسیر بالرأی و متعلقہ مباحث

تفسیر بالرأی کا مفہوم: لفظ الرأی کا اطلاق اعتقاد اجتہاد اور قیاس پر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے قیاس کے قائلین کو اصحاب الرأی کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ تفسیر بالرأی سے وہ تفسیر قرآن مراد ہے جو اجتہاد کی مدد سے کی جائے۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب کہ عربوں کے اسلوب کلام عربی الفاظ اور ان کے دمج و دلالت سے بخوبی آگاہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اشعار جاہلی اسباب نزول تاریخ و منسوخ اور ان امور سے نا بلند نہ ہو جو مفسر کے لیے ازلیں ناگزیر ہیں۔

تفسیر بالرأی سے متعلق علماء کا موقف: علماء قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کرنے کے سلسلہ میں شروع ہی سے مختلف الخیال رہے ہیں۔ اس ضمن میں ان کے نظریات و افکار بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

علماء کی ایک جماعت اس میں تشدد سے کام لیتی ہے۔ اور تفسیر قرآن کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ ان کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے قرآن کی تفسیر کرنا جائز نہیں۔ اگرچہ وہ کس قدر عالم ادیب فقیہ نحوی اور نحوی کیوں نہ ہو۔ بخلاف ازلیں قرآن کی تفسیر کے سلسلہ میں احادیث نبویہ اور آثار صحابہ و تابعین کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ جو نزول قرآن کے شاہد عدل تھے۔

(متحدہ تفسیر رافع اصغرافی)

اس کے برعکس علماء کی دوسری جماعت یہ نظریہ رکھتی ہے کہ قرآن کی تفسیر اپنے اجتہاد کے ساتھ کی جاسکتی ہے۔ اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ فریقین اپنے نظریہ کے اثبات میں دلائل ذکر کرتے ہیں۔

مانعین تفسیر بالرأی کے دلائل: جو علماء تفسیر بالرأی کو جائز نہیں سمجھتے ان کے دلائل حسب ذیل ہیں:

اول۔ مانعین کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی جانب بغیر علم کے ایک بات کو منسوب کرنا ہے۔ اور یہ ممنوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ رائے تفسیر کرنے والے کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد فلاں آیت سے کیا ہے۔ بلکہ وہ اپنے ظن کی بناء پر ایک بات کہتا ہے اور ظن کی اساس پر کچھ کہنا گویا بلا دلیل و برہان خدا پر ایک الزام عائد کرنا ہے۔ قول بالظن کی حرمت کی دلیل یہ آیت ہے۔

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو
تم جانتے ہی نہیں۔

اس آیت سے قبل محرمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیت بھی اسی پر معطوف ہے۔ محرمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَ مَا بَطَّنَ -
آپ فرمادیں کہ میرے رب نے ظاہر و
باطن خواہش کو حرام قرار دیا۔

(الاعراف - ۳۳)

نیز قرآن میں فرمایا:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
جس بات کا تجھے علم نہیں وہ بیان نہ کر

(الاسراء - ۶۶ - ۳۴)

مخبرین (تفسیر بالرائی کو جائز قرار دینے والے) اس دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے صغریٰ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے کہ ظن بھی علم ہی کی ایک قسم ہے۔ کیوں کہ ظن جان بوجھ کے معلوم کرنے کو کہتے ہیں۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ صغریٰ درست ہے۔ تو ہم اس کے کبریٰ کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ ظن اس وقت ممنوع ہوتا ہے۔ جب قطعی و یقینی علم تک پہنچنا ممکن ہو۔ بایں طور کہ شرعی نصوص میں سے کوئی قطعی نص موجود ہو۔ یا ایسی عقلی دلیل پائی جاتی ہو جو مفید یقین ہو۔ مگر جہاں یقین کا کوئی امکان نہ ہو۔ وہاں ظن ہی کافی ہے۔ ایسی صورت میں خداوند کریم نے بھی ظن پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ (البقرہ - ۲۸۶)

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اجتہاد کرنے والے کو دوا بر اور نطا کار کو ایک امیر کا مستحق ٹھہرایا۔ جب آنحضرت نے حضرت معاذ کو مین بھیجا تو دریافت کیا آپ پیش آمدہ امور کا فیصلہ کیوں کر کریں گے؟ حضرت معاذ نے کہا: "کتاب اللہ کی روشنی میں" فرمایا: "اگر کتاب الہی میں اس کا حل موجود نہ ہو تو پھر؟" کہا: "سنت رسول کے مطابق"

فرمایا: "اگر اس میں بھی وہ مسئلہ موجود نہ ہو؟" معاذ کہنے لگے: "میں اجتہاد سے کام لوں گا؟" رسول کریم نے ان کو شاباش دی اور فرمایا: "اللہ کا شکر ہے جس نے میرے فرستادہ کو احکام خداوندی پر چلنے کی توفیق بخشی"

دوم: مانعین کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْبَيِّنَاتِ لِقَائِهِمْ هَآئِذْ لَآ إِلَهُوَ

اور ہم نے آپ پر قرآن انکارا تاکہ لوگوں کے لیے آپ اس کی دھماست کر دیں۔

(انحل - ۴۴)

اس آیت کریمہ میں توضیح قرآن کو آنحضرت کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے کو قرآن کریم کے مطالب و معانی بیان کرنے کا حق حاصل نہیں۔

تجزیرین اس دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم کو تشریح قرآن کا حکم دیا گیا ہے مگر آپ فوت ہو چکے ہیں۔ اور آپ نے پورے قرآن کی تفسیر نہیں کی۔ لہذا جو تفسیر آپ سے منقول ہے اس میں کسی دوسرے کی رائے معتبر نہیں۔ البتہ جس آیت کی تشریح آپ نے نہیں کی اہل علم اس میں رائے زنی کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل خود اسی آیت میں موجود ہے۔ اور وہ اس کے آخری الفاظ ہیں: "وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ"

سوم: مانعین مندرجہ ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو قرآن میں رائے زنی

کرنے کی ممانعت کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں :

۱- حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے وہی حدیث روایت کرو جس کا تمہیں یقین ہو۔ جس شخص نے مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھا۔ اس نے اپنا گھر جہنم میں بنالیا۔ اور جس نے قرآن میں رائے زنی سے کام لیا اس نے بھی اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالیا۔ امام ابوعلیسیٰ ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن کے درجہ کی ہے۔ (ترمذی ج ۲ ص ۱۵۷)

۲- حضرت جندب کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی درست بات کہی تو بھی غلطی کھائی۔ (ابوداؤد ترمذی)

مجوزین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ان احادیث میں ایسی رائے سے منع کیا گیا ہے جو بلا دلیل و برہان ہو۔ جہاں تک مبنی بر دلیل رائے کا تعلق ہے۔ اس میں کچھ حرج نہیں یا ایسی رائے زنی مراد ہے جو صرف ظاہری عربی الفاظ کی بنیاد پر کی جائے۔ اور اس میں عربوں سے مسموح لغات و اشعار کی جانب رجوع نہ کیا جائے۔ جندب کی روایت کا یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ اس کی صحت ثابت نہیں۔ اس لیے کہ اس کا ایک راوی سہیل بن ابی حزم ہے۔ جو مستحکم فیہ ہے۔ اور ابو حاتم نے اس کو ضعیف راوی قرار دیا ہے۔

چہاں کہہ سکتے ہیں: مانعین کی پوچھی دلیل صحابہ و تابعین سے منقول وہ آثار ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ علمائے سلف تفسیر قرآن کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اور اس میں رائے زنی سے احتراز کرتے تھے۔

چند آثار ملاحظہ ہوں :

۱- ابوالمکلیہ روایت کرتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم کے کسی حرف کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا:

”جب مراد الہی کے خلاف میں قرآن کے کسی حرف کی تفسیر کروں۔ تو کون سا آسمان مجھ پر سایہ نکلے گا؟ کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی میں کہاں جاؤں اور کیا کروں۔“

۲- حضرت سعید بن المسیب سے جب حلال و حرام سے متعلق کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو جواب دیتے۔ مگر جب قرآن کی کسی آیت کی تفسیر معلوم کی جاتی تو یوں خاموش رہتے گویا کچھ سنا ہی نہیں۔

۳- امام شعبی فرمایا کرتے تھے جب تک زندہ ہوں تین چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ قرآن۔ روح۔ رائے و قیاس

۴- ابن مجاہد ذکر کرتے ہیں کہ کسی شخص نے میرے والد سے کہا آپ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ میرے والد یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے۔

”پھر تو میری جسارت کے کیا کئے! میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ سے تفسیر قرآن کا درس لیا ہے“

۵- اصعب لغت و نحو کے جلیل القدر امام ہونے کے باوجود تفسیر قرآن سے احتراز کیا کرتے تھے۔ جب کسی لفظ کے معنی دریافت کیے جاتے تو کہتے:

”عرب کہتے ہیں کہ اس کے معنی فلاں فلاں ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کتاب و سنت میں کون سے معنی مرا ہیں“

(میزان الاعتدال ج ۱ ص ۴۲۲ و تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۲۶۱)

تفسیر بالرائی کو جائز قرار دینے والے ان براین و دلائل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ علمائے سلف درع و تقویٰ کے تعاضدوں کے پیش نظر تفسیر بالرائی سے احتراز کرتے تھے کہ مبادا وہ حق بات بیان نہ کر سکیں جس کے لیے وہ مکلف و مامور ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے معنی اس امر کی شہادت دینا ہے کہ مراد الہی یہی ہے۔ لہذا وہ اس اندیشہ کے پیش نظر اس کی جسارت نہ کر سکے کہ شاید مراد ربانی وہ نہ ہو جو وہ کہہ رہے ہیں۔ بعض علمائے سلف تفسیر قرآن سے اس لیے بھی گھبراتے تھے کہ مبادا انہیں امام تفسیر قرار دے کر ان کی پیروی کی جائے اور لوگ اسی روش پر گام زن ہونے لگیں۔ عین ممکن ہے کہ متاخرین میں سے کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرے اور بڑے آرام سے یہ بات کہہ دے کہ میں نے علمائے سلف میں سے فلاں کی پیروی میں یہ بات کہی ہے۔

تفسیر بالرأی کے دلائل : جو لوگ تفسیر بالرأی کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے دلائل حسب ذیل ہیں :-

اول : کتاب الہی میں بکثرت آیات ایسی ہیں جن میں قرآن حکیم میں فکر و تدبیر کی دعوت دی گئی ہے۔
ارشاد فرمایا :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ عَلَيَّ
قُلُوبٌ أَتَقَالُهَا
کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا
دلوں پر تالے پڑھے ہوئے ہیں۔
(سورہ محمد - ۲۴)

نیز فرمایا :

كَيْتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لَّ
يَذَكِّرَ بِهِ أَتَيْنَهُ
یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے
آپ پر نازل کیا تاکہ اس کی آیات میں غور
فکر کریں۔ (سورہ ص - ۲۹)

ذکورہ حمد آیات میں رغبت دلائی گئی ہے کہ آیات الہی میں فکر و تدبیر کر کے ان سے عبرت و موصلت حاصل کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اندر میں صورت علماء کے لیے قرآن کریم کی تاویل و تفسیر غمناک کیوں کر ہو سکتی ہے ہمالہ کہ قرآن کریم سے علم و معرفت حاصل کرنے اور عبرت پذیری کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے۔ اگر یوں ہوتا تو اس کے معنی یوں ہوتے کہ بلا سوچے سمجھے ہم قرآن سے پند و موصلت لے سکیں۔

دوم : مجوزین کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر تفسیر بالرأی ناجائز ہے تو اجتہاد کے لیے بھی کوئی وجہ براز نہیں۔ حالانکہ اُس کا بطلان بالکل واضح ہے۔ اس لیے کہ اجتہاد کا دروازہ تاہنوز کھلا ہے۔ مجتہد غلطی پر ہونے کی صورت میں بھی عند اللہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرآنی آیات کی تفسیر نہیں کی اور ان میں مندرج احکام کو واضح نہیں کیا تو لا محالہ ان میں غور و فکر کرنا پڑے گا۔

سوم : تیسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام قرآن کریم پڑھتے اور اس کے معانی و مطالب میں

باہم اختلاف بھی کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ معانی و مطالب سب کے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے تھے۔ بخلاف ازیں ان میں سے بعض معانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اور بعض انہوں نے اپنی ذاتی محنت و کاوش سے معلوم کیے۔ اور اگر قرآن کریم کی تفسیر بالرای ممنوع ہوتی تو صحابہ ایک فعلِ حرام کے مرتکب ٹھہرتے۔ ہمارے نزدیک صحابہ کا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ ان کو عورات کا مرتکب ٹھہرایا جائے۔

چچہ آدم پوچھی ویل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ ”اے اللہ ان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تاویل سکھا دے“ اگر تفسیر قرآن کا مدار انحصار نقل و سماع پر ہوتا تو ابن عباس کے حق میں اس دعا کا کچھ فائدہ نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے ابن عباس کے حق میں جس تاویل کی دعا فرمائی تھی وہ نقل و سماع کے سوا کچھ اور ہے۔ اور وہ رائے و اجتہاد پر مبنی تفسیر و تاویل ہے۔

یہ ہیں فریقین کے براین و دلائل جن کے بل بوتے پر ہر فریق اپنا دعویٰ ثابت کرتے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ امام غزالی اس ضمن میں فرماتے ہیں:

”بنابریں تفسیر قرآن میں نقل و سماع کی شرط باطل ٹھہری۔ ہر شخص کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی عقلی استطاعت کی حد تک قرآن کریم سے استنباط مسائل کرے۔ قرآن مجید کے معانی و مطالب کے فہم و ادراک کا میدان نہایت وسیع ہے۔ یہ غلط ہے کہ منقول تفسیر پر فہم و ادراک کی حد ختم ہو جاتی ہے؟“

(الاحیاء ج ۳ ص ۱۳۶)

امام راغب اصفہانی اپنی تفسیر کے مقدمہ میں فریقین کے دلائل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”یہ دونوں مذہب دراصل افراط و تفریط پر مبنی ہیں۔ جس نے تفسیر منقول پر انحصار کیا اس نے تفسیر کے نہایت ضروری حصہ کو نظر انداز کر دیا۔ اور جس نے ہر کس و ناکس کو تفسیر قرآن کی اجازت دی اس نے کتاب مجید کو اختلاط و امتزاج کا نشانہ بنا دیا۔ گویا اس نے قرآن کریم کی آیت ”لَیْسَ بَشَرًا مِّمَّنْ لَمَّ یَتَّبِعُ“ کا صحیح مفہوم ہی نہیں سمجھا۔“

(مقدمہ تفسیر راغب اصفہانی ص ۴۲۳)

اختلاف کی حقیقت: امام راعب نے جس نظریہ کا اظہار کیا ہے ہم اس سے کلیتہً متفق ہیں ہماری نگاہ میں نقلی تفسیر تک محدود رہنا تقریباً ہے اور ہر شخص کو اس کی کھلی چھٹی دینے کا نام بلاشک و شبہ غلو و افراط ہے۔

تاہم مالمعین نے جس تشدد سے کام لیا ہے اگر اس کے اسباب و وجوہ پر غور کیا جائے۔ اور ساتھ ہی دیکھا جائے کہ جن لوگوں نے تفسیر بالرأی کی اجازت دی ہے انہوں نے اس ضمن میں کون سے شرائط عائد کیے ہیں جن کا پایا جانا تفسیر بالرأی کرنے والے میں ضروری ہے اس کے پہلو بہ پہلو وقت نظر کے ساتھ فریقین کے براین و دلائل کا تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت نمایاں ہوتی ہے کہ یہ اختلاف و نزاع صرف لفظی ہے حقیقی نہیں۔

اس کی تشریح حسب ذیل ہے:

رائے کی دو قسمیں ہیں:

۱- ایک رائے وہ ہے جو کلام عرب کے موافق اور کتاب و سنت سے ہم آہنگ ہو اور اس میں تفسیر کے تمام ضروری شرائط کو ملحوظ رکھا گیا ہو۔ اس قسم کی رائے بلاشک و شبہ جائز اور درست ہے۔ جن علماء نے تفسیر بالرأی کی اجازت دی ہے۔ ان کی مراد اسی قسم کی رائے ہے۔

۲- دوسری قسم کی رائے وہ ہے جو قوانین عربیت کے خلاف ہو اور شرعی دلائل سے میل نہ کھاتی ہو اور اس میں تفسیر کے ضروری شرائط کا فقدان ہو۔ اس قسم کی رائے ممنوع و مذموم ہے۔ جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

”تم کتاب اللہ کی طرف دعوت دینے والی ایسی قوموں کو پاؤ گے جو بذات خود کلام الہی کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ ایسے حالات میں تم نے علم و دلیل کے دامن کو تھامے رکھنا اور بدعات و منکلف سے احتراز کرنا“

جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے:

”مجھے دو آدمیوں سے ڈر لگتا ہے۔ ایک وہ شخص جو قرآن عزیز کی غلط تاویل کرتا ہے اور دوسرا وہ جو بادشاہ کو اپنے بھائی کے خلاف بھڑکاتا ہے۔“

اس قسم کے تمام اقوال اسی قسم کی تفسیر کے بارے میں منقول ہیں جس میں قوانین لغت اور شرعی دلائل کو اپنی ذاتی رائے اور اپنے مذہب و مسلک کے تابع بنا دیا گیا ہو۔ جن لوگوں نے تفسیر بالرأی سے منع کیا ہے وہ اسی قسم کی تفسیر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مانعین تفسیر بالرأی کے اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

” ائمہ سلف سے اس ضمن میں جو اقوال بھی منقول ہیں وہ اسی قسم کی تفسیر سے متعلق ہیں جو بلا علم و برہان ہو۔ جہاں تک لغت و شرع پر مبنی تفسیر کا تعلق ہے۔ اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء سے بکثرت تفسیری اقوال منقول ہیں۔ اور ان کے یہ اقوال علم و تحقیق پر مبنی ہیں جو بات انہیں معلوم نہ ہوتی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے یہی بات اہل علم پر واجب بھی ہے۔ کہ جو بات معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سکوت سے کام لیا جائے اور جو معلوم ہو اس کا بر ملا اظہار کر دیا جائے اور اسے چھپایا نہ جائے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

لَتَبَيِّنَنَّ لَهُ لَيِّنَاتٍ ۚ وَلَا تَكْفُرُونَ
اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے
اور اسے چھپائیں گے نہیں۔

(آل عمران - ۱۸۷)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

” جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپایا تو روز قیامت اس کے منہ میں آگ کی دگام دی جائے گی!“

(مقدمہ اصول تفسیر ابن تیمیہ ص ۳۱-۳۲)

مذہب جو صدر بیان سے یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ تفسیر بالرأی کی دو قسمیں ہیں:

۱- ایک قسم مذہب و اور ناروا ہے۔

۲- دوسری قسم جائز اور درست ہے۔

پھر یہ کہ تفسیر کی جو قسم جائز ہے۔ اس کی چند حدود و قیود ہیں۔ لہذا اب یہ بیان کرنے

کی ضرورت لاحق ہوتی ہے کہ مفسر کے لیے کن علوم کا جاننا از بس ناگزیر ہے۔ نیز یہ کہ وہ کون سے اوصاف و حالات میں کہ جب کسی مفسر کے اندر تمام درکمال پائے جاتے ہیں تو وہ مفسر نہیں رہتا۔

اس بحث کی تفصیلات کے لیے دیکھئے مندرجہ ذیل کتب:

(مقدمہ تفسیر قرطبی ج ۱- ص ۳۱- الاحیاء للخرالی ج ۳ ص ۱۳۴- الاتقان ج ۲ ص ۱۷۹)

مقدمہ تفسیر راغب اصفہانی ص ۲۲۲- مقدمہ اصول تفسیر ابن تیمیہ ص ۲۹-۳۲)

مفسر کے لیے ضروری علوم

جو شخص منقولات سے مدد لیے بغیر قرآن کی تفسیر با راہی کرنا چاہتا ہو۔ اس کے لیے مفسرین نے چند علوم میں ماہر ہونے کی شرط لگائی ہے۔ تاکہ ان کی روشنی میں قرآن کریم کی پسندیدہ عقلی تفسیر کر سکے مفسرین کی رائے میں یہ علوم اس کے لیے بمنزلہ آلات و اسباب کے ہیں جو مفسر کی غلطی میں پڑنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم ذیل میں ان علوم کا تفصیلی تذکرہ کریں گے اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ یہ علوم فہم قرآن کے سلسلہ میں کس حد تک محدود معاون ہیں۔

۱- علم لغت : علم لغت کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے کہ فلاں مفرد لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔

مجاہد فرماتے ہیں:

”جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ

لغت عرب میں مہارت حاصل کیے بغیر قرآن کریم میں رائے زنی کرے۔“

نیز یہ کہ لغت سے معمولی آشنائی اس ضمن میں کافی نہیں۔ بلکہ خصوصی وسعت و مہارت ضروری ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایک لفظ مشترک ہوتا ہے۔ اور اس کے کئی معانی ہوتے ہیں۔ مفسر ایک معنی سے واقف ہوتا ہے اور دوسرے سے نہیں۔ حالانکہ قرآن میں وہی معنی مراد ہوتا ہے۔ جس سے مفسر آگاہ ہی نہیں۔

۲- علم نحو: مفسر کے لیے علم نحو میں مہارت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ

اعرابی حالت کی تبدیلی سے بھی معنی میں فرق آجاتا ہے۔ مشہور لغوی عالم ابو جلید حضرت حسن بصری کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص عربیت میں اس لیے مہارت حاصل کرنا چاہے تاکہ وہ اچھی طرح بول چال سکے اور قراءت کو درست کر سکے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے جواب دیا:

”عربیت سیکھنا چاہیے۔ لہذا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک آیت

تلاوت کرتا ہے اور اس کو غلط معنی پہنکا کر اپنی ہلاکت کا سامان ہم پہنچاتا ہے“

۳۔ علم صرف: علم صرف ہی کی مدد سے کسی لفظ کے وزن اور صیغے کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اس علم کا سیکھنا بھی مفسر کے لیے ضروری ہے۔

مشہور نحوی ابن فارس لکھتے ہیں:

”جو شخص علم صرف سے محروم رہا وہ علم کے ایک بڑے حصے سے نااہل رہا

مثال کے طور پر ”وَجَدَ“ ایک مبہم کلمہ ہے جب اس کے مشتقات کو دیکھا

جائے گا تو اس کے معنی و مفہوم کا پتہ چلے گا“

امام سیوطی علامہ زعفرانی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ آیت کریمہ:

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاثٍ بِاُمِّهَا كِهْمًا۔ (الاسماء - ۷۱)

کی تفسیر کرتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا کہ لفظ ”امام“ ام (ماں) کی جمع ہے۔ بنا جس

بقول ان کے اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو روز قیامت ان کے باپوں کے نام پر نہیں

ماؤں کے نام پر پکارا جائے گا۔ اس غلط ترجمانی کی وجہ علم صرف سے نا آشنائی ہے۔ اس کے

قائل کو یہ معلوم نہیں کہ ام کی جمع امام نہیں آتی۔

۴۔ علم الاشتقاق: علم الاشتقاق کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب کوئی اسم دو مختلف

ماؤں سے مشتق ہو تو اس کے مشتقات سے مادہ کے فرق و اختلاف کا پتہ چل جاتا ہے۔ مثلاً

”میخ“ ایک اسم ہے۔ اس کے دو مادے ہو سکتے ہیں۔ ایک سیاحت اور دوسرا میخ۔ پہلے

مادہ کے اعتبار سے میخ کے معنی ہوں گے سیاحت کرنے والا۔ دوسرے مادہ کے لحاظ

سے اس کے معنی ہوں گے ”چھوٹنے والا“ یعنی جس کے چھوٹنے سے مریض تندرست ہو جائے۔

ایسا معنوی فرق کا پتہ اشتقاق سے چلا۔

۵ تا ۷۔ علم معانی، بیان و بدیع : ہر سہ علم یعنی معانی بیان اور بدیع کو علم البلاغت کہہ سکتا ہے۔ علم معانی کی مدد سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کلام کی مخصوص ترکیب سے کیا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ علم بیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آیا افلاں قسم کی ترکیب آیا اپنا مفہوم ادا کرنے میں واضح ہے یا پوشیدہ۔ علم البدیع کی مدد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کلام کو حسین اور پرکشش کیوں کر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ تینوں علوم مفسر کے لیے ازلیں ناگزیر ہیں۔

۸۔ علم القراءت : علم قراءت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض الفاظ کی قراءت میں جس قدر وجوہ کا احتمال ہے۔ ان میں قابل تزییح پہلو کون سا ہے۔

۹۔ علم الکلام : علم الکلام کے بدولت مفسر یہ جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کون سی چیز واجب، کون سی مناسب اور کون سی محال اور غیر موزوں ہے۔ علاوہ ازیں جن آیات میں نبوت، معاد اور دیگر عقائد و افکار کا ذکر کیا گیا ہے۔ علم الکلام کی مدد سے ان کو صحیح طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ اس علم کے بغیر بیخبرہ دامگیر رہتا ہے کہ مفسر غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے۔

۱۰۔ اصول فقہ : اصول فقہ ہی وہ علم ہے جس کی بنا پر آیات قرآنی سے مسائل و احکام کا استنباط کیا جاسکتا ہے۔ مزید برآں عموم و خصوص، مطلق و تقید اور امر و نہی کا پتہ بھی اسی علم سے چلایا جاسکتا ہے۔

۱۱۔ اسباب نزول : اسباب نزول کا علم اس لیے ضروری ہے کہ سبب نزول بشری حد تک آیت کا معنی و مفہوم سمجھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔

۱۲۔ علم القصص : قرآن کریم میں جو واقعات و قصص بیان کیے گئے ہیں ان کے جاننے کو علم القصص کہتے ہیں۔ یہ علم اس لیے ضروری ہے کہ واقعہ کی تفصیلات معلوم ہو جانے سے بھی آیت کے مجمل مفہوم کی توضیح ہوجاتی ہے۔

۱۳۔ علم النسخ و المنسوخ : نسخ و منسوخ کا علم حاصل ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت حکم ہے اور کون سی نہیں۔ جو شخص اس علم سے بے گاہ نہ ہو۔ وہ بعض اوقات ایک منسوخ حکم کے مطابق فتویٰ دے کر خود گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔

۱۴۔ حدیث نبوی : مفسر قرآن کے لیے علم حدیث میں مہارت بھی ضروری ہے اس لیے کہ احادیث

نویسہ ہی سے قرآن حکیم کے مجل و مبہم مقامات کی توضیح ہوتی ہے۔

۱۵۔ داود ربانی : یہ علم خاص مطہر ربانی ہے اور اس شخص کو نصیب ہونا ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو۔ قرآن کریم کی آیت:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔

اللہ تعالیٰ سے ڈرنے رہو اور وہ تمہیں سکھاتا ہے۔

(البقرہ - ۲۸۲)

میں اسی علم کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ امام سیوطی اس علم کو مفسر کے ضروری علوم میں شمار کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ایسے علم کا انحصار تو صرف داؤد الہی پر ہے۔ اس لیے یہ انسان کے بس کا روگ نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ خیال درست نہیں۔ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس علم کو زہد و تقویٰ کے ذریعہ اپنے اندر پیدا کیا جائے۔“

علامہ زرکشی ابرہان میں لکھتے ہیں:

”خوب جان لیجئے کہ وحی کے اسرار و رموز کسی شخص پر اسی وقت منکشف ہو سکتے ہیں جب اس کا دل و دماغ بدعت کبر ہو اور ہوس اور حب دنیا سے خالی ہو جب کوئی شخص کسی گناہ کے کرنے پر مصر ہو یا ضعیف الایمان ہو یا کسی جاہل مفسر کے قول پر اعتماد کرنا ہو یا اپنے عقلی ڈھکوں نسلوں پر یقین رکھتا ہو تو اس پر وحی الہی کا راز کھل نہیں سکتا۔ یہ سب حجابات اور موانع ہیں جن میں سے بعض دوسروں کی نسبت زیادہ پختہ اور سنگین ہیں۔“

(الاتقان ج ۲ ص ۱۸)

قرآن عزیز کی درج ذیل آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

سَاخِرُونَ عَنِ آيَاتِ الذِّكْرِ يَكْفُرُونَ
 فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ الْحَقِّ۔

جو شخص زمین میں بلاوجہ مزور کرتے ہیں ان کو میں اپنی آیات سے مڑ دوں گا۔

(الاعراف - ۱۲۶)

محدث ابن عیینہ بردایت ابن ابی حاتم اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ:

”میں ان کو فہم قرآن سے مجرّم کر دیتا ہوں۔“

یہیں وہ علوم جن کو علماء نے فہم قرآن کے لیے بمنزلہ اسباب و آلات قرار دیا ہے! ہم ان کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ بخلاف انہیں بعض مفسرین چند علوم کا ذکر کر کے باقی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ مفسرین ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک علم کو دوسرے میں مدغم کر کے ان کی تعداد گھٹا دی ہے۔ ان علوم کو شمار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ان تمام علوم کا احاطہ کر لیا ہے جن پر تفسیر قرآن کا مدار و انحصار ہے۔ بلکہ ان کے علاوہ اور بھی علوم ہیں جن کا جاننا مفسر کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اقوام سابقہ کے حوادث و واقعات بھی مذکور ہیں۔ ان کا تقاضا یہ ہے کہ مفسر تاریخ و جغرافیہ کے علم سے بھی باخبر ہو۔ تاکہ وہ ان آزمند و امکانہ سے پوری طرح آگاہ ہو جن میں وہ اقوام موجود تھیں اور جب کہ وہ واقعات رونما ہوئے۔

ہم ذیل میں سید محمد رشید رضا مرحوم کا ایک مضمون نقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مقالہ سید موصوف نے اپنی تفسیر المنار کے مقدمہ میں تحریر کیا ہے۔ یہ ان کے استاد گلانی امام شیخ محمد عبدہ کے لیکچررول سے مستفاد ہے جو انہوں نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں دیے تھے۔

شیخ محمد عبدہ کے نزدیک تفسیر کے شرائط:
سید محمد رشید رضا لکھتے ہیں:

تفسیر قرآن کے چند مراتب ہیں۔ تفسیر کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ دل پر خدا کی عظمت و تقدیس کا جو نقش ثبت ہو چکا ہو اس کو اجمالاً بیان کر دیا جائے۔ نفس انسانی کو شر سے روکنے کی طرف مائل کیا جائے۔ یہ درجہ آسان ہے اور ہر شخص کے لیے میسر ہے۔ اسی سلسلہ میں ارشاد ہوا ہے کہ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
مِنْ مُنْكَرٍ
ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان
کیسے بھیلا ہے۔ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے

دالا ہے؟ (سورہ القمر۔ ۱۷)

۱۔ مفرد الفاظ کا فہم و ادراک: تفسیر کے لیے اعلیٰ درجہ کی تکمیل مندرجہ ذیل امور کے بغیر ممکن نہیں اس ضمن میں شرط اولین یہ ہے کہ مفسر قرآن عزیز میں وارد شدہ مفرد الفاظ کی حقیقت سمجھنے پر قادر ہو اور جانتا ہو کہ اہل لغت نے ان کو کن معانی میں استعمال کیا ہے صرف اہل لغت کے اقوال

معلوم کر لینا کافی نہیں۔ نزول قرآن کے زمانہ میں بیشتر الفاظ خاص معانی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ بعد ازاں جلد یا بدیران کو دیگر مطالب کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ مثلاً "تأویل" کے لفظ کا اطلاق عام یا خاص قسم کی تفسیر پر کیا جانے لگا۔ حالانکہ قرآن میں اس لفظ کو اور معانی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا:

هَذَا يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ
يَأْتِي تَأْوِيلَهُ

وہ تو صرف اس کی تاویل کے منتظر ہیں جس
روز اس کی تاویل ظاہر ہوگی۔ (الہمز - ۵۳)

اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں تاویل سے کیا مراد ہے؟ جو شخص قرآن کریم کا مطلب صحیح طور پر سمجھنا چاہتا ہے وہ اس بات پر زور کرے کہ آگے چل کر تاویل کا لفظ کن کن معنوں میں استعمال ہونے لگا تھا۔ تاکہ اسے معلوم ہو کہ یہ لفظ کتاب الہی میں کن معنی میں وارد ہوا تھا اور بعد ازاں اس میں کیا تبدیلی رونما ہوئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مفسرین قرآنی الفاظ کو ان اصطلاحات کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو ملت مسلمہ میں قرون ثلاثہ کے بعد ظہور پذیر ہوئیں۔ ایک محقق پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ قرآنی الفاظ کی تشریح ان معانی و مطالب کے مطابق کرے جو اس کے عصر نزول میں ان الفاظ سے مراد لیے جاتے تھے۔ قرآن فہمی کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت یا لفظ کا معنی و مطلب دوسری آیات سے سمجھا جائے۔ ایک لفظ جو قرآن کے متعدد مقامات پر وارد ہوا ہو اس پر زور کیا جائے۔ بعض اوقات ایک ہی لفظ قرآن میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً لفظ "ہدایت" پھر سیاق و سباق پر زور کر کے دیکھا جائے کہ یہاں کون سے معنی مراد لیے جاسکتے ہیں۔ علماء کے یہاں مسلمہ قاعدہ ہے کہ قرآن آپ اپنی تفسیر ہے۔ کسی لفظ کا حقیقی مفہوم دریافت کرنے کے لیے سب سے بہتر سیاق و سباق سے ہم آہنگی اور اس مقصد کے ساتھ اس کا ربط و تعلق ہے جس کے لیے قرآن کریم نازل ہوا۔

۲- اسلوب قرآن: اسلوب کلام میں بہارت و براعت بھی مفسر کے لیے ضروری ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ مفسر کلام بلیغ اور اس کے نکات و محاسن سے بخوبی آگاہ و آشنا ہو اور جانتا ہو کہ شکلم کا مقصد اس کلام سے کیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم کلام الہی کا مطلوب و مقصود پروری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ استماع بشری کی حد تک ہم اس کا مفہوم سمجھنے پر قادر

ہیں۔ اس کے لیے علم نحو اور معانی و بیان سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ مگر تنہا ان علوم کے جان لینے اور ان کے مسائل و احکام کے فہم و حفظ سے کام نہیں چل سکتا۔

عربی ادب کے درس و مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ عرب صحیح عربی بولتے تھے جو نحوی قواعد کے بالکل مطابق ہوتی تھی۔ حالانکہ گرامر کے اصول و قواعد اس وقت تک وضع نہیں کیے گئے تھے تو کیا ان کے لیے یہ فطری بات تھی؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ ملکہ سماع اور باہمی بول چال سے حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عربی الاصل لوگوں کا اختلاط و جمعیوں کے ساتھ ہوا تو ان کی زبان ان جمعیوں سے بھی زیادہ بگڑ گئی۔ اور اگر زبان کی صحت ایک طبعی اور فطری بات ہوتی تو ہجرت کے صرف پچاس سال بعد وہ اس سے محروم نہ ہو جاتے۔

۳۔ علم احوال البشر: قرآن کریم آخری کتاب ہے اور اس میں وہ کچھ مذکور ہے جو دوسری کتابوں میں بیان نہیں کیا گیا۔ اس کتاب میں مخلوقات کے احوال و طبائع اور انسان کے بارے میں سنن الیسی تفصیلات مذکور ہیں۔ اس میں سابقہ اقوام و آدم کے واقعات و حالات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ بنا بریں جو شخص قرآن کریم پر غائرانہ نگاہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بنی نوع انسان کے مختلف مراحل و ادوار ان کے اسباب اختلاف قوت و ضعف عزت و ذلت علم و جہل اور ایمان و کفر کے حالات سے بخوبی واقف ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ عالم علوی و سفلی کے حالات سے بھی بے بہرہ نہ ہو اور تاریخ کے جملہ انواع میں مہارت ناظر رکھتا ہو۔

امام محمد عبدہ فرماتے ہیں:

”میں یہ سمجھنے سے نااصر ہوں کہ جو شخص انسانی احوال سے آشنا نہ ہو اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں کر متحد ہوئے اور کیسے الگ ہوئے۔ نیز یہ کہ وحدت سے یہاں کیا مراد ہے۔ اور آیا وہ ان کے لیے مفید تھی یا ضرر رساں؟ نیز یہ کہ انبیاء کی بعثت سے ان میں کیا اختلاف و نما ہوئے؟ وہ مندرجہ ذیل آیت کی تفسیر کیوں کر کر سکتا ہے؟“

قرآن کریم میں فرمایا:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ
 سب لوگ ایک امت تھے پھر اللہ تعالیٰ
 نے انبیاء بھیجے (البقرہ-۲۱۳)

۴۔ قرآن کریم کا طریق دعوت : مفسر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کے انماز دعوت و تبلیغ سے آگاہ ہو۔ اسے بخوبی معلوم ہو کہ عہد رسالت میں اہل عرب اور دیگر لوگوں کی کیا حالت تھی۔ قرآن عزیز کا دعویٰ یہ ہے کہ عہد رسالت میں سب لوگ گمراہ تھے اور انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث کیا گیا۔ جب تک مفسر ان کے احوال و عادات سے باخبر نہ ہو وہ قرآن کریم کی ان آیات کو کیوں کر سمجھ سکتا ہے جن میں اہل عرب کی خدمت کی گئی اور ان کو شدید نقد و جرح کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ آخر دین کی دعوت و تبلیغ کے علم برآواروں کے لیے یہ بات کیوں کر زیب دیتی ہے کہ وہ یہ سنی سنائی بات کہہ دیں کہ عہد رسالت میں لوگ باطل پر تھے اور قرآن نے ان کے باطل پر چوٹ لگائی۔

حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دین اسلام میں پرہان پڑھا ہو اور دور جاہلیت کے حالات سے بے گانہ ہو وہ یہ نہیں جان سکتا کہ اسلام کے آنے سے ان میں کیا انقلاب برپا ہوا اور وہ کس طرح کفر کی تباہی سے نکل کر نور اسلام سے مستیز ہوئے جو شخص دور جاہلیت کی فضیلت و جہالت سے نا آشنا ہے اس کی نگاہ میں دین اسلام چنداں اہمیت نہیں رکھتا جس طرح ناز و نعمت میں پروردہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طہارت و پاکیزگی اور مسواک کے بارے میں اسلام کے تاکیدی احکام بے کار ہیں۔ اس لیے کہ صفائی ان کے نزدیک لازمی حیات ہے۔ اور اگر وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن میں صفائی و طہارت کا یہ التزام نہیں پایا جاتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ اسلام کے احکام حکمت و مصلحت پر مبنی ہیں۔

۵۔ سیرت رسول کریم و صحابہ : مفسر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت ان کے علم و عمل اور ان کے دینی و دنیوی کارناموں سے پوری طرح بہرہ ور ہو۔

(تفسیر المنارج اص ۷۱-۷۲)

سید محمد رشید رضاموم نے یہ افکار و نظریات اپنے استاد کرامی شیخ محمد عابد سے نقل کیے ہیں۔ ہم نے قبل ازیں مفسر کے لیے جن علوم کو ضروری قرار دیا ہے۔ سید رشید رضانے ان کو باہم مخلوط و مدغم کر دیا اور ان کو ذرا کھول کر بیان کیا۔ برکیعت ان کے اس مضمون سے ہمارے سابقہ بیان کی تائید ہوتی ہے۔

مصادر تفسیر

تفسیر بالرای کے سلسلہ میں ہم نے جس اختلاف کا ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ نزاع لفظی ہے حقیقی نہیں۔ نیز یہ کہ تفسیر بالرای کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) ایک جائز اور مدوح (۲) دوسری حرام اور مذموم۔ یہ بات بھی صاف ہو چکی کہ جو: تفسیر بالرای درست اور جائز ہے اس کے لیے کون سے علوم مطلوب اور ضروری ہیں۔ اب یہ بات باقی رہی کہ قرآن کی شرح و تفسیر کرتے ہوئے مفسر کے لیے کن مصادر کی جانب رجوع کرنا ضروری ہے۔ تاکہ اس کی تفسیر جائز اور مقبول ہو سکے۔ وہ مصادر و ماخذ حسب ذیل ہیں:

۱۔ تفسیر القرآن بالقرآن : تفسیر قرآن کا اولین مصدر و ماخذ خود قرآن ہے۔ کسی آیت کی تفسیر کرتے وقت سب سے پہلے قرآن پر ایک گہری نگاہ ڈالی جائے اور ایک ہی موضوع سے متعلق تمام آیات کو یکجا کیا جائے۔ پھر آیات کا باہم مقابلہ کیا جائے۔ بعض آیات ایک جگہ مجمل ہوتی ہیں اور دوسری جگہ تفصیلاً مذکور ہوتی ہیں۔ اس لیے مجمل آیات کی تفصیل مفسر آیات کی روشنی میں تلاش کرنا چاہیے۔ ایک جگہ جو حکم مختصراً مذکور ہو دوسری جگہ اس کی تفصیل طلب کرنا چاہیے۔ اس کو "تفسیر القرآن بالقرآن" کہتے ہیں۔ جو مفسر اس قاعدہ کو ملحوظ نہیں رکھتا۔ اور اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ وہ خطا کار ہے اور اس کی رائے مذموم ہے۔

۲۔ حدیث نبوی : تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ حدیث نبوی ہے۔ مگر حدیث رسول سے تفسیر کرتے وقت ضعیف اور موضوع روایات سے احتراز کیا جائے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث مروی ہو تو اس سے انحراف کر کے اپنی رائے سے کام نہ لیا جائے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر قرآن کے لیے من جانب اللہ مامور تھے۔ جو شخص تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آنحضرت کی صحیح حدیث کو نظر انداز کر کے اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے۔ اس کی رائے قابل مذمت ہے۔

۳۔ تفسیر صحابہ و تابعین : کیا جائے۔ البتہ تمام اقوال جو صحابہ کی جانب منسوب ہیں ان سے وصول کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ بکثرت چھوٹے اقوال کو بھی صحابہ کی جانب منسوب کر دیا گیا ہے اگر صحابی کا کوئی صحیح قول موجود ہو تو اسے چھوڑ کر اپنی رائے سے تفسیر کرنا درست نہیں۔ کیونکہ صحابہ

کتاب اللہ کے عالم اس کے اسرار و رموز کے محرم اور اس کے احوال و قرآن کے زندہ گواہ تھے خصوصاً اکابر صحابہ قرآن حکیم کے فہم کامل اور علم صحیح سے بہرہ ور تھے۔ مثلاً خلفار راشدین ابی بن کعب ابن عباس ابن مسعود و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہم قبل ازیں اس پر بحث کر چکے ہیں کہ آیا اقوال صحابہ کو حدیث شریفہ فرح کا درجہ حاصل ہے یا نہیں؟

ایک سوال یہ بھی ہے کہ آیا مفسر تابعین کے تفسیری اقوال سے انحراف کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر قبل ازیں ہم سیر حاصل تبصرہ کر چکے ہیں اب اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہیے۔

۴۔ لغت سے احتجاج : چونکہ قرآن عزیز فصیح و بلیغ عربی میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے مفسر کو لغت سے بھی استدلال کرنا چاہیے۔ مگر مفسر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ایک تلیل الاستعمال لغوی معنی و مطلب کی بنا پر آیت کے ظاہری اور متبادر مفہوم کو ترک کر دے۔ امام بیہقی شعب الایمان میں امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ: میرے پاس جو بھی ایسا مفسر لایا جائے گا جو لغت عرب سے بے بہرہ ہونے کے باوجود قرآن کی تفسیر کرتا ہو گا میں اسے عبرت ناک سزا دوں گا۔

۵۔ خداداد فہم و تسمیہ قرآن : قرآن کریم کے متعقیبات اور روح شریعت کے پیش نظر بھی قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے حق میں اسی بات کی دعا فرمائی تھی کہ:

”کہ اے اللہ اے دین کی سمجھ عطا کر اور اسے قرآن کی تاویل سکھا دے“

حضرت علی کا مطلب بھی یہی تھا جب ان سے سوال کیا گیا کہ:

”آیا قرآن کے سوا میں آپ کے پاس رسول کریم سے منقول کوئی چیز موجود ہے؟“

تو انہوں نے فرمایا:

”دخلا کی قسم ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں صرف ایک فہم قرآن ہے جس کو خدا عطا کر دے“

اسی بنا پر بعض آیات کا مفہوم سمجھنے میں صحابہ کے یہاں اختلاف پیدا ہوا۔ ہر ایک نے اپنی عقل و فکر سے کام لے کر جو سمجھ میں آیا۔ اس پر عمل کیا۔ (الاتقان ج ۲ ص ۱۷۸)

مفسر کن امور سے اجتناب کرنے

مفسر کے لیے ضروری ہے کہ چند امور سے اجتناب کرے تاکہ وہ تفسیر میں غلطی کا مرتکب نہ ہو۔
وہ چند امور سب ذیل ہیں۔

۱- جو شخص قوانین لغت اصول شریعت اور دیگر ضروری علوم سے بہرہ ور نہ ہو۔ اسے قرآن کریم کی تفسیر سے اجتناب کرنا چاہیے۔

۲- آیات و مقابلات اور اس قسم کی دیگر آیات جن کا معنی و مفہوم خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کی تشریح و توضیح سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ اسرار الہی ہیں جن کا علم ذاتِ خداوندی کے ساتھ مخصوص ہے۔

۳- تفسیر قرآن میں ذاتی پسند ناپسند کو دخل نہیں دینا چاہیے۔

۴- یہ کسی طرح درست نہیں کہ قرآنی آیات کو توڑ مڑ کر اپنے غلط مذہب و مسلک کے تابع بنا دیا جائے۔

۵- پورے وثوق کے ساتھ یوں کہنا کہ فلاں آیت سے مراد الہی ہی ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی دلیل برہان نہ ہو شرعاً ممنوع ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا:

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تمہیں معلوم ہی نہیں۔ (البقرہ- ۱۷۹)

اس امر کی وضاحت کے بعد کہ جس چیز کا علم ذاتِ خداوندی کے ساتھ مخصوص ہو۔ اس میں رائے نسی کرنا مفسر کے لیے جائز نہیں۔ نیز یہ کہ بلا دلیل و برہان یہ کہنا درست نہیں کہ فلاں آیت سے خدا کی مراد یہی ہے۔ اب باقی رہی یہ بات کہ قرآن کریم کن علوم پر مشتمل ہے اور کن علوم کی معرفت ممکن ہے اور کن کی نہیں؟

(الاتقان ج ۲ ص ۱۸۲)

علوم القرآن اور ان کے اقسام

علوم القرآن کی حسب ذیل تین قسمیں ہیں :-

قسم اول :- پہلی قسم میں وہ اسرار و رموز شامل ہیں جن کی اطلاع خداوند کریم نے کسی کو نہیں دی۔ مثلاً ذات خداوندی کی حقیقت اور عجبیہ اشیاء جن کا علم خدا کی ذات کے سوا کسی کو نہیں۔ اس قسم میں دخل اندازی اجماعاً کسی کے لیے جائز نہیں۔

قسم دوم :- اس قسم میں وہ اسرار داخل ہیں جن کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ کی ذات کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ ایسے امور میں رائے زنی کا حق صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے یا جس کو آپ اجازت دیں مقرر آنی سورتوں کے شروع میں جو سرون مقطعات ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ اسی قسم میں شامل ہیں بعض علماء نے ان کو قسم اول میں شمار کیا ہے۔

قسم سوم :- تیسری قسم ان علوم پر مشتمل ہے جو خداوند کریم نے اپنی کتاب میں ودیعت کیے نبی کریم کو سکھائے اور آپ کو حکم دیا کہ آگے لوگوں کو سکھلائیں۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔

۱۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ شارع سے سنے بغیر اس میں رائے زنی درست نہیں۔ مثلاً اسباب نزول ناسخ و منسوخ مختلف قسم کی قراءتیں۔ لغات۔ گذشتہ اقوام کے واقعات۔ آئندہ زمانہ میں پیش آنے والے حوادث اور شد و نشتر سے متعلق امور۔

۲۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں نظر و استدلال اور استنباط سے کام لیا جاسکتا ہے۔ مثلاً ان آیات تشابہات کی تاویل جو صفات باری تعالیٰ میں وارد ہوئی ہیں۔ مگر ان کی تاویل کے جواز ہم جواز میں علماء کا اختلاف ہے۔ یا شرعی احکام اور حکم و اشارات کا استنباط جو سب علماء کے نزدیک جائز اور درست ہے۔

تفسیر قرآن کا اسلوب و انداز

سابقہ بیانات سے یہ بات کھل کر سامنے آچکی ہے کہ ہر شخص قرآن کریم کی تفسیر بالرای کرنا

چاہتا ہے۔ اس کے لیے ان علوم میں مہارت و بصیرت ضروری ہے جو فہم قرآن کے سلسلہ میں مجتہد و محاور اور اس کے اسرار و رموز کے محل و کشف کا ضروری وسیلہ ہیں۔ یہ امر بھی کھل کر سامنے آچکا ہے کہ مفسر سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن کی مدد سے کرے۔ اگر اس سے نہ ہو سکے تو حدیث نبوی میں تلاش کرے۔ اس لیے کہ حدیث رسول قرآن کی شارح و ترجمان ہے۔ اگر حدیث سے بھی تفسیر ممکن نہ ہو تو اقوال صحابہ کی جانب رجوع کرے۔ اس لیے کہ وہ قرآن کریم کے معانی و مطالب کے سب سے بڑے عالم و دراس کے ساتھ فہم کامل علم صحیح اور عمل صالح کی صفات سے متصف تھے۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ تفسیر انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔

اگر مذکورہ مدعا مور میں سے کوئی بھی دستیاب نہ ہو تو مفسر کے لیے آخری چارہ کار یہ ہے کہ اپنی عقل و فکر سے کام لے اور مرادِ ربانی معلوم کرنے کی انتہائی کوشش کرے۔ ایسا کرتے وقت سابق الذکر اصول و قواعد کو پیش نظر رکھے۔ اور ان تمام امور سے اجتناب کرے جو اس کو مفسر بالرائی المذموم کے زمرہ میں شامل کر سکتے ہوں۔

تفسیر بالرائی کرنے والے پر ایک فریضہ یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ اپنی تفسیر میں مندرجہ ذیل اصول و قواعد کو پیش نظر رکھے اور کسی صورت میں بھی ان سے عدول نہ کرے۔ قواعد حسب ذیل ہیں:

- ۱- تفسیر و مفسر (قرآن کا وہ حصہ جس کی تفسیر کی جا رہی ہے) میں پوری پوری یگانگت و موافقت ہونی چاہیے نہ ضرورت سے کم ہو اور نہ اس قدر زیادہ کہ موقع محل سے بے ربط نظر آنے لگے۔ تفسیر ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے قرآن کا اصل معنی و مفہوم ہاتھ سے جاتا نہ رہے۔
- ۲- تفسیر میں حقیقی و مجازی دونوں معنوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات کسی کلام کے مجازی معنی مراد ہوتے ہیں اور حقیقی مفہوم مراد لینا درست نہیں ہوتا۔
- ۳- کلام کی اصلی فرض و غایت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
- ۴- قرآنی آیات کے باہمی توافق و تطابق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک آیت کہ آخری حصہ کا جو ربط و تعلق وہ سری آیت کے ابتدائی کلمات کے ساتھ ہو۔ اس کو واضح کیا جائے تاکہ قاری یہ تاثر لے کہ قرآن کریم ایک مربوط و متصل کتاب ہے اور اس کے اجزا باہم ملے جُملے ہوئے ہیں۔

۵۔ اسباب نزول کو پیش نظر رکھنا بھی مفسر کے لیے ضروری ہے۔ کسی آیت کی تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سابقہ آیت کے ساتھ اس کا ربط و تعلق واضح کیا جائے۔ پھر اس کا سبب نزول اور اس کے بعد اس کی تفسیر کی جائے۔

امام زکشی البرہان کے شروع میں لکھتے ہیں:

”مفسرین کی عادت ہے کہ وہ کسی آیت کی تفسیر کرنے سے قبل اس کا سبب نزول بیان کرتے ہیں۔ مفسرین کے یہاں یہ امر متنازع فیہ ہے کہ آیا پہلے سبب نزول کا ذکر کیا جائے یا سابقہ آیت کے ساتھ مناسبت اور تعلق کا؟ اس ضمن میں تحقیق یہ ہے کہ بعض جگہ سبب نزول کا ذکر پہلے کرنا مناسب ہے اور بعض مقامات پر ربط و تعلق کا“

(الآلکان ۲۵ ص ۱۸۵)

۶۔ ربط و تعلق اور سبب نزول بیان کرنے کے بعد مفرد الفاظ کی تحقیق کا آغاز کیا جائے کہ علم لغت صرف اور اشتقاق کے پیش نظر اس کی کیا حیثیت ہے۔ بعد ازاں ترکیبِ نحوی کی جانب توجہ دی جائے پھر علم معانی بیان اور بدیع کے اصول و قواعد کے پیش نظر اسے جانچا پرکھا جائے۔ پھر بیان کیا جائے کہ اس کلام سے مقصود و ربانی کیا ہے۔ بعد ازاں آیت سے جو شرعی مسئلہ نکالا جاسکتا ہو وہ نکالا جائے۔

۷۔ جہاں تک ممکن ہو مفسر اس دعویٰ سے استہزا کرے کہ قرآن حکیم میں اعادہ اور تکرار بھی موجود ہے۔ امام سیوطی نے بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ جن آیات میں لفظ تکرار کا وہم پڑتا ہے وہ درست نہیں۔ مثلاً وہ آیات جن میں ایک مترادف کا عطف دوسرے پر ڈالا گیا ہے جیسے

لَا تَتَّبِعُوا كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا
ذَبَاتِي رَكْعَةٍ وَأُورَنِي جَهَنَّمَ

(المذثر - ۲۸)

صَلَّاتٌ مِّنْ قَبْلِهَا وَرَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ كُنَايَاتٍ وَأَسْمَاءٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ

(البقرة - ۱۵۷)

اور اس قسم کی دیگر آیات۔

ایسی آیات کے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں مترادف جب مل جاتے ہیں تو

اللہ سے ایک ایسا مفہوم پیدا ہوتا ہے جو ایک مترادف سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ دونوں کی ترکیب سے
 معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کثرتِ حروف سے معنی میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح کثرتِ الفاظ
 سے بھی اضافہ یقینی ہے؟ (الاتقان ج ۲ ص ۱۸۵)

مفسر یہ ایک فریضہ یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ غیر ضروری مسائل سے احتراز کرے۔ مثلاً تفسیر
 کرتے وقت نحوی مسائل کے علل و اسباب فقہ اصول فقہ اور دینی عقائد کے دلائل و براہین کو
 زیر بحث نہ لایا جائے۔ یہ مسائل و دلائل متعلقہ علوم میں اپنی اپنی جگہ مذکور ہیں۔ البتہ علم تفسیر میں
 ان مسائل کو جوں کا توں لے لیا جائے اور ان کے بارے میں استدلال نہ کیا جائے۔

مفسر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ضعیف روایات پر مبنی اسباب نزول فضائل پر مشتمل
 احادیث ضعیفہ من گھڑت واقعات اور اسرائیلیات کو بیان نہ کرے۔ کیونکہ اس سے قرآن کا حسن و
 جمال قائم نہیں رہتا اور لوگ فکر و تدبیر اور عبرت آموزی سے دور نکل جاتے ہیں۔

۸۔ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذہین و فطین اور بیدار مغز ہو اور قانون تریج سے بھی آگاہ
 ہو۔ تاکہ جب آیت میں مختلف وجوہ کا احتمال ہو تو وہ ایک وجہ کو ترجیح دے سکے۔ اس سے
 ظاہر ہوا کہ قانون تریج کا ذکر و بیان بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ احتمالات کثیرہ کی موجودگی
 میں اسی قانون کی اساس پر ایک وجہ کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔

تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے:

(الاتقان ج ۲ ص ۱۸۵ و منابِل العرفان ج ۱ ص ۴۴۵ و منہج الفرقان ج ۲ ص ۴۱)

تفسیر بالرأی میں غلطی کے وجوہ : بروگ مسک صحابہ ذنا بعین سے ہٹ کر اور ان
 اصول و قواعد اور بنیادی علوم سے بے نیاز ہو کر قرآن کریم کی تفسیر بالرأی کرنا چاہتے ہیں جو اس
 سلسلہ میں از بس ناگزیر ہیں۔ ان سے اکثر غلطیاں صادر ہوتی ہیں۔ ہم فریل میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ
 مفسرین جن غلطیوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان کا منشاء و مصدر کیا ہے؟

اکثر و بیشتر تفسیر بالرأی میں جن غلطیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ان کے دو اسباب ہیں
 یہ دونوں اسباب عصر صحابہ ذنا بعین کے بعد کی پیداوار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن تفاسیر میں صرف صحابہ
 تابعین کے تفسیری اقوال مندرج ہیں مثلاً عبدالرزاق عبد بن حمید اور دیگر علماء کی تفاسیر۔ وہ ان

دونوں قسم کی غلطیوں سے کلیتہً پاک ہیں۔ بخلاف انہیں جو کتب بعد از ان عالم وجود میں آئیں۔ جیسے شیعہ اور معتزلہ کی تفاسیر وہ ناقابل معافی غلطیوں کا پلندہ ہیں۔ اور ان سے یہ غلطیاں دیدہ دانستہ اپنے مسلک کی نصرت و حمایت اور اپنے عقائد سے دفاع کے سلسلہ میں صادر ہوئیں۔

برکیف تفسیر بالرای میں غلطی دو وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

اول : مفسر کا ایک خاص عقیدہ ہوتا ہے۔ اور وہ قرآن کے الفاظ کو اس کے تابع بنا

چاہتا ہے۔

دوم : قرآن کریم کے الفاظ کا صرف لغوی اور ظاہری مفہوم مراد لیا جائے اور یہ نہ

دیکھا جائے کہ یہ کس نے کس پر اور کس مقصد کے لیے نازل کیا۔

دوہ اول میں جو چیز پیش نظر ہے وہ مفسر کا اپنا عقیدہ و نظریہ ہے قطع نظر اس سے کہ

قرآنی الفاظ کا معنی و مطلب کچھ بھی ہو۔ اس کے برعکس و جرتانی میں صرف لفظ کا ظاہری مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ جو ایک عربی الاصل شخص اس سے سمجھ سکتا ہے بشکل مخاطب اور سیاق کلام کی جانب مطلقاً توجہ نہیں دی جاتی۔

دوہ اول سے جو غلطی رونما ہوتی ہے اس کی چار قسمیں ہیں :

۱۔ اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مفسر کسی آیت سے جو مفہوم مراد لینا چاہتا ہے۔ وہ بجائے

خود درست ہوتا ہے۔ مگر مراد بتانی اس سے مختلف ہوتی ہے۔ صوفیہ اور واعظین حضرات

کی تفاسیر عموماً اسی قسم کی ہیں۔ وہ قرآنی الفاظ کے جو معنی بیان کرتے ہیں۔ وہ بذات خود صحیح ہوتے

ہیں مگر ان کا بیان کردہ مفہوم وہاں مراد نہیں ہوگا۔

اس کی مثالیں دیکھنا چاہیں تو ابو عبد الرحمن السلمی کی حقائق التفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔

قرآن کریم میں فرمایا :

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْكُمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

أَوْ ائْتُوا جُجُوجًا مِنْ دِيَارِكُمْ (النساء، ۶۶) یا۔ اپنے گھروں سے نکل جاؤ۔

ابو عبد الرحمن مذکور اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ قتل نفس سے خواہشات کی مخالفت مراد ہے

اور گھر سے نکل جانے کا مطلب اپنے دل سے حسد دنیا کا نکال باہر کرنا ہے۔ (تفسیر السلمی ص ۴۹)

۲- غلطی کی دوسری صورت یہ ہے کہ مفسر کسی لفظ کا جو مفہوم بیان کرتا ہے لفظاً ہر وہ درست ہوتا ہے۔ لیکن مراد نہیں ہوتا۔ مفسر قرآن کو اس کے مقصود و مراد معنی سے محروم کر کے اپنے معنی پینانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض نام نہاد صوفیہ کی تفاسیر اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ لوگ الفاظ کے ذریعہ معانی کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان الفاظ کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں۔ ان جعلی صوفیہ کی تفاسیر فقر باطنیہ کی کتب تفسیر سے بالکل ملتی جلتی ہیں۔ اس کی مثال قرآن مزین کی یہ آیت کریمہ ہے:

وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ - تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔

(البقرہ-۲۲)

اس کی تفسیر میں سہل القسری لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اس درخت کا پھل کھانے سے روکا نہیں گیا۔

(تفسیر القسری ص ۱۷)

۳- غلطی کی تیسری قسم یہ ہے کہ مفسر کے بیان کردہ معنی غلط ہوتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ قرآن سے اسی مفہوم کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ قرآنی الفاظ اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں نہ ان سے وہ مفہوم مراد ہوتا ہے۔ اس کی مثال بعض صوفیہ کے بیان کردہ باطل معانی میں۔ مثلاً وہ تفسیر جس کی اساس وحدت الوجود کے نظریہ پر رکھی گئی ہے۔ ابن عربی کی جانب جو تفسیر منسوب ہے وہ اسی قبیل سے ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا:

وَأَذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً - اور اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے کٹ کر اسی کا ہرجا۔ (الاحقاف-۸)

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عربی لکھتے ہیں:

”اپنے رب کا نام یاد کر اور رب (اے انسان) تو خود ہی ہے۔ یعنی اپنے رب کو پہچان اور فراموش نہ کر۔ ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اللہ تجھے فراموش کر دے گا۔“

(التفسیر المنسوب لابن عربی ج ۲ ص ۳۵۲)

۴- تفسیر بالرأی میں غلطی کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ مفسر ایک لفظ سے جو مفہوم مراد لینا چاہتا ہے اس

کے پیش نظر قرآنی الفاظ کو ان کی اصل اور مقصود ظاہری معنی سے ہٹا کر اپنے من گھڑت معانی پہنانا چاہتا ہے۔ اہل بدعت اور باطل فرقوں کی تفاسیر اس کا مدوشن مثالیں ہیں۔ یہ لوگ بعض اوقات قرآنی الفاظ کے ظاہری مفہوم کو ترک کر کے ایسے معانی ملا لیتے ہیں جن پر الفاظ کی کسر و ولادت نہیں کرتے مثلاً بعض غالی شیعہ نے قرآن حکیم کے الفاظ *الْجَنَّةِ وَالطَّاغُوتِ* سے حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ مراد لیے ہیں۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

بعض دفعہ کسی لفظ کے ظاہری اور تبادر مفہوم کو نظر انداز کر کے اس سے ایک ایسا مفہوم مراد لیتے ہیں۔ جس میں ناپسندیدہ تکلف ہوتا ہے۔ لہذا اس وقت کرتے ہیں جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ قرآنی الفاظ ان کے باطل نظریات سے جھکاتے ہیں۔ مثلاً:

دُجُوًا يَوْمَئِذٍ نَّاصِرًا لِّأُولِي دَبَابِهَا
نَارِطًا ۝۶۰

کچھ چیز سے اس روز تروتازہ ہوں گے
اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

(التیازہ - ۶۰-۶۱)

بعض معتزلہ کا قول ہے کہ لفظ *الٰہی* اس آیت میں *الاولیاء* کا واحد ہے۔ اور اس کے معنی نعمت کے ہیں۔ بنا بریں اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے معتزلہ کو یہ تکلف اس لیے کرنا پڑا کہ آیت سے جس روایت خداوندی کا اثبات ہوتا ہے۔ وہ نہ ہونے پائے۔

(اطل سید الرضی ج ۱ ص ۲۸)

تفسیر ماثور و تفسیر بالرأی میں تعارض : ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ تفسیر بالرأی کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) ایک قسم مذہب اور نام قابل قبول ہے۔ (۲) دوسری قسم ممدوح و مقبول ہے۔

جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے۔ اس میں اور تفسیر ماثور میں کسی تعارض کا امکان نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر بالرأی کی یہ قسم تفسیر کے صحیح مفہوم سے خارج ہے اور اس کو تفسیر کا نام دینا درست نہیں۔

باقی رہی تفسیر بالرأی کی دوسری قسم جو مقبول ہے تو اس کے اور تفسیر ماثور کے طوین تعارض و تخالف پایا جاسکتا ہے۔ اور اسی کا ذکر بیان یہاں مقصود ہے۔

یہاں پیش نظر رہے کہ عقلی تفسیر اور تفسیر ماثور میں جو تعارض پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مقابل ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ مثلاً ایک سے اگر کسی بات

کا اثبات ہوتا ہے تو دوسرا اس کی نفی کرتا ہے۔ اور اس طرح کسی حالت میں بھی ان کا اجتماع ممکن نہیں جب دونوں میں مغایرت پائی جاتی ہو مگر منافات نہ ہو اور دونوں کا جمع ممکن ہو تو اس کو تعارض نہیں کہتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ "الصلوات المستقیم" کی تفسیر قرآن کریم، اسلام، طریق عبودیت اور اطاعت خدا و رسول سے کی جاتی ہے۔ یہ سب معانی اگرچہ باہم الگ الگ ہیں مگر ایک دوسرے کے شافی اور معارض نہیں۔ اس لیے کہ دین اسلام کا جو طریق ہے وہی قرآن کا بھی ہے۔ طریق عبودیت اور اطاعت خدا و رسول بھی یہی ہے۔ اس لیے اس تفسیر میں کوئی تعارض و تعارض نہیں پایا جاتا۔

- عقلی تفسیر اور تفسیر ماثور میں جو تعارض پایا جاسکتا ہے اس کی مقلد مندرجہ ذیل صورتیں ممکن ہیں:-
- ۱- جب کہ تفسیر عقلی و نقلی دونوں قطعی ہوں۔
 - ۲- جب کہ ایک قطعی اور دوسری نقلی ہو۔
 - ۳- جب کہ دونوں نقلی ہوں۔

جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے وہ فرضی ہے اور اس کا پایا جانا ممکن نہیں۔ اس لیے کہ قطعیت میں سرے سے تعارض کا کوئی امکان ہی نہیں۔ مزید برآں عقل و شریعت میں بھی تناقض نہیں پایا جاسکتا۔

دوسری صورت میں ہر قطعی ہے وہ نقلی سے مقدم ہوگی۔ اس لیے کہ قطعی نقلی کے مقابلہ میں ازجہ و اقویٰ ہوتی ہے۔ جہاں تک تیسری صورت کا تعلق ہے۔ اگر تفسیر عقلی و نقلی میں جمع و تطبیق ممکن ہو تو قرآنی الفاظ کو اس پر محمول کیا جائے گا۔ اور اگر تطبیق کا کوئی امکان نہ ہو تو تفسیر منقول کو ترجیح دی جائے گی۔ بشرطیکہ بروایت صحیحہ ثابت ہو۔ اسی طرح صحابہ کے تفسیری اقوال کو بھی ترجیح دی جائے گی۔ اس لیے کہ ہر سکتا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ ہوں۔ مزید یہاں اس لیے کہ صحابہ قرآن کا صحیح فہم رکھتے تھے۔ اعمال صالحہ کی دولت سے ملامت اور نزول قرآن کے چشم دید گواہ تھے۔

باقی رہے اقوال تابعین تو اس میں حسب ذیل تفصیل کو ہمیشہ نظر رکھا جائے۔

- ۱- اگر تابعی اہل کتاب سے نقل و روایت میں معروف ہو تو عقلی تفسیر کو ترجیح دی جائے گی۔
- ۲- اور اگر اہل کتاب سے استفادہ میں مشہور نہ ہو اور اس کی روایت عقلی تفسیر سے متصادم ہو تو اس صورت میں ترجیح کی جانب رجوع کیا جائے گا۔

۳- اگر عقلی تفسیر اور تفسیر ماثور میں سے کسی ایک کی تائید سمعی دلیل یا استدلال سے ہوتی ہو تو اس

کو دوسری تفسیر کے مقابلہ میں ترجیح دی جائے گی۔

۴۔ اگر دلائل دشواہد باہم متعارض ہوں تو دونوں کے قبول کرنے میں توقت سے کام لیا جائے گا۔ ہم مراد و بانی پر ایمان لائیں گے۔ مگر اس کی تعین سے اجتناب کریں گے۔ اور اس کی حیثیت اس مجمل اور متشابہ حکم کی ہوگی جس کی ابھی تفصیل و توضیح نہ کی گئی ہو۔

برکیف یہ ہیں تفسیر عقلی کی دونوں اقسام اذعان کے بارے میں علماء کے افکار و نظریات! اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تفسیر بالاسی کی جو قسم جائز اور مقبول ہے اس کے پیش نظر کون سی معروف و مشہور کتب تفسیر مرتب ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے مختصر سوانح اور ان کی مرتبہ کتب تفسیر کے اعزاز و اسلوب پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ مختلف اسلامی فرقوں نے تفسیر قرآن سے متعلق کون سا موقف اختیار کیا اور ان کی مشہور ترین کتب تفسیر کون سی ہیں کہ قرآن کے اسلامی نظام کے رائے مذہب کی ذیل میں آتی ہیں اور اس کے دائرہ سے کسی طرح بھی خارج نہیں ہو سکتیں۔



فصل سوم

اہم کتب تفسیر بالرائی الجاز

عصر تدوین کا آغاز قبل ازیں ہو چکا ہے۔ چنانچہ دیگر علوم کے پہلو پہ پہلو یہ علم بھی تدوین سے آراستہ ہوا۔ مفسرین نے حسب اختلاف مذاہب و مسالک مختلف اسالیب و اطوار کے مطابق کتب تفسیر مرتب کیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تفسیر بالرائی کی جو قسم جائز اور مقبول ہے اس کے مطابق بکثرت تفاسیر معرض ظہور میں آئیں۔ پھر اگلے تدریجی ادوار میں اس پر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق ہر دور میں نئی نئی کتب تفسیر منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوتی رہیں یہاں تک کہ اسلامی مکتبہ کثیر کتب تفسیر سے بھر پور اور مہمور ہو گیا۔

لیکن سوال یہ ہے کہ آیا اسلامی مکتبہ نے ان تمام کتب تفسیر کو محفوظ رکھا یا کھو دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو سب کتب خالص ہوئیں اور نہ سب محفوظ رہیں۔ بخلاف ازیں بعض کتب جن کی توں محفوظ رہیں اور بعض گردش ایام کے باعث صفر گشتی سے مٹ گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ تاریخی مواد نٹنے کے باعث ہم اس قیمتی و ثمر سے پوری طرح باخبر نہ ہو سکے۔ یوں بھی تمام باقی ماندہ کتب تفسیر کا تفصیلی درس و مطالعہ اودان تمام کے بارے میں معلومات کی فراہمی ہماری استطاعت کی حدود سے خارج ہے۔ اس لیے ہم بعض کتب پر تفصیلی تنقید و تبصرہ پر اکتفا کریں گے۔

یہ امر پیش نظر رہے کہ جن کتب کو نقد و جرح کے لیے منتخب کیا گیا ہے ان میں سے ہر کتاب ایک مخصوص رجحان کی نمائندگی کرتی ہے اور اس پر تفسیر کا ایک خاص رنگ غالب ہے۔ مثلاً بعض پر علم نحو کا رنگ نمایاں ہے۔ بعض فلسفہ و علم الکلام کا شاہکار ہیں۔ بعض میں واقعات اور اسرائیلیات کی بھرمار ہے مگر یہ جملہ کتب تفسیر بالرائی کی اس قسم سے تعلق رکھتی ہیں جو جائز اور قابل قبول ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مختلف رجحانات و میلانات پر مشتمل کتب تفسیر کو اس انتخاب میں سمویا گیا ہے۔

نقد و تبصرہ کے لیے جن کتب کو چنا گیا ہے۔ وہ حسب ذیل ہیں:

- ۱- مفاتیح الغیب فخر الدین رازی۔
- ۲- انوار التنزیل بیضاوی۔
- ۳- مدارک التنزیل و حقائق التأویل امام نسفی۔
- ۴- کباب التأویل فی معانی التنزیل خازن۔
- ۵- البحر المحیط البرتبیان۔
- ۶- غرائب القرآن و رغائب الفرقان نسیا بوری۔
- ۷- تفسیر الجلالین از جلال المحلی و الجلال السیوطی۔
- ۸- السراج المنیر للخطیب الشربینی۔
- ۹- ارشاد العقل السلیم از ابوالسعود۔
- ۱۰- رُوح المعانی از آلوسی۔

ذیل میں باری باری مندرجہ صدر کتب پر تبصرہ کیا جائے گا۔

۱- مفاتیح الغیب امام رازی

سیر و سوانح: اسم گرامی محمد بن عمر بن حسین کنیت ابو عبد اللہ نسبت رازی اور لقب فخر الدین ہے آپ امین الخطیب شافعی کے نام سے معروف تھے ۵۴۳ھ کو پیدا ہوئے۔ آپ یگانہ روزگار عالم متکلم زمان اور جامع العلوم تھے۔ آپ علم تفسیر علم کلام علوم عقلیہ اور علم لغت میں امامت کے درجہ پر فائز تھے۔ طلبہ و علماء دور دراز دیار و اصمار سے سفر کر کے آتے اور آپ سے استفادہ کرتے۔

امام رازی نے اپنے والد محترم ضیاء الدین سے کسب فیض کیا جو خطیب رنے کے لقب سے معروف تھے۔ علاوہ انہیں آپ نے کمال سماعی المجد جمیلی اور بکثرت محاصر علماء سے استفادہ کیا۔ علمی شہرت کے علاوہ آپ بہترین واعظ بھی تھے۔ آپ عربی و فارسی کے لائٹانی خطیب تھے۔ و غلطی حالت میں آپ پر وجہ کی کیفیت طاری ہو جاتی اور اکثر رونے لگتے۔

آپ نے مختلف و متعدد علوم میں لازوال تصانیف کا ایک ذخیرہ باقی چھوڑا۔ یہ تصانیف تمام بلاد و دیار میں پھیل گئیں۔ لوگ ان کی تصانیف سے استفادہ کرنے لگے اور متقدمین کی کتب کو نظر انداز کر دیا۔

ان کا ہاتھ تصانیف مندرجہ ذیل میں:

۱۔ مفتاح الغیب (یہ تفسیر کبیر کے نام سے معروف ہے)۔

۲۔ تفسیر سورہ فاتحہ۔ (تفسیر کبیر کی جلد اولیٰ یہی ہے)۔

۳۔ المطالب العالیہ (علم الکلام میں)

۴۔ کتاب البیان والبرہان۔

۵۔ المحصول فی اصول الفقہ۔

۶۔ المنخص (علم فلسفہ میں)

۷۔ شرح اشارات البرہانی سینا۔

۸۔ شرح عیون الحکمتہ۔

۹۔ السرا المکنون

۱۰۔ شرح المفصل۔

۱۱۔ شرح البرجیز فی الفقہ للغزالی۔

و دیگر تصانیف۔

امام رازی رے کے شہر میں ۶۶۷ھ میں وفات پائی۔ سبب وفات یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرقہ کرامیہ اور آپ کے درمیان عرصہ سے نزاع و جھگڑا پاتھی۔ آپ ان کو برا بھلا کہتے اور تکفیر کرتے اور وہ آپ کی توہین کرتے۔ چنانچہ انہوں نے زہر دے کر آپ سے نجات حاصل کی۔

(وفیات الامیاء ج ۲ ص ۲۶۵ و شذرات الذهب ج ۵ ص ۲۱)

تعارف تفسیر: یہ تفسیر پہلے آٹھ ضخیم جلدات میں تھی۔ حال ہی میں یہ کتاب نہایت حسین طباعت سے آراستہ پیراستہ مصر کے مطبع البیہ سے تیس جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ ابن قاضی شہبہ کہتے ہیں کہ امام رازی اس تفسیر کو مکمل نہ کر سکے۔ ابن خلدکان نے بھی اس کی تائید کی ہے۔

(وفیات الامیاء ج ۲ ص ۲۶۷)

یہ سوال کہ تفسیر کبیر کو کس نے مکمل کیا؟ نیز یہ کہ جناب امام کس مقام پر تک یہ تفسیر لکھ پائے؟ اس کا قلمی و شافی جواب دینا آسان نہیں۔ اس لیے کہ اس ضمن میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”تفسیر کبیرہ کو احمد بن محمد بن ابوالحزم کئی نجم الدین مخزومی مصری متوفی ۷۲۷ھ نے مکمل کیا۔“

(المدار الکامنتہ ج ۱ ص ۳۰۴)

ساجی خلیفہ لکھتے ہیں:

”شیخ نجم الدین احمد بن محمد متوفی ۷۲۷ھ نے تفسیر کبیرہ کا تکرار لکھا۔ جو حصہ ناقص تھا اس

کی تکمیل شباب الدین بن خلیل دمشقی متوفی ۷۳۹ھ نے کی۔“

(کشف الظنون ج ۲ ص ۲۹۹)

حافظ ابن حجر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر کبیرہ کی تکمیل شیخ نجم الدین نے کی۔ مگر صاحب کشف الظنون کے قول کے مطابق شیخ نجم الدین اس کو مکمل نہ کر سکے اور باقی ماندہ حصہ شباب الدین دمشقی نے تحریر کیا۔ تاہم اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ امام رازی اس کی تکمیل نہ کر پائے۔

اسی طرح یہ بات بھی متنازع فیہ ہے کہ جناب امام یہ تفسیر کس سورت تک لکھ سکے؛ حاشیہ کشف الظنون پر مرقوم ہے کہ سیدم تفسیر نے شباب خفاجی کی شرح شفا کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام رازی نے یہ تفسیر سورہ انبیاء تک تحریر کی۔

(کشف الظنون ج ۲ ص ۲۹۹)

یہ بات اقرب الی العوالب نظر آتی ہے کہ امام رازی نے یہ تفسیر سورہ انبیاء تک تحریر کی۔ بعد ازاں شباب الدین دمشقی نے اس کا تکرار لکھا شروع کیا مگر اس کی تکمیل نہ کر سکے۔ پھر شیخ نجم الدین نے باقی ماندہ حصہ کو مکمل کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شباب الدین دمشقی نے پورا تکرار کیا ہو۔ شیخ نجم الدین نے ایک اور تکرار لکھا۔ جو شباب الدین کے تکرار سے الگ ہے۔ کشف الظنون کی عبارت سے یہی مفہوم ہوتا ہے۔

حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تفسیر زیر تبصرہ کا قاری قطعاً یہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ ایک شخص کی تصنیف ہے یا اس کے لکھنے والے ایک سے زیادہ ہیں۔ پوری کتاب میں اسلوب نگارش سرسبز مدونے نہیں پایا۔ اس لیے کوئی شخص اس بات کی نشاندہی نہیں کر سکتا کہ جناب امام نے کہاں تک لکھا اور صاحب تکرار کی تحریر کہاں سے شروع ہوئی۔ پوری کتاب اتحاد و یگانگت کا نادر مجموعہ ہے۔ اس کتاب کو علامہ کے حلقہ میں حدود شہرت و قبولیت حاصل ہوئی۔ اور اس کی وجہ اس کے شعور علمی مباحث میں جو مختلف النوع علوم و فنون سے متعلق ہیں۔ اسی بنا پر ابن خولکان لکھتے ہیں:

”امام رازی نے اس تفسیر میں ہر انوکھی بات کیجا کر دی ہے“

(دقیات الامیان ج ۲ ص ۲۶۶)

ربط آیات و سُور : تفسیر کبیر کے مطالعہ سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ امام رازی اس بات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں کہ آیات میں باہم کیا ربط و تعلق پایا جاتا ہے۔ نیز یہ کہ ایک سورت کے نقطہ اہتمام کی دوسری سورت کے آغاز کے ساتھ کیا مناسبت ہے۔ بعض اوقات وہ ایک مناسبت کے بیان کرنے پر اکتفا نہیں کرتے۔ بلکہ متعدد مناسبات ذکر کرتے ہیں۔

ریاضی و فلسفہ : امام رازی ریاضی۔ علوم طبیعی اور دیگر علوم جدیدہ کا بھی اکثر ذکر کرتے ہیں مثلاً علم الافلاک کا ذکر اکثر ان کے یہاں ملتا ہے۔ وہ فلاسفہ کے اقوال بیان کر کے ان پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ اگرچہ النبیات کے مباحث کے دوران وہ خود بھی فلاسفہ کی طرح عقلی استدلال سے کام لیتے ہیں۔ مگر ان کا استدلال مسلک اہل سنت سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔

امام رازی اور معتزلہ : امام رازی کثرتاً ہی میں اور اہل سنت کے سے انکار و عقائد رکھتے ہیں وہ اکثر معتزلہ کے اقوال ذکر کر کے ان پر شدید نقد و جرح کرتے ہیں۔ مگر بعض علماء داس کو کڑوہ تنقید پر محمول کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر مقلانی فرماتے ہیں :

”امام رازی پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ مخالفین کے شدید اعتراضات نقل کرتے ہیں مگر ان کا شافی جواب نہیں دیتے“

- ایک مغربی عالم کا قول ہے کہ :

”امام رازی کا دار و کردہ اعتراض نقد ہوتا ہے۔ مگر جو جواب پیش کرتے ہیں۔ وہ

ادھار ہوتا ہے“

نجم الدین الطونانی اپنی کتاب کسیر فی علم التفسیر میں لکھتے ہیں :

”میں نے قرطبی اور رازی کی تفسیر سے بڑھ کر تفسیری اقوال کی جامع کوئی کتاب نہیں

دیکھی۔ مگر امام رازی کی تفسیر میوب و لقاٹس کا مجموعہ ہے۔“

مجھے شرف الدین نصیبی نے اپنے استاد سراج الدین مغربی سے سُن کر بتایا کہ انہوں نے کتاب اللہ

نامی کتاب دو جلدوں میں تصنیف کی ہے جس میں امام رازی کی تفسیر پر تنقید کی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ امام رازی مخالفین اسلام کے اعتراضات بڑی تحقیق کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ بخلاف ازیں اہل سنت کی نمایندگی نہایت کمزور الفاظ میں کرتے ہیں۔

نجم الدین الطوفانی لکھتے ہیں کہ علم الکلام سے متعلق تصانیف میں بھی امام رازی کا طرز و انداز یہی ہے۔ بنا بریں بعض لوگوں نے امام رازی پر میر الزمام عائد کیا ہے کہ آپ کے عقائد درست نہ تھے مگر اس کی حقیقت ایک اتہام سے زیادہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ کوئی اور عقیدہ رکھتے ہوتے تو کسی سے ڈر کر اسے ہرگز نہ چھپاتے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب امام مخالف کے اقوال کی نقل و روایت میں سامان و ر بیان صرف کر دیتے۔ جب اپنی دلیل ذکر کرنے کی نوبت آتی تو ساری قوت ختم ہو چکی ہوتی۔ امام رازی نے اپنی کتاب نہایت العقول کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ:

وہ وہ مخالف کے مذہب و مسلک کو ایسے زوردار الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ اگر وہ

خود بھی چاہے تو اس پر اٹھنا نہ کر سکے: (لسان المیزان ج ۲ ص ۲۲۷)

علوم فقہ و اصول نحو و بلاغت: آیات الاسکام کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی فقہاء کے مذاہب بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی کے مسلک کی تائید و حمایت میں بکثرت براہین و دلائل ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علم الاصول نحو اور بلاغت سے متعلق مسائل بھی ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اتنے زیادہ نہیں جوتے جس قدر ریاضی کے مسائل۔

خلاصہ یہ کہ امام رازی کی تفسیر علم الکلام اور علوم کوزیہ و طبیعیہ کی انسائیکلو پیڈیا معلوم ہوتی ہے۔ کتاب کا یہ پہلو اس قدر نمایاں ہے کہ اس نے اس کی تفسیری اہمیت کو بڑی حد تک کم کر دیا ہے۔ حاجی خلیفہ رقمطراز ہیں:

و امام رازی نے اپنی تفسیر کو حکماء و فلاسفہ کے اقوال کا پلندہ بنا دیا ہے۔ وہ تفسیر سے اس قدر دور نکل گئے کہ قاری اس کو دیکھ کر در مظہیرت میں ڈوب جاتا ہے۔

(کشف الظنون ج ۱ ص ۲۳۰)

الرحیان لکھتے ہیں:

امام رازی نے اپنی تفسیر میں بے شمار ضروری باتوں کو کھینچا کر دیا ہے۔ اس لیے

بعض علماء نے کہا ہے کہ تفسیر کبیر میں تفسیر کے سوا اور سب کچھ ہے۔“

(کشف الظنون ج ۱ ص ۲۳۰)

حقیقت یہ ہے کہ امام رازی اپنی تفسیر کو گنجدہ معلومات بنا نا چاہتے تھے۔ جس بات کا آیت زیر تفسیر کے ساتھ ذرا بھی ربط و تعلق ہو تا وہ تحریر کر دیتے۔ تفسیر کبیر کا مقصد دیکھنے سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے۔

امام رازی اپنی تفسیر کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

۰۰ ایک دفعہ میری زبان سے یہ بات نکل گئی کہ سورۃ فاتحہ کے فوائد و نکات سے دس ہزار مسائل نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک جاہل حاسد نے اس کو مبالغہ اور لاف زنی پر محمول کیا اور یوں سمجھا کہ جاہلوں کی طرح یہ بھی ایک گپ ہے۔ جب میں نے تفسیر کبیر کا آغاز کیا۔ تو یہ مقدمہ اس لیے لکھا تا کہ ثابت ہو سکے کہ جو بات میں نے کہی تھی ممکنات میں سے ہے۔
(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۴)

۲۔ انوار التنزیل و اسرار التاویل از بیضاوی

تعارف مؤلف: نام نامی عبداللہ بن عمر بن محمد کنیت ابو الخیر لقب ناصر الدین اور نسبت بیضاوی ہے۔ آپ شافعی المسلک تھے۔ اور قاضی القضاة (چیف جسٹس) کے منصب پر فائز تھے۔
ابن قاضی شہید طبقات میں لکھتے ہیں:

”بیضاوی کثیر التصانیف اور آذربائجان کے علاقہ کے عظیم ترین عالم تھے۔ آپ کو شیراز کا قاضی مقرر کیا گیا تھا“

امام نسکی فرماتے ہیں:

”بیضاوی ایک عظیم امام ہریت بڑے مناظر عابد و زاہد اور شب زندہ دار تھے“

ابن حبیب لکھتے ہیں:

”سب علماء بیضاوی کی تصانیف کے شناخاں ہیں۔ اور اگر آپ نے اطمینان کے

سوا اود کوئی کتاب بھی تحریر نہ کی ہوتی تو وہی کافی تھی۔ آپ شیراز کے قاضی تھے۔ آپ نے بقول امام شافعیؒ ۶۹۱ھ میں اور ابن کثیر کے نزدیک ۶۸۵ھ میں بمقام تبریز وفات پائی؛ آپ کی مشہور ترین تصانیف سب ذیل ہیں؛

- ۱۔ کتاب المناجیح و شرحہ فی اصول الفقہ۔
- ۲۔ کتاب الطوابع فی اصول الدین۔
- ۳۔ انوار التنزیل و اسرار التاویل فی التفسیر۔

یہ ہر کتاب معروف اور علماء میں متداول ہیں۔

قاضی بیضاوی کے تفصیلی ترجمہ کے لیے مندرجہ ذیل کتب ملاحظہ فرمائیں۔

(نذرات الذہب ج ۵ ص ۳۹۲۔ طبقات المفسرین داؤدی ص ۱۰۲۔ طبقات الشافعیہ ج ۵ ص ۵۹)

تعارف تفسیر: علامہ بیضاوی کی تفسیر متوسط الحجم اور تفسیر و تاویل دونوں کی جامع ہے۔ یہ عربی زبان کے قواعد اور اہل سنت کے اصول و ضوابط پر مشتمل ہے۔ اگرچہ بعض اوقات وہ صاحب کشف کے معتزلی عقائد سے بھی متاثر نظر آتے ہیں۔

جس طرح صاحب کشف ہر سورت کے آخر میں ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جس سے سورت متعلقہ کی عظمت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح بیضاوی نے بھی اس ضمن میں ان کی تعلید کی ہے۔ حالانکہ یہ احادیث بالفاق مجتہدین موضوع ہیں۔ قادی یہ دیکھ کر درمہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ بیضاوی جیسا صاحب علم و فضل شخص صرف زعفرانی کی اندھا دھند پیروی میں ان احادیث کو نقل کرتا چلا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے بیضاوی کے اس طرز عمل کی وجہ جو از بیان کی ہے۔ وہ حدودیہ کہہ کر اور ناقابل قبول ہے۔

بیضاوی نے امام رازی کی تفسیر کبیر اور راجب اصفہانی کی تفسیر سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر اس پر صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار کا اضافہ کیا اور عقل خدا داد کی مدد سے طبع زلذکات و لطائف شامل کیے۔ امام بیضاوی کا اسلوب نگارش بڑا دلکش اور مجاز و بے توجہ ہے۔ بعض جگہ ان کی حدیث مد درجہ دقیق و عمیق ہے۔ جس کی نواقصی ایک ذہین و فطین آدمی ہی کر سکتا ہے۔ بعض اوقات وہ مختلف قراءتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ مگر قراءت تو آترہ ہی کا التزام نہیں کرتے۔ بلکہ قراءت شاذہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔

قاضی موصوف نخری مسائل سے بھی تعرض کرتے ہیں۔ مگر بہت کم۔ آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے فقہی مسائل کی تفصیلات بیان کرتے ہیں مگر اس سے زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ فقہی مسائل کے تذکرہ کے دوران وہ امام شافعی کے مسلک کی تائید میں دلائل و براہین ذکر کرتے ہیں جس آیت کا تعلق اہل السنۃ اور معتزلہ کے نزاعی مسائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں قاضی صاحب دونوں کا موقف بیان کرتے ہیں:

قرآن کریم میں فرمایا:

الَّذِينَ يَكُونُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
النَّصَلَةَ - کی پابندی کرتے ہیں۔ (البقرہ - ۲)

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیضاوی اہل السنۃ معتزلہ اور نزار رج کے اقوال کے مطابق ایمان اور لیاق کا مفہوم بیان کرتے اور اہل السنۃ کے نظریہ کو ترجیح دیتے ہیں۔

(تفسیر بیضاوی ج ۱ ص ۵۳)

اسی طرح آیت کریمہ **وَمَا كَذَّبْنَاهُمْ لِيُنْفِقُوا** کی تفسیر کے دوران قاضی بیضاوی اہل السنۃ اور معتزلہ کے اس اختلاف پر روشنی ڈالتے ہیں کہ "رزق" کا مفہوم کیا ہے۔ پھر ذیقین کے دلائل ذکر کر کے اہل السنۃ کے مسلک کو فوقیت دیتے ہیں۔

(بیضاوی ج ۱ ص ۵۸)

بیضاوی اسرائیلیات کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ اسرائیلی واقعہ بیان بھی کرتے ہیں تو "رَوَى وَقِيلَ" (یوں روایت کیا گیا اور اس طرح کہا گیا) کہ اس کے ضعف کی جانب اشارہ کر دیتے ہیں۔ جن آیات میں خلکیات اور امور طبعیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی تفسیر کرتے ہوئے بیضاوی ان مسائل میں غور نہیں کرتے ہیں۔ غالباً یہ بات انہوں نے تفسیر کبیر سے اخذ کی ہے۔ مثلاً **فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ تَارِقٌ** - اس کے پیچھے شہاب تاقب کو لگا دیتے

ہیں۔ (الصافات - ۱۰)

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے قاضی بیضاوی فرماتے ہیں:

وہ آسمان میں جو ستارہ ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ شہاب ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہاب اُس بخار کا نام ہے جو اوپر کر پڑھتا ہے اور چلنے لگتا ہے تو وہ محض قیاس آرائی پر مبنی ہے۔ اگر اس کو صحیح قرار دیا جائے تو بھی ہمارے

(بیضاوی ج ۵ ص ۳)

نظریہ کے خلاف نہیں؟

جلال الدین سیوطی تفسیر بیضاوی کے حاشیہ ”لواہد الابرار و شوار الافکار“ میں لکھتے ہیں:
 ”قاضی ناصر الدین بیضاوی نے تفسیر کثاف کا بہت عمدہ خلاصہ تیار کیا اور معتزلی
 نظریات کو چھانٹ دیا ہے۔ اب یہ تفسیر آج بزرگ کی طرح تابندہ و درخشندہ اور
 آفتاب نصف النہار کی طرح معروف و مشہور ہے۔ لوگوں نے اس کو مرکزِ توجہ
 بنالیا ہے اور شناخاں اس کی مدح و توصیف میں رطب اللسان ہیں۔ علماء اس
 کے درس و مطالعہ میں منہمک ہیں۔ اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ قبول کرتے
 ہیں۔ (المدخل المفید شرح مخلوف ص ۴۱)

صاحب کثاف الظنون لکھتے ہیں:

تفسیر بیضاوی مدح و توصیف سے بالا اور عظیم الشان کتاب ہے۔ اس میں جو مباحث
 اعراب اور معانی و بیان سے متعلق ہیں۔ وہ تفسیر کثاف ہے مانور ہیں۔ حکمت و کلام
 سے وابستہ معلومات تفسیر کبیر سے لیے گئے ہیں۔ اشتقاق سے متعلق مسائل راجح
 اصفہانی کی تفسیر سے متفاو ہیں۔ جو نکات و دقائق بیضاوی نے اپنی فکر رسا سے
 اختراع کیے ہیں وہ اس پر مزید ہیں۔ چونکہ بیضاوی بجز عالم تھے۔ اس لیے آپ
 نے جملہ علوم و فنون میں شہسواری کے جوہر دکھائے ہیں۔ وہ کہیں تو حسین و جمیل
 اشارات و استعارات کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اور کہیں معقولات کے اسرار و رموز
 کی پردہ درہا کرتے ہیں۔

جرمان تک ان احادیث کا تعلق ہے جو سورتوں کے آخر میں مذکور ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ
 چونکہ آپ مخلص انسان تھے۔ اور لوگوں کے دل میں قرآن کریم کے ذوق و شوق کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے
 تھے۔ اس لیے آپ نے چشم پوشی سے کام لیا اور یہ جانتے ہوئے جرح و تعدیل سے اعراض کیا کہ یہ
 احادیث صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتیں۔

خداوند کریم نے اس کتاب کو حسین قبول سے نوازا اور علماء نے اس کو اپنی توجہات کا مرکز
 قرار دیا۔ چنانچہ بعض علماء نے صرف اس کی ایک سعادت پر حاشیہ تحریر کیا۔ بعض نے کامل کتاب پر

حواشی تحریر کیے اور بعض نے اس کے کچھ حصہ پر۔ اس کے حواشی کی تعداد چالیس سے زائد ہے۔ مشہور اور مفید ترین حواشی صرف تین ہیں۔

۱۔ حاشیہ قاضی زادہ (جس کو شیخ زادہ بھی کہا جاتا ہے)

۲۔ حاشیہ شباب بخاری۔

(کشف الظنون ج ۱ ص ۱۲۷)

۳۔ حاشیہ القنوی۔

خلاصہ کلام تفسیر بیضاوی کو احباب کتبت تفسیر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص قرآن حکیم کے مطالب و معانی اور اس کے اسرار و رموز سے آگاہ ہونا چاہتا ہے وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ تفسیر معروف و متداول اور ہر جگہ دستیاب ہے۔

۳۔ مدارک التنزیل وحقائق التاویل از نسفی ج

تعارف مؤلف : اسم گرامی عبداللہ بن احمد بن محمود اور کنیت ابوالبرکات ہے۔ نسبت نسفی ہے۔ نسف ماوراء النہر میں ایک شہر کا نام ہے۔ آپ بڑے عابد و زاهد اور ائمہ معتبرین میں سے تھے۔ مسلک حنفی تھے۔ حدیث نبوی اور فقہ و اصول کے یگانہ روزگار امام تھے۔ کتاب اللہ کے زبردست مفسر تھے۔ آپ کی مندرجہ ذیل تصانیف بہت مشہور ہیں:

۱۔ تمن الوافی فی الفروع۔

۲۔ الکافی شرح الوافی۔

۳۔ کنز الدقائق فی الفقہ۔

۴۔ المنار فی اصول الفقہ۔

۵۔ العمده فی اصول الدین۔

۶۔ مدارک التنزیل وحقائق التاویل۔

دیگر تصانیف جو علماء میں معروف و متداول ہیں۔ آپ نے جن مشائخ عصر سے استفادہ کیا ان میں شمس الائمہ کردی اور احمد بن محمد قتانی جیسے اکابر کے اسما شامل ہیں۔ آپ نے شرح میں

دانات پائی اور علامہ گزستان کے مقام آید ج میں مدفون ہوئے۔ آپ کے تفصیلی تعارف کے لیے ملاحظہ فرمائیے۔ (الدرر الکامنہ، ج ۲، ص ۲۳۷۔ الفوائد المبتیہ فی تراجم الحنفیہ، ص ۱۲)

تعارف تفسیر:

امام نسفی نے اس کتاب کو تفسیر میضادی اور کشاف سے اخذ کیا۔ البتہ کشاف میں جو معتزلی عقائد مرقوم تھے ان سے احتراز کیا، اور مسلک اہل سنت پر کاسزن رہے۔ یہ ایک متوسط القامت تفسیر ہے نہ بہت طویل اور نہ زیادہ مختصر، مؤلف نے اس میں وجوہ اعراب اور مختلف قسم کی قراءتوں کو یکجا کر دیا ہے تفسیر کشافات میں جو بلاغی نکات اور محسنات بدیعیہ تھے ان کو اس تفسیر میں سمویا گیا ہے۔ سورتوں کے فضائل کے سلسلہ میں جو احادیث موضوعہ کشاف میں مذکور ہیں وہ اس میں مندرج نہیں۔ بقول حاجی خلیفہ شیخ زین الدین ابو محمد عبدالرحمان بن ابوبکر بن العینی نے تفسیر مدارک کا ایک اختصار لکھا ہے اور اس پر اضافہ بھی کیے ہیں۔ مگر یہ دستیاب نہیں ہو سکا تا کہ اس پر تبصرہ کیا جاسکتا۔

اس کی عبارت مختصر اور سلیس ہے۔ یہ تفسیر کشاف کے محاسن کی جامع اور اس کے نقائص سے پاک ہے۔ اس میں تفسیر میضادی سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ بلکہ مفسر نسفی بعض جاہ میضادی کی عبارت بلا رد و بدل یا ادنی تغیر نقل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ النجم کی تفسیر میضادی نسفی دونوں میں ملاحظہ کر کے اندازہ لگائیے کہ ان کی عبارت باہم کس حد تک ملتی جلتی ہے۔

علوم نحو و فقہ و قراءات:

تفسیر زیر تبصرہ میں اعراب و قراءات کے مختلف وجوہ و اقسام پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ تاہم اس میں نحوی مباحث دیگر تفاسیر کے مقابلہ میں کم ہیں۔ صاحب مدارک قراءات سبعہ کا ذکر کر کے ہر قراءت کو اس کے قاری کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے آیت سے متعلق فقہی مذاہب و مسلک بیان کرتے ہیں۔ امام نسفی بڑی سرگرمی سے حنفی مسلک کی حمایت کرتے اور دوسرے مسلک کی پرورد تردید کرتے ہیں۔ اس کی مثال مندرجہ ذیل آیات کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے:

وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَقَّبْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوبٍ (البقرہ ۲۲۸)

(تفسیر مدارک، ج ۱، ص ۸۹)

وَرَأَىٰ طَلْقًا مَّوْهُنًا مِّنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ حَرَضْتُمْ (البقرہ ۲۳۷)

(تفسیر مدارک، ج ۱، ص ۸۹)

اسرائیلیات : ۰

تفسیر مدارک کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اسرائیلیات کا ذکر بہت کم کیا گیا ہے۔ امام نسفی جہاں کوئی اسرائیلی روایت کرتے ہیں وہاں ہر جگہ اس پر نقد و جرح نہیں کرتے۔ بحالات ازیں بعض جگہ تبصرہ کرتے ہیں اور بعض جگہ یوں ہی آگے گزر جاتے ہیں۔ مثلاً آیت قرآنی :

وَرَبِّكَ سُبْحَانَ دَاوُدَ ذَا ذَا قَالِ يَا
سُلَيْمَانَ دَاوُدَ كَيْ دَارْتِ هُوَ عَ اور کہا لوگو !
أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطَقَ الطَّيْرِ
ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے۔

(العنق - ۱۴)

اس آیت کی تفسیر میں امام نسفی نے ایک اسرائیلی روایت ذکر کی ہے۔ جس میں مختلف پرندوں کا ذکر کر کے بقول حضرت سلیمانؑ بتایا ہے کہ فلاں پرندہ یوں کہتا ہے اور فلاں یوں۔ اور اس پر کوئی جرح نہیں کی۔

قرآن کریم میں فرمایا :

« هَلْ آتَاكَ نَبِيًّا الْخَصْمُ إِذْ تَسْوَرُودُ
الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ
فَقَزِزَ مِنْهُمْ»
کیا آپ کے پاس دشمنوں کی خبر آئی ہے جب
وہ دیوار پر چڑھ کر حضرت داؤد کے یہاں پہنچے
تو ان سے گھبرائے۔

(سورہ ص - ۲۱)

اس آیت کی تفسیر میں صاحب مدارک نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی عفت و عمت کے منافی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت داؤد نے ادربانامی شخص کو بار بار جنگ میں بھیجا۔ تاکہ وہ مارا جائے اور آپ اس کی بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیں یہ بات کسی صالح شخص کو بھی زیب نہیں دیتی۔ چرچا تک ایک نبی سے اس کا صدور ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص افسانہ گو لوگوں کی طرح یہ واقعہ بیان کرے گا۔ میں اس کو ایک ستوساٹھ در سے لگاؤں گا۔ انبیاء پر بتان طرازی

کی شرعی حد یہی ہے۔ (مدارک، ج ۲، ص ۲۹)

قرآن حکیم میں ارشاد ہے :

« وَآلَقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا
اور ہم نے اس کی کسی پر ایک جسم ڈال دیا پھر

نُحْدَ أَنْبَابِ - (سورہٴ مومن - ۳۴) وہ جھک گئے۔

اس آیت کی تفسیر میں امام نسفی نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاک دامن سے لگا کھاتی ہیں۔ پھر یہ لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں انگریزی اور شیطان کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ نیز یہ روایت ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان کے گھر میں بُت کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو یہ یہود کے ابا حیل میں سے ہے۔ (مدارک، ج ۴، ص ۳۲)

ہم دیکھتے ہیں کہ سابق الذکر دونوں آیات کی تفسیر میں امام نسفی نے ایسے من گھڑت واقعات کی تردید کی ہے جو انبیاء کی عصمت کے منافی ہیں اور اس طرح سہل انگاری سے کام نہیں لیا جس طرح سابقہ مثالوں میں لیا ہے۔ ہمارے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات میں سے جو عقائد پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، امام نسفی اس کی تردید کرتے ہیں۔ اور جو عقائد پر اثر انداز نہ ہوں ان کو بلا تفسیر ذکر کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں سمجھتے۔ بشرطیکہ اس واقعہ میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہو۔ علاوہ ازیں عقل و شرع سے بھی متصادم نہ ہو۔ بہر کیف یہ کتاب اہل علم کے یہاں معروف و مقبول ہے اور متوسط ضخامت کے چار اجزاء میں چھپی ہوئی ہر جگہ ملتی ہے۔ امام نسفی کی دیگر تصانیف کی طرح لوگوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔

۴۔ بَابُ التَّوْبِيلِ فِي مَعَانِي التَّنْزِيلِ اِرْخَاذِن

تعارف مؤلف :

اسم گرامی علاء الدین ابوالحسن علی بن محمد بن ابراہیم ہے۔ نسبت صوفی اور بغدادی ہے۔ آپ خازن کے نام سے اس لیے معروف تھے کہ دمشق کی ایک خانقاہ کی لائبریری کے انچارج تھے خازن الکتب لائبریرین کہتے ہیں۔ آپ بغداد میں ۶۷۵ھ میں پیدا ہوئے۔ مسلکاً شافعی تھے۔ بغداد ہی میں ابن الدولبی کے سامنے زانوٹے تلمذ کر لیا۔ پھر داروہ دمشق ہو کر قاسم بن مظہر اور وزیرہ بنت عمر سے استفادہ کیا۔ علم سے حد درجہ دلچسپی رکھتے تھے۔

ابن قاضی شہبہ لکھتے ہیں :-

”آپ ایک عظیم عالم اور بہت بڑے مصنف تھے۔ آپ نے اپنی بعض تصانیف تلامذہ کو

پڑھائیں۔ آپ نے مختلف علوم و فنون میں متعدد کتب تصنیف کیں۔ مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں :-

(۱) - باب التاویل فی معانی التنزیل (جو زیر تبصرہ ہے)۔

(۲) - شرح عمدۃ الاحکام۔

(۳) - مقبول المنقول۔ یہ دس ضخیم مجلدات میں ہے۔ اس میں علامہ خازن نے مسند احمد و شافعی صحاح و سنن

موطا اور دارقطنی کو یک جا کر دیا ہے۔ اس کو ابواب کے تحت مرتب کیا ہے۔

(۴) - طویل و ضخیم سیرت النبیؐ۔

صاحب موصوف صوفی منش خوش مزاج اور فہم رکھتے تھے۔ آپ نے بمقام حلب ۴۴ھ

میں ذنات پائی۔ تفصیلی ترجمہ کے لیے دیکھیے :

(الدرر المکامتہ، ج ۳- ۴، ص ۹۴۔ طبقات المفسرین داؤدی، ص ۱۷۸۔

شذرات الذهب، ج ۶- ۷، ص ۱۲۱)

تعارف تفسیر:

اس تفسیر کے مولف نے امام لغوی کی معالم التنزیل سے مختصر کیا۔ اور متقدمین کی تفاسیر سے

اس پر مفید اضافے کیے ہیں۔ اور جیسا کہ مولف نے خود اعتراف کیا ہے انہوں نے اس تفسیر میں صرف

نقل و انتخاب کی زحمت گوارا کی ہے دگر بیچ۔ اسانید کو حذف کر دیا اور بے جا طوالت سے احتراز کیا۔

اسرائیلیات :

تفسیر خازن میں منقول روایات کی بڑی کثرت پائی جاتی ہے۔ اس میں شرعی احکام کے دلائل و براہین

بکثرت مذکور ہیں۔ تفسیر ہذا کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ یہ ایسے اسرائیلی قصص و اخبار سے پر ہے جو علم صحیح و عقل

سلیم کی ترازو میں پورے نہیں اترتے۔ خازن نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں بذات خود اس کی نشان دہی کی

ہے۔ بسا اوقات خازن ایسے واقعات ان کتب تفسیر سے نقل کرتے ہیں جن میں اسرائیلیات کی بھر مار ہے

مثلاً شبلی کی تفسیر اور اس قسم کی دیگر کتب اکثر و بیشتر وہ اسرائیلی روایات پر نقد و جرح نہیں کرتے۔ بہمت

کہ ایسا ہوتا ہے کہ مولف کوئی قصہ نقل کر کے اس کے ضعف و کذب پر روشنی ڈالتے ہیں۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے :

» دَهْلُ آتَاكَ نَبَأُ الْمُخْصِرِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ تَارَاكَ عَادًا تَابًا ..

(سورہ ص - ۲۱ تا ۲۲)

ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے خازن بیان کرتے ہیں کہ ایک شیطان حضرت داؤدؑ کے پاس سونے کی کبوتری کی شکل میں آیا۔ اس کے پر زبرد کے تھے۔ وہ کبوتری اڑ کر آپ کے پاؤں پر بیٹھی اور آپ کو نماز سے غافل کر دیا اسی ضمن میں انہوں نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے جس کو حضرت داؤدؑ نے دیکھا اور اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئے۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت داؤدؑ نے اس کے حامد کو مردا دیا۔ اور اس قسم کے دیگر عجیب و غریب واقعات۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مستقل فصل میں ایسے تمام واقعات کا ابطال کیا ہے جن سے حضرت داؤدؑ کی عقمت و عصمت داغ دار ہوتی ہے۔

مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خازن بجز ایسے واقعات نقل کرتے ہیں، اور ان پر کوئی نقد و تبصرہ نہیں کرتے حالانکہ وہ حد درجہ عجیب و غریب اور مقام نبوت کے منافی ہیں۔ مثلاً آیت کریمہ:

» إِذْ أَدَّى الْفِئْتَةُ إِلَى الْكَعْبِ » جب جوانوں نے غار میں پناہ لی۔

(سورہ کہف - ۱۰)

کی تفسیر کرتے ہوئے مولف نے بروایت محمد بن اسحاق و محمد بن یسار اصحاب کہف کا طویل اور عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے اور اس پر بالکل تنقید نہیں کی (دیکھیے تفسیر خازن، ج ۴ - ص ۱۶۰)

تاریخی واقعات :

اسی طرح خازن غزوات النبیؐ کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں ان کا ذکر مختصراً کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ احزاب میں جہاں غزوہ خندق کا ذکر کیا گیا ہے، ان آیات کی تفسیر سے فارغ ہو کر مولف ایک مستقل فصل میں اس غزوہ کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ (دیکھیے خازن، ج ۵ - ص ۱۹۳) قرآن کریم میں فرمایا:

» رَدَّ أُوذُنُكُمْ أَرْضَهُمْ دَرِيًّا لَهُمْ » اور تمہیں ان کی زمینوں اور گھروں کا وارث بنایا۔

(الاحزاب - ۲۷)

اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں خازن نے غزوہ بنو قریظہ کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔

فقہی مسائل :- اس تفسیر کے مولف فقہی مسائل و احکام کے ساتھ بھی خصوصی دلچسپی لیتے ہیں۔

چنانچہ آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے فقہاء کے مذاہب و دلائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حالانکہ ایک مفسر کی حیثیت سے ان فروعات میں الجھنے کی ضرورت نہ تھی۔

قرآن حکیم میں فرمایا:

«لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ
نَدْوِيَّصَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ»
جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے۔

(البقرة ۲۲۶)

اس آیت کی تفسیر سے خارج ہو کر مؤلف پانچ فرعی مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱) - جب خاندان حلف اٹھائے کہ وہ بیوی سے کبھی مجامعت نہ کرے گا۔ یا چار ماہ سے زائد مدت کے بعد مجامعت کرے گا۔

(۲) - جب خاندان حلف اٹھائے کہ وہ چار ماہ سے قبل اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کرے گا۔

(۳) - جب حلف اٹھائے کہ وہ چار ماہ تک بیوی کے قریب نہیں جائے گا۔

(۴) - آزاد اور غلام کی مدت ایلاء میں فقہاء کا اختلاف۔

(۵) - جب خاندان بیوی سے مجامعت کر کے ایلاء کو توڑ دے تو کیا اس پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟

(خانک، ج ۱- ص ۱۲۷)

اسی طرح مؤلف نے طلاق مُلَع ظہار اور عدت سے متعلق احکام کی تفصیلات متعلقہ آیات کی

تفسیر میں تفصیلاً بیان کی ہیں۔

وغلط گوئی:

تفسیر خازن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مؤلف نے اس میں وغلط گوئی رقت قلب اور غیبی ترمیب سے متعلق احادیث بکثرت بیان کی ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ چون کہ مؤلف صوفی فنش انسان تھے اس لیے وہ اس پہلو سے خصوصی دلچسپی لیتے ہیں۔ اور اس کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ مثلاً آیت کریمہ:

تَتَّبَانِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِرِ
ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔

(المجادلہ ۱۶)

کی تفسیر کرتے ہوئے مولف نجد کے فضائل میں صبح بخاری و مسلم اور زبیدی کی احادیث نقل کرتے ہیں۔

(خازن، ج ۵، ص ۱۸۶)

خلاصہ یہ کہ تفسیر زینبصرہ مختلف و متنوع علوم و فنون کی جامع ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیلیات کے ذکر و بیان میں جو شہرت اس کو حاصل ہو چکی ہے۔ اس نے بہت نقصان پہنچا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس تفسیر پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ کچھ بعید نہیں کہ خدا کا کوئی بندہ اس کے مواد کو چھانٹ کر اس کے صحیح و سقیم کو تمیز و ممتاز کرے۔ کتاب سات اجزاء میں طبع شدہ ہر جگہ دستیاب ہے۔ اور فقہ کما نیوں سے دلچسپی لینے والے لوگ اس سے خصوصی شغف رکھتے ہیں۔

۵۔ البحر المحیط البوہیان

تعارفِ مؤلف :

ام گرامی محمد بن یوسف بن علی کینت ابو عبد اللہ لقب ابی الدین اور نسبت اہلسی غرناطی ہے آپ ابوہیان کے نام سے معروف تھے۔ ۳۵۲ھ میں پیدا ہوئے۔

آپ علم القراءت میں مہارت رکھتے تھے۔ اور قراءت صحیحہ و شاذہ سے بخوبی آشنا تھے۔ اندلس اور افریقہ کے اکثر علماء سے استفادہ کیا۔ پھر اسکندریہ وارد ہو کر عبدالنصیر بن علی مہر لوطی اور ابو طاهر اسماعیل بن عبداللہ یحییٰ سے قراءت پڑھی۔ بعد ازاں مصر میں شیخ ہباء الدین بن عباس کے وابستہ دامن ہو گئے۔ ابوہیان کا قول ہے کہ میں نے چار سو پچاس اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ جن لوگوں نے مجھے اجازت دی ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ صفدی کا بیان ہے کہ میں نے ہمیشہ ابوہیان کو دیکھتے پڑھتے یا روایات سنتے دیکھا اس کے سوا ان کا کوئی مشغلہ نہ تھا۔

ابوہیان ایک عظیم شاعر اور لغوی تھے۔ جو ان تک صرف و نحو کا تعلق ہے ان میں آپ یگانہ روزگار امام تھے۔ علم بھران دونوں علوم کی خدمت کرتے رہے۔ اس کی حد یہ ہے کہ ان کے عصر و عہد میں صرف و نحو میں ان کے سوا کسی اور کا ذکر تک نہیں کیا جاتا تھا۔ مزید برآں آپ کو تفسیر و حدیث تراجم رجال اور معرفت طبقات میں بھی مہارت تامہ حاصل تھی۔ ابوہیان کے تلامذہ میں بڑے بڑے آئمہ و مشائخ شامل ہیں۔ آپ ہی نے لوگوں کو مشہور نحوی ابن مالک کی کتب کی جانب متوجہ کیا۔ اور اس کی تصانیف کے شروع حواشی لکھے

ابو حنیفہ کی تصانیف ان کی زندگی ہی میں ادھر ادھر پھیل گئیں اور لوگوں نے ان سے بے حد فائدہ اٹھایا۔ مشہور ترین تصانیف حسب ذیل ہیں :-

- ۱۔ البحر المحیط، (زیر تبصرہ)
- ۲۔ غریب القرآن۔
- ۳۔ شرح التنبیل۔
- ۴۔ نہایت الاعراب۔
- ۵۔ خلاصۃ البیان۔

ابو حنیفہ نے قرأت کے فن میں شاطیہ کے وزن پر ایک منظوم کتاب بھی تحریر کی تھی جو نہایت مختصر اور مفید ہے مگر شاطیہ کی طرح مقبول عام نہ ہو سکی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ پہلے ظاہری مسلک رکھتے تھے۔ بعد ازاں اس سے رجوع کر کے شافعی مذہب اختیار کیا۔ آپ فلسفہ سے عاری اعتزال و تجسیم کے عقائد سے پاک اور طریق سلف پر گامزن تھے۔ آپ نے مصر میں ۴۴۵ھ میں وفات پائی۔

(الدرر المکانتہ، ج ۲، ص ۲۰۲)

تعارف تفسیر:

یہ تفسیر آٹھ ضخیم جلدات میں شائع ہو کر اہل علم میں معروف و مستداول ہو چکی ہے۔ جو شخص قرآن عزیز کے وجود و اعراب سے آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ تفسیر اولین اور اہم ترین ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے کہ قرآن کریم سے متعلق مباحث میں اس کا نحوی پہلو سب سے نمایاں تر ہے۔ مولف جب کسی نحوی مسئلہ پر اظہار خیال کرتا ہے تو اس کی مہارت و براعت کسی شک شبہ سے بالا ہوتی ہے۔ مگر حق بات یہ ہے کہ اس میں نحوی مسائل اور علمائے نحو کے خلافیات کی اس قدر بھرمار ہے کہ یہ تفسیر کے بجائے نحو کی کتاب معلوم ہوتی ہے۔

اگرچہ اس تفسیر پر علم نحو کا غلبہ ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ مولف نے تفسیر سے متعلق دوسرے پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ چنانچہ وہ مفردات کے معانی بیان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسباب نزول و نسخ و منسوخ اور مختلف قراءتوں کو زیر بحث لاتا ہے۔ قرآن حکیم کے بلاغی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے فقہی جزئیات پر روشنی ڈالتا ہے۔ پھر اس سے متعلق علمائے سلف و خلف کے افکار و آرا

میان کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اسی نظم و ترتیب کے مطابق ذکر کرتا ہے جو اس نے کتاب ہذا کے مقدمہ میں مقرر کی ہے۔ البیان اپنی تفسیر میں زمخشری اور ابن عطیہ کی تفاسیر کی عبارت نقل کر کے نحوی مسائل اور وجوہ الجواب میں ان کی تردید کرتے ہیں۔ نظر بریں البیان کے شاگرد تاج الدین احمد بن عبد القادر متوفی ۷۴۹ھ نے "الدرر المحیط" کے نام سے تفسیر البحر المحیط کا خلاصہ تیار کیا ہے۔ اس میں صرف وہ نحوی مسائل بیان کیے ہیں جن کے ضمن میں البیان نے زمخشری اور ابن عطیہ کی تردید کی ہے۔ اس مختصر کا ایک کاپی نسخہ جامع ازہر کی لائبریری میں موجود ہے اور البحر المحیط کے حاشیہ پر زیور طبع سے آراستہ بھی ہو چکا ہے۔

اسی طرح شیخ یحییٰ الشادی المغربي نے "بین ابی حیان والزمخشری" کے نام سے ایک مستقل کتاب تحریر کی ہے جس میں ان تمام اعتراضات کو یک جا کر دیا ہے جو البیان نے زمخشری پر کیے ہیں۔ یہ کتاب ایک جلد میں ہے اور اس کا ایک کاپی نسخہ جامع ازہر کی لائبریری میں موجود ہے۔

بسا اوقات البیان معتزلی نظریات کی بنا پر زمخشری کا بڑا سنگ دلانہ مذاق اڑاتے ہیں۔ (دیکھیے البحر المحیط، ج ۲، ص ۲۷۶ و ج ۴، ص ۸۵) مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآنی بلاغت کے اظہار و بیان میں زمخشری کی مہارت فائزہ کو سراہتے اور کھلے دل سے اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ زمخشری کو فہم قرآن سے حظ وافر ملا تھا۔ اور وہ اختراع معانی اور جزالت الفاظ کے جامع تھے۔

(دیکھیے البحر المحیط، ج ۴، ص ۸۵)

البیان اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے اساتذ محترم جمال الدین ابو عبد اللہ محمد بن سلیمان النقادی المعروف بابن النقیب کی کتاب "التحریر والتجیر لاقوال ائمة التفسیر" سے بہت استفادہ کیا ہے۔ یہ علم تفسیر میں ضخیم ترین کتاب ہے۔ اور قریباً ایک صد مجلدات پر مشتمل ہے۔ مگر اس کے باوصف البیان اس کتاب پر تنقید کرتے ہیں کہ اس پر تکرار کی بھرمار ہے۔ علاوہ ازیں ابن النقیب اس میں غالی صوفیہ کے اقوال بکثرت نقل کرتے ہیں۔

(البحر المحیط، ج ۱، ص ۱۱۱ نیرج ۸، ص ۱۹۱)

۶۔ غرائب القرآن و رغائب الفرقان از نیسا پوری

مؤلف کا اجمالی تعارف :

اسم گرامی نظام الدین حسن بن محمد خراسانی نیشاپوری ہے۔ یہ "النظام الاخرج" کے نام سے مشہور

تھے۔ ان کا وطن مالوت "تم" نامی شہر تھا۔ دیار نیشاپور میں پروان چڑھے۔ آپ نیشاپور کے علاقہ میں علوم فنون کے ستون سمجھے جاتے تھے۔ علوم عقلیہ اور عربی لسانیات کے جامع تھے۔ ادب و انشاء اور علم تاویل و تفسیر میں یدِ لُطوی رکھتے تھے۔ آپ کا شمار عظیم حفاظ و مفسرین میں ہوتا ہے۔

علمی شہرت کے پہلو پہلو آپ بڑے زاہد و متقی بھی تھے۔ زہد و تصوف کے ساتھ خاص لگاؤ تھا تصوف کا اثر ان کی تفسیر پر بھی نمایاں ہے۔ اسی کے زیراثر وہ تفسیر میں اپنے روحانی فیوض و برکات کا بجزت ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے منفرد اور گرگن قدر تصانیف کا ایک سببس بما فیضہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ چند تصانیف حسب ذیل ہیں:-

- ۱۔ شافیہ ابن حاجب کی شرح۔ یہ شرح النظام کے نام سے مشہور ہے۔
- ۲۔ شرح تذکرہ خواجہ تفسیر الدین موسیٰ۔ یہ علم ہیئت میں ہے اور توضیح التذکرہ کہلاتی ہے۔
- ۳۔ رسائل فی علم الحساب۔
- ۴۔ کتاب اوقاف القرآن۔ یہ سجاد ندوی کی کتاب کے انداز پر ہے۔
- ۵۔ غرائب القرآن و رغائب الفرقان۔ (تفسیر زیر تبصرہ)
- ۶۔ کُتُبُ التَّوَابِل۔

تلاش بسیار کے باوجود آپ کی تاریخ وفات کا پتہ نہ مل سکا۔ البتہ "روضات الجنات" کے مصنف کا یہ قول دستیاب ہو سکا ہے کہ:

"مولف ذوی حدی بھری کے علماء میں سے تھے۔ ان کا عصر و عہد سید شریف بروجانی جلال الدین دوانی، حافظ ابن حجر عسقلانی اور ان کے معاصرین سے ملتا جلتا ہے۔ ان کی تفسیر کے اہتمام کی تاریخ ۸۵۰ھ کے بعد کی ہے۔ (روضات الجنات، ص ۲۲۵)

محمد حسین الذہبی التفسیر والمفسرون کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:-

"تفسیر ہذا کے بعض نسخوں کے اہتمام پر لکھا ہے کہ اس تفسیر کو اس کے مولف حسن بن محمد بن حسین المعروف بنظام الاعرج نیشاپوری نے ہند کے دار الخلافہ دولت آباد میں اوائل صفر ۸۳۰ھ میں تحریر کیا۔ اسی نسخہ کے آخر میں مولف کا تعارف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ خواجہ تفسیر الدین کی کتاب تذکرہ کی شرح لکھ کر بیع الاول ۸۳۰ھ میں فارغ ہوئے کشف الظنن

میں مولف کا تقارن کراتے ہوئے کھاسے کہ آپ ۲۸ء میں فوت ہوئے؛

(کتاب مذکور، ص ۲۲۲)

مولف نے اس کتاب کو امام رازی کی تفسیر کبیر سے اخذ کیا ہے۔ پھر کشاف اور دیگر تفاسیر سے لے کر اس میں مفید اضافے کیے۔ اسی طرح اس تفسیر میں اقوال صحابہ و تابعین کو جگہ دی۔ اور وہ نکات جمع کیے جو خداوند کریم نے فہم قرآن کے سلسلہ میں آپ پر متکشف کیے تھے۔

رازی و زحمتی کے بارے میں مولف کا موقف:

مولف جب تفسیر کبیر یا کشاف سے کوئی اقتباس اخذ کرتے ہیں تو وہ بلا تنقید اس کو جوں کا توں قبول نہیں کرتے۔ بخلاف ازیں وہ اس پر آزادانہ نقد و جرح کرتے ہیں۔ اگر اس میں کچھ خرابی دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور اگر کسی دیکھتے ہیں تو اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ بعض ادوات تفسیر کشاف سے ایک اقتباس پیش کر کے وہ تنقید نقل کرتے ہیں جو امام رازی نے اس پر کیا ہے۔ پھر حکم بن کردوں کے ماہرین جمع کرتے اور کامل حریت فکر کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔

انداز تفسیر:

امام نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں جو طرز و انداز اختیار کیا ہے، وہ بالکل زلال اور انوکھا ہے۔ آیت قرآنی ذکر کرنے کے بعد وہ اس التزام کے ساتھ اس کی مختلف قراءتیں تحریر کرتے ہیں جو قراءت کے ائمہ عشرہ کی جانب منسوب ہوں۔ ہر قراءت کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ کس قاری کی جانب منسوب ہے پھر مقامات وقف کی نشان دہی کر کے اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ پھر تفسیر کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آیات کے باہمی ربط و تعلق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ربط آیات کا یہ اہتمام انہوں نے تفسیر کبیر کے پیش نظر کیا ہے۔ بعد ازاں بڑے دلکش انداز میں آیات کے معانی و مطالب بیان کرتے ہیں۔ اس میں ایجاز و مفردات اظہار حضرت تاویل متشابہات تفسیر صحیح کنایات تحقیق استعارات نقلی مذاہب کی تفصیل اور ان کے براہین و دلائل کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

«دَالِّ السَّارِقِ وَالسَّارِقَةَ فَاقْتُلُوا
أَيُّدِيَهُمَا» (النساء - ۳۸) کاٹ دو۔

اس آیت کی تفسیر میں مولف لکھتے ہیں :

”جان لیجیے کہ چوری کے بارے میں کلام تین چیزوں سے وابستہ ہے۔

(۱) مسروق (۲) سرقہ (۳) سارق۔

پھر ان تینوں چیزوں پر فقہی انداز سے روشنی ڈالتے اور بڑی تفصیل سے دلائل ذکر

کرتے ہیں“ (تفسیر زیر تبصرہ، ج ۴، ص ۱۳۲)

علم الکلام و فلسفہ :

مولف کلامی مسائل سے خصوصاً دلچسپی لیتے۔ اہل سنت اور دیگر فرقوں کے مذاہب و مسالک پر

روشنی ڈالتے۔ اور ہر فرقہ کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مخالفین کے دلائل کی تردید بھی

کرتے جاتے ہیں۔

جو آیت مسائل کو فیر سے متعلق ہوتی ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے نیا سائبرری علمائے طبعیات

و فلسفہ کے افکار و نظریات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں ارشاد ہے :-

”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِةِ“

لوگ پہلی بات کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔

(البقرہ - ۱۸۹)

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولف پہلے اس کا سبب نزول ذکر کرتے ہیں۔ پھر بتاتے ہیں کہ

لوگوں کے سوال اور جواب خداوندی میں کیا ربط و تعلق پایا جاتا ہے۔ آگے چل کر اس کی حکمت بیان کرتے

ہیں کہ چاند پہلے چھوٹا ہوتا ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے بدر بن جاتا ہے۔ پھر اس میں انحطاط کا آغاز ہوتا ہے

اور وہ پہلی رات کی طرح ہو جاتا ہے۔ (دیکھیے تفسیر نیا سائبرری، ج ۴، ص ۱۳۹)

قرآن عزیز میں فرمایا :

”وَاللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاَنْفُسَ حَيۡۤیۡنَ”

اللہ تعالیٰ موت کے وقت جانوں کو اپنے قبضہ

مؤقتاً۔ (الزمر - ۴۲) میں کر لیتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں مولف لکھتے ہیں :-

”نفس انسانی ایک چمک دار نورانی جوہر ہے، جب وہ بدن سے متعلق ہوتا ہے تو جسم کے تمام

ظاہری اور باطنی اعضاء اس سے منور ہوتے ہیں۔ اسی کا کام زندگی اور بیداری ہے

سوتے وقت اس کی روشنی صرف بدن کے باطنی حصہ پر پڑتی ہے اور ظاہری حصہ سے کٹ جاتی ہے۔ اس صورت میں حیات باقی رہتی ہے اور قوائے بدنیرہ باطن میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ مگر عقل و تمیز باقی نہیں رہتی۔ جب یہ روشنی بدن سے پوری طرح کٹ جاتی ہے، تو موت واقع ہو جاتی ہے۔“

(تفسیر نیشاپوری ج ۲۲ - ص ۷)

کونیات اور فلسفیانہ آراء کے سلسلہ میں مولف جس راہ پر گام زن ہیں۔ درحقیقت وہ تفسیر کبیر کی صراطے بازگشت ہے۔ جس سے یہ تفسیر ماخوذ ہے۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مولف صرف امام رازی کے خیالات ہی کو نہیں دہراتے بلکہ بعض جگہ ان پر نقد و جرح بھی کرتے ہیں۔ مثلاً:

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ. وَاِذَا الْكُوكَبُ
انْتَثَرَتْ. (الانفطار - ۱)

جائیں گے۔

اس آیت کی تفسیر میں نیشاپوری لکھتے ہیں :-

”اس آیت سے ان لوگوں کے قول کا ابطال ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ملکیات میں پھٹ جانے کا امکان نہیں۔ امام رازی نے جو عقلی دلیل اس ضمن میں پیش کی ہے کہ تمام اجسام جسمیت میں یکساں ہیں۔ لہذا جو بات ایک کے بارے میں صحیح ہے وہ دوسرے کے بارے میں بھی درست ہے جب اجسام سفلیہ میں انحراف ممکن ہے تو اجسام علویہ میں بھی ممکن ہونا چاہیے۔ امام رازی کی یہ دلیل نہ مفید ہے اور ناہمیتان بخش ہے۔“

(تفسیر نیشاپوری ج ۲۰ - ص ۳۹)

تفسیر نیشاپوری میں تصوف کا عنصر:

مفسر نیشاپوری آیت کی تفسیر سے فارغ ہو کر اس کی تاویل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تاویل سے ان کی مراد وہ اشاری تفسیر ہے جو اہل حقیقت صوفیہ پر زمین جانب اللہ تکشف کی جاتی ہے۔ چونکہ مولف ایک عظیم صوفی تھے۔ اس لیے ان کی تفسیر پر بھی تصوف کا رنگ نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں گولانے والے قواعد و نصاب کو سمودیا ہے۔ نیشاپوری اپنی اشاری تفسیر میں فلسفیانہ تصوف کی نمائندگی کرتے ہیں۔

نیشاپوری شیعوں تھے :- تلاش بسیار کے باوجود اس تفسیر سے ایک دلیل بھی ایسی نہیں

نہی اس کی جس سے ثابت ہو کہ مؤلف شیعہ تھے۔ البتہ تفسیر کے آخری جلد نمبر ۳۰ صفحہ ۲۲۸ پر صرف یہ عبارت ملتی ہے۔

«أَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ
ثُمَّ بِنَيْبَةِ الْقُرَشِيِّ الْإِطْبَاطِيِّ
وَدَوْلِيهِ الْمُعَظَّمِ الْعَلِيِّ»

میں آنحضرتؐ کی پاک ذات کو بارگاہِ ربانی میں وسیع بناؤں گا۔ پھر اس کے قریشی اور عربی نبی اور اس کے عظیم ولی حضرت علیؑ سے توسل کرتا ہوں۔

اس جلد سے اگرچہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مؤلف حضرت علیؑ کی ولایت کا قائل ہے مگر یہ مؤلف کے شیعہ ہونے کی قطعی و حتمی دلیل نہیں۔ بحالات ازیں ہم دیکھتے ہیں کہ مؤلف نے اسی آخری جلد میں (جلد ۳۰ صفحہ ۲۲۲) بذات خود اعتراف کیا ہے کہ یہ تفسیر میں نے اہل سنت کے عقائد کے مطابق تحریر کی ہے۔ مثلاً:

قرآن حکیم میں فرمایا:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ»

اے ایمان والو! جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں۔ (المائدہ: ۵۴)

اس آیت کی تفسیر میں مؤلف نے شیعہ کی زبردستی ہے کہ وہ اس آیت سے حضرت علیؑ کی ولایت پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نبی کریمؐ علی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہٴ اول تھے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ شیعہ کا یہ خیال درست نہیں۔ اگرچہ یہ بات مؤلف نے امام رازی کی تفسیر سے اخذ کی ہے تاہم اس سے لاج کا اپنا نقطہ نظر بھی واضح ہوتا ہے۔ (دیکھیے تفسیر زیر تبصرہ، ج ۴، ص ۱۹۵)

نیشاپوری تفسیر زیر تبصرہ کے آخر میں لکھتے ہیں :-

«میری یہ کتاب امام رازی کی تفسیر کبیر کا خلاصہ ہے جو اکثر کتب تفسیر کی جامع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں تفسیر کشادہ کے اکثر مباحث کو سمویا ہے۔ مزید برآں یہ ایسے پسندیدہ نکات و تاویلات پر مشتمل ہے جس سے دیگر تفاسیر کا دامن خالی ہے یا وہ ادھر ادھر کجگر سے ہوئے منتشر طور پر ملتے ہیں۔»

جہاں تک احادیث نبویہ کا تعلق ہے وہ میں نے حدیث کی مشہور کتب سے لیں

مثلاً جامع الاصول اور المصابیح وغیرہ۔ بعض احادیث تفسیر کبیر و کشف سے ماخوذ ہیں۔ البتہ کشف میں جو احادیث سورتوں کے فضائل سے متعلق مذکور ہیں۔ میں نے ان سے استرازا کیا اس لیے کہ وہ نقد جرح کے معیار پر پوری نہیں اترتیں۔ علامات وقف سے متعلق مباحث سجاوندی سے منقول ہیں۔ اسباب نزول میں نے جامع الاصول اور واحدی کی تفسیر بے لیے اور یا تفسیر کبیر و کشف سے لغوی بحثیں مجال جوہری اور تفسیر کبیر و کشف سے ماخوذ ہیں۔ معانی بیان اور دیگر ادبی مباحث و مسائل مقتاح اور دیگر عربی کتب اور تفسیر کبیر و کشف سے لیے گئے مراسی طرح شرعی احکام بھی مذکورہ صدر و ذریعہ تفاسیر اور معتبر کتب فقہیہ اور خصوصاً امام رافعی کی شرح الرخویہ سے منقول ہیں باقی رہی تاویل تو وہ اکثر و بیشتر شیخ محقق نجم الدین سے لی گئی ہے جو ”دایہ“ کے نام سے معروف تھے۔ اس میں کچھ حصہ وہ بھی شامل ہے جو میرے اپنے ذہن رسا کی پیداوار ہے۔

جہاں تک فروع فقہیہ کا تعلق ہے۔ جو استدلال کسی فرقہ نے کسی آیت سے کیا وہ میں نے بلا نزاع و جدال اور بلا کم و کاست بیان کر دیا ہے۔ میں نے یہ کتاب اتنی مدت میں تحریر کی جتنی مدت حضرت علی کی خلافت کی تھی۔ (چار سال نو ماہ) میرا اندازہ یہ تھا کہ میں اس کتاب کی تکمیل خلافت راشدہ کی مجموعی مدت یعنی تیس برس میں کروں گا۔ تفسیر لکھنے کے دوران جو اسفار طویلہ اور نامساعد حالات پیش آئے۔ علاوہ ازیں بے شمار مجرم مجرم سے دو چار ہزنا پڑا۔ معاون کتب کا فقدان اس پر مزید ہے۔ اگر یہ مشکلات پیش نہ آتیں تو میں یہ تفسیر اتنی مدت میں ختم کر لیتا جس قدر مدت خلافت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی (یعنی دو سال تین ماہ) علامہ جار اللہ زنجبلی نے تفسیر کشف کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت یعنی سوا دو سال میں مکمل کیا تھا۔“ (تفسیر منشا پوری، ج ۳۰۔ ص ۲۲۲)

تفسیر زبیر تبصرہ تفسیر ابن جریر طبری کے حاشیہ پر چھپ چکی ہے اور اہل علم کے مابین متداول ہے۔

۷۔ تفسیر الجلالین از جلال الدین المحلی و جلال الدین السيوطي

دونوں مفسرین کا تعارف :

اس تفسیر کو دو جلیل القدر ائمہ جلال الدین المحلی اور جلال الدین السيوطي نے مرتب کیا۔ جہاں تک امام سیوطي کا تعلق ہے۔ ان کا تفصیلی تعارف تفسیر الدر المنثور پر تبصرہ کے ذیل میں ہو چکا ہے۔

جلال الدین المحلی :- اسم گرامی جلال الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی ہے۔ آپ ایک عظیم عالم اور امام تھے۔ صاحب حسن المعاصرہ لکھتے ہیں :-

”آپ ۷۹۰ھ کو مصر میں پیدا ہوئے۔ علوم فقہ و کلام و اصول و نحو و منطق وغیرہ میں مہارت نامہ حاصل کی۔ آپ نے درمجموعہ و اقصر ائی برهان یجوری شمس البساطی علاء بخاری وغیرہم کا برسے کسب فیض کیا۔ آپ فہم و فراست میں اپنی مثال آپ تھے۔ وہ خود کما کرتے تھے کہ میرا ذہن غلط بات کو قبول نہیں کرتا۔ البتہ ان کا حافظہ کمزور تھا۔“

یہ سلفی المشرب تھے اور اس ضمن میں عدیم المثال تھے۔ حد درجہ متقی اور صالح تھے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ کا شعار تھا۔ سچ گوئی کے معاملہ میں کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ بڑے بڑے عالم حکام کو بھی کلہو سنانے سے گریز نہ کرتے تھے۔ جب ایسے لوگ آپ کے پاس آتے تو ان کی جانب تو سہ نہ دیتے اور نہ انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت دیتے۔ آپ تیز مزاج تھے اور کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ آپ کو عہدہ تھنا کی پیشکش کی گئی تھی مگر آپ نے اسے ٹھکرا دیا۔ مدرسہ نویدیہ میں فقہ کے استاد تھے۔ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ذریعہ آمدنی تجارت تھا۔ بہت سی مفید کتابیں تصنیف کیں۔ آپ کی تصانیف اختصار و بیقیع اور سلاست عبارت کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔

مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں :-

۱۔ شرح جمع الجوامع فی الاموال۔

۲۔ شرح المنہاج فی فقہ الشافعیہ۔

۳۔ شرح الوتران فی الاموال۔

۴۔ تفسیر الجلالین۔ (ذریعہ تبصرہ)

آپ نے ۸۶۲ھ میں وفات پائی۔ تفسیلی ترجمہ کے لیے مندرجہ ذیل کتب ملاحظہ فرمائیں۔

(شذرات الذهب، ج ۷، ص ۲۰۳۔ طبعیات المفسرین از داؤدی، ص ۲۱۹)

تعارف تفسیر:

جیسا کہ ہم قبل انہیں ذکر کر چکے ہیں اس تفسیر کو امام جلال الدین المحلی اور جلال الدین السیوطی نے ترتیب کیا ہے۔ جلال الدین المحلی نے یہ تفسیر آغاز سورۃ الکہف سے سورۃ الناس تک تحریر کی۔ پھر سورۃ الفاتحہ سے آغاز کیا اور ابھی یہ سورت ختم ہی کر پائے تھے کہ خانہ حقیقی سے جا ملے۔

بعد ازاں جلال الدین السیوطی نے اس تفسیر کی تکمیل کی۔ چنانچہ اس کو سورۃ البقرہ سے شروع کر کے سورۃ الاسراء پر ختم کر دیا۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر جو جلال الدین المحلی کی تحریر کردہ تھی ان کی تفسیر کے آخرین سورۃ الناس کے بعد لگا دی۔

صاحب کشف الظنون کی مندرجہ ذیل بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ وہ لکھتے ہیں:

”تفسیر جلالین از ابتداء تا اختتام سورۃ الاسراء جلال الدین محمد بن احمد المحلی متوفی ۸۶۲ھ

کی تصنیف ہے۔ ان کی وفات کے بعد جلال الدین السیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے اس کی

تکمیل کی۔ جلال الدین المحلی نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر نہیں لکھی تھی یہ امام سیوطی نے تحریر کی“

(کشف الظنون، ج ۱، ص ۲۳۶)

مصنف کشف الظنون کی بات اس لیے غلط ہے کہ سیوطی بذات خود تفسیر زیر تبصرہ کے مقدمہ

میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ تفسیر از سورۃ البقرہ تا سورۃ الاسراء تکمیل کی۔ جہاں سورۃ الاسراء ختم ہوئی ہے

وہاں تحریر کیا کہ میں نے جو تفسیر کی تکمیل کرنی چاہی تھی۔ یہ اس کا اختتام ہے۔ (جلالین، ج ۱، ص ۲۳۷)

یہ تو اس بات کی بحدت تھی کہ دونوں مفسرین میں سے کس نے کس حصہ کی تفسیر تحریر کی۔ صاحب

کشف الظنون کا یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں کہ المحلی نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر نہیں لکھی بلکہ سیوطی نے تحریر کی ہے۔

یہ دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ شیخ سلیمان الجمل نے حاشیہ تفسیر جلالین کے مقدمہ ج ۱، ص ۷

پر لکھا ہے کہ ”سورۃ فاتحہ کی تفسیر المحلی نے تحریر کی تھی۔ امام سیوطی نے اس کو المحلی کی تحریر کردہ تفسیر کے

آخر سے ملٹی کر دیا تاکہ ان کی تفسیر کے ساتھ یکجا ہو جائے۔ امام سیوطی نے تفسیر کا جو ٹکڑا لکھا اس کا آغاز سورۃ

البقرہ سے کیا“ اسی طرح سلیمان الجمل حاشیہ مذکورہ ج ۱، ص ۲۳۶ میں جہاں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہوئی

ہے۔ لکھتے ہیں کہ جلال الدین المحلی نے قرآن کریم کے نصف اول کی تفسیر کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا تھا۔ ابھی اس کی تفسیر سے فارغ ہی ہوئے تھے اور سورہ البقرہ کی تفسیر شروع نہ کر پائے تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے۔“

خلاصہ کلام یہ کہ جلال الدین المحلی نے قرآن کریم کے نصف ثانی کی تفسیر نہایت مختصر دلکش اور عمیق عبارت میں تحریر کی ہے۔ بعد ازاں جلال الدین السیوطی ان کے نقش قدم پر چلے اور تفسیر کو زیادہ وسعت زدہ۔ اس لیے کہ انہوں نے تفسیر زب تبصرہ کو اسی طرز و انداز پر پایہ تکمیل پہنچانے کا اکتساب کیا تھا۔ جیسا کہ وہ خود مقدمہ میں واضح کرتے ہیں۔ سیوطی سورہ الاسراء کے اختتام پر لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کے نصف اول کی تفسیر چالیس دنوں میں مکمل کی۔ یہ وہی مدت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ طور پر گزاری۔ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے جلال الدین المحلی کی تفسیر سے استفادہ کیا۔ اسی طرح آیات متشابہات کی تفسیر میں بھی میں نے المحلی کی تفسیر پر اعتماد کیا۔ امام سیوطی نے نہایت کشادہ دلی اور ذوق کے ساتھ اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ جلال الدین المحلی کی تحریر کردہ تفسیر میری تفسیر کے مقابلہ میں بدرجہا افضل ہے۔

(جلالین، ج ۱- ص ۲۳۷)

اس میں شک نہیں کہ تفسیر جلالین کا تاریخی وزن کی تحریر میں نمایاں فرق و امتیاز محسوس نہیں کر سکتا اس کی حد یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے مختلف گوشوں میں سے کسی گوشہ میں بھی کوئی مخالفت نظر نہیں آتی۔ البتہ محدود سے چند مقامات میں قدر سے اختلاف محسوس ہوتا ہے۔ ایسے مقامات کی تعداد دوں تک بھی نہیں پہنچتی۔

ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ المحلی نے سورہ ص میں ”رُوح“ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ ”روح ایک لطیف جسم ہے جس کے نفوذ کے باعث انسان زندہ ہے“ سیوطی نے سورہ البقرہ کی تفسیر میں روح کی اس تعریف پر یہ اعتراض کیا ہے کہ خداوند کریم نے آیت کریمہ:

”قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي“

میں صراحت فرمایا ہے کہ روح اللہ کا امر ہے لہذا اس کی تعریف سے احتراز افضل ہے۔

(الاسراء - ۸۵)

ایک دوسرا مقام یہ ہے کہ المحلی سورہ الحج میں ”الْقَصَابَاتِ“ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”یہ یہود کے ایک فرقے کا نام ہے“ سیوطی نے سورۃ البقرہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ ”یہ یہود یا نصاریٰ کے ایک فرقے کا نام ہے“ امام سیوطی نے یہاں ”نصاریٰ“ کا اضافہ کیا۔ غرض یہ کہ دونوں مفسرین میں اس قسم کا معمولی اختلاف پایا جاتا ہے۔

یہ تفسیر قدر بہ محقق و موجد ہے۔ صاحب کشف الظنون نے ایک بینی عالم سے نقل کیا ہے کہ میں نے شہ درع سے لے کر سؤۃ المنزل تک قرآن کریم اور تفسیر جلالین کے حروف گنے تو دونوں کو برابر پایا۔ پھر آگے سورۃ المدثر سے لے کر تکوین کے حروف قرآن کریم کے حروف سے زیادہ ہیں۔ نظریں وضو کے بغیر تفسیر جلالین کو اٹھانا جائز ہے۔ (کشف الظنون، ج ۱، ص ۲۳۶)

بایں ہمہ اختصار و ایجاز تفسیر جلالین اپنے باب میں عدیم النظر ہے۔ یہ تمام تفاسیر سے زیادہ مقبول و متداول اور کثیر النفع ہے۔ بجز ت علمائے نے اس پر تعلیقات و حواشی تحریر کیے ہیں۔ الجمل ادر انصاوی کے دونوں حاشیے اہل علم میں مقبول و مشہور ہیں۔

صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں کہ شمس الدین محمد بن طغی نے ”کے نام سے جلالین کا ایک حاشیہ لکھا جس کی تالیف سے ۹۵۲ھ تاریخ ہوئے۔ اسی طرح نور الدین علی بن سلطان محمد ذری نزیل کہ متوفی ۱۱۸۰ھ نے جلالین کا حاشیہ ”جمالین“ کے نام سے تحریر کیا۔ علاوہ ازیں جلال الدین محمد بن محمد کرضی نے جلالین کی ایک ضخیم شرح ”مجمع البحرین و مطلع البدرین“ نامی تحریر کی۔ مگر ان میں سے کوئی بھی دستیاب نہیں۔

۸۔ السراج المنیر للخطیب الشریذینی

تعارف مولف :

اسم گرامی شمس الدین محمد بن محمد، نسبت الشریذینی اور لقب الخطیب ہے۔ یہ قاہرہ کے رہنے والے اور مسلک شافعی تھے۔ لاتعداد معاصر علماء سے استفادہ کیا۔ ان میں شیخ احمد البرسی البدر شہدی الشیبانی الرملی کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ مشائخ و اساتذہ نے آپ کو اہل قرار دینے کی فتویٰ دہلی کی اجازت دے دی چنانچہ آپ ان کی زندگی ہی میں فتویٰ دیتے رہے اور بے شمار لوگوں نے آپ سے کسب فیض کیا۔

نہایت متقی و صالح تھے۔ اہل مہر آپ کو علم و عمل اور زہد و درج کا پیکر تصور کرتے تھے آپ کثرت عبادت میں مدیم النظیر تھے آغاز رمضان سے اعتکاف بیٹھتے اور نماز عید کے بعد جامع مسجد سے نکلتے جب حج کے لیے جاتے تو اس وقت سوار ہوتے جب بہت تھک جاتے۔ گناہی کو پسند کرتے اور ونبری اشلال سے گریزاں تھے۔ ان مرض خدا کی زمین پر اس کی ایک آیت اور حجت تھے ۲۰ ماہ شعبان بروز جمعرات ۹۶ھ کو وفات پائی۔

آپ کی اہم تصانیف میں سے (۱) شرح المنہاج - (۲) شرح کتاب التبیہ ہیں۔ یہ دونوں عظیم شریحیں ہیں۔ ان میں مولف نے اپنے اساتذہ کی تحریرات کو یکجا کر دیا ہے۔ یہ دونوں کتب آپ کی زندگی ہی میں مشہور ہو گئی تھیں۔ ان کی تفسیر ذریعہ تبصرہ، بھی ان کی مشہور تصانیف میں سے ہے۔ تفصیلی تعارف کے لیے ملاحظہ فرمائیے۔ (شذرات للذہب، ج ۸ ص ۳۸۲)

تعارف تفسیر :

یہ تفسیر نہایت آسان بے حد مفید اور متوسط القامت ہے۔ نہ بہت زیادہ طویل ہے اور نہ حد سے زیادہ مختصر۔ مولف نے اس میں مفسرین سلف سے بہت استفادہ کیا ہے۔ بعض اوقات بیضاوی زحشری اور نبروی کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ان اقوال کو قبول کرتے ہیں اور گاہے ان کی تردید کرتے ہیں۔

علم حدیث نوحا اور قراءت :

مولف صرف وہی قراءت ذکر کرتے ہیں جو متواتر ہوتی ہے۔ جن نحوی مسائل کا تفسیر سے کچھ تعلق نہیں

ان سے احتراز کرتے ہیں۔ حدیث صحیح و حسن کے سوا دیگر احادیث ذکر نہیں کرتے۔ زعمشری و بیضادی پر اس لیے تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے سورتوں کے فضائل میں احادیث موضوعہ ذکر کی ہیں۔ اگر اپنی تفسیر میں کسی جگہ ضعیف حدیث ذکر بھی کرتے ہیں تو اس کے ضعف پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے آخر میں لکھتے ہیں :-

”ابن جریر طبری نے بسند ضعیف روایت کیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ آل عمران تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے مغرب آفتاب تک اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ بیضادی نے زعمشری کی پیروی میں یہ روایت ذکر کی اور ابن عادل نے ان کا تتبع کیا ہے کہ جس نے سورہ آل عمران تلاوت کی اسے ہر آیت کے عوض جہنم کے پل سے امان ملے گی؟“ اس حدیث کو فضائل سورت کے سلسلہ میں وضع کر کے حضرت ابی بن کعب کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ لہذا اس سے احتراز ضروری ہے۔ محدثین قدیم و جدید نے ایسے معترضین پر سخت تنقید کی ہے جنہوں نے اپنی کتب تفسیر میں ایسی احادیث کو جگہ دی ہے (السراج المنیر، ج ۱- ص ۲۶۵)

مولف مزید لکھتے ہیں :-

”مفسر بیضادی نے زعمشری کی پیروی میں جو یہ حدیث ذکر کی ہے کہ جس نے سورہ اعراف تلاوت کی اللہ تعالیٰ ہر روز قیامت اس کے اور اہلیس کے درمیان ایک فیصل حاصل کرے گا اور حضرت آدمؑ اس کی سنار شش کریں گے۔“ یہ حدیث موضوع ہے۔ اسی طرح بیضادی نے زعمشری کے حوالہ سے یہ حدیث بھی ذکر کی ہے کہ جس نے سورہ جم الجاثیہ تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور در حساب اس کی پریشانی کو دُفد کریں گے۔“ یہ حدیث موضوع ہے۔ (السراج المنیر، ج ۳- ص ۵۶۸)

تفسیری نکات ربط آیات و قسمی مسائل :-

مولف تفسیری نکات بیان کرتے اور بعض سوالات ذکر کر کے ان کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ قرآنی آیات کا ربط و تعلق واضح کرتے اور شرعی احکام کے براہین و دلائل بیان کرتے ہیں۔ خطیب شرنوبی فقہی احکام پر روشنی ڈالتے اور ائمہ فقہ کے مذاہب و مسائل اور براہین و دلائل ذکر کرتے ہیں۔ تاہم تفسیر زیر معروہ

بین نفی فروعات کا ذکر اس قدر کثرت کے ساتھ نہیں کیا گیا۔

قرآن کریم میں فرمایا:

«لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا كُفْرًا إِلَّا بِالْغَيْبِ إِيْمَانِكُمْ»

اللہ تعالیٰ انہیں کے بارے میں تم پر گرفت

نہیں کرتا۔

(البقرة - ۲۲۵)

اس آیت کی تفسیر میں مولف پہلے یہ بتاتے ہیں کہ ”بین لغوہ سے کیا مراد ہے۔ پھر آیت کی تفسیر سے فارغ ہو کر ذکر کرتے ہیں کہ کفر کا انقضاء کس بات سے ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ قسم ٹوٹ جانے کی صورت میں حائض کو کیا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ مولف یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آیا ”بین غموس“ کی صورت میں حائض ہونے سے کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؛ شواہح اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ مگر بعض علماء دیگر کبار کی طرح اس میں کفارہ کو واجب تصور نہیں کرتے۔ پھر حلف بغیر اللہ مثلاً کعبہ نبی کریم اور باپ کی قسم کھانے کا شرعی حکم ذکر کرتے ہیں۔“

(السراج المنیر، ج ۱ - ص ۱۳۹)

قرآن عزیز میں فرمایا:

«الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ

طلاق (دعویٰ) دومرہ ہے پھر یا تو روکے لکھنا

يَمْعُرُونَ أَوْ تَسْرِيحٌ

ہے۔ حسب دستور یا بطریق مناسب چھوڑ دینا

يَا حَسَانَ ۙ (البقرة - ۲۲۹)

ہے۔

مولف اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”جب میاں بیوی میں سے ایک آزاد اور دوسرا غلام ہو تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا مسلک یہ ہے اور امام شافعی بھی یہی نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ طلاق کی تعداد خاندان کے اعتبار سے ہوگی۔ چنانچہ جب خاندان آزاد اور بیوی لونڈی ہو تو خاندان تین طلاق کا مالک ہوگا۔ اور اگر خاندان غلام ہو اور بیوی آزاد ہو تو وہ دو طلاق کا مالک ہوگا علماء کی تفصیل جماعت جن میں امام ابوحنیفہ بھی شامل ہیں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ عدت کی طرح طلاق کی تعداد بھی عورت کے لحاظ سے ہوگی۔ چنانچہ اگر خاندان غلام اور بیوی آزاد ہو تو وہ تین طلاق کا مالک ہوگا۔ اور جب خاندان آزاد اور بیوی غلام ہو تو خاندان دو طلاق کا مالک ہوگا“ (السراج المنیر، ج ۱ - ص ۱۳۱)

اسرائیلیات :

تفسیر زیر تبصرہ کا دامن مجیب و غریب اسرائیلی واقعات سے عاری نہیں ہے۔ بخلاف ازیں کو بلا نقد و جرح ایسے واقعات نقل کرتے ہیں۔ مثلاً

« وَرَبُّكَ سَلِيمَانٌ ذَاوُدَ وَقَالَ

حضرت سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَا مَنَطَقُ

کما لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے

الطَّيْرِ (النحل ۱۶)

اس آیت کی تفسیر میں مولف نے بروایت کعب ایک طویل فقرہ بیان کیا ہے جس میں مختلف پرندوں کی بولیوں کا ذکر ہے۔ نیز یہ کہ حضرت سلیمان بتاتے رہے کہ فلاں پرندہ یہ بات کہتا ہے اور فلاں وہ بات پھر اسی قسم کی ایک روایت محمول اور فرقہ السنحی سے بھی ذکر کی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہودی ایک جماعت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پرندوں کی بولیوں کا مطلب پوچھا اور انہوں نے بھی اسی قسم کا جواب دیا۔ باوجودیکہ یہ واقعہ حد درجہ انوکھا ہے اور زرا لا ہے۔ مگر مولف نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ (السراج المنیر، ج ۳ - ص ۴۲)

اگرچہ خطیب اکثر و بیشتر ایسے واقعات پر نقد و جرح کرنے کے عادی نہیں تاہم جب کوئی ایسا واقعہ دیکھتے ہیں جو مقام نبوت کے منافی ہو تو اس کا ابطال کرتے اور اس کی عدم صحت واضح کرتے ہیں۔ قرآن عزیز میں ارشاد ہے :

« وَذَهَلْ آتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ

کیا آپ کے پاس دشمنوں کی خبر آئی ہے جب وہ

تَسَوَّرُوا لِمِ حَرَابٍ »

دیوار پر چڑھے۔

(سورہ ص - ۲۱-۲۲)

مذکورہ صدر آیت کی تفسیر میں خطیب امام رازی کی وہ عبارت نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اس واقعہ سے متعلق روایات باطلہ کی تردید کے سلسلہ میں تحریر کی ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ قصہ مقام نبوت کے منافی ہے۔ یہ بات تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ دیگر تفسیری پبلٹوں کے بجائے تفسیر ہذا میں اسرائیلی واقعات کا پہلو غالب ہے۔ اس تفسیر کا قاری یہ تاثر لے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مولف رازی کی تفسیر کبیر سے بکثرت مواد نقل کرتے ہیں یہ کتاب چار جلدوں میں چھپ کر اہل علم کے مابین مقبول و مشہور ہو چکی ہے۔ پسندیدگی کی وجہ سے

کے اسلوب تحریر کی سہولت و سلاست ہے۔ نیز اس لیے کہ اس میں سابقہ کتب تفسیر کے خلاصہ کو بڑی عمدگی اور اختصار و ایجاز کے ساتھ سمویا گیا ہے۔

۹۔ ارشاد و العقل تسلیم الی مزایا الكتاب الکریم از ابو السعود

سیرت کا اجمالی خاکہ :

نام و نسب محمد بن محمد بن مصطفیٰ کینت الیہ السعود اور نسبت العمادی ہے۔ آپ حنفی المسلک تھے ۸۹۳ھ میں ششمنیہ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان علم و فضل میں مہرمن تھا۔ بعض علماء نے آپ کے بارے میں لکھا ہے :-

۱۔ علم و فضل کی گود میں پلے بڑھے اور پروان چڑھے۔ زندگی بھر علوم و فنون کی حدوت میں مشغول رہے۔ اپنے والد سے اکثر علمی کتب پڑھیں اور دیگر اکابر علماء سے کسب فیض کیا۔ ترکی کے بہت سے مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ مختلف اوقات میں بڑے مدرسہ ششمنیہ اور علاقہ مکہ میں منصب قضا پر فائز رہے۔ آٹھ سال تک اس عہد پر قائم رہے۔ ۹۵۲ھ میں مسند اثناء پر متمکن ہوئے اور پانچ تیس سال تک یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ اس مدت میں انہوں نے فتویٰ نویسی میں کامل مہارت و براعت کا ثبوت ہم پیش کیا۔

۲۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ سائل کے سوال کے مطابق فتویٰ لکھتے۔ اگر سوال نظم میں ہوتا تو اسی وزن و قافیہ میں اس کا منظوم جواب دیتے۔ اگر سوال مسجع نشر میں ہوتا تو، جواب بھی ویسا ہی لکھتے۔ اگر سائل ترکی یا عربی میں لکھتا تو آپ اسی زبان میں جواب دیتے اس سے آپ کے علم و فضل کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے جمادی الاولیٰ ۹۸۲ھ کو ششمنیہ میں وفات پائی۔ اور میزبان رسول حضرت ابوالرب انصاری رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں مدفون ہوئے۔ ۵۔ والعقد المنظوم فی ذکر افاضل الروم بر حاشیہ ذیات الاعیان، ج ۲، ص ۲۸۲

تعارف تفسیر:

جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا گیا ہے مولف تدریس اور قضاء و افتاء کے مشاغل میں منہمک رہا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوصف انہوں نے تھوڑا سا وقت بچا کر یہ تفسیر مرتب کی۔ مولف مقدمہ میں بیان کرتے ہیں کہ تفسیر میں نے ایک ہی دفعہ لگاتار تحریر نہیں کی تھی۔ بخلاف ازیں ایک مرتبہ اس کا آغاز کیا اور سورۃ ص تک پہنچ کر ایسے مواعظ سدا رہ ہوئے کہ اس کام سے رکنا پڑا۔ چنانچہ شعبان ۱۳۴۳ھ میں تحریر کر دیا۔ مسودہ کو صاف کر کے سلطان سلیمان خاں کی خدمت میں پیش کیا جس کو انہوں نے بہت پسند کیا۔ اور انعام و اکرام سے نوازا۔ مزید برآں ولیفہد میں پانچ صد درہم یومیہ کا اضافہ کر دیا ایک سال کے بعد باقی ماندہ تفسیر کی تکمیل کی اور پھر اسے سلطان کی بارگاہ عالی میں پیش کیا۔ سلطان نے مزید انعامات کی بارش کی، اور ولیفہد میں اور اضافہ کر دیا۔

حقیات یہ ہے کہ یہ تفسیر اپنے باب میں عظیم النظیر ہے۔ حسن تعبیر اور طریق ادا میں کوئی تفسیر اس کی حریف نہیں ہو سکتی۔ مولف نے قرآن کے بلاغی اسرار و رموز پر اس طرح قلم اٹھایا ہے کہ آج تک کوئی مفسر اس طرح بیان نہ کر سکا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں:-

”میں اس تفسیر کے مطالعہ سے بہرہ مند ہوا ہوں۔ یہ بہترین تفسیر ہے۔ نہ اتنی طویل کہ بیزار کر دے اور نہ اس قدر مختصر کہ معنی و مفہوم ہی سمجھ میں نہ آسکے۔ ان گنت لطافت و نکات اور فوائد و اشارات کی جامع ہے۔ صاحب الکشف سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: اس تفسیر کے نسخے اطراف ملک میں پھیل گئے اور اکابر علماء نے اس کو قبولیت کی نگاہ سے دیکھا۔ حسن تعبیر کی بنا پر ابوالسعود کو خطیب المفسرین، کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نمایاں حقیقت ہے کہ تفسیر کشاف اور بیضاوی کے بعد کوئی تفسیر اس مرتبہ کو نہیں پہنچی“

(النوائد البیہتہ، ص ۸۲)

البتہ دیگر تفاسیر کی طرح تفسیر ابوالسعود پر زیادہ حواشی اور تعلیقات نہیں لکھے گئے۔ البتہ حسب کشف الغنوں نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے بعض تعلیقات کا ذکر کیا ہے۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) - شیخ احمد رومی حصارى متوفى ۲۳۱ھ نے سورۃ بقرہ سے تا سورتہ الذخراں اس پر حاشیہ تحریر کیا۔

(۲) - شیخ رضی الدین بن یوسف ندوی نے تفسیر ہذا کے نصف اقل پر حاشیہ تحریر کر کے مولیٰ اسد

بن سعد الدین کی خدمت میں پیش کیا۔ (کنف الطنون، ج ۱- ص ۷۷)

اس میں شک نہیں کہ ابوالسعود تفسیر کنشاف اور بیضاوی پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ البتہ وہ زنجشیری کے معتزلی نظریات کے دام فریب میں نہیں آتے۔ وہ اُن کے نظریات کو صرف اس لیے نقل کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے احتراز کریں۔ مولف اپنی تفسیر میں مسلک اہل سنت پر کمازمن رہے ہیں۔ مگر اس امر کا انسوہس ہے کہ زنجشیری و بیضاوی نے قرآنی سورتوں کے فضائل میں جس طرح احادیث موضوعہ درج کرنے کا ارتکاب کیا تھا۔ مولف بھی اس میں مبتلا ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ حالانکہ یہ احادیث بافتاقی محدثین موضوعہ ہیں۔

اعجاز القرآن :

تفسیر ہذا کا مفاد لکھنے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ مولف عبارت کی دل آویزی و دلکشی کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ خصوصاً وہ مقدمہ بھر قرآن حکیم کے نظم و اسلوب کے سبب اعجاز اور بلاغی پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خصوصاً فضل و مصل ایجاز و اطناب، تقدیم و تاخیر اور اعتراض و تذہیل کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ قرآنی ترکیب جن دقیق و عمیق معانی کو سموٹے ہوئے ہوتی ہے۔ اس کے اظہار و بیان کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ضعف ہے جو اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو عربی زبان کی باریکیوں سے پوری طرح آگاہ و آشنا ہو۔ اگر اس میں شک نہیں کہ مولف اس امر میں سب مفسرین سے آگے نظر آتے ہیں۔

ربط آیات و اسرائیلیات :

مولف ربط آیات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ بعض اوقات وہ مختلف قراءتوں پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ مگر اس سے زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ رہ اسرائیلیات کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا ذکر ہرم دونوں کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ رومی اُدویٰ کہہ کر وہ اس کے نصف کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ غالباً اسی اشارہ پر ہرم دوسرے ہوتے وہ مزید نقد و جرح کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

قرآن کریم میں فرمایا :

رَدِّ دَانَ مَرْسِلَةَ الْبَيْتِ مَكِّيَّةٍ
فَتَاخِرَةُ بِيَوْمِ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیج کر کہہ دوں گا
چاہتی ہوں کہ نامہ کیا چیز لے کر لٹے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں مولف لکھتے ہیں۔ مروی ہے کہ ملکہ لقیس نے پانچ صد غلام بہترین لباس میں ملبوس تحفہ کے طور پر بھیجے تھے۔ پھر اس کے آگے عجیب و غریب قسم بیان کیا ہے اور اس پر کوئی تنقید نہیں کی۔ ممکن ہے کہ ”مردی“ کے لفظ سے انہوں نے اس کے ضعف کی جانب اشارہ کیا ہو۔

(ج ۴ ص ۱۳۱)

مشہورین بالکذب سے روایت :

مولف بعض واقعات بروایت کلبی از ابوصالح بھی نقل کرتے ہیں۔ حالانکہ کلبی تسم بالکذب ہے نام سبطی اپنی تفسیر الدر المنثور کے آخر میں لکھتے ہیں :-

”کلبی تسم بالکذب ہے۔ جب وہ بیمار پڑا تو اپنے تلامذہ سے کہا میں نے جو کچھ ابوصالح

سے روایت کیا ہے وہ جھوٹ ہے“ (الدر المنثور، ج ۴ ص ۴۲۳)

مگر مولف کا دامن ان روایات کی آلائش سے اس لیے پاک ہے کہ وہ آخر میں لکھتے ہیں ”والله اعلم“ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ وہ ان روایات کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

فقہی و نحوی مسائل کی قلت

ابوالسعود فقہی احکام و فروع اور براہین و دلائل سے بہت کم تعرض کرتے ہیں۔ وہ صرف ائمہ کے فقہی مسائل بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ جب آیت مختلف وجوہ اعراب کی متعلیٰ ہوتی ہے تو اس وقت فقہی مسائل کی نحوی پر زیشن مانع کرتے ہیں اور ان وجوہ میں سے ایک کو ترجیح دے کر اس کی دلیل ذکر کرتے ہیں۔

ہر کیفیت پر کتاب وقت نظر و فکر اور ذرٹ نگاہی کی ایشندہ دار ہے۔ اس میں تفسیر کو غیر ضروری امور کے ساتھ مخلوط نہیں کیا گیا۔ مولف کسی علمی پہلو پر حسب ضرورت ہی گفتگو کرتے ہیں اور اس میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے۔ مولف کے بعد آنے والے مفسرین کے نزدیک یہ تفسیر ایک اہم مرجع و ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تفسیر کسی مرتبہ زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے اور پانچ متوسط الحجم اجزاء میں ہر جگہ دستیاب ہے

۱۔ رُوحِ الْمَعَانِي از آلوسی

تعارُف مولف :

اسم گرامی سید محمود آفندی کنیت ابوالقنا لقب شہاب الدین اور نسبت آلوسی بغدادی ہے۔ آلوسی ایک گاؤں کا نام ہے جو ملک شام اور بغداد کے درمیان واقع ہے۔ آپ ۱۱۱۶ھ کو بغداد کے محلہ کرخ میں پیدا ہوئے۔

آلوسی اپنے عصر و عہد میں علامتے عراق کے سربزیل اور منقولات و مقولات کے جامع عالم تھے۔ آپ اپنے وقت کے عظیم المثال محدث و مفسر تھے۔ اکابر علماء سے کسب فیض کیا۔ جن میں آپ کے والد محترم نیز شیخ خالد نقشبندی اور شیخ علی سؤیدی کے اسما قابل ذکر ہیں۔ آپ پر ہر وقت یہ دُھن سوار رہتی تھی کہ علم میں اضافہ ہونا چاہئے۔ اکثر یہ شعر درو زبان رہتا تھا

سهری لتتقیم العلوم الدلی من فصلِ قانیۃ و طیبۃ عیاتی

علوم کی نوک پلک سنوارنے کے لیے میری بیداری حسین و جمیل عورتوں کی ملاقات سے

لذیذ ہے۔

ابھی تیرہ سال کی عمر تھی کہ تدریس و تالیف میں لگ گئے۔ مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ جب احناف کے مفتی مقرر ہوئے تو اپنے گھر میں جو جامع شیخ عاقول کے نزدیک تھا جملہ علوم کی تدریس کا آغاز کیا۔ چنانچہ درود و نزدیک کے طلبہ آپ کے چشمہ علی سے سیراب ہونے لگے اور مختلف بلاد و اصہار کے علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ طلبہ کو کھانا اور لباس مہیا کرتے اور اپنے بہترین مکان میں ٹھہراتے۔ حتیٰ کہ آپ عراق کے یہ گھاٹہ روزگار عالم قرار پائے۔

نثر نویسی اور قوتِ تحریر میں آپ منفرد حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے بہت سے خطبہ و رسائل اور فتاویٰ و مسائلِ املاء کرائے۔ مگر آج ان میں سے بہت کم باقی ہیں۔ آپ عجیب و غریب مناظر کے مالک تھے اور کہا کرتے تھے :-

”میں نے اپنے ذہن کو کوئی ایسی امانت سپرد نہیں کی جس میں اس نے خیانت سے

کام لیا ہو۔ اور نہ اپنی قوتِ فکر و تدبیر کو کسی مشکل کے لیے بلایا اور اس نے میری عقدہ کشائی نہ کی ہو۔“

۱۲۴۸ھ میں آپ کو مفتی احناف مقرر کیا گیا۔ اس سے چند ماہ قبل آپ کو مدرسہ مرہانیہ کے اوقات کا انجم اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ یہ منصب شہر کے سب سے بڑے عالم کے لیے مخصوص تھا۔ وزیر کبیر علی رضا پاشا کو معلوم ہوا کہ ان سے بڑھ کر کوئی عالم شہر میں موجود نہیں۔ ماہ شوال ۱۲۶۳ھ میں افتاء کے منصب سے الگ ہو کر تفسیر قرآن کی تالیف میں لگ گئے ۱۲۶۶ھ میں عازم قسطنطنیہ ہوئے اور اپنی تفسیر سلطان عبدالعزیز خاں کو پیش کی۔ سلطان نے اس کو بیت پسند کیا اور آپ ۱۲۶۹ھ کو وطن واپس لوٹے۔ آپ مذاہب فقہاء اور مختلف ادیان و دجل کے حید عالم سلفی المشرب اہل مسلک شافعی تھے لیکن بہت سے مسائل میں امام ابوحنیفہ کی تقلید کرتے تھے۔ عمر کے آخری حصہ میں آپ کا رجحان دمیلاں اجتہاد کی جانب ہو گیا تھا۔ آپ نے بہت سی پیش قیمت کتب اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ مشہور تصانیف کے نام حسب ذیل ہیں۔

تصانیف :-

- ۱۔ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والبیع المشائی۔ (وزیر تبصرہ)
- ۲۔ حاشیۃ الفطر۔ آپ نے یہ حاشیہ نوجوانی میں تادم بحث حال، لکھا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سید نعمان آلوسی نے اس کو مکمل کیا۔
- ۳۔ شرح السلم فی المنطق۔ (دیہ مفقود ہے)
- ۴۔ الاجوبۃ العراقیۃ۔
- ۵۔ مودتہ الفواص فی آداب الخواص۔
- ۶۔ التفہات القدسیۃ فی المباحث الامامیۃ۔
- ۷۔ الفوائد السنیۃ فی آداب البحث۔

آلوسی نے بروز جمعہ ۲۵ ذوالقعدہ ۱۲۸۵ھ میں وفات پائی اور محلہ کرخ میں شیخ سعادت کبخی کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔

تعارفِ تفسیر :- مولف نے تفسیر زر قلم کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ وہ میں نے اس کا آغاز ۱۴ شعبان ۱۲۵۲ھ

بودت نہ سبکیا۔ اس وقت میری عمر چونتیس برس تھی۔ یہ سلطان محمود خاں بن سلطان عبدالحمید خاں کے عہد سلطنت کی بات ہے تفسیر کا اختتام منگل کی شب ۴ ربیع الآخر ۱۲۷۷ھ کو ہوا۔ پھر میں نے اس کے نام کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ مگر کوئی پسندیدہ نام ذہن میں نہ آیا۔ میں نے وزیر اعظم علی رضا پاشا کے سامنے اس مشکل کا اظہار کیا تو انہوں نے فی الفور اس کا نام ”روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع الثانی“ تجویز کیا۔

علماء نے بیان کیا ہے کہ مولف کے لیے اس تفسیر کی ترتیب و تہذیب بھی ایک روز سے کم نہیں ان کا سالادن اتنا اندر لیس کے لیے وقف تھا۔ آغاز شب میں اپنے اصحاب و تلامذہ کو مستفید کرتے آخر شب میں تفسیر کے چند اوراق تحریر کرتے۔ صبح کے وقت وہ اوراق کا تہوں کے حوالہ کرتے جو انہوں نے اسی مقصد کی خاطر مقرر کر رکھے تھے۔ اس سوردہ کو بیضہ کے اندر تبدیل کرنے میں کم از کم ان کے دس گھنٹے صرف ہوتے۔

روح المعانی کا مرتبہ و مقام :

مولف نے تفسیر ہذا کو روایتیہ و درایتیہ اقوال سلف و خلف کی جامع بنانے کا کوئی دقیقہ فراموش نہیں کیا۔ اگر اس کو سابقہ کتب تفسیر کا خلاصہ کہا جائے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ چنانچہ مولف تفسیر ابن عطیہ البرہان کشف البر السعوی بیضاوی رازی اور معتبر کتب تفسیر کے اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ وہ ابو السعوی کو شیخ الاسلام مفسر بیضاوی کو فاضل اور فخر الدین رازی کو امام کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ان تفاسیر کے اقتباسات پیش کر کے ان کو جو کاتوں قبول نہیں کرتے بلکہ ان پر محاکمہ کرتے اور انادانہ اپنی طئے کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اکثر ابو السعوی بیضاوی البرہان اور دیگر مفسرین کو ہدیت تنقید بتاتے ہیں۔ تقویٰ مسائل میں امام رازی پر شدید نقد و جرح کرتے اور امام البرہان کے مسلک کی حمایت کرتے ہیں۔ منقول افکار و آراء میں سے جس کو جنی برصواب سمجھتے ہیں۔ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔

مخالفین اہل السنن کے بارے میں آلوسی کا موقف :

مولف چونکہ سلفی المشرب اور سختی العقیدہ تھے۔ اس لیے معتزلہ شیعہ اور دیگر فرقی و مذاہب کے

نظریات و معتقدات کا ابطال کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے :-

ارِوَاذَارًا وَتِجَارَةً اَدْلَمٰهَا
 بِهَا الْفَقَطُ لِكَيْ مَادَتْكَ كَوْنُكَ قَائِمًا
 وہ جب تجارت یا کھیں تفریح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں
 تو آپ کو کھڑا چھوڑ کر اس کی طرف چل دیتے ہیں۔

(المجموعہ - ۱۱)

اس آیت کی تفسیر میں آگهی لکھتے ہیں :-

اس آیت کے پیش نظر شیعیہ نے صحابہ کرام پر ظن کیا ہے کہ وہ نماز جیسے دین کے ستون کو چھوڑ کر تجارت اور تفریح جیسے کاموں کی طرف چل دیا کرتے تھے۔ حالانکہ نماز افضل العبادات ہے۔ خصوصاً جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت میں ادا کی جائے بقول ان کے صحابہ سے یہ فعل کئی مرتبہ سرزد ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حرکت کیا صحابہ مثلاً حضرت ابو بکر و عمر اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم سے صادر نہیں ہوئی تھی۔ دراصل یہ آغاز اسلام کا واقعہ ہے جب کہ لوگ ابھی اسلامی اخلاق و آداب سے آراستہ نہیں ہوئے تھے۔ چونکہ مدینہ میں گرائی اور قحط سالی کا دورہ دورہ تھا۔ اس لیے لوگوں نے خیال کیا کہ اگر وہ نہ گئے تو دوسرے لوگ ضروریات زندگی خرید کر لے جائیں گے اور وہ محروم رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند کریم نے اس غلطی پر ان کو جہنم کی وعید نہیں سنائی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ انہیں سمجھایا یا ابھرایا اور غتاب کیا۔ باقی رہا شیعیہ کا یہ الزام کہ یہ صحابہ سے کئی مرتبہ صادر ہوا تو یہ بے بنیاد ہے۔ اگرچہ محدثہ بیعتی نے شعب الایمان میں مقاتل بن حبان سے روایت کیا ہے کہ صحابہ سے تین مرتبہ یہ فعل سرزد ہوا مگر یہ روایت محدثین کے نزدیک قابل التفات نہیں۔ اس کے علاوہ اس ضمن میں کوئی صحیح روایت وارد نہیں ہوئی۔ بنا بریں اس واقعہ کی بنا پر تمام صحابہ کو ملعون کرنا حماقت و جہالت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حالانکہ یہ حرکت آغاز اسلام میں بعض لوگوں سے سرزد ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد بے شمار نیک کام کر کے انہوں نے اس کی تلافی کر دی تھی۔

(روح المعانی، ج ۲۸ - ص ۹۳)

علم ہیئت و نحو:

آگهی نکلیات کے سلسلہ میں کھل کر بات چیت کرتے ہیں۔ علمائے ہیئت و حکمت کا کلام نقل کر کے بعض

جگہ اس کو قبول کرتے ہیں اور گاہے اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو سورہ البین کی آیات ۳۸ تا ۴۰ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ (روح المعانی، ج ۲۳ ص ۱۱)

نیز دیکھیے مندرجہ ذیل آیت کی تفسیر:

وَاللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوٰتٍ
وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۗ

وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے سات آسمان
پیدا کیے اور اتنی ہی زمینیں بنائیں۔

(الطلاق - ۱۲)

اس کی تفسیر روح المعانی، ج ۲۸ ص ۱۳۵ پر ملاحظہ فرمائیں۔

مولف نحوی مسائل سے اس قدر دلچسپی لیتے ہیں کہ وہاں مفسر کے بجائے وہ نحوی نظر آتے ہیں۔

حوالہ دینے کی ضرورت نہیں کتاب کا کوئی مقام اس سے خالی نہیں۔

فقہی مسائل:

آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے مولف فقہاء کے مذاہب و دلائل بیان کرتے ہیں اور اس میں کسی کی طرف داری نہیں کرتے۔ ان کی بے تعصبی دیکھنے کے لیے مندرجہ ذیل آیت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں:-

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوْبٍ ۗ

مطلقہ عورتیں تین حیض یا طہر انتظار کریں۔

مولف نے اس آیت کی تفسیر میں شافعیہ و حنفیہ کے جداگانہ مذاہب و مسلک بیان کر کے ان کے دلائل پر روشنی ڈالی اور پھر لکھا ہے کہ:

”یہاں شافعیہ کا مسلک قوی معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص ان کے دلائل دیکھتا اور مخالفین کے اعتراضات کے جوابات ملاحظہ کرتا ہے وہ اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں ہوتا“

(روح المعانی، ج ۲ ص ۱۳۰)

اسرائیلیات:

تفسیر زبیر بصرہ کے غائرانہ مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوئی ہے کہ مولف اسرائیلیات اور مسوئے واقعات کو شدید نقد و جرح کا نشانہ بناتے۔ بلکہ بعض اوقات ان کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ دیگر مفسرین نے صحیح قرار دے کر اپنی تفاسیر کو ان سے بھر دیا ہے مثلاً آیت کریمہ:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا
امان میں سے بارہ محافظ مقرر کیے۔

(المائدہ - ۱۲)

اس کی تفسیر میں مولف نے بنوی سے روایت کر کے عروج بن عتق کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں:-

”لوگوں میں عروج بن عتق کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنے فتاویٰ میں حافظ ابن کثیر کا قول نقل کیا ہے کہ ”عروج بن عتق کا واقعہ کراک اور بسا اصل ہے۔ اس کراک کتاب نے وضع کیا۔ حضرت نوح کے عہد میں عروج نامی کوئی آدمی موجود نہ تھا اور نہ ہی کفار میں سے کوئی شخص مشرف باسلام ہوا۔“

حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ جن باتوں سے کسی حدیث کے موضوع ہونے کا پتہ چلتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صحیح شہادتوں سے اس کا بطلان واضح ہوتا ہے۔ مثلاً عروج بن عتق کا واقعہ تعجب اس شخص کی جلالت پر نہیں کرنا چاہیے جس نے اللہ تعالیٰ پر اقرار کیا اور یہ حدیث وضع کی۔ بخلاف ازیں حیرت انگیز واقعہ کا مورد وہ شخص ہے جو کتب تفسیر میں اس حدیث کو حکہ دیتا ہے اور اس کی پوزیشن واضح نہیں کرتا۔ دراصل ایسی احادیث زیادہ تر ان کتاب کی وضع کردہ ہیں جن کا مقصد انبیاء عظام کا مذاق اٹانا ہے۔ اس کے بعد آلوسی علمائے سلف کے اقوال نقل کر کے اس واقعہ کا بطلان ثابت کرتے ہیں۔“

(روح المعانی، ۶ ج - ص ۸۶)

قرآنت و ربط آیات و اسباب نزول:

آلوسی مختلف وجوہ قراءت بھی بیان کرتے ہیں مگر اس میں قراءت متواترہ کا الزام قائم نہیں رکھتے۔ بخلاف ازیں وہ ہر قسم کی قراءت ذکر کرنے میں باگ نہیں سمجھتے۔ وہ آیات و سورت کے ربط و تعلق اور اسباب نزول پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ لغوی معانی بیان کرتے ہوئے عربی اشعار سے احتجاج و استشہاد ان کے یہاں بہت عام ہے۔

صوفیہ تفسیر اور آلوسی:

آیات قرآنیہ کا ظاہری معنی و مفہوم بیان کرنے کے بعد مولف ان کے باطنی اور صوفیانہ معانی پر اظہار

خیال کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے روح المعانی اور نیشاپوری کی تفسیر کو صوفیہ کی کتب تفسیر میں شمار کیا ہے مگر یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ان کا مقصد صوفیانہ تفسیر تو یہی نہ تھی۔ بخلاف ازیں اس کی حیثیت تاریخی اور فنی ہے۔

بہر کیف علامہ آلوسی کی روح المعانی تفسیر قرآن کا بیش قیمت گنجینہ ہے جو سابقہ مفسرین کے اقوال و آراء پر مشتمل ہے۔ مزید برآں وہ علمائے تفسیر پر آزادانہ تنقید بھی کرتے ہیں جو ان کی ذہانت و فطانت کی آئینہ دار ہے۔ اگرچہ آلوسی کی علمی وسعت و جامعیت کا یہ عالم ہے کہ وہ بسا اوقات تفسیر کے دائرہ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تاہم کثرت علم و فضل کے باوجود ان میں اعتدال و توازن بھی پایا جاتا ہے جو ان کے مقصد سے دود نہیں جانے دیتا۔

الغرض یہ ہیں وہ تفسیر جو صحیح دماغ کا دائرہ میں محدود رہ کر تلمذ کی گئیں اس میں شبہ نہیں کہ اس طرز و انداز پر کچھ اور کتب تفسیر بھی تحریر کی گئی ہیں اور وہ بھی اہمیت و شہرت کی حامل ہیں۔ مگر خوف طوالت سے ان کو نظر انداز کر دیا۔ نیز اس لیے بھی کہ ان میں سے بعض تفسیر سہولت و دستیاب نہیں۔ میرا خیال ہے کہ مذکورہ صدر کتب تفسیر کا تنقیدی جائزہ ان کتب پر جرح و نقد کرنے سے بے نیاز کر دے گا۔

فصل چہام

مبتدعین کی تفاسیر

فرقہ ہائے اسلامی کا آغاز ظہور:

تفسیر قرآن عمدہ رسالت سے لے کر اربع تابعین کے عہد و عہد تک بڑی حد تک ایک ہی روش پر گامزن رہی۔ ہر چہچہ آنے والا دور اپنے سابقین سے بطریق روایت و سماع تفسیر قرآن اخذ کرتا رہا۔ ان تاریخی ادوار میں سے ہر دور میں نئے تفسیری رجحانات پیدا ہوتے چلے گئے جن کا قبل ازیں کوئی نشان نہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عمدہ رسالت سے جس قدر دوری ہوتی جلی گئی تفسیر قرآن کے غرض و خفاء کے پہلوؤں میں اضافہ ہوتا گیا۔ بنا بریں سرور ایام کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ تفسیر کی ضرورت ہمیش از ہمیش بڑھتی چلی گئی۔

تفسیر قرآن میں یہ اضافہ ان عقلی و اجتہادی انکار و نظریات کی بنا پر ہوا جن کی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو عقلی پہلو کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ تاہم عقلیت کا جو رجحان تفسیر میں پیدا ہوا تھا وہ قانون لغت اور حدود شریعت کے دائرہ کے اندر محدود تھا۔ یوں کیسے کہ اس پر عقلیت اور دین داری کے رنگ کا غلبہ تھا۔ اور ابھی وہ رائے محمود سے تجاوز کر کے رائے مذموم تک نہ پہنچا تھا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف فریق و مذاہب پیدا ہو گئے۔ ایسے علماء معرض ظہور میں آئے جو اپنے مذہب و مسلک کی نصرت و حمایت اور اپنے عقائد کا دفاع کرنے کے لیے ہر حیلہ اور وسیلہ کام میں لاتے قرآن کریم سب فرقوں کا ہدف اولین تھا۔ ہر فرقہ اپنے مخصوص انکار و معتقدات کے لیے قرآن ہی سے دلائل تلاش کرتا تھا۔ بقول "ہر جو نیکو یا بندہ" تلاش کرنے والے کو قرآن سے اپنے مطلب کی چیز ضرور مل جاتی۔ اور کچھ نہیں تو وہ قرآنی آیات کو اپنے انکار کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کرتا۔ اور بظاہر جو آیت اس کے عقیدہ سے متصادم ہوتی اس کی ایسے انداز میں تاویل کرتا کہ اس کا تضاد و تناقض باقی نہ رہتا یہاں سے مذموم رائے کا آغاز ہوا۔ نوبت بایں جا سید کہ لوگوں نے اپنے مذاہب و عقائد کی تائید میں ایسی تفاسیر لکھنے کی بنا ڈالی جن میں کلام ربانی کو ان کی انکار و عقائد کے سانچہ میں ڈھالا گیا تھا۔

ہم جانتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضعیف حدیث میں فرمایا تھا کہ میری امت
تینتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ سب دوزخی ہوں گے سوا اس فرقہ کے جو میری اور میرے صحابہ کی راہ پر گامزن
ہوگا جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ امت کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ
گئی۔ یہ فرقے باہم نفرت کرتے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں۔ اسلام اور اہل اسلام کے
لیے اس ضرر رساں تفریق و انتشار کا کامل ظہور دولت عباسیہ کے زمانہ میں ہوا۔ قبل ازیں منافقین کو چھوڑ
کر سب مسلمانوں میں کامل یکجا نگت پائی جاتی تھی۔ سب ایک عقیدہ پر متفق تھے اور کسی قسم کا اختلاف نہیں
پایا جاتا تھا۔ البتہ منافق لٹا ہر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور باطن کافر تھے۔ حضرت علیؑ و معاویہؓ کے
مابین جو اختلاف رونما ہوا۔ وہ منافقین کے فساد سے کم خطرناک تھا۔ تاہم اس سے فرقہ بندی کی
تعمیر بڑی ہوئی اور امت کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔

اہل اسلام میں نزاع و اختلاف کا ظہور اجتماعی امور سے ہوا جن کی بنا پر کوئی شخص کفر و بدعت
کی حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وفات فرمایا تھا "میرے پاس قلم و دوات
لاؤ تاکہ میں اسی تحریر لکھ دوں جس کی بنا پر تم گمراہ نہ ہو سکو" جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
"مہمپ دور سے بے فرار ہیں۔ اس لیے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں۔ ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔"
جب شمر و غل بڑھا تو حضور نے فرمایا "میرے پاس سے چلے جاؤ کسی نبی کے نزدیک جھگڑا کرنا مناسب نہیں"
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے سلسلہ میں بھی صحابہ کے یہاں اختلاف پیدا ہوا تھا
کہ کدہ آپ کا مولد و قبیلہ ہے اور یہاں احکام حج ادا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کدہ میں دفن کیا جائے۔ یا
مدینہ میں دفن کیا جائے اس لیے کہ مدینہ آپ کی ہجرت گاہ ہے اور یہاں کے رہنے والوں نے آپ کی مدو
کی تھی۔ ایک رائے یہ بھی تھی کہ آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا جائے۔ کیوں کہ وہاں اکثر انبیاء مدفون ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے بارے میں بھی سیدتیض نبی ساعدہ میں صحابہ کے مابین نزاع پایا ہوا تھا۔ اور
اسی قسم کے دیگر اختلافات جو صحابہ میں رونما ہوئے۔ مگر ان اختلافات سے مسلمانوں کے شیرازہ کے بکھر جانے
اور ان میں باہم بغض و عناد اور فتنہ و فساد پھوٹ پڑنے کا اندیشہ نہ تھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت تک معاملہ یونہی رہا۔ خلافت عثمانی کے آخری دور میں
کچھ لوگوں نے بغاوت کر کے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آخر کار جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں

یہ بڑی انتشار کا آغاز ہوا اور وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت عثمان کے فہماص کی طلب ہار ہوئی۔ پھر خلافت کی اساس پر حضرت علیؑ و معاویہؓ یا ہم نبرد آنا ہوئے۔ فریقین کے احوال و انحصار ان کا ساتھ دینے پر تل گئے۔ تحکیم کے مسئلہ کے بعد حضرت علیؑ کی جماعت میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ سترہ سال کا وقت ہے۔ اب آئندہ چار فرقوں میں بٹ گئی۔

(۱) - خوارج

(۲) - شیعہ

(۳) - مہر جیہ

(۴) - حضرت معاویہ اور بنو امیہ کے طرف دار۔ (تیسرے کذب المقتدری، ص ۱۰)

دوسرے دن اختلاف و انتشار کی یہ پہلی بڑھتی چلی گئی۔ حتیٰ کہ متاخرین صحابہ کے عہد میں فرقہ قدریہ کا ظہور ہوا۔ اولین شخص جس نے اس فرقہ کا سنگ بنیاد رکھا عبدالمعینی تھا۔ پھر اس سے خیلان دمشقی اور اس کے رفقاء نے انکارِ تقدیر کا عقیدہ اٹھایا۔ صحابہ میں سے اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر ان عباس انس ابو ہریرہ اور دیگر اکابر رضی اللہ عنہم بقید حیات تھے۔ وہ اس عقیدہ کی محنت زد وید کرتے تھے۔

مذکورہ صحابہ کے بعد حضرت حسن بصری کے عہد میں بصرہ میں انکارِ تقدیر سے متعلق واصل بن عطاء کا عقیدہ ظہور پذیر ہوا۔ اس نے حضرت حسن بصری کے ساتھ مناظرہ کیا اور ان کی مجلس سے الگ ہو گیا۔ اس وقت سے متزلزلہ الگ ہو جانے والے فرقہ منظر عام پر آیا۔ پھر دیگر ادیان و مذاہب مثلاً یہودیت نصرانیت مجوسیت اور ماہیہ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکا دینے کی کوشش کی۔ مثلاً عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کے ہمنوا۔ انہوں نے مسلمانوں میں فتنہ و انتشار پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور وہ اس مفسد میں بڑی مددگار کامیاب رہے۔

خلافت شقائق نے جن فرقوں کو جنم دیا تھا ان میں سے کچھ ایسے نیکے جنہوں نے غلو و ماہیہ سے کام لیا کہ ایسے عقائد گھڑ لیے جن کی اساس پر وہ دین اسلام کے دائرہ سے نکل گئے۔ مثلاً سیشو باطنیہ کے فرقوں نے ملول اور تاسخ (آواگن) کا عقیدہ ایجاد کیا۔ یہ اسلامی فرقوں میں شامل نہیں۔ دراصل یہ فرقہ تفرقہ و انتشار کی پہلی وسیع ہوتی چلی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بقول صاحب المواقف ملت اسلامیہ تتر فرقوں میں بٹ گئی۔ امام ابو المظفر اسماعیلی نے اپنی کتاب "التبصیر فی الدین" میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔

(المواقف، ج ۸ ص ۲۷۷ نیز التفسیر، ص ۱۵)

ان میں سے حسب ذیل پانچ فرقے زیادہ مشہور تھے۔

- | | |
|--|-----------------|
| ان پانچ فرقوں کے علاوہ دیگر فرقے مثلاً جبرہ - باطنیہ اور مشبہ انہی سے پھوٹ نکلے تھے۔ | ۱۔ اہل السنّت - |
| | ۲۔ معتزلہ - |
| | ۳۔ مرجئیہ - |
| | ۴۔ شیعہ - |
| | ۵۔ خوارج - |

یہ تھوڑا انتشار و خلفشار جو مسلمانوں میں نمودا ہوا اور جس نے ان کی دینی و سیاسی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا تھا۔ ہم اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ لوگ عہد رسالت میں اور اس کے بعد قرآن کریم کو پڑھتے سنتے اور اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس دور کے علماء اس کے سوا اگر کسی بات کا اہتمام کرتے تھے تو ان باتوں کا جن سے قرآن فہمی میں مدد ملتی ہے۔ مثلاً سبب نزول یا اشعار عرب کے ساتھ استشاد جس سے کسی قلیل الاستعمال لفظ یا اسلوبِ غامض کے معنی و مفہوم پر روشنی پڑتی ہے

ہم جانتے ہیں کہ عصرِ اول میں صحابہ فریق و مذاہب کے تصور سے بالاتر تھے۔ جب یہ تفرق و انقسام نمودا ہوا جس کے آغاز و انتشار پر ہم روشنی ڈال چکے ہیں تو ان فرقوں نے قرآن کو اپنے عقائد و افکار کی عینک سے دیکھنا شروع کیا اور اس کی تفسیر و تاویل اس انداز سے کرنے لگا کہ ان کے مخصوص نظریات سے متصادم نہ ہو۔ چنانچہ معتزلہ نے اختیار، صفات الہی اور حسن و قبح عقلی کے بارے میں جو موقف اختیار کیا قرآن سے اس کا اثبات کرنے لگے۔ جو آیات ان کے مذہب کے موافق نہ تھیں۔ ان کا تاویل کرتے۔ شیعہ اور دیگر فریق و مذاہب بھی اسی راہ پر گامزن رہے۔

البتہ ہمارے پاس ایسے ذرائع کی کمی ہے جن سے یہ پتہ چل سکے کہ ان فرقوں نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں کیا کام کیا تھا۔ ان فرقوں کی اکثر تفسیریں صفحہ کاغذات سے مٹ گئیں اور جو باقی ہیں نہایت قلیل اور نادر ہیں۔ اور وہ بھی سب اسلامی فرقوں کی نہیں بلکہ بعض کی محنت و کاوش کا ثمرہ ہیں۔

اسی طرح ان میں سے بعض فرقوں نے قرآنی آیات کی جو تاویلات کی ہیں وہ تفسیر اور طبعی کتب میں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں اور کہیں یکجا نہیں ملتی۔ بعض فرقے ایسے بھی ہیں جنہوں نے کللاً یا جزئاً سرے سے

کوئی تفسیر مرتب ہی نہیں کی۔ اس لیے تمام فرقوں کے تفسیری رجحانات پر روشنی ڈالنا مشکل ہے۔ لہذا صرف ان فرقوں کی تفسیری کاوشوں کو زیر بحث لایا جائے گا۔ جنہوں نے ایسی کتب کا ذخیرہ یا دکار چھوڑا ہے جن کے درس و مطالعہ کے بعد ان کے تفسیری نظریات کے بارے میں رائے قائم کی جاسکتی ہے۔

ہم قبل انہیں تفسیر بالرائی الجائز اہل سنت کی شہور کتب تفسیر پر تفصیلی نقد و تبصرہ کر چکے ہیں اب یہ بتائیں گے کہ دیگر فرقہ ہائے اسلامی کا موقف کتاب الہی کے بارے میں کیا تھا اور انہوں نے کون سی اہم کتب تفسیر و شرحیں چھوڑی ہیں۔

مقرر نہ کہ اور تفسیر قرآن متعلق ان کا موقف

مقررین کے مذہبی اصول:

اس فرقہ نے بنو امیہ کے عہد خلافت میں جنم لیا اور خلافت عباسیہ میں عرصہ دراز تک اسلامی فکر پر چھایا رہا۔ اس فرقے کا بانی واصل بن عطاء ہے جو خزان (سوت کا تنے والا) کے لقب سے مشہور تھا۔ یہ ششہر میں پیدا ہوا اور ۱۳۱ھ ہجری کو ہشام بن عبدالملک کے عہد خلافت میں فوت ہوا۔

بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بصریؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ دو رہا حاضر میں کچھ لوگ (خوارج) یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کبار کا مرتکب کافر ہے۔ ایک دوسرا فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایمان کی موجودگی میں گناہ سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے عبادت سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ حسن بصریؒ سوچنے لگ گئے قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتے۔ واصل بولا:

”میرا خیال ہے کہ کبار کا مرتکب نہ تو پورا مومن ہے اور نہ کافر۔ پھر ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر حضرت حسن کے تلامذہ کے سامنے اپنے عقیدہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا اس لیے مومن نہیں کہ یہ ایک مدحیہ نام ہے اور گناہگار ہونے کے اعتبار سے وہ مدح کا اہل نہیں ہے۔ اور وہ کافر بھی نہیں کیوں کہ کلمہ گواہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اعمال صالحہ بھی انجام دیتا ہے۔ ایسا شخص اگر بلا توبہ مر جائے تو بدی جہنمی ہوگا۔ اس لیے کہ آخرت میں صرف دو جماعتیں ہوں گی۔ ایک اہل جنت کی اور دوسری جہنمی لوگوں کی۔ تیسری کوئی جماعت نہیں ہوگی۔ اس کو متناہیٰ بلکہ عذاب دیا جائے گا۔“

یہ سن کر حضرت حسنؒ نے فرمایا: اِعْتَدِلْ عَنَّا “ (ہم سے الگ ہو جاؤ) بنا بریں ان کو معتزلہ کہا جانے لگا۔ معتزلہ کہو تقدیر و مقطلہ بھی کہا جاتا ہے۔ تقدیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ افعال العباد کو انسانی قدرت کی جانب منسوب کرتے ہیں اور تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ مقطلہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ صفات معانی کی نفی کرتے ہیں

سابقہ بیانات سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ اعتزال کے عقیدہ نے بصرہ میں جنم لیا اور جلد ہی عراق میں پھیل گیا۔ اموی خلفاء میں سے یزید بن ولید اور مروان بن محمد نے بھی معتزلی نظریات کو اختیار کیا۔ خلافت عباسیہ میں فقہ اعتزال کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ اس دور کے علماء اس کے خلاف سینہ سپر ہو گئے۔ اس دور میں معتزلہ کے دو بڑے مکتب فکر تھے۔ (۱) بصرہ کے دبستان فکر کی قیادت واصل بن عطاء کے ہاتھ میں تھی۔ (۲) مدرسہ بغداد کا قائد بشر بن معتمر تھا۔ ان دونوں مکتبہ ہائے فکر کے مابین بہت سے مسائل میں فکری نزاع پاتا تھا۔

معتزلہ کے اصول خمسہ:

یہ معتزلہ کے ابتدائی عقائد تھے۔ مگر یہ فرقہ بڑا ترقی پسند اور متحرک تھا۔ کسی ایک بات پر رکت جانے کا عادی نہ تھا۔ خود کو معتزلہ نے اپنے عقائد کو پانچ امور میں محدود و محصور کر دیا۔ ابوالحسن خیاط نے کتاب میں ان کا خلاصہ تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

کوئی شخص جب تک ذیل کے اصول خمسہ کا متفق نہ ہو معتزلی کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ وہ

اصول خمسہ یہ ہیں:-

۱- توحید (۲) عدل۔ (۳) عدلہ و عید۔ (۴) کفر و اسلام کی درمیانی منزل کا اقرار (۵) امر

بالمعروف و نہی عن المنکر۔

امام ابوالحسن اشعری اپنی کتاب "مقالات الاسلامیین" میں توحید کی وضاحت کرتے ہوئے

لکھتے ہیں:-

"توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شبیرہ نظیر سے پاک ہے۔ اس کی مثل کوئی چیز نہیں

اس کی سلطنت میں کوئی جگہ رکھنے والا نہیں۔ لوگ جن واقعات و حوادث سے دوچار ہوتے

ہیں۔ خدا کی ذات ان سے پاک ہے۔ وہ مضرت اور منافع دونوں سے بے نیاز ہے۔ وہ

ذلت و سرور اور نقص و بھروسے پاکیزہ ہے۔ وہ عورتوں کو چھونے سے منزہ ہے۔ نہ

اسے بیوی کی ضرورت ہے نہ بچوں کی۔

معتزلہ اپنے اس قاعدے کی بنا پر:-

(الف) قیامت کے عدنان رویت باری تعالیٰ کو محال سمجھتے تھے۔ کیونکہ اس سے خدا کی جمانیت اور جبت

لازم آئی ہے۔

(ب) اور یہ کہ صفات ذات سے غیر نہیں ہیں۔ ورنہ تعددِ قدام لازم آئے گا۔

(ج) اس پر مبنی قرار دیتے ہوئے وہ قرآن کو مخلوق سمجھتے تھے۔ کیونکہ وہ صفتِ کلام کو خدا کی صفت تسلیم نہیں کرتے تھے۔

۲۔ عدل :- عدل کا مطلب یہ ہے کہ خدا فساد کو نہیں چاہتا نہ افعالِ عباد کو پیدا کرتا ہے۔ لوگ خدا کے اوامر کو بجا لیتے ہیں۔ اس کے منہیات سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ اس قدرت کے باعث جو اللہ نے انہیں ودیعت کر دی ہے۔ خدا وہی حکم دیتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اسی بات سے روکتا ہے جس کو برا سمجھتا ہے ہونگی جس کا اُس نے حکم دیا اس کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ہر وہ برائی اچھی نہیں ہے جس سے اُس نے روکا ہے۔ وہ بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ نہ ان سے کام چاہتا ہے۔ جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے۔

۳۔ وعدہ و وعید :- وعدہ اور وعید کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی جزا دینا ہے اور بدی کی سزا اور یہ کہ کبیرہ گناہ کے ترکب کی توبہ کے بغیر مغفرت نہیں کرتا۔

۴۔ کفر اور اسلام میں درمیانہ درجہ :- معتزلہ کے شیخ واصل بن عطاء نے اس کی یوں وضاحت

کی ہے :-

”ایمان جبارت ہے۔ خصالی خیر سے جب یہ کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ یقین ہے۔ یقین ایک توصیفی نام ہے۔ چونکہ ناسق میں خصالی خیر کبھی جمع نہیں ہوتے لہذا وہ توصیفی نام کہا مستحق نہیں۔ پس اُسے یقین بھی نہیں کہا جائے گا۔ گمراہی سے اطلاق کا فر بھی نہیں کہتے کیونکہ وہ کلمہ شہادت کا قائل ہے۔ اور دوسرے افعال خیر بھی اس میں موجود ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر وہ دنیا سے اس طرح رخصت ہو کر کسی گناہ کبیرہ کا ترکب ہو چکا ہو۔ اور توبہ نہ کی ہو تو وہ دغنی ہے۔ اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کیونکہ آخرت میں صرف وہی فریق ہوں گے۔ ایک فریق جنت میں ہوگا اور دوسرا جہنم میں۔ البتہ اس کے ساتھ یہ رعایت کی جائے گی کہ غلاب کچھ کم کر دیا جائے اور اسے کافروں سے ایک درجہ اوپر رکھا جائے گا“

۵۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر :- معتزلہ کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مومنوں پر واجب ہے تاکہ دعوتِ اسلام اور ارشاد و تبلیغ کی نشرو اشاعت کی جائے جیسے بھی بن پڑے فقہ پر وہ تحریر سے جو یا سیف منان سے جیسا بھی صورتِ حال کا تقاضہ ہو۔

معتزلہ کے تفصیل عقائد و افکار معلوم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل کتب کی جانب مراجعت فرمائیں۔
(شرح المواقف۔ التبصیر فی الدین۔ الفرق بین الفرق از بغدادی۔ الملل والنحل شہرستانی
الفصل لابن حزم)

ہم قبل ازیں معتزلہ کے نشو و ارتقاء اور ان کے اصولِ خمسہ پر تبصرہ کر چکے ہیں۔ اب یہ بتائیں گے کہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں انہوں نے کون سا موقف اختیار کیا تھا۔ ان کے بڑے بڑے مفسرین کون تھے اور تفسیر قرآن کے سلسلہ میں انہوں نے کون سی کتب مرتب کیں؟

تفسیر قرآن اور معتزلہ

اصولی غمّسہ پر تفسیر کی اساس :

ہجرت قبل ازین بیان کر چکے ہیں کہ معتزلہ نے اپنے مذہب کی بنیاد اصولی غمّسہ پر رکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اصول اہل سنت کے مسلک سے ہم آہنگ نہیں جن کو معتزلہ اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرتے ہیں۔ لہذا اہل سنت سے نبرد آنا ہونے کے لیے ضروری تھا کہ معتزلہ اپنے مذہب و مسلک کو قرآن کی دینی اساس پر قائم کرتے۔ اس طرح یہ بھی نگویں تھا کہ عداوت و خصوم کے قرآنی دلائل کا ابطال کرتے۔ اس کا واحد طریقہ یہ تھا کہ قرآن کو اپنے عقائد کی عینک سے دیکھتے۔ اس کے الفاظ کو اپنے انکار و آراء کے تابع کرتے اور اس کی دینی تفسیر کرتے جو ان کے عقائد سے ہم آہنگ ہوتی۔

اس میں شک نہیں کہ تفسیر قرآن کو عقائد کے تابع کرنے کے لیے بڑی سمارت کی ضرورت ہے۔ اس میں عقل پر اعتماد کرنے کے بجائے عقل پر بھروسہ مطلوب ہے۔ تاکہ ایسا مفسر قرآن سے اپنا من مانا مطلب نکال سکے اور جو آیت اس کے خلاف ہو اس کی تاویل اس انداز سے کرے کہ وہ اس کے عقیدہ سے متصادم نہ رہے۔

معتزلی تفسیر کا قاری اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ انہوں نے تفسیر قرآن کو اپنے اصولی غمّسہ پر مبنی قرار دیا ہے۔ جو آیات ان کے عقائد سے متصادم تھیں۔ وہ ان عقل کو حکم مان کر تشابہات کے سلسلہ میں فیصلہ تسلیم کیا۔ حلال کہ علمائے سلف اقوال صحابہ و تابعین پر اکتفا کرتے تھے۔ جب تشابہات کی قربت آتی تو حرکت اختیار کرتے اور ان کا عظیم خداوند تعالیٰ کو تعویض کرتے۔

امادیت صحیحہ سے انکار :

حقیقت کے اس قبضہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ معتزلہ نے ان امادیت صحیحہ سے انکار کر دیا جو ان کے مذہبی اصول و قواعد سے عکس آتی تھیں۔ مزید برآں وہ تفسیر جس کا مدار و انحصار سب سے پہلے زندہ شعور و احساس ضم و ادراک کی سادگی اور بے تعلقی پر تھا۔ عقلی ڈھنگ سلیبی اور منطقی براہین و دلائل پر مبنی قرار دی جانے لگی۔ بعد از حقیقت کے غلبہ نے معتزلہ کی تفسیر قرآن کو بڑی حد تک متاثر کیا تھا۔ اور اس کے نتیجہ میں وہ بعض اہمات

اپنے عقائد سے مخالف احادیث میسر کر رہی کر دیتے تھے۔ تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معتزلہ احادیث کے خلاف تھے یا تفسیر ماثورہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ نظام نے اپنے معاصر مفسرین پر جو شدید نقد و جرح کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفسیر ماثورہ کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے۔

معتزلہ کے مکتب فکر میں نظام کو نہایت آزاد خیال تصور کیا جاتا تھا۔ نظام کے شمارہ شاگرد جلیغ نے مفسرین کے بارے میں اس کا مندرجہ ذیل قول نقل کیا ہے۔ ۱۔

”مفسرین کے اقوال کے فریب میں نہ آئیے۔ ان میں سے اکثر بلا روایت بے بنیاد بیانیہ کہتے ہیں۔ تفسیر جس قدر بھی عجیب و غریب اور زلی ہو۔ ان کے نزدیک اتنی ہی پسندیدہ ہے۔ اس ضمن میں عکرمہ کلبی سُدی حناک نقالی بن سلیمان اور ابو بکر اہم سب ایک ہی قسم کی پیٹھے بٹھے ہیں۔ میں ان کی تفسیر پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں جب کہ وہ آیت قرآنی ”مَنْ الْمَسْأُجِدَ لِلَّهِ“ (الجنۃ۔ ۱۸) کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ان سے وہ مساجد مروا تے جن میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ بلکہ اس سے پیشانی اور دہ اعضا مروا ہیں۔ جن پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہاتھ پیشانی ناک وغیرہ۔ اسی طرح آیت قرآنی ”إِنِّي الْإِبْرَئِيلُ كَيْفَ خَلَقْتُ“ الغاشیاء کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے اُونٹ اور ناقہ نہیں بلکہ بادل مروا ہیں۔ اسی طرح وہ متعدد آیات قرآنیہ کی عجیب و غریب تفسیر نقل کرتے ہیں۔“

(المیوان لجماعت، ۱۶۔ ۱۶۸)

زمنشہری اولین معتزلہ مفسر ہے جس سے ہم آشنا ہیں۔ چنانچہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں صحبت احادیث اور اقوال سلف نقل کرتے اور ان پر اعتماد کرتا ہے۔ جیسا کہ ان کی تفسیر کثافت کا کافی اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہے۔

حیرت انگیز دعویٰ:

معتزلہ نے یہ حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے کہ ان کے سب تفسیری اقوال عند اللہ مراد ہیں۔ اس ضمن میں ان کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ ہر جہد کا اجتماع حکم شرعی ہے۔ چنانچہ جب ایک ہی حادثہ کے بارے میں متعدد جہدیں اپنا جہاد گناہ اجتماعی فیصلہ صادر کریں تو ہر جہد کے حق میں اس کا اجتماع حکم ربانی تصور کیا جائے گا۔ جس آیت کی تفسیر کئی طرح ممکن ہو معتزلہ کے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی ایک ہی تفسیر صحیح ہو جس میں کسی غلطی کا احتمال

ذہب ۱. ای کے پیش نظر ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے جملہ تفسیری اقوال عند اللہ مطلوب و مراد ہیں۔ وہ پورے جرم و وثوق سے کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی تفسیر ان کے انکار و منقذات سے نہیں نکرائی۔

(التوضیح، ج ۲ - ص ۱۱۸)

معتزلہ کا دوسرا دعویٰ اہل سنت کے نزدیک درست نہیں۔ اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر آیت قرآنی کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی معنی مقصود و مراد ہے۔ اس کے علاوہ دیگر معانی جن کا احتمال ہے وہ اجتماع پر مبنی ہیں۔ وہ معانی بیان کر کے مراد الٰہی معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو حتمی و قطعی نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ مفسر وہ معنی اپنے اجتماع سے بیان کرتا ہے۔ اور اجتماع میں خطا و عصباب دونوں کا یکساں احتمال ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ عند اللہ ماجور ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر اجتماع صحیح ہو تو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اور اگر غلط ہو تو کم۔

معتزلہ کے نزدیک تفسیر میں لغت کی اہمیت :

تفسیر قرآن کے سلسلہ میں معتزلہ کے نزدیک عربی لغت اولین اصل و اساس ہے۔ یہ حقیقت اس وقت کھل کر سامنے آتی ہے جب معتزلہ ان قرآنی آیات کی تفسیر کرتے ہیں جو ان کے نزدیک بظاہر مقام اہمیت کے معانی ہیں۔ یا ان کے اصول و عقائد سے منکراتی ہیں۔ ان کی اولین کوشش اس معنی کا ابطال ہوتا ہے جو ان کے نزدیک مشتبہ ہے۔ پھر لغت کی مدد سے اس لفظ کے ایسے معنی ثابت کرتے ہیں جس سے اس اشتباہ کا ازالہ ہوتا اور ان کے عقیدہ کی حمایت و تائید ہوتی ہے۔ معتزلہ قرآنی الفاظ سے جو معانی مراد لیتے ہیں اس کے اثبات کے سلسلہ میں عربی لغت اور قدیم عربی اشعار سے استشہاد کرتے ہیں۔

مثلاً وہ آیات جن سے روایت باری تعالیٰ کا اثبات ہوتا ہے معتزلہ ان سے جا رگانہ معانی مراد لیتے ہیں۔ قرآن عزیز میں فرمایا :-

« وَجِئُوا يَوْمَئِذٍ نَاعِمًا إِلَىٰ رَبِّهَا نَاعِمًا »
 اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔

(القیامۃ - ۲۲ - ۲۳)

نیز فرمایا :-

« عَلَىٰ الْأَنبِيَاءِ يَنْظُرُونَ »
 انبیوں سے سارا یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے۔

(المتفقین - ۲۳)

اس آیت سے معتزلہ اہل السنّت کے برعکس دوسرا مفہوم مراد لیتے ہیں۔ ان کی یہ امکانی کوشش ہے کہ لغت کی مدد سے اس لفظ سے نکل کھڑے ہوں جس میں اس آیت نے ان کو مبتلا کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں ”نظر“ کے معنی رصّتِ ایزدی کی امید و توقع ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نظر کا لفظ عربی زبان میں صرف رویتِ مادی ہی کے لیے مستعمل نہیں بلکہ اس سے امید و توقع کا مفہوم بھی مراد لیا جاتا ہے۔

قرآنت متوازرہ میں تصرف :

بعض اوقات معتزلہ اپنے مخصوص عقائد کے پیش نظر فقہ قرآنی میں ایسا تصرف کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول قرآنت متوازرہ کے خلاف ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

« وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا » اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ہم کلام ہوئے۔

(النساء - ۱۶۴)

معتزلہ نے دیکھا کہ یہ آیت قرآنی ان کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ اور اس میں مجاز کا احتمال بھی باقی نہیں اس لیے کہ یہاں مصدر سے فعل کی تاکید ہو رہی ہے جس نے مجاز کے احتمال کو باقی نہیں رہنے دیا چنانچہ وہ آیت کو یوں پڑھتے ہیں ”وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى“ یعنی لفظ کو مفعول بنا کر منصوب اور موسیٰ کو زائل قرار دیتے ہیں۔ اب آیت کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ بعض معتزلہ اس میں لفظی تبدیلی پیدا نہیں کرتے البتہ یہ کہتے ہیں کہ ”تکلمہ“ کے معنی زخمی کرنے کے ہیں۔ لہذا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مسائب و حوادث میں مبتلا کر کے زخمی کیا جیلہ تراشی صرف اس لیے کی گئی ہے کہ آیت کا ظاہری مفہوم چونکہ ان کے عقیدہ کے منافی ہے لہذا اس سے قرار اختیار کیا جائے۔

(الکشاف، ج ۱ - ص ۳۹۶)

تفسیر کشاف و کبیر سے ایسی لاتعداد مثالیں ملتی ہیں کہ معتزلہ نے اپنے عقائد کے اثبات کے لیے قرآن کریم میں مختلف قسم کے تصرفات کیے ہیں۔ وہ گاہے اپنے نظریہ کے اثبات کے لیے لغت سے مدد لیتے تاکہ نص قرآنی ان کے عقیدہ سے یک رنگ و ہم آہنگ ہو جائے۔ یا کم از کم وہ اس کے تصادم و تضاد سے ہی بچ سکیں۔ بعض اوقات قرآنی آیت میں اس طرح تصرف کرتے کہ وہ خصم کے بجائے ان کی توبہ بن جاتی۔

معترضہ کے اس رویہ پر ابن قتیبہ کی تنقید:

محمد بن قتیبہ نے معترضہ کے اس طرز عمل پر شدید غیظ و غضب کا اظہار کیا، اور اپنی کتاب: "تاویل مختلف الحدیث" میں ان کو شدید نقد و جرح کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل سنت اور معترضہ کے مابین اس دور میں شدید رملہ برپا تھا۔ نیز یہ کہ شیوخ معترضہ اپنے انکار و عقاید کی ترویج و اشاعت کے سلسلہ میں قرآنی آیات کو ٹوڑنے مروڑنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔

ابن قتیبہ فرماتے ہیں :-

"معترضہ قرآن کریم کی عجیب و غریب تفسیر کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآنی آیات کی تاویل کر کے ان کو اپنے عقائد کے سانچہ میں ڈھال لیں؟

قرآن کریم میں فرمایا :-

« وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ »
اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو سوا لیا ہے۔

معترضہ کی ایک جماعت نے کرسی سے علم کا مفہوم مراد لیا ہے۔ اس کی دلیل میں شاعر کا یہ قول پیش کیا ہے :-

« وَلَا يَكْدُسِيُّ عَلَيْهِ اللَّهُ مَخْلُوقٌ »

(کوئی مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی)

اس شعر میں "يَكْدُسِيُّ" کے معنی بے گتہ کے ہیں۔ بنا بریں کرسی کے معنی بھی علم کے ہیں۔ مگر یہ بات

درست نہیں۔ اس لیے کہ آیت میں جو کرسی کا لفظ آیا ہے وہ غیر مہموز ہے۔ بخلاف ازیں شعر میں جو لفظ ہے وہ

مہموز ہے۔ اس لیے دونوں کا مادہ مختلف ہے۔ چونکہ معترضہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرسی کا اثبات نہیں کرتے

اس لیے وہ اس لفظ کی تاویل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک عرش کا مفہوم کرسی سے مختلف ہے۔ حالانکہ عرب عرش

سے چار پائی تخت اور مسقف (چھت دار) چیز مراد لیتے ہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

« وَرَفَعْنَا بَنِي إِدْرِسَ عَلَى الْعَرْشِ » اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔

(سورہ یوسف - 100)

فہرست حکیم میں ارشاد ہے :-

« دَلَّفَنَا هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا
لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ »
(سورہ یوسف - ۲۴) نزدیکتے۔

مقتزلہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس عورت نے بُرائی کا ارادہ کیا اور حضرت یوسف نے بھاگ جانے کا یا اس عورت کو پھینکے گا۔ مگر یہ مطلب اس لیے صحیح نہیں کہ اس کے آگے یہ الفاظ ہیں « لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ »، بقول مقتزلہ اس کے معنی یہ ہوتے کہ حضرت یوسف نے بھاگنے یا اس عورت کو پھینکے کا ارادہ تو کیا تھا۔ مگر جب اپنے رب کی بُرہان دیکھی تو اس کے پاس ٹھہر گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم درست نہیں۔

یہ بات از روئے لغت بھی غلط ہے کہ « هَمَّتْ بِفُلَانٍ وَهَمَّ بِئِي » (میں نے فلان شخص کا ارادہ کیا اور اس نے میرا) کا مفہوم یہ مراد لیا جائے کہ اس نے میری عزت افزائی کا ارادہ کیا اور میں نے اس کی تذلیل کا۔ یہ فقرہ اسی صورت میں درست سمجھا جائے گا جب « هَمَّ » (ارادہ) کی نوعیت متحد ہو۔ اور اس میں اختلاف نہ ہو۔

حدیث ابن قتیبہ نے اس کی متعدد مثالیں ذکر کی ہیں، مگر ہم انہی پر اکتفاء کرتے ہیں۔
(تاریخ مختلف الحدیث لابن قتیبہ، ص ۸۰)

حجاز کی جانب رجوع :

تفسیر قرآن کے سلسلہ میں مقتزلہ اکثر و بیشتر حجاز کے حاسن میں پناہ لیتے ہیں۔ جب کسی آیت کا ظاہری مفہوم انہیں اٹوٹا اور زالا دکھائی دیتا ہے، تو وہاں حجازی معنی مراد لیتے ہیں۔ مثلاً :
قرآن کریم میں فرمایا :-

« وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ مِيثَاقًا
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ »
اور جب تیرے رب نے نبی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی۔

(الاعراف - ۱۴۲)

نیز فرمایا :-

« إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى
ہم نے آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر امانت

السَّمَوَاتِ الْأَرْضِ الْجِبَالِ (احزاب-۷۲) پیش کی۔

معتزلہ ان آیات کو تمثیل اور مجاز پر محمول کرتے ہیں اور ظاہری مفہوم مراد لینے والوں کی تردید کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کمالِ أسلوب اور براعتِ نظم کے اعتبار سے ایک بلند پہاڑ ہے اور اس میں بذاتِ خود معتزلہ کے اختیار کردہ مجازات و استعارات کی گنجائش ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ حقیقی معنی ہر لفظ لینے سے کیا چیز مانع ہے؟ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ جب لفظ کا ظاہری مفہوم مراد لینا ممکن ہو تو اس کو مجاز پر محمول کرنا درست نہیں۔ تو پھر لفظ کو ظاہری اور متبادر معنی سے محروم کر کے مجازی معنی کس لیے مراد لینے جائیں؟ معتزلہ صرف اس لیے ظاہری مفہوم مراد نہیں لیتے کہ ان کے نزدیک یہ قدرتِ خداوندی سے بعید ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سابق الذکر آیات میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے قدرتِ خداوندی میں ان کی پوری پوری صلاحیت موجود ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آدم کی پشتوں سے اولاد کو کیسے نکالا اور پھر اُسے مخاطب کیا۔ نیز یہ کہ خداوند کریم نے وہ امانت آسمان وزمین اور پہاڑوں پر کیسے پیش کی؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے لیے بالائے ادراک ہے۔ اس ضمن میں صحیح طرزِ عمل یہ ہے کہ اس کی کنہ و حقیقت کا علم ذاتِ باری تعالیٰ کو تفویض کیا جائے۔ اس سلسلہ میں مزید بحث و تجسس زرخشتری کی تفسیر کثافت پر متمرکز کرنے سے ہونے لگے گی۔

دینی حقائق سے انکار:

بعض دینی حقائق جو مہربانِ سنت کے نزدیک ایک حقیقت ثابتہ کا درجہ رکھتے ہیں مگر معتزلہ ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ مثلاً اہل سنت حقیقتِ سحر کے قائل ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سحر اس سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح وہ جنات کے وجود کو تسلیم کرتے اور کہتے ہیں کہ وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں جنون اور مرگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اہل سنت کراماتِ اولیاء کے بھی قائل ہیں۔

چونکہ معتزلہ دینی حقائق کے بارے میں عقل کو معیار قرار دیتے ہیں اس لیے وہ ان سب باتوں کو خرافات اور لغتوراتِ باطلہ ٹھہراتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سحر ہونے کے بارے میں جو احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں معتزلہ یا تو ان کا انکار کرتے ہیں یا ان کی تاویل کرتے ہیں سورۃ الفلق چونکہ ان کے عقیدہ کے خلاف تھی اور اس سے سحر کا اثبات ہوتا تھا۔ اس لیے زرخشتری نے ان قائلین کے اسے اس کی گرفت سے چھینکارا حاصل کیا ہے۔

بعض اکابر معتزلہ مثلاً نظام نے جنات کے وجود سے صاف انکار کر دیا ہے۔ زنجیری جنات کے وجود کو مانتا ہے مگر انسان پر ان کے اثر انداز ہونے کو تسلیم نہیں کرتا۔ چنانچہ معتزلہ نے یوں کیا کہ جو آیات اس ضمن میں ان کے خلاف تھیں ان کی تاویل کر ڈالی۔ حادیرت نمبر جو اس سلسلہ میں وارد ہوئی تھیں۔ ان کی تاویل کی یا ان سے صاف انکار کر دیا۔ مثلاً بخاری کی یہ صحیح حدیث کہ جنات میں سے ایک شیطان حالت نماز میں آنحضرت کے سامنے آیا اور آپ کی توجہ نماز سے ہٹانی چاہی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطان پر غلبہ عطا کیا اسی طرح صحیح حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بوجہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھیڑتا ہے اور بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ و مریم اس سے مستثنیٰ ہیں۔

(کشاف، ج ۱، ص ۳۰۲)

قرآن حکیم میں فرمایا :-

«عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلٰی
غَيْبِهِ أَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی
مِنْ رَّسُوْلٍ» (الجن ۲۶-۲۷)

وہ غیب کا جاننے والا ہے اور کسی کو اپنے غیب سے اطلاع نہیں دیتا سوا اس رسول کے جس کو وہ منتخب کرے۔

زنجیری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں :-

«خداوند کریم غیب سے کسی شخص کو آگاہ کرتے ہیں جس کو رسالت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اس سے کرامات کا ابطال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اولیاء اگرچہ چسیدہ و برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں مگر ان کو رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا جاتا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ علم غیب سے صرف انہی لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے جن کا انتخاب رسالت کے لیے عمل میں آتا ہے۔ اس آیت میں کابنوں اور نوحہ موموں کی بھی تردید ہے۔ اس لیے کہ وہ لوگ بارگاہ الہی کے انتخاب کردہ نہیں ہوتے بلکہ نوری غضب ربانی ہوتے ہیں» (کشاف، ج ۲، ص ۲۹۷)

معتزلہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اہل سنت کے خلاف یہ مسلک اسی لیے اختیار کیا اور تفسیر قرآن میں عقل کو اسی بناء پر میاں ٹھہرایا ہے :- اگر بزم خویش دینی حقانیت کے دائرہ سے من گھڑت افسانوں اور قصے کہانیوں کو دور کر سکیں معتزلہ کے اس موقف کے پیش نظر اہل سنت نے ان پر غلیظ و غضب کا اظہار کیا ہے اور ان کو تحریف نصوص کا مجرم گردانا ہے۔ جیسا کہ قبل ازین ہم محدث ابن قتیبہ کا قول نقل کر چکے ہیں۔

امام ابوالحسن اشعری اور معتزلی تفسیر:

امام ابوالحسن اشعری معتزلہ کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں:-

”مگر وہ فرقوں نے قرآن حکیم کو اپنی خواہشات کے سانچے میں ڈھال لیا اور اس کی ایسی تفسیر کی ہے جس کی کوئی دلیل خداوند کریم نے نازل نہیں کی۔ نہ رسول کریم سے مروی ہے اور نہ اہل بیت سلف صالحین اور صحابہ و تابعین سے منقول ہے۔ یہ ذاتِ ربانی پر اقترا پر دوازی ہے۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ معتزلہ کی تفسیر ابوالہذیل علاف (چارہ فردخت کرنے والا) اور ابراہیم نظام (ارپرونے والا) جیسے لوگوں سے ماخوذ ہے۔ یہ لوگ الغرطی تجائی اور جاہلی اسکانی کے خوشہ چین ہیں۔“

(تبیہین کذب التقری، ص ۱۳۹)

معتزلہ کی تفسیر کے بارے میں امام ابن تمیمیہ کا فیصلہ:

شیخ الاسلام ابن تمیمیہ معتزلہ کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں:-

”معتزلہ پہلے ایک عقیدہ جمالیتے ہیں اور پھر قرآنی الفاظ کو اس کے تابع کرتے ہیں صحابہ و تابعین ائمہ مسلمین اور علمائے سلف میں سے کوئی بھی ان کے نظریات اور تفسیر کی تائید و حمایت نہیں کرتا۔ ان کی تفسیر کا بطلان مختلف وجوہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ بڑے شیریں مقال اور فصیح ہوتے ہیں، مگر اپنی عبارت میں بدعت کو اس طرح چھپا دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا۔ صاحب کشف کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی باطل تفسیر کو ایسے لوگوں میں رواج دیتا ہے جو باطل پرست نہیں ہیں میں نے ایسے علماء کو دیکھا ہے۔ جو ان کے فاسد نظریات کو اپنی کتب میں جگہ دیتے ہیں اور انہیں پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ معتزلہ کے اصول و عقائد ہیں۔“

(مقدّم اصول تفسیر، ص ۲۲)

معتزلہ کی اہم کتب تفسیر

معتزلہ کے متعدد مشائخ کبار نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں کتب مرتب کی تھیں، مگر دیگر تفاسیر

طرح مردِ ایمام سے وہ بھی ضائع ہو گئیں اور اسلامی مکتبہ اس علمی میراث سے محروم ہو گیا۔ اگر یہ تفاسیر کچھ موجود ہوتیں تو ان سے معترضی اکابر کی تفسیری کاوشوں کا تفصیلی پتہ چلتا اور یہ بات کھل کر سامنے آتی کہ ان کی تفسیری مساعی کے بارے میں جو مبالغہ آمیز بیانیں ہم سنتے آئے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں۔

امام سیوطی کی طبقات، المفسرین اور ان کی تلمیذ رشید داؤدی کی اسی نام کی کتاب اور اس موضوع سے متعلق دیگر کتب کی درجہ گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل شیوخ معترضانہ نے کتب تفسیر مرتب کی تھیں :-

- ۱ - ابو بکر عبدالرحمن بن کیسان اہم متوفی ۲۳۰ھ۔
- ۲ - شیخ ابراہیم بن اسماعیل بن علقمہ - یہ امام شافعی کے ساتھ مناظرہ کیا کرتے تھے۔ بقول ابن الندیم آپ نے ایک تفسیر مرتب کی تھی جو گرجا میں شمس زمانہ سے ضائع ہو گئی۔
- ۳ - محمد بن عبدالوہاب بن سلام الوعلی جہانی متوفی ۲۴۰ھ۔ یہ فلسفہ و علم الکلام میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ سیوطی لکھتے ہیں کہ آپ نے ایک تفسیر تحریر کی تھی۔ مگر یہ تفسیر بھی کہیں موجود نہیں۔

(الغریب، ص ۲۲۔ طبقات المفسرین ص ۵۰)

۴ - ابوالقاسم عبداللہ بن احمد بن حنفی جو کبھی کے نام سے معروف تھے۔ ۲۶۹ھ میں وفات پائی۔ حاجی خلیفہ لکھتے ہیں کہ آپ نے بارہ جلدوں میں ایک تفسیر مرتب کی تھی۔ مگر یہ تفسیر بھی مفقود ارضی سے ناپید ہو چکی ہے۔ (کشف الظنون، ج ۱، ص ۲۳۲)

۵ - ابوشامہ عبدالسلام بن ابی علی جہانی متوفی ۳۲۱ھ۔ سیوطی لکھتے ہیں کہ موصوف نے ایک تفسیر مرتب کی تھی جس کی ایک جلد میں نے ملاحظہ کی تھی۔ مگر آج کل یہ مفقود ہے۔ (طبقات المفسرین، ص ۲۳)

۶ - ابومسلم محمد بن بکر اصغری متوفی ۳۲۲ھ نے ایک تفسیر جامع التادیل حکم التنزیل، نامی تلمیذ کی تھی یہ تفسیر ۱۲ جلدوں میں اور بقول بعض علماء، بیستین مجلدات پر مشتمل تھی۔ غالباً یہ وہی تفسیر ہے جس سے امام مازنی ابومسلم اصغری کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ بعض مؤلفین نے تفسیر کبیر سے ابومسلم کے اقوال نقل کر کے ایک کتاب میں جمع کیے تھے۔ جس کا نام اس نے "تفسیر ابی مسلم الاصغری" تجویز کیا تھا۔ جامعہ قاہرہ کی لائبریری میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے جو ایک چھوٹی سے جلد پر مشتمل ہے۔

(الغریب لابن الندیم ص ۵۰، نسیۃ الرعاۃ ص ۲۳۔)

۷۔ ابوالحسن علی بن عیسیٰ الرمالی متوفی ۳۸۲ھ۔ یہ معتزلہ کے بڑے شیوخ میں سے تھے اور شیخ کی جانب اہل تھے سیوطی لکھتے ہیں کہ آپ نے ایک تفسیر مزین کی تھی جو میں نے دیکھی ہے۔ صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں کہ عبدالملک بن علی مؤذن حصر دی متوفی ۳۸۹ھ نے اس کا خلاصہ تیار کیا تھا، مگر یہ دستیاب نہیں۔ (طبقات، ص ۲۴۔ کشف الظنون، ج ۱، ص ۲۲۷)

۸۔ عبید اللہ بن محمد ابوالقاسم آسدی نحوی معتزلی متوفی ۳۸۷ھ نے قرآن کریم کی ایک تفسیر تحریر کی تھی۔ اس میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کے ایک سورتوں میں وجوہ اعراب ذکر کیے تھے۔ مگر یہ بھی مفقود ہو چکی ہے۔ (طبقات سیوطی، ص ۱۹)

۹۔ قاضی عبدالجبار بن احمد ہمدانی متوفی ۴۱۵ھ نے ”تنزیہ القرآن عن المطاعن“ کے نام سے قرآن کریم کی تفسیر زانیع کی تھی۔ یہ اہل علم کے مابین متداول ہے۔ مگر یہ تفسیر جلد آیات قرآنیہ پر مشتمل نہیں۔
۱۰۔ شریف مرتضیٰ علوی مشہور شیعہ عالم متوفی ۴۳۶ھ۔ آپ نے اپنی کتاب ”غرر الفوائد ودرر العقائد“ میں ان آیات پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے جو بظاہر مسلک اعتزال کے منافی نظر آتی ہیں۔

۱۱۔ عبدالسلام بن محمد بن یوسف قرظونی شیخ المعتزلہ متوفی ۴۸۳ھ۔ سیوطی لکھتے ہیں کہ قرظونی نے ایک نہایت مانع تفسیر تبسک کی تھی جو ضخامت و وسعت میں سب تفاسیر سے بڑی تھی۔ البتہ وہ تفسیر معتزلہ کے نقطہ نظر کی حامل تھی۔ یہ تین صدیوں بعد مجلدات پر مشتمل تھی جس میں سات مجلدات سورہ فاتحہ سے منعلق تھیں۔ ابن الجبار کہتے ہیں کہ قرظونی زبان دراز و درہم در تھا مگر محقق نہ تھا۔ البتہ تفسیر قرآن میں مہارت رکھنا تھا۔ اس نے پانچ صدیوں بعد مجلدات پر مشتمل ایک ضخیم تفسیر طہید کی تھی۔ اس نے ایک آیت ”مَا تَلَّوْا الشَّيْطَانِ“ کی تفسیر ایک جلد میں تحریر کی ہے۔ (طبقات الفسّرین سیوطی، ص ۱۹)

۱۲۔ ابوالقاسم محمد بن عمر زنجشیری متوفی ۵۳۸ھ۔ یہ معتزلہ کے نقطہ نظر کی حامل جامع ترین تفسیر ہے۔ یہیں مشہور ترین معتزلی مفسرین جن سے ہم آگاہ ہیں اور یہ ہیں ان کی تفاسیر! مقام انوس ہے کہ ان میں سے صرف مندرجہ ذیل تین تفاسیر ہم تک پہنچ سکی ہیں۔

(۱) تنزیہ القرآن عن المطاعن از قاضی عبدالجبار۔

(۲) امالی شیخ مرتضیٰ۔

(۳) کشاف زنجشیری۔

سلسلہ سورہ البقرہ، آیت ۱۰۲۔

نظر کریں ہم ان میں تفاسیر پر تفصیلی نقد و تبصرہ کریں گے اور اس انداز و اسلوب پر روشنی ڈالیں گے جس پر ان کے جاسمین کا سنن رہے۔ ان سے یہ حقیقت واضح ہوگی کہ معتزلی کا انداز تفسیر کیا تھا اور وہ اپنے افکار و معتقدات کے اثبات کے لیے قرآنی نصوص کی کس طرح تاویل کرتے تھے۔

۱۔ تنزیہ القرآن عن المطاعن ارفاضی عبد الجبار

تعارف مولف :

اسم گرامی عبد الجبار بن احمد کنیت ابوالحسن اور نسبت ہمدانی شافعی ہے۔ معتزلہ عمومات ان کو قاضی القضاة کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ابوالحسن بن سلمہ بن قطان عبداللہ بن جعفر بن فارس اور دیگر اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ اپنے عصر و عہد میں یکتائے روزگار تھے۔ طلبہ دور دراز سے آکر آپ سے استفادہ کرتے۔ ان کے تلامذہ کا علقہ نہایت وسیع ہے۔ جس میں ابوالقاسم علی بن حسن القنوجی و حسن بن علی الصمیری اور ابو محمد عبدالسلام قزوینی معتزلی مفسر جیسے اکابر کے اسماء شامل ہیں۔ مشہور صاحب علم وزیر صاحب بن عباد نے ۳۶۸ھ کے بعد آپ کو "رئی" کے شہر میں بلا کر قاضی مقرر کیا۔ آپ تادم واپسیں وہاں تدریس و اثناء کے فرائض انجام دیتے رہے۔ صاحب بن عباد کا کہنا ہے کہ قاضی صاحب عصر حاضر کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں :-

- ۱۔ کتاب الخلفاء والوفاق -
- ۲۔ کتاب المبسوط -
- ۳۔ کتاب الجیٹ -
- ۴۔ النہایہ والعمدۃ و شرحہ فی اصول الفقہ -
- ۵۔ نصیحة المتفقیۃ فی المواظ -
- ۶۔ دلائل النبوة و رد و جلد -

آپ کی علمی شہرت دور دور تک پہنچ گئی اور معتزلہ کی علمی قیادت و ریاست آپ کی ذات پر ختم ہو گئی تھی۔ آپ نے ذوقدہ ۴۱۵ھ میں وفات پائی۔ (طبقات المفسرین للسیوطی ص ۱۶ نیز شفا الذہب، ج ۳، ص ۲۰۲)

انما از تفسیر :- اس کتاب کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مولف نے اس کو

سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ اناس پر ختم کیا ہے۔ مگر وہ پوری سورت اور تمام آیات کی تفسیر نہیں کرتے دراصل یہ کتاب مسائل پر مبنی ہے۔ ہر مسئلہ سوال و جواب پر مشتمل ہے۔ یہ اشکال کا ہے آیت کے ظاہری الفاظ پر طرہیت کے اعتبار سے وارد ہونا ہے۔ اور کبھی اس لحاظ سے کہ وہ آیت مسلک اعتزال سے ٹکراتی ہے۔

قرآن کریم پر نحوی اعتراضات :

تفسیر زیر تبصرہ میں قرآن کریم پر جو نحوی اعتراضات وارد کر کے ان کے جوابات دیے گئے ہیں عہد اکثر و بیشتر وہی ہیں جو عام مفسرین اپنی تفاسیر میں ذکر کرتے ہیں۔ اس قسم کے اعتراضات تفسیر نزا کے اکثر حصہ میں ملتے ہیں۔ ہم اس میں سے صرف دو مثالیں بیان کرتے ہیں۔

سوال :- سورہ الفاتحہ میں فرمایا " اَلْحَمْدُ لِلّٰہ " اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ " اَلْحَمْدُ

لِلّٰہ " کو اگر خبر قرار دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہونے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی مدح و توصیف کرتے ہیں اور یہ بے کار ہے۔ اور اگر اس کو امر پر محمول کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعریف کرنے کا حکم دے رہا ہے تو عبارت یوں ہونی چاہیے تھی کہ " قُولُوا الْحَمْدُ لِلّٰہ "۔

جواب :- اس آیت میں دراصل حمد الہی کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر امر کا لفظ محذوف ہے۔

اس کی دلیل سورہ فاتحہ کی آیت " اِيَّاكَ نَعْبُدُ " ہے۔ اس لیے کہ بندہ ہی یہ الفاظ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں۔ لہذا جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ " اِيَّاكَ نَعْبُدُ " اسی طرح حمد الہی کا بھی امر صلا کیا گیا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن کریم میں بے شمار ہیں۔

(تفسیر زیر تبصرہ، ص ۴-۵)

سوال :- " لَا رَيْبَ فِيْہِہ " کے الفاظ پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بہت سے

لوگ قرآن حکیم کے کلام ربانی ہونے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر اس کے کیا معنی کہ " اس میں شک نہیں " اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوداس شخص کے نزدیک جو حقیقت حال سے آگاہ ہے۔ قرآن کریم میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس میں کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ شک کرنے والے تو دنیا میں موجود ہیں۔ پھر " لَا رَيْبَ فِيْہِہ " کتنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟

جواب :- اس عبارت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ قرآن حکیم حقیقی ہے۔ اس میں شک نہیں

کرنا چاہیے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص مخالفت کے سامنے کوئی چیز بیان کر کے کہتا ہے کہ :-

”یہ سورج کی طرح واضح ہے اور اس میں شکر کی کوئی گنجائش نہیں“

مؤلف اس قسم کے اعتراض وارد کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔

معتزلی عقائد پر اعتراضات اور ان کا ازالہ :

قرآنی آیات سے معتزلی عقائد پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ مؤلف ان کو ذکر کر کے جواب

دیتے ہیں۔ یہ اعتراضات تفسیر کے کافی حصہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم چند مثالوں پر اکتفا کریں گے۔

فتران کریم میں فرمایا :-

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ

اللَّهُ تَعَالَىٰ نَعَىٰ أُنْ كَسَ دُلُوعِ اَوْر كَانُونِ پَر مَر

لُكَادَىٰ -

نَمْبَعِيَعَمَ -

ہدایت و ضلالت :

سوال :- معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت سے محروم نہیں کرتا۔ مگر اس آیت

سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا کر ان کو ہدایت سے بہرہ ور نہیں کرنے

دیتا۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟

جواب :- مؤلف نے معتزلہ کی جانب سے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ خداوند کریم نے کفار

کی حالت کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس کے دل کانوں اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہو۔ اور

وہ کسی چیز کو دیکھ اور سن نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے سارے شکوک کو رفع کر دیا تھا۔ جب اس

کے باوجود وہ اسلام کو حق نہیں سمجھتے تو گویا ان کے اعضاء پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے

جس طرح آپ کسی شخص کو ہر طرح بھانے بھانے کی کوشش کریں اور وہ نہ سمجھے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ گدھا

ہے اور اس کے دل پر خدانے مہر لگا دی ہے۔ گاہے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے رسول کریم کو مخاطب کر کے فرمایا :-

اَبْ مُرُوْدُو كُونِيْس سُنَا سَكْتِي -

اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ اَلْسِنَتِي -

حالانکہ جن لوگوں کو اس آیت میں مُردہ کہا گیا ہے وہ زندہ تھے جب انہوں نے آپ کی دعوت

کو قبول نہ کیا تو وہ مُردے قرار پائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ندمت فرمائی۔ اور اگر اس نے

خود مگر گناہ کی ہدایت سے محروم کر دیا تھا تو ان کی مذمت نہیں کی جاسکتی تھی۔
اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ہدایت و ضلالت من جانب اللہ ہے۔ مگر معتزلہ اس کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے وہ اپنے عقیدہ کے اثبات کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔

میں شیطان :

قرآن کریم میں فرمایا :-

« نَجَلْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ (الناس - ۱-۲) ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔

سوال :- اس آیت کی تفسیر میں مولف لکھتے ہیں ”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان میں ایسی کوئی قدرت نہیں پائی جاتی۔“

جواب :- معتزلہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جن انسان دوسرے ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان جو دوسرے ڈالتا ہے اس کے ذریعہ دوسرے شخص کو پناہ بنا سکتا ہے نہ اس کی عقل و جوش میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ شیطان کا بھی یہی حال ہے۔ تاہم دونوں کے دوسرے سے ضرر ضرور پہنچتا ہے جس سے خدا کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معتزلہ کا یہ نظریہ درست ہے کہ انسان فعل مختار ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی انسان میں تمام برائیوں کو پیدا کرتا ہے، تو پھر پناہ طلب کرنے کے کیا معنی؟ کیونکہ جب وہ انسان میں گناہوں اور ضرر رساں امور کو خود جنم دیتا ہے، تو پناہ طلب کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ یہ اسی صورت میں مفید ہے جب بندہ مختار ہو اور بذات خود گناہ کا ارتکاب کرتا ہو۔“

(تفسیر زیر تبصرہ، ص ۲۸۵)

رُویتِ خداوندی :

معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت میں رُویتِ خداوندی ممکن نہیں۔ اس لیے جس آیت سے بھی رُویت کا اثبات ہوتا ہے۔ قاضی عبدالجبار اس کی تاویل کرتا ہے۔
قرآن کریم میں فرمایا :-

رَلَّيْنَا مِنْ أَحْسَنُ الْوَأَحْسَنُ وَ جی لوگوں نے نیک کام کیجئے ان کو بھلائی ملے گی
زَيَادَةٌ ۶ - یولس ۱۲۶ اور کچھ زیادہ انعام بھی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں "زَيَادَةٌ" سے رُویتِ باری تعالیٰ مراد ہے۔

قاضی عبدالجبار اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ "زَيَادَةٌ" سے اجر و ثواب میں اضافہ مفہوم ہے۔ اس ایسا آیت سے رُویتِ خداوندی پر استدلال درست نہیں۔ اس استدلال کے درست نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رویتِ خداوندی اہل سنت کے نزدیک ہر قسم کے اجر و ثواب سے بڑھ کر انعام ہے۔ پھر اس کے ذریعہ "أَلْحُسْنَى" (بھلائی) پر اضافہ کیسے ممکن ہوگا؟
(تفسیر زیر تبصرہ، ص ۱۵۹)

افعال العباد :

معتزلہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے افعال کا خالق قرار نہیں دیتے اس لیے جن آیات سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ افعال العباد خدا کے پیدا کردہ ہیں معتزلہ ان کی تاویل کرتے ہیں قرآن کریم میں فرمایا :

”فَلَمَّا تَقَالُتْهُمْ دَخَلْنَا اللَّهُ
فَمَنَّهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ“ (الانفال - ۱۱۷)

سوال :- مولف کہتے ہیں، اس آیت کے پیش نظر معتزلہ کا یہ عقیدہ کیوں کر درست

ہے کہ اللہ تعالیٰ افعال العباد کا خالق نہیں۔ حالانکہ اس آیت میں صحابہ کے فعل قتل اور نبی کریم کے تیر پھینکنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا ہے ؟

جواب :- قاضی عبدالجبار اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تیر پھینکتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تیر میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ اس سے کفار مقتول ہوئے لہذا خداوند کریم نے رمی (تیر اندازی) کے فعل کو پہلے نبی کریم کی طرف اور پھر اپنی طرف منسوب کیا۔ خلاصہ یہ کہ قاضی عبدالجبار تفسیر زیر تبصرہ میں امکانی حد تک معتزلی نظریات کو ثابت کرنے کی

کوشش کرتے ہیں۔ جہاں کسی آیت کو اپنے نظریات کے خلاف پاتے ہیں اس کی تاویل کر کے اپنے عقیدہ کے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ اگرچہ یہ تفسیر بڑی حد تک معتزلی افکار و معتقدات کی آئینہ دار ہے تاہم اس میں قرآن کریم کی ظاہری عبارت پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا اور قرآن عزیز کے اعجاز و بلاغت اور عبارت حسن و جمال کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر ایک جلد میں چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔

۲۔ امامی الشریف المرتضیٰ

غُرَرُ الْفَوَائِدِ وَ دُرَرُ الْقَلَائِدِ

تعارُفِ مَوْلَفِ :

نام و نسب ابو القاسم علی بن طاہر الواحد حسینی بن موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم۔ یہ الشریف المرتضیٰ کے بھائی اور عراق میں رئیس الشیعہ تھے۔ شیعہ ہونے کے ساتھ ساتھ کٹر مغنزی تھے۔ کلام و ادب و شعر میں امامت کے درجہ پر فائز تھے۔ الشیخ الحنفیہ سے استفادہ کیا۔ مشہور کذاب سہل دیباچی سے حدیثیں روایت کیں۔

شیعہ مذہب پر متعدد کتابیں تحریر کیں۔ اصول الدین کے موضوع پر ایک مقالہ لکھا۔ اپنے اشعار پر مشتمل ایک دیوان مرتب کیا۔ کتاب الامالی میں جس کو ”غُرَرُ الْفَوَائِدِ وَ دُرَرُ الْقَلَائِدِ“ بھی کہتے ہیں۔ معتزلی تفسیر اور حدیث و ادب کو یکجا کر دیا۔ حضرت علی کی جانب جو ”نہج البلاغۃ“ منسوب ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا وہ مولف کی جمع کردہ ہے یا ان کے بھائی شریف المرتضیٰ کی ہر کیف مولف اپنے عصر و عہد میں شیعہ کے امام الائمہ تھے۔ ۳۵۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۳۶ھ کو وفات پائی۔

(وفیات الاعیان، ج ۲۔ ص ۱۴)

مولف کے بھائی شریف المرتضیٰ متوفی ۴۳۶ھ نے بھی قرآن کریم کی ایک تفسیر ”حقائق التاویٰ و فی مشاہیر التنزیل“ نامی مرتب کی تھی۔ یہ تفسیر شریف المرتضیٰ کی الامالی زیر تبصرہ کے انداز پر تھی۔ چونکہ یہ ناپید ہے اس لیے اس پر تفصیلی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ البتہ اس کی پانچویں جلد طبع ہو چکی ہے۔ ابن حجر کلا شریف المرتضیٰ کے اُستاد ابن حنفی سے نقل کرتے ہیں کہ شریف نے سمانی القرآن کے موضوع پر ایک نادر کتاب تلمیذ کی تھی جس سے ان کی مہارتِ نحو و لغت کا پتہ چلتا ہے۔

(وفیات الاعیان، ج ۲۔ ص ۳۶۴)

اسلوب نگارش :

زیر تبصرہ کتاب مولف کے لکچروں پر مبنی ہے جو انہوں نے انجی مجالس میں دیے۔ یہ لکچر تفسیر و حدیث اور ادب سے متعلق ہیں۔ یہ ایک مفید کتاب ہے جس سے مولف کے تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے یہ پورے قرآن حکیم کی تفسیر نہیں ہے۔ اس میں صرف انہی آیات کی تفسیر کی گئی ہے جو کسی نہ کسی طرح مسلک و اہتمال کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں۔ اس کے تفصیلی مطالعہ سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس دور میں معتزلہ قرآن حکیم کی تفسیر کس طرح زور انداز سے کرتے تھے۔ نیز یہ کہ مولف نے معتزلی عقائد کی نصرت و حمایت کے سلسلہ میں قرآنی آیات کو کس طرح زور امر و ظرا اور اپنے عقائد سے ہم آہنگ کرنے کی سعی لاحقہ حاصل کی ہے۔

کتاب اللامانی پر ہمارا نقد تبصرہ صرف اس کے تفسیری پہلو سے متعلق ہے۔ جہاں تک اس کے ادبی اور حدیثی گوشہ کا تعلق ہے وہ ہمارے تبصرہ کے موضوع سے خارج ہے۔ اگرچہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اصحاب علم کے مابین اس پہلو کی علمی و ادبی اہمیت بھی کچھ کم نہیں۔ مولف کا انداز تفسیر یہ ہے کہ وہ معتزلہ کے مخصوص نظریات کو نمایاں حیثیت دے کر قرآنی آیات سے ان کا اثبات کرتے ہیں۔ جو آیت ان معتزلی افکار سے متعارض ہوتی ہے۔ ان کو اپنے نظریات کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے اکثر معتزلی عقائد و افکار کو موضوع بحث بنایا اور ان کے اثبات میں داروشہ آیات کی تاویل اس انداز سے کی ہے کہ وہ آیت بظاہر معتزلہ کے زاویہ نگاہ سے ہم آہنگ نظر آتی ہے۔

مثلاً رویت خداوندی کے انکار اور حریت افعال کے موضوعات پر مولف نے کھل کر گفتگو کی اور اس ضمن میں داروشہ آیات کی معنوی تحریف کی ہے۔ تفسیر زیر تبصرہ کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ مولف دیگر معتزلہ کی طرح آیات کے اس ظاہری مفہوم کو رد کر دیتا ہے جو بظاہر قدر سے بعید نظر آتا ہے۔ حالانکہ اہل السنۃ کے نزدیک وہی مفہوم صحیح اور درست ہوتا ہے وہاں وہ یا تو اس لفظ کو کسی دوسرے مفہوم پر محمول کرتا ہے۔ جس میں ندرت و غرابت نہیں ہوتی۔ اور یا اس کو تمثیل و استغناء قرار دیتا ہے۔

یہ امر قابل ملاحظہ ہے کہ مولف شیعہ ہے۔ تاہم تفسیر میں تشیع کا کوئی عنصر نہیں

پایا جاتا۔

بخلاف ازیں مولف یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ معتزلہ کے اصول و عقائد ائمہ اہل بیت سے ماخوذ ہیں۔ اس ضمن میں وہ جو اخبار و واقعات نقل کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک قرین صحت و صواب ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ زیر تبصرہ کتاب "الامانی" اگرچہ پورے قرآن کریم کی تفسیر نہیں تاہم آخری حد تک معتزلی عقائد کی نمائندہ و ترجمان ہے۔

۳۔ الکشاف عن حقائق التنزیل از زحمتی

سیرت کا اجمالی خاکہ :

نام نامی محمود بن عمر کنیت ابراہیم القاسم، نسبت خوارزمی حنفی متزنی ہے۔ چونکہ آپ عرصہ دراز تک مکہ میں مقیم رہے تھے اس لیے ”جاء الله“ (اللہ کا پڑوسی) کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ۴۶ھ کو بمقام زحمتی ماہ رجب میں پیدا ہوئے۔ زحمتی خوارزم کے علاقہ میں ایک گاؤں کا نام ہے، وارد بغداد ہوئے اور وہاں اکابر علماء سے کسب فیض کیا۔ کئی مرتبہ خراسان آئے۔ آپ جہاں بھی جاتے لوگ جوق در جوق جمع ہو کر آپ سے علمی استفادہ کرتے۔ جس شخص سے بھی مناظرہ کرتے وہ آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیے بغیر نہ رہتا۔ آپ بلا نزاع و جدال اپنے عصر و عہد کے یکتائے روزگار عالم اور امام فن تھے۔ اور اس میں کچھ تعجب بھی نہیں۔ آپ تفسیر و حدیث نحو و لغت اور ادب میں علیم المثال تھے اور کوئی شخص اس دور میں ان کا حریف نہیں ہو سکتا تھا۔

آپ کی مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں :-

- (۱)۔ تفسیر کشاف، (ذریعہ صبر)
 - (۲)۔ المحاجة فی المسائل النحویة۔
 - (۳)۔ المهدد والمركب فی العدیۃ
 - (۴)۔ القائل فی تفسیر الحدیث
 - (۵)۔ اساس البلاغة فی اللغة
 - (۶)۔ المفصل فی النحو
 - (۷)۔ دؤس المسائل فی الفقه
 - دو دیگر تصانیف۔
- ابن حلیکان رقم طراز ہیں :-

” زمخشری معتزلی تھے اور اپنے عقائد کا برملا اظہار کرتے تھے۔ منقول ہے کہ جب وہ کسی دوست کی ملاقات کے لیے جاتے، تو اجازت لیتے وقت نوکر سے کہتے اپنے آقا سے کیسے کہ ابوالفاسم معتزلی ہننے کے لیے آئے ہیں۔ جب تفسیر کشاف کا آغاز کیا تو خطبہ میں لکھا ”الحمد لله الذي خلق القرآن“۔ ان سے کہا گیا کہ لوگ اس تفسیر کو پسند نہیں کریں گے۔ کیوں کہ آپ نے شروع ہی میں ”مضلق“ کے لفظ سے اپنے معتزلی عقیدہ کا اظہار کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تبدیل کر کے ”جعل“ لکھ دیا اور وہ بھی ان کے نزدیک ”خلق“ کا مترادف ہے۔“ (ذیات الاعیان)

زمخشری نے مکہ سے واپس آکر ۵۲۸ھ میں مقام جرجانہ خوارزم میں شب معرفت پائی۔

زمخشری کے تفصیلی تعارف کے لیے ملاحظہ فرمائیے۔

(ذیات الاعیان، ج ۲، ص ۵۰۹۔ شذرات الذهب، ج ۳، ص ۱۲۱۔ طبقات المفسرین

للسیوطی ص ۴۱)

تفسیر کشاف کا علمی مقام:

اگر معتزلی نظریات سے صرف نظر کر لیا جائے تو کشاف ایک ایسی تفسیر ہے جس سے پہلے اس قسم کی تفسیر مرتب نہیں ہوئی تھی۔ اس میں قرآن حکیم کے وجوہ العجاز اور قرآنی عبارت و بلاغت پر نہایت عمدہ انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمخشری صحیح معنی میں اس کے اہل بھی تھے۔ وہ متعدد علوم و فنون میں اپنے قرآن و دلائل پر فائق تھے۔ وہ عربی زبان و اشعار کے یکتائے روزگار فاضل تھے۔ علوم بلاغت بیان و اعراب اور ادب میں اپنا تاننا نر رکھتے تھے۔ ان کے علمی تفوق کی جھلک تفسیر کشاف میں دیکھی جاسکتی ہے۔ کشاف کے اسی پہلو نے علماء و مفسرین کو اس کا فریفتہ بنا دیا ہے۔

زمخشری اس بات کا فخری احساس رکھتے تھے کہ مفسر قرآن کے لیے علم معانی و بیان میں مہارت نہایت ضروری ہے۔ کشاف کے مقدمہ میں انہوں نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اسی مہارت کے زیر اثر وہ نہایت طویل مدت میں ایسی گراں قدر تفسیر مرتب کر سکے۔ مقدمہ میں لکھا ہے کہ میں نے یہ تفسیر اتنی مدت میں ختم کی جو خلافتِ صدیقی کے عہد کے برابر ہے۔ دو سال تین ماہ اور نو راتیں حلال کہ میرا اندازہ تھا کہ یہ تفسیر ۳۰ سالوں میں اتمام پذیر ہوگی۔ بقول زمخشری یہ حرم محترم کے جوار کا فیضان ہے۔

حاجی خلیفہ کے قول کے مطابق یہ تفسیر ربیع الآخر ۵۲۸ھ میں مکمل ہوئی۔

(کشف الظنون، ج ۲ - ص ۱۷۲)

زمنشری کو تفسیر کشفان پر بڑا ناز تھا۔ وہ اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

ان النفاس بد فی الدنيا بلاحد
ان كنت تبغى الهدى فالزم تواءم
ولیس فیہا لعمری مثل کشفانی
فالجعل کالداء والکشفان ککشافی

(کشف الظنون، ج ۲ - ص ۱۷۳)

- (۱) دنیا میں لاتعداد کتب تفسیر ہیں، مگر میری زندگی کی قسم کشفان جیسی ایک بھی نہیں۔
- (۲) اگر تو ہدایت کا طلب گار ہے تو اسے پڑھنا۔ اس لیے کہ جہالت ایک بیماری ہے جس سے کشفان شفا بخشتی ہے۔

بلاشبہ و شبہ زمنشری کا فخر بجا ہے اور وہ اس ضمن میں ہرگز قابل ملامت نہیں۔ اس

لیے کہ یہ تفسیر اپنے باب میں منفرود ہے اور تفسیر کے علماء و طلب کی نگاہ میں علم کا ایک پہاڑ ہے۔ اس کی حد یہ ہے کہ زمنشری کے دشمن بھی اس کی برتری و تقویٰ کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ تفسیر کشفان پر جو نقد و جمع کی جاتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلکِ اعتزال کی نمایندہ ترجمان ہے۔

کشفان کے بارے میں علماء کے اقوال:

شیخ حیدر صدیقی لکھتے ہیں:-

”تفسیر کشفان ایک گراں قدر اور عظیم النظیر تصنیف ہے۔ مگر مفسر نے چند ایسی باتوں کا

التزام کر رکھا ہے جن کی وجہ سے اس کا حسن و جمال داغ دار ہو گیا ہے، وہ حسبِ ذیل ہیں:-

(۱) مولف جب ایسی آیت کی تفسیر کرتا ہے جو اس کے مسلک کے خلاف ہوتی ہے تو وہ

تکلف و تعسف سے کام لے کر اس کی معنوی تعریف کرتا ہے۔ وہ حسبِ ضرورت

ہی اس سے کام نہیں لیتا۔ بلکہ کشفان میں ایسی تاویلات کی بھرمار ہے۔

(۲) زمنشری صاحبین و اولیاء پر زبانِ طعن و راز کرتا ہے۔ امام رازی نے زمنشری کو اس

ضمن میں بدعتِ تنقید بنایا ہے کہ وہ گستاخی اور سوء ادب کا ترکیب ہوتا ہے۔

(تفسیر کبیر زیر آیت محمدیم و محمدونہ - المائدہ - ۵۳)

(۳) - کشف میں کثرت ایسے اشعار درج کیے گئے ہیں جو تفسیر و مزاح پر مبنی ہیں اور اس قابل نہیں کہ ان کو تفسیر قرآن میں جگہ دی جاتی۔

(۴) زرخشری فرقة ناجیہ اہل سنت کا ذکر اکثر لغت و محقات کے انداز میں کرتا ہے۔ کہیں ان کو جبریہ اور کہیں کفار و ملاحدہ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ طرز و انداز علماء کے شایان شان نہیں۔ (کشف الظنون، ج ۲ - ص ۱۷۶)

مشہور نحوی اور مفسر ابو حیان لکھتے ہیں :-

” زرخشری اگرچہ تفسیر قرآن میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ تاہم ان کی تفسیر میں قابل تنقید باتوں کی بھرمار ہے۔ ان باتوں سے احتراز ضروری ہے۔“

(البحر المحیط، ج ۷ - ص ۸۵)

فلسفہ تاریخ کے بانی علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں :-

” زرخشری کی کشف تفسیر کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ مگر اس کا مصنف معتزلی ہے اور اپنے فاسد نظریات کے حق میں دلائل و شواہد پیش کرتا ہے۔ اس لیے محققین اہل سنت اور جمہور اس کو بنظر استحسان نہیں دیکھتے۔ حالانکہ وہ ادب و بلاغت میں زرخشری کی برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ تفسیر کشف کا قاری اگر اہل سنت کے افکار و آراء سے بخوبی آگاہ ہو تو اس کے لیے کشف کا مطالعہ چنداں ضرور رساں ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہمیں عصر حاضر میں عراقی محمد کے ایک مصنف شرف الدین الطیبی کی شرح کشف کا پتہ چلا ہے۔ یہ شرح نہایت مفید ہے۔ مصنف نے دلائل کی روشنی میں معتزلی نظریات کا ابطال کیا ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم کی بلاغت اہل سنت کے نقطہ نگاہ سے واضح ہوتی ہے معتزلی نظریات سے نہیں۔ مصنف جملہ علوم بلاغت میں ماہر نظر آتے ہیں“ (مقدمہ ابن خلدون - ۲۹۱)

علامہ تاج الدین السبکی فرماتے ہیں :-

” کشف اپنے باب میں عظیم کتاب ہے اور اس کا مصنف امام فخری ہے۔ مگر وہ مبتدع ہے اور علانیہ اپنی بدعت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ انبیاء کا گستاخ ہے اور اہل سنت

کے حق میں بزرگانی سے کام لیتا ہے۔ والد محترم علامہ تقی الدین البکی مجھے کشف پڑھایا کرتے تھے۔ جب سورۃ مکویر کی آیت ”إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهٍ لِّمَنْ كَانَ عَلَيْهِمْ تَوَكُّفٌ مِنْ رَبِّكَ لِيُؤْذِنَكَ فِي الْأَسْبَابِ“ کشف پڑھانا بند کر دیا۔ آپ نے ایک رسالہ ”سبب الالکفان عن إقراء الالکشاف“ نامی تحریر کیا۔ اس میں لکھا کہ میں نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ۳۳ ”عَفَا اللَّهُ عَنْكَ“ اور سورۃ التحریم کی آیت نمبر (۱) ”لَعَلَّكُمْ مَتَّعْتُ اللَّهُ نَفْسًا“ کی تشریح تفسیر کشف میں ملاحظہ کی۔ مصنف نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس لیے میں نے اس کتاب کی تدریس نبی کریم ﷺ سے حیا کرتے ہوئے ترک کر دی“ (المنافج النخیریۃ، ص ۳۱۰)

ہر دور کے علماء و فضلاء نے کشف کو اپنی توجہات کا مرکز بنایا۔ بعض نے اس کے معتزلی نظریات کو الگ کر کے تحریر کیا۔ بعض نے اس کے وجوہ اعراب کو بحث و تمحیص کا موضوع بنایا۔ بعض نے اس پر حواشی لکھے۔ اس کی اہادیث کی تخریج کی اور ان پر نقد و جرح کی۔ بعض نے اس کا خلاصہ تیار کیا۔ خوف طوالت سے کشف کے شروع و حواشی کی تفصیل کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ امر پیش نظر رہے کہ تفسیر کشف کا مفید ترین حاشیہ وہ ہے جو علامہ شرف الدین حسن بن محمد الطیبی متوفی ۷۴۲ھ نے قلمبند کیا۔ یہ چھ ضخیم جلدات پر پھیلا ہوا ہے۔ ابن خلدون نے اسی کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس کا نام ”فتوح الانیب فی اکشف عن فناع الازیب“ ہے۔ کشف کے شروع و حواشی کی تفصیلات کے لیے حواظ فرمائیں (کشف الطنون، ج ۲، ص ۱۵۳)

زغشری کے موافق و مخالف علماء نے جس کثرت سے کشف پر شروع و حواشی تحریر کیے ہیں وہ اس امر کا زندہ ثبوت ہیں کہ یہ اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے۔ حق بات یہ ہے کہ زغشری اس میں حدود درجہ کا میاں رہے ہیں۔ اس کا میاں کا انحصار صرف اس بات پر نہیں کہ متقدمین معتزلہ کے اقوال معلوم کرنے کیلئے کشف سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اس لیے کہ موافق و مخالف سب اس تفسیر کو اولین و اساسی کتب میں شمار کرتے ہیں۔ جس طرح تفسیر ابن جریر طبری تفسیر بالماثور کے بلند و بالا مقام کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسی طرح تفسیر کشف معتزلی تفسیر کی ترجمان و علم بدار ہے اس لیے کہ معتزلہ کی کتب تفسیر میں سے یہ تنہا کتاب ہے۔ جو لوہد سے قرآن کریم پر مشتمل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے۔ اور

اس کے ساتھ ساتھ جو معتزل نظریات کی جامع اور ان سے متفرع مجموعے والے افکار و معتقدات حامی ہے۔

قرآن کریم کا بلاغی پہلو:

تفسیر کشف پر ایک غائرانہ نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ زرخشری نے اس ضمن میں جو تفسیری مساعی انجام دی ہیں ان کا نمایاں پہلو قرآن مجید کے بلاغی پہلو کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اعجازِ بلاغت ہی کا اثر تھا کہ عرب اس کے ماحضہ سے قاصر رہے اور اس جیسی چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی بنا کر پیش نہ کر سکے۔ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں موفت نے جن استعارات، مجازات اور دیگر بلاغی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اس سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ زرخشری قرآن مجید کے اجمالِ أسلوب اور کمالِ نظم کو اجاگر کرنے کے عہد درجہ حریص تھے۔ اگر کتب تفسیر کو جنور دیکھا جائے اور اس بات کا بخوبی جائزہ لیا جائے کہ انہوں نے معانی و بیان سے متعلق قرآن کریم کی بلاغی ثروت کا کس مدد تک اہتمام کیا ہے۔ تو اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اس باب میں کوئی کتاب کشفات کی حریص نہیں ہو سکتی۔

زرخشری نے اس تفسیری پہلو کی جانب جو توجہ دی تھی اس کا عام مفسرین اور ان کے ہم وطن علماء پر خصوصی اثر پڑا یہ اسی کا ثمرہ ہے کہ ان کے بعد آنے والے مفسرین ————— خواہ وہ اہل سنت ہی کیوں نہ ہوں ————— ان کی تفسیر سے بڑی حد تک مستفید ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے زرخشری کے بیان کردہ استعارات، مجازات اور دیگر بلاغی صورتوں کو اپنی کتب تفسیر میں جگہ دی۔ اس کی حد یہ ہے کہ زرخشری کے علاوہ خصوصاً تک نے ان کی تفسیر کو ایک اہم مرجع قرار دیا اور اس سے بلاغی اسرار و روز اخذ کیے۔ وہ جانتے اور مانتے تھے کہ اس ضمن میں دوسرا کوئی شخص زرخشری کا حریف درمجم نہیں ہو سکتا۔ زرخشری کے ہم وطن مشرقی علماء پر اس کا یہ اثر پڑا کہ انہوں نے کشفات سے فن بلاغی کو سیکھا اور علم کے اس دائرہ میں مغربی علماء سے گوتے سبقت لے گئے۔ تفسیر کشفات نے علمائے مشرق کی فنونِ بلاغت میں برتری سے متعلق جو پارٹ ادا کیا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے ابن خلدون اپنے مقدمہ میں ارقام فرماتے ہیں:-

”علمائے مشرق مغربی علماء کے مقابلہ میں فن بلاغی میں بہت آگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ

ہے کہ اہل مشرق نے تفسیر کشفات کے ساتھ بڑا اعتناء کیا ہے۔ اور وہ اس فن کی اصل و

(مقدمہ ابن خلدون ص ۶۴۶)

اساس ہے“

معتشری نظریات کے اثبات کے لیے لغت کا سہارا:

دیگر معتشری کی طرح زعفرانی اس امر کے خوگر ہیں کہ جب کسی قرآنی لفظ کا ظاہری مفہوم ان کے مسلک سے ہم آہنگ نہ ہو تو وہ مقدور بصر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ لغت میں اس کا کوئی اور معنی تلاش کریں اور اس ظاہری مفہوم کو روک دیں۔

معتشری آخرت میں رؤیتِ باری تعالیٰ کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ آیت کریمہ: **وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَاضِرًا أَلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرًا**۔

چونکہ ان کے مسلک کے منافی ہے۔ اس لیے زعفرانی لفظ ”ناظرًا“ میں نظر کے معنی توقع اور امید کرتے ہیں۔ اور اس کے اثبات میں عربی اشعار سے احتجاج و استدلال کرتے ہیں۔

زعفرانی کہتے ہیں:-

”إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرًا“ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے رب کے سوا اور کسی سے ہمت کی امید نہیں رکھیں گے۔ اس آیت میں حصہ و تخصیص کا مفہوم مفعول کی تقدیم سے اسی طرح پیدا ہوا ہے۔ جس طرح ان آیات میں ”إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ“

(القیامہ - ۱۲) نیز ”إِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ“ (آل عمران - ۲۸) ظاہر ہے کہ اہل ایمان بظنِ قیامت بے شمار اشیاء کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت سب مخلوقات جمع ہوں گی اور مومن بے خوف و خطر ہونے کی بنا پر سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔

اس لیے یہاں نظر کے یہ معنی درست نہیں کہ وہ صرف ذات خداوندی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بنا بریں یہاں نظر سے وہ مفہوم مراد لینا چاہیے جس کے ساتھ حصہ و تخصیص

درست ہو۔ اور وہ امید و توقع کا مفہوم ہے۔ عربی میں بولتے ہیں ”إِنَّا إِلَىٰ فُلَانٍ نَاطِرٌ مَّا بَصَحَ فِي“ یعنی میں دیکھ رہا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ فلان شخص میرے

ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ (کشاف)

مجازات پر اعتماد:

جس لفظ کے حقیقی معنی قدر سے بعید یا عجیب نظر آتے ہوں زعفرانی اس کو مجازی معنی پر محمول کرتے ہیں۔ یہ طرزِ انداز ابتداءً تا انتہا ساری تفسیر کشف پر چھایا ہوا ہے۔ اور اس کی مثالوں

ساری تفسیر بھر پور ہے۔ ہم صرف ایک مثال پر اکتفاء کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے :-

«وَدِيمًا كُدِّسِيهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ» (البقرة - ۲۵۵) لیا ہے۔
اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو سمو

زخمشری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

«کرسی کے معنی میں چار وجوہ کا احتمال ہے۔ وجہ اول یہ ہے کہ اس کی کرسی اس قدر وسیع ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو سمو لیا ہے، اور وہ ان سے تنگ نہیں ہے۔ یہ عظمتِ خداوندی کی ایک خیالی تصویر ہے۔ دراصل وہاں نہ بیٹھنے کا سوال پیدا ہوتا ہے نہ بیٹھنے والے کا اور نہ کرسی کا جس طرح ایک دوسری آیت میں فرمایا :

«وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بِيَمِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ» (الزمر - ۶۷)
اور زمین سب کی سب روز قیامت اس کی شمی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں پیٹھے جوڑے ہوں گے۔

یہاں شمی اور پٹھے اور دائیں ہاتھ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بخلاف ازیں عظمتِ ربانی کے اظہار کے لیے یہ ایک حسین تشبیہ ہے۔ (کشاف، ج ۱ - ص ۲۷۸)

اہل السنۃ الفاظ کے جو ظاہری معانی بیان کرتے ہیں زخمشری ان کو قبول نہیں کرتا مولف جہاں بھی کسی لفظ سے مجازی مفہوم مراد دیتا ہے اس کے انبات میں کوئی نہ کوئی عربی ضرب امتثال یا محاورہ یا تہمید شغیر ضرور پیش کرتا ہے۔ ظاہری معانی قبول کرنے کی بنا پر وہ اہل السنۃ کو ہر تنقید بناتا ہے۔ ابن المنیر محشی کشاف کو زخمشری کہیے اور بالکل پسند نہیں۔ وہ اس پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کلام الہی کو تخیل پر محمول کرنا زخمشری کی جسارت و سوء ادبی کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ تخیل کا لفظ باہلیل اور بے حقیقت اشیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر زخمشری کا بیان کردہ مفہوم صحیح ہے تو اس کو تخیل قرار دینا کسی طرح بھی درست نہیں۔

(حاشیہ کشاف، ج ۱ - ص ۲۷۸)

مرتبکب کبار اور معتزلہ :- زخمشری معتزلی نظریات کی تائید و حمایت میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے

ہیں۔ ان کا یہ حد سے بڑھا ہوا تعصب پوری کتاب پر چھایا ہوا ہے وہ آیات قرآنی سے اپنا مذہب و مسلک ثابت کرنے کی امکان کوشش کرتے ہیں۔ جس آیت کو اپنے نظریہ کے خلاف دیکھتے ہیں اس کی تادیل کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں ارشاد فرمایا :-

وَمَنْ يَفْعَلْ مَوْمِنًا مَّتَعِبًا
فَجَزَاءُ مَا جَهَدْتُمْ خَالِدًا فِيهَا
وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ (النساء ۹۳)

جو شخص دانستہ کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی جزا
جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس
پر اللہ کا غضب ہے۔

معتزل کبار کے مرکب کو اہل جہنمی قرار دیتے ہیں۔ اس لیے زرخشری کے نزدیک یہ آیت بڑی بڑی اہمیت رکھتی ہے کیوں کہ اس میں قاتل کو اہل جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اس آیت سے بڑھ کر معتزلہ ان کے نظریہ کا اثبات ہوتا ہے۔ بنا بریں زرخشری اہل سنت پر زبرد عتاب کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک بلا توبہ بھی گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اور وہ کبار کے مرکب کو دائمی جہنمی قرار نہیں دیتے۔ پھر اہل سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اہل سنت کے لیے زبرد دست و عید و تمدید پائی جاتی ہے زرخشری حضرت ابن عباس کی اس روایت کا ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کو بلا وجہ قتل کرے اس کی توبہ مقبول نہیں۔ سفیان کا قول بھی یہی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ساری دنیا کا فنا ہو جانا ایک مومن کے قتل ہو جانے سے خدا کے نزدیک کم اہمیت رکھتا ہے۔ حیرت ہے کہ اہل سنت یہ آیت پڑھنے ہیں۔ ان احادیث کا مطالعہ کرتے اور حضرت ابن عباس کے اس قول کو دیکھتے ہیں مگر وہی تعصب اور خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ (الکشاف ج ۱- ص ۳۸۱)

تاثیر سحر سے انکار :

زرخشری دیگر معتزلہ کی طرح تاثیر سحر کا قائل نہیں چونکہ سورۃ الفلق سے اہل سنت کے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ سحر میں تاثیر موجود ہے۔ اس لیے زرخشری بڑی چالاک اور ہوشیار کے ساتھ اہل سنت کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو تسخر و استنزاع کا نشانہ بنا سکتا ہے۔

زرخشری کہتا ہے :-

”الغفارات“ سے جا دوگر عورتیں یا وہ نفوس انسانی اور جماعتیں مراد ہیں جو بھکاری کے پیشہ میں مصروف رہتی ہیں۔ یہ لوگ دھاگے کو گانٹھ دے کر اس کو دوام کرتے اور پھونکتے ہیں۔ اس میں کچھ تاثیر نہیں۔ تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی ضرور سلاں چیز کسی کو کھلا پلا دی جائے۔ یا دوسرا شخص اس کو سونگھے یا کسی طرح سے اس کو استعمال کرے۔ گاہے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں میں اس لیے بھی تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ دیکھنے والا حق پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ مگر جاہل لوگ اس کو دم جھاڑے پر محمول کرتے ہیں جو لوگ حق پر قائم ہوتے ہیں وہ اس کی طرف مطلق توجہ نہیں دیتے۔“

(کشاف، ج ۲، ص ۵۶۸)

ابن المنیر لکھتے ہیں کہ اس تحریر سے زرخشری کا مقصد کتاب و سنت میں دار و نشو و خانقہ رکھنا اور اپنی من مرضی اور اپنے نظریات و عقائد سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ وہ اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ زرخشری نے معتزلی نظریات کے پیش نظر کتاب و سنت کے مسئلہ حقائق کو ٹھکرا دیا۔“

(الاتصاف حاشیہ کشاف، ج ۲، ص ۵۶۸)

اہل السنّت پر زرخشری کی زبان درازی :

کشاف کے جملہ مباحث اس بات کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ زرخشری مبالغہ کی حد تک اہل السنّت کی تضحیک کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی حد یہ ہے کہ وہ اہل السنّت کی تزیل اور ان پر بہتان طرازی اور دشنام بازی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے وہ بڑی بے باکی اور جرات کے ساتھ ان کو تجریرہ مشورہ اور قدریہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے۔ حالانکہ اہل السنّت منکرین تقدیر کو قدریہ کہتے ہیں زرخشری اہل السنّت کو اس لیے قدریہ قرار دیتا ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ کو اس امت کے مجوس فرمایا ہے زرخشری اہل السنّت کو اس کا مصداق ٹھہراتا اور کہتا ہے کہ اہل السنّت اس امت کے مجوس ہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَىٰ يٰٓأَهْلَهُ
فَاسْتَجَبُوا لِعَلِيِّ عَلَى الْهَدَىٰ
ہم نے ثمود کو ہدایت دی مگر انہوں نے ہدایت
کے عوض گمراہی کو اختیار کر لیا۔

زمنشری اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے :

”قدریہ جو اس امت کے مجسوس ہیں (یعنی اہل سنت)، اگر قرآن میں ان کے خلاف اس آیت کے سوا اور کوئی آیت نہ بھی ہوتی تو یہی دلیل کافی تھی“

(کشاف، ج ۲ - ص ۲۲۱)

زمنشری کی اہل سنت دشمنی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جو قرآنی آیات کفار کے حق میں وارد ہوئی ہیں وہ اہل سنت کو ان کا مصداق ٹھہراتا ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے :

”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
وَاسْتَلَفُوا (آل عمران - ۱۰۵)“

ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن میں اختلاف پیدا ہوا اور وہ فرقہ فرقہ ہو گئے۔

اس آیت کی تفسیر میں زمنشری اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ پھر لکھتا ہے :

”یہ بھی درست ہے کہ آیت کا مصداق اس امت کے اصحاب بدعت (اہل سنت)

ہوں جو کہ جبریہ خشویہ اور مشبہہ کملانے کے مستحق ہیں“ (الکشاف، ج ۱ - ص ۳۱۹)

زمنشری مفسر لکے جس حد تک تائید و حمایت اور پشت پناہی کرتے ہیں اس کی حد یہ ہے کہ وہ اپنے خصوم و اعداء اہل سنت کو خارج از اسلام ٹھہراتے ہیں :-

قرآن عزیز میں فرمایا :-

”شِعْرَ اللَّهِ أَنتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَالْمَلَائِكَةُ أَدْلُو لِعِلْمِهِ“

اللہ تعالیٰ ملائکہ اور اصحاب علم نے شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

(آل عمران - ۱۸)

زمنشری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”اگر سوال کیا جائے کہ وہ کون سے اصحاب علم ہیں جن کی اس آیت میں تعریف کی گئی اور ان کو عدانیت ربانی پر شہادت دینے کے سلسلہ میں ملائکہ کا ہمنوا قرار دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے معتزلی علماء مراد ہیں جو خدا کی عدانیت کو براہین کا قطعہ سے

ثابت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تشبیہ تہر اور رُؤیت خداوندی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ (اہل السنّت) وہ دین اسلام سے خارج ہیں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے۔“
(الکشاف، ج ۱- ص ۲۹۷)

تفسیر کشاف پر ابن المنیر کی تنقید:

تفسیر کشاف کے طور پر بعد جن لوگوں نے اپنی جہود و مساعی کو اس تفسیر کے لیے وقف کر دیا تھا ان میں سے اسکندریہ کے قاضی احمد بن محمد بن منصور المنیر مالکی کا نام قابل ذکر ہے۔ آپ نے کشاف پر ایک جامع حاشیہ ”الاتصاف“ کے نام سے لکھا ہے۔ اس حاشیہ میں زمخشری کے اٹھائے ہوئے بعض نحوی مباحث پر نقد و جرح کی گئی ہے۔ مگر ابن المنیر کی ترجمان کامرکز زمخشری کے معتزلی نظریات ہیں۔ جن پر انہوں نے شدید رد و قدح کی اور ان نادیلات کا ابطال کیا ہے۔ جو اپنے عقائد کے اثبات کے لیے انہوں نے کی ہیں۔

ابن المنیر نے زمخشری کے خلاف یہ نظری و فکری جنگ چھیڑ کر بزعیم خویش اہل بدعت معتزلہ سے اہل السنّت کا انتقام لیا ہے۔ وہ خود اس کی صراحت کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا:

”أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَىٰ
كِتَابِ اللَّهِ - (آل عمران ۲۳) - دی جاتی ہے۔

ابن المنیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں :-

مذرا غور کیجیے کہ زمخشری کا دل اہل السنّت کے بغض و عناد سے کس طرح پُر ہے۔ اور اس نے کس طرح اس کینہ تو زمی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے اس عاجز کو اہل بدعت سے اہل السنّت کا انتقام لینے کی توفیق بخشی اور میں نے وہائل و براہین کے تیروں سے معتزلہ کے قلوب و اذہان کو کھائل کیا۔“

(الاتصاف حاشیہ کشاف، ج ۱- ص ۲۹۹)

ابن المنیر کا خیال ہے کہ انہوں نے اسلام اور اہل اسلام کی عظیم خدمت انجام دی ہے۔

یہ ایک ایسی خدمت ہے جو ان کے لیے جہاد میں شمولیت نہ کرنے کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے نزدیک ایک قابل قبول معذرت کا درجہ رکھتی ہے۔

قرآن پاک میں فرمایا:

« وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً. (التوبة - ۱۲۲) سب اہل ایمان کو جہاد کے لیے نہیں جانا چاہیے۔

مخشری نے اس آیت کی تفسیر کی ہے اس پر تنقید کرنے کے بعد ابن المنیر نے لکھا ہے کہ: ”میرے جہاد میں شرکت نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں تفسیر کثافات کا ماشیہ تحریر کر رہا ہوں۔ میں نے اس ماشیہ میں قرآن کریم سے ثابت شدہ اصول و قواعد کو واضح کیا اور دین اسلام کو مبتدعین کے دجل و فریب سے بچانے کی کوشش کی ہے۔“ (الاتصاف، ج ۱ - ص ۵۰۲)

مگر شدید عداوت کے باوجود بعض اوقات ابن المنیر مخشری کے لغوی تجزیہ اور بلاغی نکات کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان نظر آتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مخشری ان نکات کے اظہار و اعلان میں مخلص نہیں۔ بلکہ درپروہ وہ اپنے معترضی نظریات کو بڑے تحفیہ انداز میں پیش کرتا ہے۔

تفسیر کثافات اور فقہی مسائل:

مخشری کسی حد تک فقہی مسائل سے بھی قرض کرتے ہیں مگر اس سے زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ اگرچہ فقہی مسلک کے اعتبار سے وہ حنفی ہیں مگر اس میں تعصب سے کام نہیں لیتے۔

قرآن پاک میں فرمایا :-

«رَدَّيْسًا لَوْ نَكَحَ الْمُحَيْضُ قُلُّهُوَ آذَىٰ فَاَشْتَرُوا التَّيْسَ فِي الْمَحِيضِ» (البقرة - ۲۳۰) لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجیے کہ وہ ناپاک ہے حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔

مخشری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”عورتوں سے الگ رہنے کے بارے میں فقہاء کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے

امام ابو حنیفہ والبریست کا مسلک یہ ہے کہ زینات سب جسم ممنوع ہے۔ محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ شہ گاہ کے سوا سب جسم حلال ہے۔ امام محمد حضرت عائشہ کی حدیث نقل کرنے میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا حالت حیض میں عاخذہ اپنی بیوی کے جسم سے جسم لگا سکتا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ”عورت زینات چادر باندھ لے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح زین بن اسلم نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے جب یہی سوال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے بھی دہی چوسا دیا، جو حضرت عائشہ نے دیا تھا۔ زبختری کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک بھی یہی ہے“

(اکشاف، ج ۱- ص ۲۶۴)

فتران حکیم میں فرمایا :-

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ»
ا سے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان
کو عدت کے شروع ہونے کے وقت طلاق دو

(الطلاق - ۱)

زبختری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو اس طہر میں طلاق دو جس میں جماع نہ کیا ہو۔ پھر ان کو عدت گزارنے دو۔ طلاق کا یہ سب سے بہتر اور موافق سنت طریقہ ہے۔ اس کی دلیل ابراہیم نخعی کی یہ روایت ہے کہ صحابہ کرام سنت کے مطابق اپنی بیویوں کو صرف ایک طلاق دیتے اور پھر عدت گزارنے تک اور طلاق نہ دیتے۔ یہ بات ان کے نزدیک اس سے بہتر تھی کہ عورت کو تین طہروں میں تین طلاقیں دی جائیں۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ موافق سنت طلاق صرف ایک طلاق ہے۔ وہ تین طلاقوں کو معصوب قرار دیتے تھے۔ خواہ بیک وقت دی جائیں یا الگ الگ۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مسلک یہ ہے کہ ایک ہی طہر میں ایک سے زائد طلاق دینا مکروہ ہے۔ اور اگر الگ الگ طہروں میں ایک ایک کر کے تین طلاقیں دی جائیں تو مکروہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تھی۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا

خدا کا حکم یہ نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دو۔ امام شافعی کے نزدیک ہر ایک دقت تین طلاق دینے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طلاق کی گنتی کے بارے میں سنت و بدعت کا کوئی سوال نہیں ہے (الکشاف، ج ۲، ص ۴۶۶)

اسرائیلیات سے متعلق زنجشیری کا موقف:

زنجشیری اسرائیلیات بہت کم بیان کرتے ہیں۔ اور جہاں ذکر کرتے ہیں وہاں ”رُوی عورتاً کیا گیا، بعینہٴ جمہول کہہ کر اس کے ضعف اور عدم صحت کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ یا والدہ العلم کہہ کر اس کا علم خدا کی ذات کو سوچنے ہیں۔ اور ایسا عمودا ہاں کہتے ہیں جہاں ذکر کردہ روایت کا دینی ماحلات کے تعلق نہیں ہوتا۔ جو روایات دین سے مرہوط و متعلق ہوتی ہیں وہاں ان کی صحت کا درجہ یا ان کا ضعف بیان کر کے اس کی عدم صحت واضح کرتے ہیں۔ آیت کریمہ :-

إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْكُمْ بِحَدِيثِي (النمل۔ ۳۵)

کی تفسیر کرتے ہوئے زنجشیری نے ایک طویل قصہ ”رُوی“ کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی صحت ان کے نزدیک مشکوک ہے۔ اسی طرح آیت قرآنی ”وَهَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“ کی تفسیر میں ”آدریا“ کا مشہور واقعہ ذکر کیا ہے جو اکثر مفسرین بیان کرتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح نہیں۔ یہ بات تو ایک ادنیٰ درجہ کے مومن کے بھی لائق نہیں ہے۔ چہ جائیکہ ایک نبی اس کا مرتکب ہو۔ سعید بن مسیب اور عمارش الامور روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو شخص تمہیں حضرت داؤد کا وہ واقعہ سناٹے جو داغظ بیان کیا کرتے ہیں تو میں اُسے ایک سو ساٹھ دتے سے لگاؤں گا۔ انبیاء پر بہتان طرازی کی شرعی قدیمی ہے (الکشاف، ج ۲، ص ۲۶۱)

قرآن حکیم میں فرمایا :-

”الْقَبِيلُ عَلَىٰ كَذِبِهِمْ جَسَدًا“ (سورہ اناب، ۳۲)

ہم نے سلیمان کی کرسی پر ایک جسم ڈالی دیا پھر وہ جھک گئے۔

اس آیت کی تفسیر میں زنجشیری نے وہ واقعہ نقل کیا ہے جو اسرائیلیات کے والدہ سب مفسرین بیان کرتے ہیں۔ زنجشیری لکھتے ہیں کہ علمائے محققین اس قصہ کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ اباطیل ہیرو لے سورہ ص۔ آیت ۲۱۔

میں سے ایک ہے۔ شیاطین ایسے افعال انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نیک بندوں پر اس حد تک مسلط کر دیا ہو کہ وہ احکام ربانی کی تعمیل سے قاصر رہے اور انبیاء کی بیویوں کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کریں۔ (الکشاف ج ۱، ص ۲-۲۸۳)

خلاصہ یہ کہ دیگر مفسرین جن اسرائیلی قصص و روایات کے دام فریب میں مبتلا ہو گئے تھے زمخشری کا دامن اس سے پاک نظر آتا ہے۔ تاہم یہ نقص و عیب اس کی تفسیر میں موجود ہے کہ قرآنی سورتوں کے فضائل میں احادیث موضوعہ کو جگہ دی گئی ہے۔ اسرائیلی روایات سے داغدار نہ ہونا تفسیر کشفات کا ایک تائبانہ پہلو ہے جس پر زمخشری کا شکر یہ واجب ہے۔

خلاصہ مباحث سابقہ :

سابقہ مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ معتزلہ کے تفسیری ورثہ میں سے صرف مندرجہ ذیل تین کتب ہم تک پہنچ سکی ہیں :-

- ۱۔ تنزیہ القرآن عن المطاعن۔
- ۲۔ امالی الشریف المرتضیٰ۔
- ۳۔ کشفات زمخشری۔

اگرچہ یہ تفاسیر سہ گانہ ان کتب تفسیر کے مقابلہ میں نہایت کم ہیں جو دست برد زمانہ سے مٹ گئیں۔ مگر اس میں شبہ نہیں کہ یہ نافع شدہ کتب کا نعم البدل ہیں۔ یہ تینوں تفاسیر معتزلی تفسیر کی تاریخ میں ہی ایک بلند پایہ مقام کی حامل نہیں بلکہ ادبِ عربی کی تاریخ میں بھی ایک نمایاں درجہ رکھتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ کتب بلند پایہ ادبی مباحث پر مشتمل ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں ادب و تفسیر کے مابین کس قدر گہرا ربط و تعلق اور تاثر و تاثر پایا جاتا تھا۔

شیعہ اور تفسیر قرآن

شیعہ اور ان کے عقائد :- شیعہ کے لفظی معنی ساتھی رفیق اور مددگار کے ہیں۔ یہ اس فرقے کا نام ہے جس نے حضرت علیؓ اور ان کے اہل بیت کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ الفت و مودت کا اظہار کیا تھا۔ شیعہ کا زویہ نگاہ یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کے حق میں خلافت کی وصیت فرمائی تھی۔ اس لئے رسول کریمؐ کے بعد وہی خلیفہ برحق تھے۔ جب تک حضرت علیؓ بقید حیات رہے وہ جائز امام خلیفہ تھے۔ ان کے بعد خلافت و امامت ان کے ورثہ کی جانب منتقل ہو گئی۔

شیعہ کے نزدیک اہل بیت سے خلافت کے نکل جانے کی صورت دو صورتیں ممکن ہیں :-

- ۱- ایک صورت یہ ہے کہ کوئی ظالم و ناصب شخص برحق خلافت کو اہل بیت سے چھین لے۔
- ۲- دوسری صورت یہ ہے کہ اہل بیت کا جائز خلیفہ و امام دفع شر کے پیش نظر تقیہ کر کے اپنے اس منصب سے انزود دست بردار ہو جائے

شیعہ مذہب فرقہ ہائے اسلامی میں سے تہذیب ترین فرقہ ہے۔ اس کا ظہور و شیوع خلافت عثمانی کے آخر دور میں ہوا۔ حضرت علیؓ کے بعد خلافت میں پہلا پھولا اور پروان چڑھا۔ حضرت علیؓ جب لوگوں سے ملنے جلتے تو وہ آپ کے دروغ و تقویٰ علم و فضل اور آپ کی فدا داد اہلیت و صلاحیت سے بے حد متاثر ہوئے۔ شیعہ داعیوں نے آپ کے اس انزور و سوخ سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں میں اپنے مذہب کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔

بنو امیہ کے عہد خلافت میں جب علویہ ظلم و ستم کی آماجگاہ قرار پائے اور ان پر لاقصد و منہال ٹوڑے گئے تو لوگوں کے دلوں میں ان کے لئے الفت و محبت کے جو جذبات تھے وہ منظر عام پر آ گئے، لوگوں نے سمجھا کہ حضرت علیؓ کے اقارب و اعزہ کو اس دور میں بدعت ظلم و تعدی بنا یا جا رہا ہے۔ اس کے زیر اثر شیعہ مذہب کو فروغ حاصل ہوا، اور اس کے اعوان و انصار میں اضافہ ہونے لگا۔

اس میں شبہ نہیں کہ حضرت علیؑ اور اہل بیت سے اظہارِ اہت و ہودت اور دوسروں کے مقابلہ میں ان کی عظمت و فضیلت کوئی نئی بات نہ تھی جس کا ظہور عصرِ صحابہ کے بعد ہوا۔ بخلاف انہیں صحابہ کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو آپ کو نہ صرف افضل الصحابہ قرار دیتے، بلکہ دوسروں کی نسبت آپ کو اولیٰ بااختلاف تصور کرتے تھے۔ ان صحابہ میں آنابن یاسر، مقداد بن اسود، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، جابر بن عبد اللہ وغیرم رضی اللہ عنہم کے اسماء شامل ہیں۔

مگر صحابہ کرام میں حضرت علیؑ کے لئے جو عزت و عظمت پائی باقی تھی اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ وہ حضرت علیؑ سے قبل جو خلفاء تھے ان کی بیعت نہ کرتے یا ان کی شان میں نازیبا کلمات کہتے۔ اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ امامت و خلافت کا مدار و انحصار شوریٰ پر ہے۔ نیز یہ کہ اسلام و اہل اسلام کی صلاح و فلاح امت کی وحدت اور شیرازہ بندی پر مبنی ہے۔ اسی طرح وہ شیعہ کے اس اجماعی عقیدہ کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے کہ امامت کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تعلق عوام کی مصلحت کے ساتھ ہو اور امت ہی امام و خلیفہ کا تقرر کرنے کی مجاز ہو۔ شیعہ کے نزدیک امامت و خلافت دین کا ایک اہم رکن اور اسلام کی اصل و اساس ہے۔ امام کی تعیین نبی کے لئے ایک واجب التعمیل فریضہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ امت کو یہ کام تفویض نہیں کر سکتا۔ چنانچہ نبی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسا امام مقرر کرے جس کا دامن صفائے و کبائر سے پاک ہو۔ شیعہ کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذاتِ خود حضرت علیؑ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ (مقدمہ ابن خلدون ص ۲۱۸)

شیعہ انکار و عقائد میں یکساں نہ تھے بلکہ وہ متعدد فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ شیعہ کے یہاں جو تفرق و انقسام پیدا ہوا اس کے دو بڑے عوامل و محرکات تھے۔

اول :- اختلافِ شیعہ کا پہلا محرک ان کا نظریاتی نزاع و جدال تھا۔ شیعہ کا غالی فرقہ اپنے ائمہ کی عظمت و تقدیس پر ایمان رکھتا اور ان کے مخالفین کو کافر تصور کرتا تھا۔ شیعہ میں سے جو لوگ اعتدال پسند تھے وہ اپنے ائمہ کو اگرچہ اتق بالامامت سمجھتے تھے مگر مخالفین کو کافر قرار نہیں دیتے تھے۔

دوم :- دوسرا محرک ائمہ کی تعیین میں اختلاف تھا۔ تمام شیعہ اس بات پر متفق تھے کہ حضرت علیؑ امام برحق تھے۔ پھر ان کے بعد حضرت حسنؑ اور پھر حضرت حسینؑ۔ جب یزید اموی کے عہد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت سے سرفراز ہوئے تو ان کے بعد شیعہ کے یہاں یہ امر متنازع فیہ ٹھہرا کہ

حضرت حسین کے بعد خلیفہ برحق کون ہے۔ شیعہ کا ایک گروہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد منصب خلافت آپ کے علاتی (باپ کی جانب سے) بھائی محمد بن علی المعروف ابن الخنفیہ کی جانب منتقل ہو گیا۔ چنانچہ شیعہ کے اس گروہ نے ابن الخنفیہ کی بیعت کر لی۔

شیعہ کے دوسرے گروہ کے نزدیک امامت و خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس اولاد تک محدود ہے جو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے تھی۔ ان کی رائے میں شہادت حسینؑ کے بعد یہ منصب اولادِ حسنؑ کی جانب منتقل ہو گیا۔ اس لئے کہ حضرت علیؑ کی اولاد میں سب سے بڑے ہونے کی بنا پر ان کی اولاد دوسرے بھائیوں کی اولاد کے مقابلہ میں قابل ترجیح ہے۔ شیعہ کا تیسرا گروہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ بلاشبہ حضرت حسنؑ کا حق فائق تھا۔ چونکہ حضرت حسنؑ بذات خود خلافت سے دست بردار ہو گئے تھے اس لئے ان کی اولاد کا حق ساقط ہو گیا، اور اب حضرت حسینؑ کی اولاد ہی خلافت کی جائز وارث ہے۔ خصوصاً اس لئے بھی کہ جناب حسینؑ نے اسی راہ میں شہادت بھی پائی تھی۔

شیعہ بہت سے فرقوں میں بٹ گئے تھے جن کا استقصاء یہاں مقصود نہیں۔ ان میں سے ایک گروہ اس حد تک غالی تھا کہ عقل و ایمان کی حدود سے تجاوز کر گیا۔ دوسرا فریق معتدل تھا اور اس حد تک غالی نہ تھا۔ شیعہ فرقوں میں سے صرف دو نے تفسیر قرآن سے دلچسپی لی ہے۔ اس لئے صرف انہی دو فرقوں یعنی زیدیه و امامیہ (پہر دو سعت اثناعشریہ و اسماعیلیہ) کا ذکر کیا جائے گا۔

زیدیه :- شیعہ کا فرقہ زیدیه حضرت زید بن علی بن حسین کا پیرو ہے۔ حضرت زید بن علی نے اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کر کے حق خلافت کو واپس لینا چاہا تھا۔ مگر آپ کے اعوان و انصار نے دھوکہ دیا اور آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو سولی دے کر نعش اقدس کو بھلایا گیا۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ جب ہشام کے گورنر یوسف بن عمر ثقفی کے ساتھ آپ کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ کے معتقدین نے پوچھا حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ زید فرماتے تھے میرے جد امجد حضرت علیؑ ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ میں تو بنو امیہ کے خلاف نبرد آزما ہوں۔ اس لئے کہ وہ میرے جد امجد حضرت علیؑ سے لڑے اور انہوں نے میرے دادا حضرت حسینؑ کو شہید کیا۔ یہ سن کر حضرت زید کے پیرو بغاوت پر اتر آئے اور آپ

کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، اسی بنا پر ان کو "رافضہ" (الگ ہو جانے والے) کہا جانے لگا۔

(التبصیر فی الدین ص ۱۸)

زید یہ کافر قہ تمام فرقہ ہائے شیعہ کی نسبت اہل سنت سے قریب تر ہے۔ ان میں غلو نہیں پایا جاتا۔ یہ اصحاب رسول کی تکفیر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے ائمہ کو الوہیت یا رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہیں۔

جب تک زید یہ کے فرقہ میں تغیر و تبدل رونما نہیں ہوا تھا۔ ان کے افکار و عقائد حسب ذیل تھے :-

۱۔ امام کے اوصاف متعین ہیں مگر اس کے نام کی تخصیص نہیں کی گئی، اوصاف یہ ہیں کہ وہ نبأ غاطمی ہو۔ زاہد متقی اور سخی ہو۔ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہو۔

۲۔ افضل شخص کی موجودگی میں (اس سے کم درجہ شخص) کی امامت و خلافت درست ہے نظر بریں اگر ارباب بست و کشا و کسی ایسے آدمی کو امامت کے لئے منتخب کر لیں جس سے بہتر اور مذکورہ بالا صفات کا حامل شخص موجود ہو تو اس کی امامت درست ہوگی۔ اسی بنا پر وہ کہتے تھے کہ حضرت علی کی موجودگی میں جناب صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی خلافت بائزقی اور ان کی بیعت کرنے والے صحابہ کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

۳۔ زید یہ کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ دو الگ الگ ملکوں میں دو جدا گانہ امام پائے جاسکتے ہیں۔ البتہ ایک ہی ملک میں دو غیظوں کا وجود ممکن نہیں۔

۴۔ معتزلہ کی طرح زید یہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کبائر کا مرتکب اگر توبہ نہ کرے تو وہ ابدی جہنمی ہے۔ زید یہ نے یہ عقیدہ معتزلہ سے انہذا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زید بن واہل بن عطاء بائی اعترال کے شاگرد تھے، اس لئے وہ اس کے بعض معتزلی نظریات سے متاثر ہو گئے تھے۔ (الملل والنحل شہرستانی ج ۲ ص ۲۰۸)

مگر زید یہ کی یہ وحدت و یکگانیت زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکی اور وہ انتشار کا شکار ہو گئے صاحب المواقف نے ذکر کیا ہے کہ وہ تین فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ موصوف نے ان کے افکار و عقائد اور خصوصیات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ تفصیلی مطالعہ کے لئے ملاحظہ فرمائیے (المواقف ص ۱۸)۔

امامیہ :-

چونکہ اس فرقہ کے اکثر افکار و عقائد امامت پر مبنی ہیں اس لئے اس کو امامیہ کہتے ہیں۔ امامیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر صراحتاً حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ وہ زید یہی کی طرح یہ نہیں کہتے کہ آنحضرت نے امامت کے لئے اوصاف کی تعیین کی تھی کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ ان کا زادیہ نگاہ یہ ہے کہ امامت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں محدود صورت ہے۔

امامیہ اپنے افکار و آراء میں تہایت متعصب اور غالی ہیں۔ اس کی حد یہ ہے کہ وہ اس سلسلہ میں عقل و شریعت کی حدود سے تجاوز کر گئے ہیں اور اکثر صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ نے حضرت علیؓ سے خلافت چھین لی تھی۔ اس لئے وہ (نعموزا من اولک) ظالم و فاسق تھے۔ اس لئے ان دونوں سے اظہارِ برادرت واجب ہے۔ مشرک ظہری جیسے چند شیعہ ہیں جن کا دامن اس غلو سے پاک ہے۔

امامیہ اس بات پر متفق ہیں کہ مندرجہ ذیل حضرات بالترتیب خلیفہ برحق تھے :-

۱۔ حضرت علیؓ رضی

۲۔ حضرت حسنؓ رضی

۳۔ حضرت حسینؓ رضی

۴۔ حضرت علی زین العابدینؓ رضی

۵۔ حضرت محمد باقرؓ رضی

۶۔ حضرت جعفر صادقؓ رضی

مذکورہ صمد چھ خلفاء کے بعد شیعہ مختلف الرائے ہیں۔ اس ضمن میں ان کے دو فرقے مشہور ہیں۔

۱۔ امامیہ اثنا عشریہ۔

۲۔ امامیہ اسماعیلیہ۔

امامیہ اثنا عشریہ :-

امامیہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادقؓ کے بعد مندرجہ ذیل حضرات یکے بعد

دیگر سے اپنے اپنے والد کے بعد خلیفہ برحق قرار پائے۔

۷۔ موسیٰ کاظم بن جعفر صادق۔

۸۔ علی رضا بن موسیٰ کاظم۔

۹۔ محمد الجواد بن علی رضا۔

۱۰۔ علی ہادی بن محمد جواد۔

۱۱۔ حسن عسکری بن علی ہادی۔

۱۲۔ محمد مهدی بن حسن عسکری۔

اشنا عشریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ بارہویں امام محمد مهدی اپنے والد کے گھر میں جو ”نُسْر من رأی“ نامی شہر میں تھا ایک تہہ خانہ میں داخل ہوئے اور پھر لوٹ کر نہ آئے۔ وہ قرب قیامت وہاں سے نکل کر سب دنیا کو عدل و انصاف اور امن و سکون سے بھر دیں گے۔ اشنا عشریہ بھی تک بارہویں امام کی آمد کے منتظر ہیں۔

اشنا عشریہ اپنے ائمہ کی عظمت و تقدس میں تمام حدود کو پھاند گئے ہیں۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کی طرح اماول کا خدا کی ذات کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے۔ اُن کے نزدیک امام پر ایمان لانا ایمان باللہ کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ اور تو شخص امام پر ایمان لائے بغیر مجائے اس کی موت کفر پر واقع ہوتی ہے۔ اور اسی قسم لے دیکر عقائد۔

اشنا عشریہ کی اہم تعلیمات :

اشنا عشریہ کی مشہور تعلیمات چار ہیں :-

۱۔ عصمت :- اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ اپنی زندگی میں صفائے کبائر سے پاک ہوتے ہیں اور ان سے بھول چوک سرزد نہیں ہو سکتی۔

۲۔ جہدیت :- اس عقیدہ سے مراد یہ ہے کہ آخری زمانہ میں ”امام منتظر“ کا ظہور ہوگا اور وہ ساری کائنات کو عدل و امان سے بھر دے گا۔ سب سے پہلے اس عقیدہ کا اظہار حضرت علیؑ کے غلام کیسان نے محمد بن حنفیہ کے ہاں سے کیا تھا۔ پھر اس سے امامیہ کے دوسرے فرقوں نے اخذ کیا۔ چنانچہ امامیہ میں سے ہر فرقہ کا ایک الگ امام ہے

جس کا انتظار وہ کر رہے ہیں۔

۲۔ رحمت :- رحمت کے معنی واپسی کے ہیں۔ یہ نظریہ مہدیت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آخری زمانہ میں جب امام منتظر کا ظہور ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسن و حسین سب ائمہ اور ان کے دشمن (غزوہ باندہ من ذالک) حضرت ابو بکر، عمر و رضی اللہ عنہما بھی دنیا کی طرف لوٹیں گے۔ نبی کریم ائمہ اہل بیت کے دشمنوں سے انتقام لیں گے۔ پھر یہ سب حضرات وفات پائیں گے اور روز قیامت دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔

۳۔ یقینتہ :- یہ شیعہ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یقینتہ سے مراد تصنع بناوٹ اور صداقت و یقینتہ کا عدم اظہار ہے۔ اپنے انکار کو رازدارانہ طور پر چھپا کر رکھنا شیعہ کے نزدیک دین کا ایک ضروری جزو ہے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جو شخص برسر اقتدار ہو اس کی بظاہر اطاعت اختیار کرنی جائے۔ جب اثر و اقتدار حاصل ہو جائے تو ظالم و غاصب حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔

یہ ہیں امامیہ اشاعریہ کی مشہور تعلیمات اور ان کے مسلک انکار و نظریات، اخوت طوائف کے پیش نظر ہم ان کے دلائل و براہین اہل سنت کی جانب سے ان کے جوابات پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

امامیہ اسماعیلیہ :- امامیہ اسماعیلیہ کا نفعہ نگاہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی فتنی تصریحات کے مطابق امامت کا منصب ان کے بیٹے اسماعیل کی جانب منتقل ہو گیا۔ اسماعیل اپنے والد کی زندگی ہی میں وفات پا گئے تھے۔ اس لئے امام جعفر صادق کی وصیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام اسماعیل کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد المکتم (پوشیدہ) امام قرار پائے۔ یہ پہلے دستور (پوشیدہ) امام تھے۔ اس کے بعد دستور ائمہ کا سلسلہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ امام عبداللہ محمدی فاطمی نے علانیہ دعوت کا آغاز کیا۔

فرقہ امامیہ اسماعیلیہ کے سات القاب ہیں۔ ان میں سے بعض القاب اسماعیلیہ سے پیدا شدہ فرقوں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ وہ القاب حسب ذیل ہیں :-

- ۱- اسماعیلیہ :- چونکہ یہ اسماعیل بن جعفر صادق کی امامت کے قائل ہیں اس لئے اسماعیلیہ کہلاتے ہیں۔
 - ۲- باطنیہ :- پوشیدہ امام پر ایمان رکھنے کی بنا پر ان کو باطنیہ کہا جاتا ہے۔ یا اس لئے کہ ان کی رائے میں قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ اس کے الفاظ سے باطنی معنی مراد ہیں ظاہری نہیں۔
 - ۳- قرامطہ :- قرامطہ کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ اس فرقہ کا اولین داعی حمدان قرمط تھا۔ قرمط ایک کاؤں کا نام ہے جو واسط کے قریب واقع ہے۔
 - ۴- حرمیہ :- چونکہ یہ شرفاً حرام رشتوں کو مباح قرار دیتے ہیں اور حرام کردہ اشیاء کی حرمت کے قائل نہیں اس لئے ان کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
 - ۵- سبعیہ :- سبع سات کو کہتے ہیں۔ اسماعیلیہ کا عقیدہ ہے کہ شریعت کی نعت دینے والے مندرجہ ذیل سات حضرات تھے
 آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ، محمدؐ، محمد مصدقؑ المنتظر۔
 مذکورہ بالا سات داعیوں میں سے ہر دو داعیوں کے درمیان سات امام ہوتے ہیں جو ان کی شریعت کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہر زمانہ میں سات ائمہ کا وجود ضروری ہے۔ تاکہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے اور ان کی پیروی کی جائے۔
 - ۶- بابکیمہ یا خرمیہ :- چونکہ یہ لوگ بابک خرمی کی پیروی کرتے تھے جس نے ذر بابیجان کے علاقہ میں خروج کیا تھا، اس لئے اس نام سے موسوم ہوئے۔
 - ۷- الحمزہ :- چونکہ بابک خرمی کے زمانہ میں یہ لوگ سُرخ لباس پہنتے تھے اس لئے الحمزہ (سُرخ پوش) کہلائے۔ (المواقف ج ۸ ص ۳۸۸)
- ابوالمظفر اسفراینی لہنی کتاب "القبصیر فی الدین" میں لکھتے ہیں :-
 "شیعہ کا فرقہ زید یہ و امامیہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتا اور آپس میں ایک دوسرے کا جانی دشمن ہے۔ فرقہ کیسانیہ کا شمار بھی امامیہ میں ہوتا ہے۔ امامیہ کے تمام فرقے صحابہ کی تکفیر پر متفق ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ صحابہ نے قرآن کریم میں

کئی پیشی کر دی اور بڑی حد تک اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ بقول ان کے قرآن کریم میں صراحتاً حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا گیا تھا مگر صحابہ نے اس کو مذمت کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ قابل اعتماد نہیں۔ بلکہ اہل اسلام کے پاس جو شریعت موجود ہے وہ سرے سے قابل یقین ہی نہیں۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی آخری زمانہ میں ظہور پذیر ہو کر لوگوں کو شریعت سکھلائیں گے۔ اس سے ان کا مقصد امامت کی تحقیق نہیں بلکہ اس امر کا اظہار و اعلان ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لئے ہر چیز حلال ہے کچھ بھی حرام نہیں۔ حوام کو یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے کہ صحابہ نے قرآن و شریعت کی تحریف کر دی تھی اس لئے وہ قابل عمل نہیں۔ شیعہ کے اس کفر والہامہ سے بڑھ کر بے دینی اور کیا ہو سکتی ہے؟ (التبصیر فی الدین ص ۱۱)

تفسیر قرآن سے متعلق شیعہ کا زاویہ نگاہ :-

شیعہ مذہب پر ایک نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت اباگر ہوتی ہے کہ وہ گروہ بندی اور کفری انتشار و خلفشار سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ شیعہ دراصل تین گروہوں میں بٹ گئے تھے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

- ۱۔ ایک گروہ غالی شیعہ کا تھا جو حضرت علی کی اُلوہیت کے قائل ہو کر کافر ہو گئے تھے۔
- ۲۔ دوسرا گروہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ حضرت علی دیگر صحابہ سے افضل تھے اور اس لئے خلافت و امامت کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔

۳۔ تیسرا گروہ ان دونوں کے بین بین تھا۔ نہ تو وہ حضرت علی کو الٰہ قرار دیتے تھے اور نہ ہی ایسا انسان تصور کرتے جس سے غطاء و صواب دونوں کے سرزد ہونے کا احتمال ہوتا ہے ان کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ حضرت علی معصوم ہیں اور بلا نزاع و جدال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ و امام ہیں۔ البتہ خلافت دوسروں نے آپ سے منصب کر لی تھی۔

شیعہ مذکورہ صد تین گروہوں میں محدود و معصور نہ تھے۔ بخلاف ازیں وہ متعدد فرقوں میں بٹ گئے تھے اور ہر فرقہ ہما گاد انکار و نظر پات رکھتا تھا۔ چونکہ ان میں سے ہر فرقہ اسلام کا متنی تھا، اور

قرآن کریم کو کتاب الہی سمجھتا تھا۔ اس لئے یہ ایک فطری بات تھی کہ شیعہ کا ہر گروہ اپنے مخصوص ادکار و عقائد کو قرآنی دلائل و نصوص سے ثابت کرے اور جو آیت بظاہر خلاف ہو اس کی تاویل اس نواز سے کرے کہ وہ اس کے عقائد سے ہم آہنگ ہو جائے۔ اگرچہ اس تاویل کا نتیجہ یہ ہو کہ قرآنی الفاظ اپنے حقیقی معانی سے منکسر جائیں اور ان کو غلط مفہوم و مطلب پہنایا جائے۔

غالی شیعہ کی دور از کا۔ تاویلات کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے :-

فرقہ بیئیمہ :-

یہ عید اللہ بن بایہ ہودی کے پیرو تھے جس نے بظاہر اسلام کا ببادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس نے حضرت علی کی محبت میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ پہلے ان کو نبی کہتا تھا پھر اللہ کہنے لگا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ حضرت علی شہید نہیں ہوئے بلکہ آسمان پر اٹھا لئے گئے ہیں اور وہ بادل میں رہتے ہیں۔ بادل کی گرج کو حضرت علی کی آواز اور بجلی کی چمک کو ان کی مسکراہٹ قرار دینا۔ اس فرقہ کے لوگ جب بادل کی گرج سنتے تو کہتے ”علیک السلام یا امیر المؤمنین“ ان کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندہ ہو کر تشریف لائیں گے۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ - (القمر ۸۵)

جس ذات نے تجھ پر قرآن اتارا ہے تجھے
تیرے اصلی مرکز کی جانب لائے گی۔

اس آیت کا معنی و مطلب وہ ہی بیان کیا کرتے تھے کہ اس میں آنحضرت کے دوبارہ دنیا میں

تشریف لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔

الفرق بین الفرق ص ۲۲۲ نیز

تاریخ الجدل ابو زھرہ ص ۱۲۸

فرقہ بیانیہ :-

شیعہ کا یہ فرقہ بیان بن سمان تمیمی کا پیرو ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت محمد بن عبد اللہ سے ان سے بیٹے ابو ہاشم عبد اللہ بن محمد کی جانب منتقل ہو گئی تھی۔ پھر ابو ہاشم نے بیان بن سمان سے علی بن وصیعت کو مقرر کیا۔ بیان بن سمان کے بارے میں اس فرقہ کے لوگ مختلف خیالات ہیں۔ جس کو ان کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی تھا اور اس نے شریعت محمدیہ کو منسوخ کر دیا۔ بعض اس کی اہمیت

کا عقیدہ رکھتے تھے۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

”هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَهُدًى وَهُدًى
مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ“ (رکوع مران-۱۳۸)

یہ قرآن لوگوں کے لئے بیان ہدایت اور متقیوں
کے لئے باعث نصیحت ہے۔

اس فرقہ کا بانی بیان بن سمان کہا کرتا تھا کہ میرا ہی نام ”بیان ہدیٰ اور موعظت“ ہے۔ وہ
کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نور سے بنا ہوا ایک آدمی ہے۔ چہرہ کے سوا اس کا سب بدن فنا ہو جائے گا۔
اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ

”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ“

اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہی ہے۔

(الفرق بین الفرق ص ۱۲۴)

(التقصص-۸۸)

فرقہ مغیرہ :-

اس فرقہ کے لوگ مغیرہ بن سعید غلی کے پیرو ہیں۔ پہلے یہ الامیر کا ہم خیال تھا پھر نبوت
کا مدعی ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کے ساتھ مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور
لشکروں کو شکست دے سکتا ہوں۔ مغیرہ کہا کرتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا
تو اسم اعظم پڑھا۔ اسم اعظم اڑ کر ایک تاج کی شکل میں اس کے سر پر آ بیٹھا۔ قرآن کریم کی آیت
”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى“ (الاعلیٰ-۱) میں یہی حقیقت بیان کی گئی ہے وہ کہا کرتا تھا کہ اسم اعلیٰ سے
وہ تاج مراوے۔

(الفرق بین الفرق ص ۲۹۹)

فرقہ منصورہ :-

یہ فرقہ ابو منصور غلی کی پیروی کرتا ہے جو الکسف کے لقب سے معروف تھا۔ اس کا عقیدہ
تھا کہ خلافت حسرت سے منتقل ہو کر ان کی اولاد میں سے امام باقر تک پہنچی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ ”میں
امام باقر کا جانشین ہوں۔ پھر کئے لگا کہ مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر ہاتھ
پھیر کر کہا ”اے بیٹے! میرے احکام لوگوں تک پہنچا دیجئے“ پھر مجھے زمین پر اتارا گیا۔ وہ کہا کرتا
تھا کہ آیت ”وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ“ (الطور-۲۲) میں ”کسف“ کے لفظ سے مجھے ہی یاد کیسا
کیا ہے۔

اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ قرآن وحدیث میں جس جنت کا ذکر کیا گیا ہے اس سے خلیفہ
وامام مراد ہے، جس کی اطاعت ہمارے لئے ضروری ہے۔ اسی طرح چہنم سے امام کے مخالفین
یعنی ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہما) مراد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ”فرائض“ سے وہ اشخاص ورجال مراد ہیں
جن سے محبت رکھنے کے لئے ہم مامور ہیں۔ بخلاف ازیل ”مخدرات“ سے وہ انسان مقصود ہیں
جن کے ساتھ جنس و عداوت رکھنا ضروری ہے۔ (الفرق بین الفرق ص ۲۳۲)

نیز المواقف ج ۱ ص ۳۸۶

فرقہ خطابیہ :-

اس فرقے لوگ اور اخطاب اُسدی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ پانچ فرقوں میں منقسم ہیں۔
ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد میں جو خلافت تھی وہ امام جعفر صادق کے بیٹے محمد حیدب پر ختم
ہو گئی جو آخری پادشہ امام تھے۔ ان کے خیال میں ائمۃ الوحییت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔
اور اخطاب کہا کرتا تھا کہ حضرت حسن و حسینؑ کے عزیز واقارب خدا کے بیٹے اور محبوب تھے۔ اس
کا قتل تھا کہ امام جعفر صادق الہ ہیں۔ جب آپ کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے اپنے یہاں سے اس کو
مخفی دیا۔ پھر اس نے الوحییت کا دعویٰ کر دیا۔ (التبصیر فی الدین ص ۷۲)

فرقہ خطابیہ کے نزدیک جنت سے ونیوی نعمتیں اور جہنم سے اس کے آلام وحوادث مراد
ہیں۔ اس سے بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر مومن کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے۔ اس کی
دلالت یہ آیت پیش کرتے ہیں۔

”وَمَا كَانَ لِقَلْبِكَ أَنْ تُحَدِّثَ إِلَّا
بِأُذُنِ اللَّهِ“ (آل عمران - ۱۲۵) نہیں آتی۔
خدا کے اذن کے بغیر کسی جان کو موت

ہو کہتے ہیں کہ ”بِأُذُنِ اللَّهِ“ کے معنی ہیں ”اللہ کی وحی کی بنا پر۔ بقول ان کے جب شہد کی
منجی بروی تامل ہو سکتی ہے تو ایک مومن پر کیوں نہیں ہو سکتی۔ (المواقف ج ۸ ص ۳۸۶)
نیز التبصیر فی الدین ص ۷۲

مذہب صدر حقائق اس امر کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ غالبی شیعہ قرآنی الفاظ میں کھینچا تائی کر
کے ان کو اپنے عقائد کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح قرآن کریم کو وہ

معافی پہناتے ہیں جن کا وہ کسی طرح بھی متمثل نہیں ہو سکتا۔ یہ فعل انجام دے کر وہ خدا پر ایسا ابرام شد کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل و برہان ان کے پاس موجود ہی نہیں۔

اس ضمن میں امامیہ اثنا عشریہ کا بھی یہی حال ہے۔ اسکا ناسلطاعت کی حد تک اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآنی الفاظ کو اپنے مسلک و مذہب سے ہم آہنگ کر لیا جائے۔ ان کی تفسیر کسی دلیل و برہان پر مبنی نہیں بلکہ یہ صرف ذہنی اختراع ہے جس کو باطل عقائد کے غلبہ نے جنم دیا ہے۔ شیعہ امامیہ کی تفسیر قرآن جن امور و اشیاء پر مبنی ہے ان کی حیثیت بھی ادھام و خرافات سے زیادہ نہیں جن کا وجود اگر کہیں ہو سکتا ہے تو شیعہ کے عقول و اذہان ہی میں ممکن ہے۔ یہ رکعت امامیہ اثنا عشریہ کی تفسیر قرآن مندرجہ ذیل پانچ اشیاء پر مبنی ہے :-

۱- فرقہ امامیہ کا خیال ہے کہ حضرت علی نے "جمع القرآن و تاویل" نامی کتاب میں قرآن حکیم کو بترتیب نزول جمع کیا تھا۔ (ایمان الشیعہ ج ۱ ص ۱۵۲)

۲- بقول شیعہ امامیہ حضرت علی نے ایک کتاب اطاء کروائی تھی جس میں علوم القرآن کی سترہ تفسیریں بیان فرمائیں اور ہر قسم کی ہدایا گانہ مثال ذکر کی تھی۔ امامیہ کی رائے میں جو شخص علوم القرآن کے موضوع پر لکھنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ کتاب اصل و اساس کا حکم رکھتی ہے۔ شیعہ مختلف طرق و اسانید سے یہ کتاب حضرت علی سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کتاب شیعہ کے یہاں موجود ہے۔ یہ بڑے سائز کے تیرہ اوراق پر مشتمل ہے۔ ہجرت آخری وادق کا ایک چوتھائی حصہ خالی ہے۔ ہر صفحہ پر تائیس سطور ہیں۔

(ایمان الشیعہ ج ۱ ص ۱۵۲)

۳- تفسیر قرآن کی تیسری بنیاد شیعہ امامیہ کے نزدیک "الجامعہ" نامی کتاب ہے۔ شیعہ کا کہنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب حضرت علی کو لکھوائی۔ یہ چھٹے کے قطعات پر لکھی ہوئی ہے اور ان ٹکڑوں کو تہہ کر لیا گیا ہے۔ ان کو کھولا جائے تو ان کی عمومی لمبائی ستر گز بن جاتی ہے۔ حضرت علی کا ہارٹ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اسے آٹھ سو کے ارشاد کے مطابق رقم فرمایا۔ اس کتاب میں ملال و حوام اشیاء اور دین کی تمام صورتی باتیں مندرج ہیں۔ (حوالہ مذکور ج ۱ ص ۱۶۱)۔

۴۔ امامیہ کے نزدیک تفسیر قرآن کی جو تھی اساس ”البحر“ نامی کتاب ہے۔

ابن خلدون اس کے بارے میں لکھتے ہیں :-

”شیعہ زیدیہ کے بانی ہارون بن سعد عملی کے پاس ”البحر“ نامی ایک کتاب تھی جو اس نے امام جعفر صادق سے روایت کی تھی۔ اس کتاب میں اہل بیت کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ مستقبل میں پیش آنے والے ان واقعات کا علم امام جعفر صادق کو بطور کشف و کرامت کے ہوا۔ جیسا کہ اکثر اولیاء ایسے واقعات کا علم عموماً ہوا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق نے یہ کتاب ایک پتھر سے کی کھال پر لکھ رکھی تھی۔ ہارون عملی نے آپ سے یہ کتاب روایت کی اور اس کو بکری کے پتھے کی کھال پر تحریر کیا۔ اس کا نام اس نے ”البحر“ تجویز کیا۔ البحر عربی میں بکری کے پتھے کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ کتاب اس کی کھال پر لکھی گئی تھی اس لئے اس نام سے موسوم ہوئی۔ اس کتاب میں قرآن کریم کے وہ عجیب و غریب معانی بیان کئے گئے تھے جو بزم غزالی نے امام جعفر صادق سے منقول تھے یہ کتاب نہ تو بابت متصل روایت کی گئی اور نہ ہی اس کا وجود کہیں نظر آیا۔ اس میں ایسے عجیب و غریب معلومات درج ہیں جن کی کوئی دلیل و برہان موجود نہیں۔ اگر یہ کتاب بسند صحیح امام جعفر صادق سے منقول ہوتی تو باغیثت تھی۔ مگر

افسوس کہ ایسا نہیں ہے“ (مقدمہ ابن خلدون ص ۳۷۳)

۵۔ شیعہ امامیہ کی تفسیر قرآن کی پانچویں اساس ”مصحفِ فاطمہ“ ہے۔ البصائر میں مذکور ہے کہ بعض لوگوں نے ابو عبد اللہ سے مصحفِ فاطمہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف پچھتر دن بقید حیات رہیں۔ آپ نہایت غم زدہ تھیں اور جبرئیل امین تشریف لاکر آپ کو تسلی دیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ آپ کی اولاد کن واقعات سے دو چار ہوگی۔ حضرت علی ان سب باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اس مجموعے کا نام مصحفِ فاطمہ ہے۔

(ایمان الشیعہ ج ۱ ص ۱۸۸)

یہ ہیں وہ اصول و اساسات جن پر شیعہ کی تفسیر قرآن مبنی ہے! یہ جملہ اشار صرف فرضی ہیں۔ جن کا وجود اگر کہیں ہو تو صرف شیعہ کے اذہان و مقول ہی میں ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں۔ تفسیر قرآن جیسی اہم چیز کو اوہام و اباطیل پر مبنی قرار دینا عقل و قیاس سے کس قدر بعید ہے۔

امام ابن قتیبہ شیعہ کی تفسیر قرآن پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”شیعہ کی تفسیر قرآن معتزلہ کی تفسیر سے بھی زیادہ انوکھی اور نرالی ہے۔ شیعہ کا دعویٰ ہے کہ امام نے ”الہجر“ نامی کتاب میں چھڑے پر سرودہ بات لکھ دی تھی جس کی ضرورت ہے اور جو واقعات تاقیامت پیش آنے والے ہیں۔ اس میں مرقوم ہے کہ آیت ”وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ“ (النمل - ۱۶) کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم حضرت علیؑ کے علم کے وارث ہوئے۔ اسی طرح آیت ”أَنْ تَذَكَّرُوا بَلْقَاءَ“ (البقرہ - ۶۷) میں ”بقرہ“ (کائنات) سے حضرت عائشہ مراد ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ۴۳ ”إِخْرُجُوا مِنْهَا“ میں طلحہ وزبیر مقصود ہیں۔ شیعہ کا قول ہے کہ قرآن کریم میں ”المخسرو المیسر“ (شراب اور حوا) سے ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) مراد ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآنی الفاظ ”الْأَجْنِبِ وَالطَّاغُوتِ“ (بت اور شیطان) سے معاویہ اور عمر بن العاص (رضی اللہ عنہما) کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر عجیب و غریب تفسیری حکمت بیان کئے گئے ہیں! (تاویل مختلف الحدیث ص ۳۶)

ابن قتیبہ مزید لکھتے ہیں :-

”سب بدعتی فرقوں میں سے شیعہ زیادہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ فتنہ نطق قرآن کے بانی بھی شیعہ ہی تھے۔ شیعہ میں سے ایک فرقہ غرابیہ ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علیؑ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ملتے جلتے تھے جس طرح ایک کوادوسرے کو سے کے مشابہ و مماثل ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ غرابیہ کہلاتے غراب عربی میں کوئے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی بنا پر جبریل نے غلطی سے نبی کریمؐ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ گمراہ فرقوں میں سے روایت کا دعویٰ شیعہ کے سوا اور کسی نے نہیں کیا۔ عبداللہ بن سنانے حضرت علیؑ کو اللہ ٹھہرایا تھا۔ چنانچہ

حضرت علی نے اس کے ہمنواؤں کو نذر آتش کروا دیا۔ نبوت کے مدعی بھی صرف شیعہ ہی ہوئے ہیں۔ مختار بن ابی عبید نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا تھا کہ مجھ پر جبرئیل و میکائیل نازل ہوتے ہیں۔ شیعہ کے فرقہ کیسائیر نے اس کی تصدیق کی تھی ۛ

(تاویل مختلف الحدیث ص ۸۴)

یہ امر قابل ذکر ہے کہ شیعہ کے اکثر فرقے آج ناپید ہو چکے ہیں اور مشہور فرقے جو ہنوز موجود ہیں وہ صرف مندرجہ ذیل تین گروہ ہیں :-

- ۱۔ امامیہ اثنا عشریہ -
- ۲۔ امامیہ اسماعیلیہ جن کو باطنیہ بھی کہا جاتا ہے -
- ۳۔ زیدیہ -

امامیہ اثنا عشریہ آج کل بلاد ایران و عراق اور کسی حد تک شام میں پائے جاتے ہیں۔ امامیہ اسماعیلیہ بلاد ہند اور دیگر مقلات میں سکونت پذیر ہیں۔ ان کا قائد امام آغا خاں اسماعیلی ہے۔ آغا خاں قلعہ الموت کے مالک حسن بن صباح کی اولاد سے ہے۔ جس کا شجرہ نسب حضرت علی تک جا پہنچتا ہے زیدیہ کافر قرین میں بود و باش رکھتا ہے۔

(صحیح الاسلام ج ۲ ص ۲۲۵)

شیعہ کے جو فرقے صلواتِ ہستی سے مٹ چکے ہیں ہم تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ان کا ذکر نہیں کریں گے۔ ایک تو اس لئے کہ آج وہ کہیں موجود نہیں۔ دوسرے اس بنا پر کہ انہوں نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں کوئی ٹھوس وغیرہ باقی نہیں چھوڑا۔ سوائے ان چند بکھرے ہوئے تفسیری اجزاء کے جن کو ہم نے مختلف کتب سے فراہم کیا ہے۔

نظر بریں ہماری بحث و تمیص مذکورہ صدر تین شیعہ فرقوں تک محدود رہے گی جو ہنوز موجود ہیں اور جن کے افکار و معتقدات کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ہم ترتیب وار پہلے امامیہ اثنا عشریہ، پھر امامیہ اسماعیلیہ اور بعد ازاں زیدیہ کا ذکر کریں گے۔ وبالله التوفیق۔

تفسیر قرآن سے متعلق امانیہ سبعا عشریہ کا موقف

امامیہ سبعا عشریہ اپنے مخصوص عقائد و احکام کی بنا پر دیگر شیعہ فرقوں سے جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ چونکہ وہ دین اسلام اور قرآن کریم پر ایمان رکھنے کے دعویٰ دار ہیں۔ اس لئے وہ مقدور ہر اس امر کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے عقائد کو قرآنی نصوص و دلائل سے ثابت کریں اور اپنے معتقدات کا دفاع جہل و نزاع کے آلات و اسلحہ سے انجام دیں۔

ائمہ کے بارے میں ان کا طرز عمل اور تفسیر پر اس کے اثرات :-

شیعیہ معتقدات کا مرکز و محور ائمہ کے متعلق ان کا موقف ہے۔ شیعہ اپنے ائمہ کو عظمت و تقدس کے بلند مقام پر فائز کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ائمہ خدا کی زمین پر ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اس کائنات کے اوپر اودینچے خداوند تعالیٰ کی محبت بالغہ ہیں۔ شیعہ عقائد کے پیش نظر امامت دین کی باگ ڈور ہے اور مسلمانوں کی صلاح و فلاح اور عزت و عظمت اسی سے وابستہ ہے۔

(ضحی الاسلام ج ۳ ص ۲۱۵ بحوالہ اصول الکافی ص ۱۱)

چونکہ شیعہ کے نزدیک امام محکوم نہیں ہو سکتا اور اپنی آفرینش اور تصرفات کے اعتبار سے لوگوں پر فائق ہوتا ہے۔ اس لئے شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ائمہ کے ساتھ اسی قسم کا روحانی ربط و تعلق ہوتا ہے، جیسے انبیاء و رسل کے ساتھ۔ ائمہ صاحب شریعت اور اس کے نافذ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اور امام کو خود مقرر کرتا ہے۔

شیعہ امام جعفر صادق سے ان کا یہ قول روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیدا کر کے بہترین عقل و شعور سے نوازا۔ پھر اس کو اعلیٰ تربیت دی اور فرمایا *مُخْلِئِ الْعُقُودِ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهًا عَنِ الْمُنْكَرِ* (معا کرنا کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے)۔ پھر ان الفاظ میں نبی کی مدح فرمائی کہ *وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ* (راقم۔ ۳) (آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں) پھر تشریح کا اختیار دیتے ہوئے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا :-

”وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا

رَسُولٍ مِّنْ بَاطِلٍ يُؤْتِيهِ سُلْطٰنًا مِّنْ

تُحَاكَمُ عَنْهُ فَاَنْتَهُمْ ۱۱ (النار-۶۳) اور جس سے باز رکھے اس سے رک جاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے اپنا دین نبی اکرمؐ کو سونپ دیا۔ پھر آپؐ نے یہ امانت حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کے حوالے کر دی۔
(الوشیعہ فی فقہ عقائد الشیعہ ص ۸۷)

شیعہ اثنا عشریہ کا زادیہ نگاہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و ائمہ کو بہترین عقل و شعور سے نوازا ہے۔ اس لئے نبی و امام اسی چیز کو اختیار کرتے ہیں جس میں کوئی غریبی و عمدگی پائی جاتی ہو۔ نبی و امام کے قلب و ذہن میں ایسی بات کا تصور بھی نہیں گزر سکتا جو مشیت الیزدی اور مصالح امت کے خلاف ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نبی اور امام کو بعض امور کی تعیین سپرد کرتا ہے۔ مثلاً فرض رکعات کی تعداد میں اضافہ اور نفلی نماز، روزہ کی تعیین۔ اس سپردگی سے نبی و امام کی عزت افزائی مقصود ہوتی ہے۔ شریعت میں اس کے نظائر و امثال موجود ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، اور نبی کریمؐ نے نشہ اور ایشیا کو بنا بر اجہتا و حرام ٹھہرایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میت کے ترکہ میں اقارب کے حصے مقرر کئے اور داد اکا ذکر نہ کیا۔ نبی اکرمؐ نے اس کے لئے پچھتہ مقو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کے اس اجتہاد کو درست قرار دیا۔ نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کریمؐ کی منظوری کی امید پر بعض لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کر دیتا۔

شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ان کے بعد ائمہ کو بیت سی باتیں مثلاً حکومت کا نظم و نسق رکھنا یا کی تعلیم و تربیت اور دیگر امور کی تفویض فرمائے اور لوگوں پر ان کی اطاعت کو واجب ٹھہرایا۔ یہ ایسی بات ہے جو احادیث سے ثابت ہے۔ خداوند کریمؐ نے احکام و مسائل کا ذکر و بیان فتویٰ نویسی اور قرآن حکیم کی تاویل و تفسیر بھی ان پر واجب ٹھہرائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ جواب دیں یا خاموش رہیں۔ نیز یہ کہ موقع و محل کی مناسبت سے جیسا جواب چاہیں محتاط کر دیں یا تقیہ اختیار کریں۔ بقول شیعہ یہ اختیار ائمہ کو حاصل ہے۔ صاحب الکافی ذکر کرتے ہیں کہ تین آدمیوں نے امام جعفر صادقؑ سے ایک آیت کی تفسیر دریافت کی۔ آپ نے تینوں کو مختلف جواب دیا۔ ایک ہی سوال کے تین مختلف جواب دینے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آپ نے بطور تقیہ کے ایسا کیا یا خداداد تفویض و اختیار کی بنا پر۔ (الوشیعہ فی فقہ عقائد الشیعہ ص ۸۷)

شیعہ کے نزدیک نبی اور امام کو ایک اختیار یہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ مناسب سمجھے تو ظاہری شریعت کے مطابق حکم صادر کرے یا ظواہر شریعت کو چھوڑ کر اپنے الہام و اجتہاد کے مطابق فیصلہ دے۔ جیسا کہ سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ کے ساتھی اور ذوالقرنین کا واقعہ مذکور ہے۔ (حوالہ مذکور ص ۸۹)

ائمہ کے بارے میں انہی عقائد کے زیر اثر شیعہ ائمہ کی عصمت، رجعت، تقیہ اور جہدی منظر کے قائل ہو گئے۔ یہ افکار و عقائد شیعہ کے اذہان و عقول میں رچ بس گئے تھے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن کریم کو انہی عقائد کی عینک سے دیکھنا شروع کیا۔ چنانچہ انہوں نے قرآن عزیز کن من مانی تفسیر کرتا شروع کی، اور اس کی آیات و نصوص کو اپنے عقائد کے سانچہ ڈھال دیا۔ اسی کا نام تفسیر بالرأی المذموم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک عقیدہ بنا لیا جائے۔ اور پھر قرآن کو توڑ مروڑ کر اس سے ہم آہنگ کرنے کی سعی لاساصل کی جائے۔

اثنا عشریہ کی تفسیر پر معتزلہ کے اثرات :-

جو قرآنی نصوص علم الکلام کے مسائل سے مربوط و متعلق ہیں ان کے بارے میں اثنا عشریہ کا نقطہ نگاہ بالکل وہی ہے جو معتزلہ کا۔ معتزلہ و اثنا عشریہ کے یہاں اختلاف و نزاع صرف چند مسائل میں پایا جاتا ہے۔ فریقین کے مابین اس گہرے اور مستحکم ربط و تعلق کی وجہ یہ ہے کہ اکثر شیعہ علماء و مشائخ معتزلہ کے شاگرد تھے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دونوں فرقوں کا باہمی ارتباط نیا نہیں بلکہ پرانا ہے۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ قدیم شیعہ علماء مثلاً حسن عسکری شریف مرتضیٰ اور ابو علی طبرسی نے اپنی تفاسیر میں معتزلی انکار و نظریات کا اظہار کیا ہے۔

چنانچہ شریف مرتضیٰ نے الامالی میں حضرت علی کو معتزلی یا بالفاظ صحیح تر بانی اعتراف

ثابت کرنے کی امکانی جہد و جہد کی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ معتزلی نظریات نے شیعہ تفسیر کو بڑی حد تک متاثر کیا تھا۔ جیسا کہ آگے چل کر واضح کیا جائے گا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ معتزلی نظریات کا اظہار سب سے پہلے محمد بن حنفیہ کے دونوں بیٹوں ابو ہاشم عبداللہ اور حسن نے کیا تھا۔ ابو ہاشم سے یہ عقیدہ واصل بن عطاء نے اخذ کیا۔ (مقدمہ تبیین کذب المنقرضی ص ۱)۔

ابو الحسن الطرغافنی شافعی متوفی ۳۲۰ھ اپنی کتاب "رداصل الاسوار والبدع" میں لکھتے

ہیں کہ جب حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیا تو مسلمانوں کی

ایک جماعت حضرت حسن و معاویہ دونوں کو چھوڑ کر الگ ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم گھر میں مقیم رہ کر علم و عبادت میں مشغول رہیں گے۔ ان لوگوں کو معتزلہ (الگ ہو جانے والے) کہا جانے لگا۔

(عاشیہ پیمین کذب المفتری ص ۱۰)

شیعی تفسیر پر فقہی مسالک کا اثر :-

فقہ و اصول کے بارے میں شیعہ کے اپنے نظریات ہیں جن میں وہ بالکل منفرد ہیں۔ مثلاً

ان کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ فقہ کے دلائل حسب ذیل چار ہیں :-

۱۔ کتاب۔

۲۔ سنت۔

۳۔ اجماع۔

۴۔ عقلی دلائل۔

کتاب اللہ کے بارے میں شیعہ کے نظریہ کا اظہار آگے چل کر کیا جائے گا۔ سنت سے متعلق بھی ان کا ایک جداگانہ زاویہ نگاہ ہے۔ جس میں حدیث کا صحیح ہونا ان کے یہاں ضروری نہیں۔ اجماع ان کے نزدیک اس وقت حجت ہوتا ہے جب اجماع منعقد کرنے والوں میں کوئی امام معصوم بھی شامل ہو۔ یا اجماع امام کے کسی نظریہ یا کسی معتبر دلیل پر مبنی ہو۔ گویا اجماع ان کے یہاں کتاب و سنت میں داخل ہے۔

جہاں تک عقلی دلیل کا تعلق ہے شیعہ کے یہاں اس میں قیاس استحسان اور مصلح مرسلہ شامل نہیں۔ اس لئے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے نزدیک حجت نہیں (ایمان الشیعہ ص ۴۴)۔

شیعہ بعض فقہی مسائل میں اہل سنت سے بالکل مختلف زاویہ نگاہ رکھتے ہیں۔ مثلاً

۱۔ شیعہ کے نزدیک وضو کرتے وقت پاؤں پر مسح کرنا فرض ہے ان کا دھونا نہیں۔

۲۔ شیعہ موزوں پر مسح کرنے کو جائز خیال نہیں کرتے۔

۳۔ نکاح مُتَعہ شرعاً جائز ہے۔

۴۔ انبیاء سے ورثہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ تقسیم میراث کے سلسلہ میں وہ "محول" کے قائل نہیں۔

ان فقہی اختلافات کا نظری نتیجہ تھا کہ جو آیات و نصوص فقہ و اصول سے متعلق ہیں۔ شیعہ انکے بارے میں متعصبانہ رویہ اختیار کرتے۔ قرآنی آیات کو اپنے افکار و آرا کے قالب میں ڈھالتے اور جو آیات و احادیث ان کے نظریات سے متصادم ہیں ان کی تاویل کرتے۔ بعض اوقات شیعہ قرآن حکیم کی عبارت میں ایسے الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں جو اس میں موجود نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی قرابت ہے۔ یہ نزاع و جدال اور خلاف ورزی کی آخری سرحد ہے۔

شیعی عقائد کو فروغ دینے کی مساعی :-

چونکہ اپنے لغراض و مقاصد کی تکمیل کے لئے شیعہ کو قرآن حکیم سے مطلوب مواد نہیں ملتا تھا اس لئے انہوں نے مندرجہ ذیل جیلوں سے کام لینا شروع کیا۔

۱۔ شیعہ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ بلکہ اس کے کئی باطن ہیں۔

ائمہ کو قرآن کریم کے ظاہر و باطن کا پھندا پودا علم ہے۔ اس لئے امام سے نئے بغیر قرآن میں رائے زنی درست نہیں۔

۲۔ شیعہ کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کا اکثر حصہ یا تو ائمہ کے بارے میں نازل ہوا ہے اور یا ان کے احباب و اعداء سے متعلق۔

۳۔ عہد رسالت میں جو قرآن کریم موجود تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب وہ کہیں نہیں پایا جاتا۔

شیعہ کی جانب سے یہ جملہ جوتی صرف لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لئے انجام دی گئی کہ ہمارے افکار و عقائد قرآن سے ماخوذ و مستفاد ہیں اور ہمارے نزدیک دین کا اولین و اساسی ماخذ و منبع رہی ہے۔

۴۔ اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ شیعہ نے اہل بیت کے نام سے حدیثیں وضع کر کے لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنسانے کی کوشش کی اور چند صحابہ کو چھوڑ کر سب کو مطعون کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب صحابہ کی روایت کر وہ احادیث صحیحہ شیعہ کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ یہ کہہ کر گھوٹلا صی کرا سکیں کہ صحابہ تو قابل اعتماد ہی نہیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم شیعہ کے ان ادہام و دعاوی کا اچھی طرح پوسٹ مارٹم کر کے دیکھیں کہ یہ کس حد تک درست ہیں۔ اس لئے کہ امامیہ اثنا عشریہ کی تفسیر قرآن بڑی حد تک ان دعاوی چہارگانہ پر مبنی ہے۔ چنانچہ ہم ترتیب وار ان پر گفتگو کرتے ہیں۔

۱۔ قرآن کا ظاہر و باطن :-

امامیہ اثنا عشریہ کا کہنا ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ چونکہ یہ بات احمادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ اس لئے ہم اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے۔ اگرچہ باطن سے ہماری مراد وہ نہیں جو شیعہ کے نزدیک ہے۔ مگر شیعہ کے نزدیک یہ آخری حد نہیں۔ وہ اس سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ۷۷ لٹن ہیں۔ قرآن کے ظاہر میں توحید و رسالت کی دعوت دی گئی ہے اور اس کے باطن میں امامت و ولایت اور اس کے متعلقات کی۔

قرآن کے ظاہر و باطن کے دعویٰ کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعہ نے قرآن کریم ظاہری و باطنی معانی کو باہم مربوط و متصل اور ہم آہنگ بنانے اور ان میں توافق و تطابقی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ عقیدہ لوگوں کے لئے قابل قبول ہو سکے اور عقل انسانی اس کو باور کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔

قرآن کریم کے ظاہر و باطن معانی میں جمع و تطبیق کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا:-

”مَكَانُ الْجَنَّةِ الْبَتَىٰ وَعِدَّةُ الْمُتَّقُونَ“ اس جنت کی خاص صفت جس کا مومنوں کو وعدہ

دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہوں گی (سورہ محمد-۱۵)

شیعہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جن انعامات ربانی کا ذکر کیا گیا ہے اس کے ظاہری معنی یہی ہیں۔ مگر اس کے ایک باطنی معنی بھی ہیں۔ اور وہ ائمہ کے علوم و فنون ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ظاہری و باطنی معنی ہیں ربط و تعلق یہ ہے کہ جس طرح جنت میں انعامات خداوندی سود مند اور نافع ثمرات ہوں گے، اسی طرح جو علوم اماموں کو عطا ہوئے ہیں ان کی افادیت بھی ان نعمتوں سے کسی طرح کم نہیں۔ شیعہ ہر جگہ ظاہری و باطنی معانی میں توافق و یک رنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دونوں قسم کے معنی و مفہوم میں بُعد اور عجز بہ پن نظر نہ آئے۔

باطنی معانی تسلیم کرنے کی تاکید و تلقین :- شیعہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کے ظاہر

دباطن معنوں میں جو مشابہت و مماثلت انہوں نے پیدا کی ہے وہ اس قدر کمزور ہے کہ لوگ اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتے۔ اس لئے انہوں نے تعویف و ترہیب کے ذریعہ لوگوں پر یہ عقیدہ اسی طرح ٹھوننا چاہا، جس طرح تاریخ کے تاریک دور میں اصحاب کلیسا نے لوگوں کو آزادانہ سوچ بچار سے محروم کر کے ان پر اپنے انکار و خیالات ٹھونسنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ شیعہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن کے ظاہر و باطن مکمل و متشابہ اور ناخ و منسوخ پر ایمان لانا یکساں طور پر واجب ہے۔ اگر اہل بیت سے یہ بات تفصیلاً معلوم ہو تو اس پر تفصیلاً ایمان لانا چاہیئے۔ ورنہ اجمالی ایمان پر اکتفا کیا جائے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ باطنی معنی سے کس حال میں بھی انکار نہ کیا جائے۔ اہل بیت سے منقول ہو کر اس سلسلہ میں جو بات بھی پہنچے اس کو تسلیم کر لیا جائے، اگرچہ اس کا معنی و مطلب سمجھ میں نہ آئے۔ اگر کوئی شخص ظاہر پر ایمان رکھتا اور باطنی معنی کا انکار کرتا ہو تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح ظاہر کا انکار کر کے باطن پر ایمان لانے والا یا ظاہر و باطن دونوں کا منکر شیعہ کے نزدیک کافر ہے۔

شیعہ کا مقصد یہ ہے کہ عقل انسانی کو بے کار کر کے لوگوں کو قرآنی آیات میں آزادانہ غور و فکر سے محروم کر دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کے ظاہری و باطنی معانی صرف نبی کریم اور آپ کے بعد ائمہ اہل بیت تک محدود ہیں۔ علوم قرآن کے حامل صرف وہی ہیں۔ اس لئے کہ قرآن اُن کے گھر میں اترا اور گھر والا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ نبی کریم اور ائمہ کے سوا دوسرے لوگوں کا علم ناقص ہے۔ اور وہ اس کے ظاہری معانی سے بھی بے بہرہ ہیں۔ چہ جائیکہ اس کے باطنی معانی سے باخبر ہوں۔ اس لئے قرآن کے بارے میں وہی بات کہنی چاہیئے جو ائمہ اہل بیت سے مروی و منقول ہو۔ زیادہ سے زیادہ شیعہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو شخص اللہ و رسول اور اہل بیت کے ساتھ مخلصانہ محبت رکھتا اور ان سے علمی استفادہ کرتا ہو وہ قرآن سے استنباط کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اہل بیت سے رشتہ محبت و مودت استوار کرنے اور ان کے علم سے خوشہ بینی کی بنا پر اہل بیت کافر دین چکا۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل بیت میں شام کیا تھا۔

نصوص قرآنی کا مذاق اڑانے میں باطنی تفسیر کے اثرات :- قرآن کی باطنی

تفسیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر یقین رکھنے والوں نے اپنے عقائد و افکار کے سامنے ایک وسیع میدان پایا جس میں ان کے تمام جذبات و احساسات اور خواہشات کی گنجائش پوری طرح موجود تھی۔ اس لئے انہوں نے اپنی من مرنسی کے مطابق قرآن حکیم میں تصرفات کا آغاز کیا۔ اس حقیقت سے تو وہ واقف تھے ہی کہ عوام ہمارے دام فریب میں آگئے ہیں اور ہمارے افکار و مبادی کو تسلیم کرتے ہیں۔

شیعہ کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اس نے بعض آیات کے باطنی معانی سے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ شیعہ کا دعویٰ ہے کہ ہونے والے واقعات کی پیش گوئی قرآن کے وجہ اعمال میں سے ایک ہے۔ اس کو اصل واسطہ بنا کر جو تفسیرجات چاہتے اس پر مرتب کرتے۔

قرآن حکیم میں فرمایا :-

”لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ“
 تم یکے بعد دیگرے کئی حالات سے دوچار ہو گے۔ (الاشقاق- ۱۹)

شیعہ کہتے ہیں اس آیت میں اشارہ ہے کہ یہ امت سابقہ اقوام کی طرح اپنے انبیاء اور ان کے بعد اوصیاء سے غداری کرے گی۔ ان کا قول ہے کہ جو لفظ ظاہری معنی کے اعتبار سے ایک عام مفہوم کے لئے استعمال ہوتا ہو۔ بسا اوقات باطنی معنی کے لحاظ سے اس سے خاص مطلب مراد لیا جاتا ہے۔ مثلاً ”کافرین“ سے عام کفار مراد ہوتے ہیں۔ مگر باطنی معنی کے اعتبار سے اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے حضرت علیؑ کی ولایت کا انکار کیا۔

قرآن کے باطنی معنی قرار دینے کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم میں جہاں بظاہر اقوام سابقہ کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں باطنی معنی کے اعتبار سے اس امت کے وہ افراد مراد ہیں جو اس کے مصداق بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

قرآن حکیم میں فرمایا :-

”وَمَنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٍ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ قَرِيبًا يَعْلَمُونَ“

ظاہر اس آیت میں قوم موسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے مگر باطنی معنی کے لحاظ سے یہاں اہل اسلام مراد ہیں۔ قرآن کے باطنی معنی کی اساس پر شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآنی آیات کی تاویل ایک ہی عمرو عہد میں رہنے والے لوگوں پر منطبق نہیں ہوتی۔ بلکہ قرآن کا ہر فقرہ ہر زمانہ اور ہر اہل زمانہ پر فرٹ بیٹھتا ہے۔ بنا بریں قرآن عزیز کے مطالب و معانی حسب مقام و زمان ہدلتے رہتے ہیں۔ بلکہ وہ اس سے دو قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ایک ہی آیت کی متعدد اور متناقض تاویلات ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آیت کا ایک جزو ایک واقعہ سے وابستہ ہو اور دوسرا ایک جداگانہ واقعہ سے۔ خلاصہ یہ کہ باطنی تاویل کا دروازہ چھوٹ کھلا ہے اور اس میں ہر قسم کی تاویلات کی پوری پوری گنجائش ہے۔

یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ”قرآن کا ایک باطن ہے اور ایک ظاہر“ علاوہ انہی مفسرین ہی اس امر کا اعتراف کرتے ہیں تو پھر شیعہ امامیہ کو کیسے مطعون و معتوب کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے باطنی معنی تسلیم اگر باطنی معنی کا وہ مطلب ہرگز نہیں جو شیعہ کے یہاں مقصود ہے۔ نبی کریمؐ اور مفسرین نے جس باطنی معنی کا اعتراف کیا ہے اس سے وہ تاویل مراد ہے قرآنی الفاظ جس کے متحمل ہو سکتے ہوں مگر شیعہ کا باطنی مفہوم اس سے ایک جداگانہ چیز ہے۔ شیعہ کا باطنی مفہوم ان کے مذہب و مسلک اور ذوق کی پیداوار ہے اور قرآن میں اس کی جانب کوئی اشارہ موجود نہیں ہوتا۔

تناقض سے بچنے کی کوشش :-

جب شیعہ کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح ان کے تفسیری اقوال تناقض کا شکار ہو جائینگے تو انہوں نے اس سے بچنے کی کوشش کی۔ شیعہ نے اس سے مخلصی حاصل کرنے کے لئے عوام کو چند اصول و قواعد کا پابند کر دیا۔ ان قواعد کو تسلیم کرنا اور ان پر ایمان لانا شیعہ کے نزدیک واجب ہے۔ وہ حسب ذیل اصول ہیں :-

۱۔ امام من جانب اللہ تفسیر قرآن کے لئے مامور ہوتا ہے۔

۲۔ امت کی سیاست امام کے ذمہ ہوتی ہے۔

۳۔ وقت ضرورت تفسیر سے خارج نہیں ہو سکتا ہے۔

یہ اصول سرگاز اس تناقض سے بچنے کے لئے وضع کئے گئے ہیں جو ان کے یہاں ائمہ سے منقول تفسیری اقوال میں پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ جب امام من جانب اللہ تفسیر قرآن کے لئے مامور ہے تو وہ حسب منشا قرآن کی تفسیر کرنے کا مجاز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب امت کی سیاست بھی اس کو تفویض کی گئی ہے تو وہ امت کی مصلحت و بیہود کے پیش نظر قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سائل و سماع کی صلاح و فلاح کس بات میں مضمر ہے۔ وہ ہر انسان کو اس کی مصلحت کے مطابق جواب دے گا۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں خاموش رہ کر تفسیر پر عمل کرے گا۔ ایک دفعہ امام باقر کو کہا گیا کہ حسن بصری کہتے ہیں جو شخص علم کو چھپائے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ امام باقر نے یہ سن کر کہا "پھر تو آل فرعون کا مومن تباہ و برباد ہو گیا۔ جب سے اللہ نے حضرت نوح کو مبعوث کیا علم ہمیشہ پوشیدہ رہا۔ حسن بصری دائیں بائیں جہاں چاہے جاتے علم میرے سینہ کے سوا اور کہیں نہیں ملے گا۔ (الوئیعہ فی نقد عقائد الشیعہ ص ۸۰)

شیعہ کے نزدیک امام حسب حال و مقام مصلحت کے مطابق جواب دے گا اور تفسیر سے کام لے گا۔ وہ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ امام اگر تفسیر کی بنا پر کوئی بات کہے اور ایک شیعہ شخص کو معلوم نہ ہو کہ امام نے تفسیر سے کام لیا ہے تو وہ امام کے قول پر عمل پیرا ہوگا۔ (حوالہ مذکور ص ۸۲)

۲۔ ائمہ اور ان کے اجداد کے بارے میں قرآن کا موقف :-

امامیہ اثنا عشریہ کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی اور بعد میں آنے والے ائمہ کی امامت کا اقرار و اعتراف ان کے ساتھ الفت و محبت اور ان کے اعداء و خصوم سے بغض و عناد اصول ایمان میں سے ایک عظیم اصل ہے۔

دیگر اصول و ضوابط کے ساتھ ساتھ اس کے بغیر کسی شخص کے ایمان کی تکمیل ممکن نہیں۔ ائمہ کی اطاعت اور ان کی افضلیت پر اعتماد و یقین واجب ہے۔ اس عقیدہ کے اظہار و اعلان کے بعد شیعہ قرآنی نصوص کو ائمہ کے نظریات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے دو قدم آگے بڑھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ مدح و توصیف سے متعلق آیات ائمہ کی شان میں وارد ہوئی ہیں۔ اور جن آیات میں زجر و عقاب کیا گیا ہے وہ سب ان کے مخالفین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کے مبالغہ آمیز دعویٰ کی حد یہ ہے کہ قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ بلکہ سارا قرآن ائمہ

کی رہنمائی ان کی اطاعت کے وجوب اور مخالفت سے استرازا و اجتناب کے سلسلہ میں آتا ہے۔ ان دعویٰ و معتقدات کے زیر اثر شیعہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں کہیں اپنے لئے جمع کا صیغہ یا ضمیر استعمال کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نبی کریم ﷺ اور ائمہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اس مجاز کا استعمال بہت عام ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جمع کے صیغے سے بعض اوقات صرف ائمہ ہی مقصود بالذات ہوتے ہیں۔ اور ذات الہی سرے سے مراد ہی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں فرمایا :-

”وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ“
انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے تھے۔

امام محمد باقر سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شخص ظلم نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور ہم پر جو ظلم کیا گیا تھا اس کو اپنی ذات پر ظلم قرار دیا۔ کیونکہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”أَنسَا رَبِّيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ الَّذِينَ
آمَنُوا“ (المائدہ - ۵۵)
اے اہل بیعت و ائمہ کرام اللہ اور رسول تمہارے دوست ہیں اور جو لوگ ایمان لائے۔

(مقدمہ مرآة الانوار و مشکوٰۃ الاشراف ص ۲۹)

سیرت انجیز بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں ”اللہ اور رب کے الفاظ یا ان کی طرف لوٹنے والی ضمیریں استعمال کی گئی ہیں، شیعہ کے نزدیک ان سے امام مراد ہے۔ اس کے نتیجہ میں جہاں خدا کی اطاعت رضایا فقر و غنا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے امام کی اطاعت و رضا مقصود ہے۔ بزعم خویش شیعہ اس کو مجاز پر محمول کرتے ہیں۔ مگر ہمارے علم کی حد تک ایسے مجاز کا کہیں وجود نہیں اس لئے کہ علماء کے نزدیک مجاز متعارف کے معنی یہ ہیں کہ کسی لفظ کو غیر موضوع لہ معنی میں استعمال کیا جائے اور وہاں کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو اصل معنی مراد لینے سے مانع ہو۔ مگر یہاں اس قسم کی کوئی چیز نہ ملے سے موجود ہی نہیں۔ پھر اس تکلف اور عدول الی المجاز کی ضرورت کیوں کر پیش آتی؟ حالانکہ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ مجاز کی جانب رخ اُس وقت کیا جاتا ہے جب حقیقی معنی مراد نہ لیا جا سکتا ہو۔

۲- تحریف القرآن :-

اب شیعہ پر یہ سوال کیا جانے لگا کہ جب تمہارے قول کے مطابق قرآن کریم کا اکثر و بیشتر حصہ ائمہ کی عظمت و فضیلت اور ان کے اعوان و اعدا کے بارے میں نازل ہوا تھا اور یہی مقصود بالذات تھا تو پھر قرآن میں صراحتاً اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا۔ اور اشارات پر انکفار کی وجہ کیا تھی؟ اس ضمن میں سوال سے جب گلو غلامی مشکل نظر آئی تو شیعہ نے یہ کہہ جان چھڑائی کہ قرآن کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بات ان کو سب سے آسان نظر آئی۔

شیعہ کا دعویٰ ہے کہ اصلی قرآن وہ تھا جس کو حضرت علی نے جمع کیا اور یکے بعد دیگرے ائمہ اہل بیت اس کے وارث بنے۔ یہ قرآن ہر قسم کی تحریف و تبدیل سے پاک تھا۔ اس کے ماسوا قرآن کے سب نئے تفسیر و تبدل سے متاثر ہو چکے ہیں۔ جو آیات مدح اہل بیت اور ان کے اعدا کی مذمت میں وارد ہوئی تھیں وہ سب حذف کر دی گئی ہیں۔ تحریف پر مشتمل اخبار و روایات شیعہ کی یہاں بہت عام ہیں اور وہ ان کو اہل بیت سے روایت کرتے ہیں۔ حالانکہ اہل بیت کا دامن ایسی موضوع روایات سے پاک ہے۔

الکافی نے امام جعفر صادق سے روایت کیا ہے کہ جب چل جو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے تھے وہ ستر ہزار آیات پر مشتمل تھا۔ ہمارے پاس قرآن کا جو نسخہ موجود ہے اس میں ۶۲۶۲ آیات ہیں۔ باقی آیات اہل بیت کے پاس اس نسخہ میں محفوظ ہیں جو حضرت علی نے جمع کیا تھا۔ (الوشیعہ ص ۲۳)

شیعہ کا دعویٰ ہے کہ سورۃ البینۃ میں ستر قریشی اشخاص کے نام ان کے حسب نسب سمیت مندرج تھے۔ اسی طرح سورۃ احزاب کی ضخامت سورہ الانعام جتنی تھی۔ اس میں سے اہل بیت کے فضائل پر مشتمل آیات حذف کر دی گئیں۔ سورۃ الولاۃ کو قرآن سے خارج کر دیا گیا۔ اس ضمن میں کم سے کم بات جو شیعہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ موجودہ قرآن بلاشبہ کلام الہی ہے مگر یہ قرآن کا کامل نسخہ نہیں البتہ کامل قرآن اہل بیت کے یہاں محفوظ ہے۔ جب امام غنظہ قریشی لائیں گے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جمع کردہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گے۔ (الوشیعہ ص ۲۷)

جہن قرآنی نصوص سے شیعہ کے دعویٰ تحریف القرآن کی تردید ہوتی تھی۔ وہ ان کی تاویل

کرتے ہیں۔

قرآن عزیز میں فرمایا :-

وَاِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَكَاٰفِظُوْنَ ؕ ، الحجر - ۹ ،
ہم نے اس قرآن کو آمانا اور ہم ہی اس کے
محافظ ہیں۔

شیعہ اس آیت کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کو ائمہ اہل بیت کے یہاں محفوظ رکھیں گے۔
اس ضمن میں شیعہ پر دو اعتراض ممکن تھے :-

۱ - ایک یہ کہ جب شیعہ اس قرآن کو محرف قرار دیتے ہیں تو پھر اپنے انکار و معتقدات کے سلسلہ میں
اس پر اعتماد کیوں کر کرتے ہیں ؟

۲ - دوسرے یہ کہ جب موجودہ قرآن میں اہل بیت کے اوصاف و حمائد اور ان کے مخالفین کے عیوب
مثالب سرے سے موجود ہی نہیں تو پھر لوگوں پر اہل بیت کی فضیلت اور ان کے اعلاء کی قباحت و
ذمت کیوں کر واضح کی جاسکتی ہے ؟

وہ پہلے سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ تحریف سے ہمارے مقصد میں چنداں نفع واقع نہیں
ہوتا۔ اس لیے کہ صرف حضرت علی آل محمد اور منافقین کے اسماء حذف کیے گئے ہیں اور اس سے ہمارا
مطلب فوت نہیں ہوتا۔ اس نے اہل بیت کے حمائد اور مخالفین کے مثالب صراحتہ بیان کرنے پر اکتفا نہیں
کیا تھا بلکہ قرآن کے باطنی معنوں کے لحاظ سے اس کی جانب اشارے بھی کیے تھے ظاہر ہے کہ اس
میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ لہذا ظاہری تحریف کے باوصف لوگوں پر رحمت قائم ہو چکی ہے۔
حق بات یہ ہے کہ تحریف و تبدیل کرنے والے شیعہ ہی تھے۔ بسا اوقات قرآن میں کوئی لفظ
بڑھا کر وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی قرأت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا :-

وَيَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ
اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۔
اے رسول جو کلام تجھ پر تیرے رب کی طرف
سے آتا لایا ہے اس کو آگے پہنچا دیجئے۔

(المائدہ - ۶۷)

شیعہ اس آیت میں ”مِنْ رَبِّكَ“ کے آگے ”مِنْ شَيْءٍ عَلِيٍّ“ (علی کی شان میں) کا اضافہ
کرتے ہیں حالانکہ یہ صرف انہی کی روایت ہے جو مجروح و مظلوم ہے۔ (الوشیعہ میں ص ۶۳ بحوالہ الکافی، ج ۲ ص ۱۵۲)

العیاشی امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ وہ اسے اللہ دین اسلام کو عربین خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعہ تقویت عطا کرے، تو یہ آیت اتری :-
مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ۱۔، (الوشیعہ ص ۶۴) ہوں۔

قرآن کریم میں فرمایا :

رِئَازِ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ
ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ
يُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِعِصِيئَتِهِمْ
سَبِيلًا ۲۔ (النساء - ۱۳۷)

صاحب اصول الکافی لکھتے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر و عمر و عثمان (رضی اللہ عنہم) کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ پہلے نبی کریم پر ایمان لائے۔ جب حضرت علی کی خلافت تسلیم کرنے کو کہا گیا تو منکر ہو گئے۔ پھر علی کی بیعت کا اقرار کیا۔ پھر آنحضرت کی وفات کے بعد کافر ہو گئے۔ اور پھر پوری امت سے بیعت لے کر اپنے کفر پر پختہ ہو گئے۔ (الوشیعہ، ص ۶۵ بحوالہ اصول الکافی، ج ۲، ص ۳۲۵)

ہم نے یہ چند مثالیں باانصاف قاری کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا اس کا کام ہے کہ شیعہ قرآن میں جس تحریف کے مدعی ہیں اس کا ارتکاب انہوں نے خود کیا ہے۔ وہ قرآن کے الفاظ کو ان معانی پر محمول کرتے ہیں جو عند اللہ مراد و مقصود ہی نہیں۔ اس سے ان کا مقصد صرف اپنی خواہشات کی تکمیل ہے اور بس۔

احادیث و آثار سے متعلق شیعہ کا زاویہ نگاہ :

شیعہ نے دیکھا کہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے مروی و منقول بے شمار احادیث و آثار موجود ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر احادیث ان کے نظریات سے متصادم بھی تھیں۔ اس لیے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا زبردستی تھا۔ اس کے دو طریقے ممکن تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کو رد کر دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ ان کی تاویل کر کے ان کو اپنے عقائد سے ہم آہنگ کر لیا جائے۔ روایات کو رد کر دینا

ان کے لیے چند اہل دشوار نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روایت یا تو صحابی کے قول پر مبنی ہوگی اور یا آنحضرتؐ کا قول ہوگا، جو صحابہ کے ذریعہ آپ سے منقول ہوگا۔ اور شیعہ اکثر صحابہ پر نقد و جرح کرتے بلکہ اس لیے ان کی تکفیر کرتے ہیں کہ انہوں نے یکے بعد دیگرے حضرات ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی بیعت کی تھی۔ جمال تک تاویل کا تعلق ہے اس کا دروازہ شیعہ کے سامنے چوپٹ کھلا ہے اور اس فن میں ان کی مہارت و براعت چند اہل دوحکی چھپی نہیں۔

مثلاً شیعہ متعہ کی حرمت اور موزوں پر مسح کے جواز میں احادیث نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ دُیس المنافقین مغیرہ بن شعبہ (نعمو باللہ من ذالک) سے مروی ہیں۔ پھر بطریق جدل ان احادیث کی صحت تسلیم کر کے کہتے ہیں کہ جو موزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے وہ اوپر سے پھٹا ہوا تھا اور آپ اس پھٹے ہوئے حصہ سے پاؤں کی بالائی جانب پر مسح فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ شیعہ کی یہ تاویل محض تکلف پر مبنی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ اصحاب رسولؐ کے اقوال اور ان سے مروی احادیث کو قبول نہیں کرتے وہ اسی حدیث اور تفسیر کو قبول کرتے ہیں جو شیعہ طریقہ اور ان کے رواۃ درجہ اول سے منقول ہو۔ اس طرح شیعہ نے نقل و روایت کے دائرہ کو صرف شیعہ رواۃ تک محدود کر دیا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو مسلم قرار دیتے ہیں۔ اگر وہ اہل سنت کے گرد و نواح میں بود و باش رکھتے ہوں تو باطناً شیعہ ہوں گے اور بظاہر تہذیب سے کام لیں گے۔

اے کاشش! کہ معاملہ میان تک محدود رہتا کہ شیعہ اپنے راویوں پر اعتماد کرتے اور دوسروں کو شتم کرتے۔ مگر شیعہ اکابر نے اس سے بھی آگے بڑھ کر اور عام اہل اسلام کی سادگی اخلاص اور حُب اہل بیت کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر اپنے نظریات کی نائید و حمایت میں حدیثیں وضع کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ مشہور شیعہ جابر بن یزید جصنی نے اس کی طرح ڈالی۔ ستم یہ ڈھایا کہ احادیث موضوعہ کے ساتھ ان کی اسائید بھی درج کر دیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نیک نیت عوام ان کے دام فریب میں آگئے۔ شیعہ علماء اس لیے دانستہ خاموش رہے کہ نہ کھڑت احادیث ان کے مفید مطلب تھیں۔

ابوالنظر اسفہرانی اپنی کتاب التبصیر فی الدین میں رقم طراز ہیں :-

”جب شیعہ نے دیکھا کہ جاہل بڑا مصنف ہے اور ہر گروہ کے لیے کتابیں تصنیف کرتا ہے

قرآنوں نے باخظ سے اپنے مذہب کے بارے میں کتاب لکھنے کی فرمائش کی۔ وہ کہنے لگا تمہارے مذہب کی کوئی دلیل مجھے معلوم نہیں جس کو بڑھا چھیل کر میں کتاب مرتب کر دوں شیعہ کہنے لگے پھر آپ ہی ہمیں کوئی دلیل بتائیے جس پر ہم مضبوطی سے جم جائیں۔ باخظ کہنے لگا میری سمجھ میں اس کے سوا کوئی دلیل نہیں آتی کہ تم جب کسی بات کا دعویٰ کرتے ہو تو کہتے ہو کہ یہ امام جعفر صادق کا قول ہے۔ اس کے سوا تمہاری کوئی دلیل مجھے معلوم نہیں شیعہ اپنی کم عقلی اور جہالت کی بنا پر ایسی پریم گٹھے چنانچہ جب انہوں نے کوئی بدعت یا جھوٹی بات گھڑنی ہوتی تو اس کو امام جعفر صادق کی جانب منسوب کر دیتے۔ حالانکہ جناب امام کا دامن اس دروغ بانی سے پاک ہے (التبصیر فی الدین، ص ۲۷)

شیعہ کی کتب حدیث :-

امامیہ اثنا عشریہ کے یہاں متعدد کتب حدیث ہیں جن پر وہ مدد درجہ اعتماد کرتے ہیں۔ یہ کتب حدیث ان کے نزدیک نہایت بلند مرتبہ و مقام رکھتی ہیں۔

اہم کتب حدیث حسب ذیل ہیں :-

۱۔ کتاب الکافی :- اس کے مولف کا نام ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی ۳۲۸ھ یا ۳۲۹ھ

ہے۔ اس کتاب کا مرتبہ شیعہ کے نزدیک وہی ہے جو اہل سنت کے نزدیک صحیح بخاری کا۔ یہ

کتاب سولہ ہزار احادیث پر مشتمل ہے۔ اس میں صحیح و حسن و ضعیف ہر قسم کی حدیثیں ہیں۔ اس

کی تین جلدیں ہیں۔ جلد اول اصول اور جلد دوم و سوم فروع سے متعلق ہیں۔

۲۔ کتاب التمذیب :- اس کے مولف کا نام محمد بن حسن طوسی ہے۔ اس کی دو جلدیں ہیں۔ اور فروع

سے متعلق ہیں۔

۳۔ کتاب من لایحضرہ الفقہ :- اس کے جامع کا نام محمد بن علی بابو ثیر ہے۔ یہ بھی فروع میں ہے۔

۴۔ کتاب الاستبصار فیما اختلف فیہ من الاخبار :- جامع کا نام محمد بن حسن طوسی ہے۔ یہ

کتاب التذیب کا خلاصہ ہے۔

مندرجہ صدر چاروں کتب شیعہ کی اتہات کتب حدیث ہیں جن پر وہ مدد درجہ اعتماد کرتے ہیں۔

محمد بن مرتضیٰ نے جو ملا حسن الکاشی کے نام سے معروف ہیں۔ ان چاروں کتب حدیث کو کتاب الکافی میں جمع کر

دیا ہے۔ اس کی تین جلدیں ہیں۔ مزید برآں شیعہ کی چند کتب حدیث اور بھی ہیں جن کی اہمیت کسی طرح بھی مندرجہ صدر کتب سے کم نہیں۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں :-

- ۱- وسائل الشیعہ الی احادیث الشریعۃ از شیخ محمد بن حسن العسلی۔
- ۲- بحار الانوار فی احادیث النبی والائمة الاطہار شیخ محمد باقر۔

(ایمان الشیعہ، ج ۱- ص ۲۹۲)

مندرجہ صدر کتب حدیث کا قاری ان کے مندرجات کی بنا پر یہ فیصلہ صادر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان میں مرقوم احادیث اور ان کی اسانید و دونوں میں گھڑت اور شیعہ ذہن کی ساختہ پر داخلیتیں اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ فیصلہ کرنے پر بھی مجبور ہو گا کہ شیعہ حدیثیں وضع کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں جانتے اور وہ حدیثی ذوق و مہارت سے کمسر عاری ہیں۔

شیعہ کی روایت کردہ ایک حدیث ملاحظہ ہو :-

”امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیسوں میں سے ایک ابلیس وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر خدا کو معلوم ہو کہ وہ بچہ شیعہ ہو گا تو اس کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ بڑا ہو کر شیعہ ہونے والا نہ ہو تو شیطان اس کی ڈبر میں انگلی ٹھونس دے گا۔ اور وہ بڑا ہو کر لواطت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اگر لڑکی ہو تو شیطان اس کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرتا ہے اور وہ بڑی ہو کر بدکار ہو جاتی ہے۔“ (الشیعہ، ص ۴۰ بحوالہ الوانی، ج ۱۳- ص ۱۴)

ہم مندرجہ ذیل امور و اسباب کی بنا پر شیعہ کی بیان کردہ احادیث کو تسلیم نہیں کرتے :-

(۱) - اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کی روایت کردہ اکثر و بیشتر احادیث اسناد سے عاری ہیں۔ شیعہ اپنی کتب حدیث میں موجود پاکر کسی روایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ اس کی سند ہویا نہ ہو۔ کتب شیعہ میں مذکور ہے کہ اولاد علیؑ میں سے ایک امام نے کہا تھا :-

”لوگوں کو چھوڑ بیٹے انہوں نے عام لوگوں سے حدیثیں اخذ کی ہیں اور شیعہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے“

احادیث کے اسناد سے خالی ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ شیعہ مسکھی امام باقر اور جعفر صادق سے

حدیثیں روایت کرتے تھے۔ ان دنوں سخت تفتیح کیا جاتا تھا۔ اس لیے شیعہ راوی اپنی کتب حدیث چھپا کر رکھتے تھے۔ جب راویان حدیث نے وفات پائی اور ان کی مکتوبہ کتب حدیث لوگوں تک پہنچیں تو ایک امام نے کہا یہ احادیث بے شک آگے پہنچا دو یہ سچی ہیں۔

(شرح الکافی، ج ۱ ص ۲۸، الوثیعیہ، ص ۴۶ بحوالہ الوانی، ج ۱ ص ۱۲۳)

(۲) - احادیث شیعہ کو رد کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جن روایات کی سند مذکور ہے ان میں لازماً کوئی مستغیب شیعہ راوی ضرور موجود ہوگا۔ محدثین کا فیصلہ ہے کہ جو راوی بدعت کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتا ہو اس کی روایت مقبول نہیں۔

(۲) - محدثین کے یہاں مسلہ ضابطہ ہے، کہ جو حدیث عقل سلیم نقل صحیح اور اصل قواعد سے مستفاد ہو، وہ موضوع ہوتی ہے۔ شیعہ احادیث کو اگر اس کسوٹی پر کسا جائے تو وہ اس پر پوری نہیں اتریں۔ حق و انصاف کی بات یہ ہے کہ امامیہ اثناعشریہ کی معتبر کتب حدیث مثلاً اصول الکافی اور کتاب الایمان وغیرہ کی درجہ گردانی سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ان میں کی اکثر احادیث موضوع اور کذب و افتراء پر دازی کا پلندہ ہیں۔ ان میں سے اکثر بیشتر قرآنی آیات کی تائید و تنزیل سے متعلق ہیں اور ان کے مطالعہ سے قائل کی جمالت اور دروغ باقی واضح ہوتی ہے اور اگر ان کتابوں میں مندرج تاویلات کو درست قرار دیا جائے تو نہ قرآن و اسلام کا وجود برقرار رہے گا اور نہ ہی اہل بیت کی عزت و عظمت کے متعلق ہوں گے۔

خلاصہ یہ کہ آیات کی تائید و تنزیل اور ظاہر و باطن سے متعلق کتب شیعہ میں جو کچھ بھی مذکور ہے قرآن کریم سے تمسخر و استہزاء کے مترادف ہے ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ شیعہ سے یہ سب غلطیاں جمالت و لاعلمی کی بنا پر صادر ہوئیں۔ البتہ یہ بات قرین عقل و صواب ہے کہ ان میں سے بعض باتیں جمالت کی پیداوار ہیں اور زیادہ تر عمداً ذاتی خواہشات اور جذبات کے زیر اثر صادر ہوئی ہیں۔

امامیہ اثنا عشریہ کی اہم کتب تفسیر

شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کا دامن کتب تفسیر کی دولت و ثروت سے مالا مال نظر آتا ہے۔ ان میں سے بعض کامل ہیں، بعض ناقص۔ کچھ تدریس ہیں اور کچھ جدید بعض گردشِ دوراں سے مٹ گئیں اور بعض ہنوز موجود ہیں۔ مگر سب کی سب شعبہ تعلیمی عقائد و افکار کی نمائندہ و ترجمان ہیں۔ فرق جو کچھ بھی ہے غلو و اعتدال کی قلت و کثرت اور طرز و منہاج کے فرق و اختلاف کی بنا پر ہے۔ اس ضمن میں حسب ذیل کتب قابل ذکر ہیں :-

۱ - تفسیر حسن عسکری متوفی ۲۵۳ھ۔ یہ ناقص ہے اور ایک جلد میں طبع ہو چکی ہے۔ اس کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں محفوظ ہے۔

۲ - تفسیر محمد بن مسعود السلمی الکوفی المعروف بالعباشی۔ یہ تیسری صدی کے علماء میں سے ہیں۔ شیعہ کے نزدیک یہ اہم کتب تفسیر میں شمار ہوتی ہے اور اس پر وہ بہت اعتماد کرتے ہیں۔

۳ - تفسیر علی بن ابراہیم العمی۔ یہ تیسرے صدی کے اداخرا در چوتھی صدی ہجری کے ادائل میں بقید حیات تھے۔ یہ مختصر تفسیر ہے اور شیعہ اس پر بہت اعتماد کرتے ہیں یہ ایک جلد میں طبع شدہ ہے۔ اس کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں محفوظ ہے۔

۴ - اہلبیان از شیخ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی متوفی ۴۲۰ھ۔ طبری کی تفسیر اسی سے ماخوذ ہے صاحب اعیان الشیعہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بیش جلدات پر مشتمل ہے۔ اس کی طباعت کا آغاز نجف میں عرصہ ہوا ہو گیا تھا۔ غالباً اب زبیر طبع سے آراستہ ہو چکی ہوگی۔

۵ - مجمع البیان از ابو علی فضل بن حسن طبری متوفی ۵۲۸ھ۔ اس کا ایک ایک نسخہ دارالکتب المصریہ اور المکتبۃ الازہریہ میں موجود ہے۔ یہ تفسیر ایران سے دس جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ قاہرہ کے دارالتقریب نے بھی اس کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔

۶ - الصافی از محمد بن مرتضیٰ المعروف ملا حسن کاشانی۔ یہ گیارہویں صدی ہجری کے علماء میں شمار

- ہوتے ہیں یہ ایک جلد میں طبع ہو چکی ہے۔ اس کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں موجود ہے۔
- ۷۔ الاصفیٰ یہ بھی تاحسن کاشی کی تالیف ہے اور الصافی کے خلاصہ پر مبنی ہے۔ یہ ایک جلد میں چھپ چکی ہے۔ اس کا ایک ایک نسخہ دارالکتب المصریہ اور جامع قاصرہ میں محفوظ ہے۔
- ۸۔ البرهان از ہاشم بن سلیمان بن اسماعیل حسینی الصحرانی متوفی ۳۷۰ھ۔ یہ دو جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔ اس کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں موجود ہے۔
- ۹۔ مرآة الانوار مشکوٰۃ الاسرار از مولیٰ عبداللطیف گازونی۔ یہ تفسیر موجود نہیں۔ البتہ اس کا مقدمہ ایک جلد میں چھپ چکا ہے۔
- ۱۰۔ از لوفت از محمد مرتضیٰ حسینی المعروف نورالدین۔ یہ بارہویں صدی ہجری کے شیعہ علماء میں سے تھے۔ اس کا ایک تلمی نسخہ دارالکتب المصریہ میں محفوظ ہے۔
- ۱۱۔ تفسیر القرآن از مولیٰ سید عبدالشہ بن محمد رضا علوی متوفی ۱۲۶۲ھ۔ یہ ایک جلد میں طبع ہو چکی ہے اور اس کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں موجود ہے۔
- ۱۲۔ بیان السعادت فی مقامات العبادت از سلطان بن محمد بن حیدر خراسانی۔ یہ چودھویں صدی ہجری کے شیعہ علماء میں سے ہیں۔ یہ ایک جلد میں طبع ہو چکی ہے۔ اور اس کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں محفوظ ہے۔
- ۱۳۔ آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن از محمد حماد بن حسن نجفی متوفی ۱۳۵۲ھ۔ یہ مکمل نہیں ہو سکی۔ دارالکتب المصریہ میں اس کی صرف پہلی جلد موجود ہے۔ مولف ابھی جز و اول ہی تحریر کر سکے تھے کہ وفات پائی۔ یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ النساء کی آیت نمبر ۵۶ پر ختم ہوئی۔
- یہ ہیں شیعہ اثنا عشریہ کی اہم کتب تفسیر! ہمارا خیال ہے کہ جلد کتب تفسیر پر نقد و تبصرہ کی حاجت نہیں۔ بخلاف ازیں ان میں سے صرف مشہور ترین کتب پر تبصرہ کیا جائے گا۔ خصوصاً ان کتب تفسیر پر جو شیعہ کے یہاں امتیازی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کا ایک جدا گانہ طرز انداز ہے۔
- ہم سب سے پہلے گازونی کی مرآة الانوار کے مقدمہ کا خلاصہ بیان کریں گے۔ مقدمہ کے مندرجات اس امر کی غمازی کرتے ہیں کہ تفسیر کے بارے میں شیعہ کے عمومی رجحانات کیا تھے۔ نیز یہ کہ اس ضمن میں گازونی کا اپنا زاویہ نگاہ کیا ہے۔ بعد ازاں ہم حسن عسکری کی تفسیر کے بارے میں اظہار

خیال کریں گے۔ اس لیے کہ یہ شیعہ کے ایک معصوم امام کی تفسیر ہے۔ اولاً ائمہ کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے ظاہر و باطن کے راز داراں ہوتے ہیں۔

اس کے بعد طبری کی مجمع البیان پر خیال آرائی کی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ معتدل اثنا عشریہ کے نقطہ نظر کی ترجمان ہے۔ اس تفسیر سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ شیعہ کا طریق جدل و بحث کیا تھا۔ اور وہ اپنے افکار و عقائد کا دفاع کس طرح کرتے تھے۔ پھر تلامیح کاشی کی تفسیر الصافی پر نقد و جرح کی جائے گی کیونکہ وہ غالباً شیعہ کے نقطہ نظر کی ترجمانی کرتی ہے۔ بعد ازاں سید عبداللہ علی کی "تفسیر القرآن" زیر بحث آئے گی۔ اس لیے کہ وہ آسان تفسیر اور اختصار و جامعیت کا عمدہ نمونہ ہے آخر میں سلطان بن محمد غزالی کی "بیان السادة فی مقامات العبادۃ" پر تبصرہ کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ کتاب امام اثنا عشریہ کی صوفیانہ و فلسفیانہ تفسیر کے طرز و انداز پر روشنی ڈالتی ہے۔

یہ ہیں وہ شیعہ کتب تفسیر جن کے مولفین کے سیر و سوانح بیان کر کے ہم ان کی کتب پر نقد و جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مذکورہ صدر ترتیب پیش نظر رہے گی۔ وباللہ التوفیق :

۱۔ میراۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار

از عبد اللطیف گائدرانی

مولف کا نام مولیٰ عبداللطیف ہے۔ یہ گازران میں پیدا ہوئے اور نجف کے مقام پر پل و پاش رکھتے تھے۔ مولف کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں۔ ان کی تفسیر کا نام ”میراۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار“ ہے۔ امامیہ اثنا عشریہ کی تفاسیر میں اس کو ایک اہم تفسیری مرجع کی حیثیت حاصل ہے جو شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ شیعہ افکار و عقائد نے ان کی تفسیر قرآن پر کیا اثرات مترتب کیے تھے۔ اس کے لیے اس تفسیر کا مطالعہ از بس ناگزیر ہے۔ مقام افسوس ہے کہ یہ تفسیر آج کل ناپید ہے اور مصری لائبریریوں میں اس کا کسب و وجود نہیں۔ تاہم اس تفسیر کے عقائد ہونے کی بڑی حد تک تلافی ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تفسیر کا مقدمہ موجود ہے اور وہ بڑی حد تک اس کا نعم البدل ہے۔

یہ مقدمہ دارالکتب المصریہ میں موجود ہے۔ اس کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تفسیر قرآن سے متعلق مولف کا نقطہ نگاہ کیا ہے۔ نیز یہ کہ مولف شیعہ عقائد سے کس حد تک متاثر تھا اور اس نے قرآنی حقائق کو شیعہ عقائد سے ہم آہنگ کرنے کے سلسلہ میں کیا کوشش انجام دی ہے۔ چنانچہ ہم مقدمہ مذکور کے اہم مندرجات کا خلاصہ پیش کریں گے۔ جس سے قاری پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ مولف کا انداز تفسیر کیا تھا۔

مولف نے آغاز مقدمہ میں ایک طویل بحث رقم کی ہے جس میں اس نے تفسیر کی وجہ تالیف

اور اس کے طرز و انداز پر روشنی ڈالی ہے۔ مولف رقم طراز ہے :

”یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قرآن عزیز کی ہر آیت بلکہ ہر فقرہ کا ایک ظاہر و باطن اور ایک تویل و تفسیر ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر جیسا کہ احادیث صحیحہ متواترہ میں وارد ہوا ہے ہر آیت کے ۷۷ لاطون ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ باطنی معانی افتخار و بیانات زیادہ تر ائمہ اہل بیت کی مدح و توصیف سے متعلق ہیں۔ جن آیات میں خداوندی نعمات کا ذکر کیا گیا ہے وہ اہل بیت اور ان کے احباب و اعمام کے حق میں نازل ہوئیں اور

جن آیات میں زجر و عقاب اور تہدید و وعید مذکور ہے وہ ان کے اعداء و خصوم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ بلکہ یوں کہنا اقرب الی الصواب ہے کہ سارا قرآن ہی اہل بیت کی اہانت اور ان کی مخالفت سے نازل رکھنے کے لیے اترا ہے۔ قرآن کے باطنی معانی کا تعلق امامت و ولایت کی دعوت کے ساتھ ہے اور اس کا بظاہر توحید و رسالت کی دعوت پر

مشمول ہے“ (مقدمہ ص ۲)

مولف کے یہ دعویٰ اہل سنت سے سخت قبول حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ یہ کسی صحیح ماس و دلیل پر مبنی نہیں۔ مولف کا یہ کتاہیر بات احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے بالکل ناقابل یقین ہے اس لیے کہ جن احادیث کا نام وہ لے رہا ہے موضوع اور بے اصل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولف اپنے عقائد کے ذکر و بیان میں تعصب کی حد تک کتر ہے اور کتاب اللہ کو وہ معانی پہنانے کا آرزو مند ہے جس کی وہ تحمل نہیں ہو سکتی۔

مولف اپنے اغراض و مقاصد اور انداز تفسیر پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے۔

(۱) اختصار کے پیش نظر میں حدیث کی پوری عبارت ذکر نہیں کروں گا۔ بلکہ اسی قدر جس کی ضرورت ہوگی۔ بنا بر اختصار میں نے اسانید بھی حذف کر دی ہیں۔

(۲) میں آیات کے ظاہری معانی پر زور نہیں دوں گا۔ ظاہری معنی اسی جگہ بیان کروں گا جہاں اس کی شدید ضرورت ہوگی۔ بخلاف انہیں میری توجہات کا مرکز باطنی تفسیر ہوگی۔ اس لیے کہ اکثر تفاسیر کا دامن اس سے خالی ہے۔

(۳) جب کسی آیت کی تفسیر سے متعلق کوئی حدیث نہیں ملے گی تو میں عام احادیث کی مدد سے اس کا معنی و مطلب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔

(۴) میں مقدّمہ پھر ان امر کی کوشش کروں گا کہ ہر آیت کے بارے میں اہل بیت کی جو قرأت مجھے معلوم ہے اس پر روشنی ڈالوں گا۔ (دیکھیے مقدمہ مذکور)

خلاصہ کلام یہ کتاب تفسیر بالماثور سے قریب تر ہے۔ مولف نے پوری تفسیر میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ آیت کی تفسیر اہل بیت سے منقول احادیث کی مدد سے کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس میں مندرجہ احادیث ناقابل اعتماد ہیں اور جن علمائے اہل بیت کی جانب

ان کو منسوب کیا گیا ہے۔ ان کا دامن اس آلودگی سے پاک ہے۔

تفسیر لہذا کا زیر تبصرہ مقدمہ زمین مقدمات اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔

(۱) مقدمہ اقل میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کے باطنی معانی دعوت و ولایت و امامت پر مشتمل ہیں۔ اول اس کے ظاہری معانی دعوت و تجدید و رسالت سے متعلق ہیں۔ نیز یہ کہ نزولی قرآن کا اصلی مقصد ائمہ اہل بیت کی مدح و توصیف اور ان کے اعلاء کی خدمت و تہنیت ہے۔ جزو اول تین مقالات پر مشتمل ہے۔ ہر مقالہ میں متعدد تفصیلات ہیں۔

(۲) مقدمہ دوم میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ قرآن وہ نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ بلکہ یہ تبدیل شدہ ہے۔ مولف نے اس ضمن میں لکھا ہے :-
 "یہ ایک ستمہ صداقت ہے اور عادت صحیحہ متواترہ سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن مجید موجود ہے نبی کریم کے بعد اس میں تغیر و تبدل ہونا ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو جمع کیا تھا انہوں نے اس میں سے بعض سی آیات کو حذف کر دیا تھا۔ قرآن کا وہ نسخہ تمام تغیرات سے محفوظ ہے جو حضرت علی نے جمع کیا اور حضرت حسن کی تحویل میں آیا۔ اور اس کے بعد دست بدست نقل ہوتے ہوئے نام قائم علیہ السلام تک پہنچا اور ابھی تک ان کے زیر حفاظت ہے۔"

خداوند غلام الغیوب کو علم تھا کہ دین میں فساد بپا کرنے والے لوگ ایسا کریں گے اسے نجوبی علم تھا کہ یہ لوگ ایسے تمام کلمات کو حذف کر دیں گے جن سے حضرت علی اور ان کے اہل بیت کی مدح و توصیف کا پہلو نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ امامت و ولایت سے متعلق امور کی حفاظت بھی کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کی مشیت اس امر کی تقاضی تھی کہ نبی کریم اور ائمہ اہل بیت کے فضائل و فرائض برقرار رہیں اور مخرجن اس میں کچھ رخنہ اندازی نہ کر سکیں۔ لہذا اس نے ظاہری کلمات پر اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ باطنی معانی کے ذریعہ اس حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا اور اسرار و رموز کے ضمن میں اس پر روشنی ڈالی تھی۔ یہ اس لیے کیا تاکہ تحریف و حذف کے باوجود تمام مخلوقات پر حجت قائم ہو سکے اور کوئی شخص یہ کہنے کا

جواز نہ ہو کہ ہمیں قرآن کے ذریعہ یہ باتیں معلوم نہ ہو سکیں۔ (مقدمہ زیر تبصرہ)

(۳) مقدمہ سوم کا موضوع قرآنی آیات کی وہ تاویلات ہیں جو ائمہ اہل بیت سے منقول ہیں۔ یہ تاویلات بزرگم شیعیان آیات کی تفسیر معلوم کرنے کے سلسلہ میں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ جن کی تفسیر اہل بیت سے مروی نہیں۔

(۴) خاتمہ۔ خاتمہ کو دو فصلوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ پہلی فصل میں حروف مقطعات کی تاویل پر روشنی ڈالی گئی ہے جو سورتوں کے احوال میں مذکور ہیں۔ اس میں قابل ذکر بات یہ تحریر کی ہے کہ حروف مقطعات کرر حروف کو چھوڑ کر دراصل چودہ ہیں۔ یہ ائمہ معصومین کی جانب اشارہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہؑ کو بارہ اماموں کے ساتھ ملا کر ہمارے ائمہ کی تعداد بھی چودہ بنتی ہے۔ دوسری فصل میں بعض فوائد بیان کیے گئے ہیں۔

مولف نے تفسیر زیر تبصرہ کا جو مقدمہ ایک کتابی صورت میں تحریر کیا تھا یہ ہے اس کا اجمال خاکہ! ہم قبل انہیں بیان کر چکے ہیں کہ یہ تفسیر صفحہ کائنات پر کہیں موجود نہیں۔ مگر اس مقدمہ سے اس تفسیر کی گم شدگی کی تلافی بڑی حد تک ہو گئی ہے۔ مقدمہ کے مندرجات اس امر کی غمازی کرتے ہیں۔ کہ مولف کا تفسیری انداز کیا ہے اور وہ کتاب اللہ کے فہم و ادراک کے سلسلہ میں شیعہ عقائد سے کس حد تک متاثر ہوا ہے؟

دوران تفسیر مولف جن اصول و قواعد پر کامزن رہا مقدمہ مذکور سے ہم ان کا خلاصہ پیش کریں گے ہم نہیں کہہ سکتے کہ تفسیر میں مولف نے کس حد تک ان قواعد کی پیروی کی ہے۔ اس لیے کہ اصل تفسیر ہمارے پیش نظر نہیں۔ تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے کہ مولف نے ان اصول و قواعد پر بڑا زور کلام صرف کیا۔ اور ان کے دفاع میں دلائل و براہین پیش کیے ہیں۔

اہم تفسیری اصول :

قواعد حسب ذیل ہیں :-

(۱) قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ بلکہ قرآن کے ہر فقرہ کے ستتر تک باطن ہو سکتے ہیں۔ قرآن کے باطن میں امامت و ولایت کی دعوت دی گئی ہے اور اس کا ظاہر توحید و رسالت کی دعوت پر مشتمل ہے۔ جو آیات مدح و ستائش پر مشتمل ہیں وہ ائمہ کی شان میں نازل ہوئیں اور جن آیات میں

زجر و عتاب کیا گیا ہے وہ ان کے اعداء و خصوم سے متعلق ہیں۔

(۲) قرآنی آیات کے معانی کسی خاص زمانہ کے لوگوں تک محدود نہیں ہوتے۔ بلکہ ہر آیت کی ایک خاص تاویل ہوتی ہے جو ہر زمانہ پر فٹ بیٹھتی ہے۔

(۳) قرآن کے ظاہری و باطنی معانی کے مابین گہرا ربط و تعلق پایا جاتا ہے۔

(۴) قرآن کے باطنی معانی میں ہر جگہ لفظ کے حقیقی معنی ہی مراد نہیں ہوتے۔ بلکہ اکثر و بیشتر وہاں لفظ کو استعارہ کنایہ اور مجاز لغوی و عقلی پر محمول کیا جاتا ہے اور یہ بات کچھ عجیب بھی نہیں اس لیے کہ عربی زبان میں مجاز کا دروازہ کھلا ہے اور فصحاء کے کلام میں اس کی کمی نہیں۔

(۵) قرآن کے ظاہر و باطن ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص ظاہر کا انکار اور باطن کا اقرار کرے یہ بالبرعکس وہ لمد و کافر ہے جو تفسیر و تاویل ائمہ سے منقول ہو اس پر ایمان لانا واجب ہے اگرچہ اس کے معنی معلوم نہ ہوں۔

(۶) قرآن حکیم کی تفسیر و تاویل ائمہ کی خصوصیت ہے۔ دوسروں کو یہ درجہ حاصل نہیں۔ اس لیے اہل بیت سے سنے بغیر کسی شخص کو قرآن میں رائے نہ لینی کرنا چاہیے۔ کیونکہ دوسرے لوگوں کا علم ناقص ہے اور وہ قرآن کریم کے ظاہری معانی کے فہم و ادراک سے بھی عاجز و قاصر ہیں۔ باطنی معانی کا معلوم کرنا تو اور بھی بڑی بات ہے۔

(۷) اُمت محمدیہ کو مستقبل میں جو حوادث پیش آنے والے ہیں قرآن کریم میں ان کی جانب اشارہ کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تاویل کے ذریعہ ان سے واقفیت حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ بات قرآن کے وجہ اعجاز میں سے ایک ہے۔

(۸) قرآن کا صحیح نسخہ وہی ہے جو حضرت علیؑ نے جمع کیا اور دست بدست آگے ائمہ اہل بیت تک پہنچا اس کے سوا قرآن کے سب نسخے تحریف شدہ ہیں۔ اہل بیت کی مدح اور ان کے اعداء کا مذمت کے سلسلہ میں قرآن کا جو حصہ نازل ہوا تھا اس کو حذف یا تبدیل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ ان تعالیٰ کو معلوم تھا کہ قرآن کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس نے اہل بیت کے فضائل ان کے اعداء کے نقائص و مثالب کے بارے میں صرف صراحت پر اکتفاء نہیں کیا تھا۔ باطنی معانی اور تاویل کے ذریعہ اس کی جانب اشارے بھی کیے تھے۔ تاکہ تحریف قرآن کی وجہ

ہیں بھی لوگوں پر رحمت قائم ہو سکے۔

(۹) قرآن کریم میں بعض الفاظ بظاہر بطریق عموم وارد ہوتے ہیں مگر اس سے خاص افراد مراد ہوتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر قرآن کے بعض الفاظ سے ائمہ اہل بیت اور ان کے احباب و اولیاء مراد لیے گئے ہیں۔

(۱۰) قرآن کریم میں جہاں اقوام سابقہ کو مخاطب کیا گیا ہے باطنی معنی کے لحاظ سے اس سے اس اُمت کے وہ افراد مراد لیے جاسکتے ہیں جو اس کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر کا بھی معنی مراد لینا بھی درست ہے۔

(۱۱) بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جو شخص قرآن کا ظاہری مخاطب ہے باطنی معنی کے لحاظ سے کوئی اور شخص اس کا مخاطب ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں فرمایا،

لَقَدْ كَذَّبْتَ تَدْرِكُنَّ الْيَاقُوتَ ثَمَّ قَلِيلًا

آپ ان کی طرف تھوڑا سا بھٹکے گئے تھے۔

اگرچہ بظاہر اس آیت میں آنحضرت کو مخاطب کیا گیا ہے مگر باطنی معنی کے لحاظ سے اس کا مخاطب کوئی اور شخص ہے۔

(۱۲) باطنی معنی کے لحاظ سے بعض اوقات ضمیر ایسے اسم کی طرف بھی لٹائی جاتی ہے۔ جو صراحتہ پہلے مذکور نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں فرمایا،

اَلَمْ تَرَ يَوْمَآءِ اَنْ غَوَّيْنَا هٰذَا اَوْبَدًا لِّهٖ

کوئی اور قرآن لاٹھا یا اس کو تبدیل کر دیا۔

اس آیت میں عیب اللہ کی ضمیر کا حضرت علی کی جانب راجع ہے۔ یعنی حضرت علی کو تبدیل کر دیا۔

(۱۳) جہاں جہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ یا ضمیر استعمال کی ہے وہاں اصل نبی کریم اور ائمہ اہل بیت کو اپنی ذات کے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ جیسے ”فَخَصَّ نَفْسًا عَلَيْنَا“ بہت کثیر الاستعمال ہے۔

(۱۴) قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ، رب یا ان کی جانب لٹھی والی ضمیریں استعمال کی گئی ہیں۔ باطنی معنی کے لحاظ سے اس سے مجازاً امام مراد ہے۔ یہ

یہ ہیں وہ اہم اصول و قواعد جو مولف کے پیش نظر ہیں اور جو ان کی تفسیر کے مفہوم سے ماخوذ

متفاوت ہیں۔

۲۔ تفسیر حسنِ عسکری

تعارفِ مولف :

مولف کا نام ابو محمد حسن بن علی ہادی بن محمد جوادی بن علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ یہ امامیہ اثنا عشریہ کے گیارھویں امام تھے اور حسن عسکری کے نام سے معروف تھے یہ شیعہ کے ممدی منتظر کے والد تھے۔ آپ باختلاف اقوال ۲۳۱ھ یا ۲۳۲ھ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ۲۶۰ھ میں وفات پائی اور ستر من رومی کے مقام پر اپنے والد کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ تفصیلی تعارف کے لیے دیکھئے۔

(ذبیات الاعیان، ج ۱، ص ۲۳۹۔ نیز اعیان الشیعہ، ج ۴، ص ۲۸۸)

تعارفِ تفسیر :

اس تفسیر کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں موجود ہے جو امام ابو محمد حسن عسکری کی جانب منسوب ہے۔ اس کو ابو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد اور ابو الحسن علی بن محمد بن یسار نے روایت کیا ہے۔ یہ دونوں امامیہ شیعہ میں سے تھے۔ انہوں نے سات سال کے عرصہ میں یہ تفسیر حسن عسکری سے سن کر مرتب کی۔ تفسیر کے مقدمہ میں اس کو امام حسن عسکری سے اخذ کرنے کے سلسلہ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ خلاصہ حسب ذیل ہے :

روایتِ تفسیر کا واقعہ :

»دنوں را دیوں کا بیان ہے کہ ہم چھوٹے تھے۔ ہمارے والد امامیہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اسز آباد کے شہر میں فرقہ زیدریہ کا بڑا زور تھا۔ ہم حسن بن زید علوی، امام زیدریہ کی حکومت میں مقیم تھے، جو داعی الالحق کہلاتے تھے۔ وہ جس کے بارے میں سنتے کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس کو قتل کر دیتے۔ ہمارے والد ڈر سے کہ کوئی شخص کہیں ان کی چٹلی نہ کھائے چنانچہ وہ ہمیں اور اپنے بال بچوں کو لے کر امام حسن عسکری کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے خوش آمدید کہا اور اظہارِ مسرت کیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری کوشش کو قبول فرمایا۔ تمہارے خوف کو دور کر دیا۔ اور دشمن سے امن عطا کیا۔ آپ بلا خوف و خطر واپس لوٹ جائیں۔

دونوں نے عرض کیا ہم کیسے واپس جاسکتے ہیں؟ شہر کا والی سرگرمی سے ہماری تلاش کر رہا ہے اور ہمیں سزا دینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں لوگوں کو میرے یہاں چھوڑ جاؤ تاکہ میں ان کی تربیت کر دوں اور ان کو ایسا علم پڑھاؤں جس سے ان کی عزت و عظمت میں اضافہ ہو۔ چل خوروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ و ناصر ہوگا۔ جن لوگوں سے تم ڈرتے ہو کہ وہ تمہاری چغلی کھائیں گے وہی تمہارے دشمنوں کے پاس تمہاری سفارش کرنے کے لیے مجبور ہوں گے

ابو یعقوب اور ابو الحسن دونوں راویان تفسیر کا بیان ہے کہ ہم دونوں کے والدوں نے تمہیں ارشاد کی اور میں جناب امام کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ہم دونوں جناب امام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے اور آپ ہیں والدین اور اقرار سے حسن سلوک کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔

ایک دن فرمایا جب تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والدوں کو کامیاب کیا۔ ان کے دشمن کو ذلیل کیا اور میں نے جو وعدہ ان سے کیا تھا وہ درست ثابت ہوا تو میں بارگاہ ربانی میں حدیثِ شکر پیش کرنے کے طور پر تمہیں تفسیر قرآن سے مستفید کروں گا۔ یہ تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ہوگی۔ اس سے تمہارا وقار و مقام بڑھے گا

دونوں راویوں کا بیان ہے کہ ہم نے خوش ہو کر عرض کیا "اے ابن رسول! اس طرح تو ہم قرآن کے تمام علوم و فنون پر حاوی ہو جائیں گے" فرمایا "ہرگز نہیں۔ امام جعفر صادق نے یہ علوم اپنے بعض اصحاب کو سکھانا چاہا ہے تو وہ خوش ہوئے اور کہا آپ تو قرآن کے سب علوم جانتے ہیں" فرمایا "مجھ پر خداوند کریم کے بہت بے شمار احسانات ہیں۔ تمام جو علم مجھے دیا گیا۔ ہے وہ بہت کم ہے۔"

قرآن کریم میں فرمایا:

قُلْ لَوْ كَانُ الْإِنْسَانُ مِدَادًا لَكَلَّمْنَا رَبِّي لَنَفِدْنَا الْبَحْرَ قَبْلَ أَنْ نَنْفَعَكَ
كَلِمَاتٍ رَبِّي (الكهف - ۱۰۹)

فرمادیں کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے۔

اس آیت میں قرآن کے علوم و فنون اور عجائبات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان علوم قرآنی میں سے میں نے کس قدر استفادہ کیا ہوگا؟

دونوں راویوں کا بیان ہے کہ جیبر حسن بن زید علوی نے لوگوں کو قتل کرنے اور ان کے مذہب

میں مداخلت کرنے کا وسیلہ ترک کر دیا اور ہمارے والدوں کو امام حسن عسکری کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا جب امام حسن عسکری نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آگیا ہے آپ مجھ سے تفسیر قرآن پڑھا کریں۔ تم دونوں میری صحبت میں رہو اور روزانہ تفسیر قرآن لکھا کرو۔ چنانچہ پہلے آپ نے ہمیں چند احادیث فضیلت قرآن سے متعلق لکھوائیں۔ پھر سات سال تک ہم آپ کے یہاں مقیم رہ کر تفسیر قرآن لکھنے میں مشغول رہے۔ ہر روز جس قدر لکھ سکتے تھے تحریر کرتے۔

فضائل قرآن پر مشتمل چند احادیث لکھوانے کے بعد امام حسن عسکری نے حضرت علی سے منقول اعمد بالہ کی تفسیر بیان کی۔ بقول حسن عسکری حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں:

”میں تیس ایک واقعہ سناؤں، رفقا! نے عرض کی ارشاد فرمائیے“ فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد کی بنا رکھی تو اس میں اپنے گھر کی جانب ایک کھڑکی رکھی۔ آپ کی پیروی میں مساجد بنانے والے بھی اپنے گھروں کی جانب کھڑکیاں رکھ لیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نبی کریم اور آپ کی آل کی فضیلت کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جبریل امین یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ غدا نازل ہونے سے قبل اپنی اپنی کھڑکیاں مسجد نبوی سے بند کر لی جائیں۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبلؓ کو سب سے پہلے حضرت عباس کی جانب بھیجا کہ اپنی کھڑکی بند کر لیں، چنانچہ آپ نے تعمیل ارشاد کر دی۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو لے کر دروازہ پر بیٹھی ہیں کہنے لگے آپ کیوں بیٹھی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریمؐ اپنے چچا کا دروازہ تو بند کروادیں اور چچا زاد بھائی (حضرت علیؓ) کا کھلا رکھیں؟ نبی کریمؐ کا گڑا دھڑ سے ہوا تو حضرت فاطمہؓ سے یہاں بیٹھنے کی وجہ پوچھی۔ فرمانے لگیں کہ میں کھڑکی بند کرنے کے سلسلہ میں آپ کے حکم کی منتظر ہوں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے میرے سوا سب کی کھڑکیاں بند کرنے کا حکم صادر کیا تھا۔ اور تم میرے ساتھ شامل ہو۔ لہذا تمہیں کھڑکی بند کرنے کی ضرورت نہیں“

اسی دوران حضرت عمرؓ اور دھڑ سے گزرے اور عرض کی ”یا رسول اللہ! جب آپ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دیکھنا ہوں۔ لہذا کھڑکی رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائیے“ آنحضرتؐ نے یہ سن کر فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت نہیں دینا چاہتا“ حضرت عمرؓ نے پھر کہا ”صرف اتنی کھڑکی کی اجازت دیجیے جس پر میں اپنا چہرہ لکھ سکوں“ فرمایا ”نہیں“ حضرت عمرؓ

نے پھر کہا صرف اتنی جگہ کی اجازت فرمائیے جہاں میں اپنی ایک آنکھ سے آپ کو دیکھ سکوں ” فرمایا ” اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں اور اگر آپ سوئی کے ایک کنارہ کے برابر جگہ کا سوال کریں تو بھی اس کی اجازت نہ ہوگی مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نہ میں نے آپ کو نکالا اور نہ اہل بیت کو بذات خود داخل کیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ پھر فرمایا کسی ایمان دار شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ حالت جنابت میں اس مسجد میں رات گزارے، سواٹھے میرے اور میرے اہل بیت اطہار کے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ اہل ایمان نے تو آپ کے ارشاد کا خیر مقدم کیا مگر منافقین چرمیوں کیوں کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے تم دیکھتے نہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کس طرح اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارے مقابل میں ترجیح دے رہے ہیں اور ہمیں خالی ہاتھ لوٹانا چاہتے ہیں۔ بخدا اگر ان کی زندگی میں ہم اس بات کا انتقام نہ لے سکے تو ان کی دفات کے بعد ضرور لے کے رہیں گے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ان کی بہ باتیں سن رہا تھا۔ کبھی ناراض ہوتا اور کبھی خاموش ہو جاتا۔ کہنے لگا ہم میں سے کوئی شخص جا کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بتا دے گا لہذا اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ دانشمند آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مناسب یہ ہے کہ غصہ کو پی لیا جائے اور مناسب وقت پر اس کا انتقام لیا جائے۔

اندریں اثنا اہل ایمان میں سے زید بن ارقم شریف لائے اور ان کو مخاطب کر کے کہا اے دشمنان خدا! تم اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے اور رسول کریم کو مطعون کر رہے ہو۔ خدا کی قسم میں آنحضرتؐ کو اس سے مطلع کروں گا۔ عبداللہ بن ابی منافق اور حافزین نے کہا ” اگر تم نے ہمارے متعلق آپ کو بتایا تو ہم حلف اٹھا کر تمہاری تکفیر کریں گے۔ اور جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری بات مان لیں گے تو ہم تمہارے خلاف ایسے گواہ کھڑے کریں گے جن کی شہادت کی بنا پر تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا تم پر شرعی حد قائم کی جائے گی۔ زید بن ارقم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ باجرا بیان کیا۔ تب مندرجہ ذیل آیت کریمہ نازل ہوئی:

”وَلَا تَجْعَلُ الْكَاذِبِينَ دَأْمِنًا فَيَقِينَنَّ
دَعَمًا إِذَا هُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“
(الاحزاب - ۴۸)

اے نبیؐ! کافروں اور منافقوں کی بات تسلیم نہ کرو اور ان کی ایذا سے درگزر نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقمؓ کی بات کی جانب توجہ نہ دی اور فرمایا کہ اگر آپ شہداء کی عداوت اور ضرر رسانی سے محفوظ رہنا چاہیے تو ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ پڑھا کریں۔
 آخر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا ”چچا جان علی کی شان بہت بلند ہے۔ ان کی بزرگی شک و شبہ سے بالا ہے۔ علی کا وزن بہت گراں ہے جس شخص کی میزان اعمال میں حُصْبِ علی رکھ دی جائے وہ اس کی برائیوں پر غالب آجائے گی۔ اور جس کی میزان میں علی کا بُغض رکھ دیا جائے وہ اس کی نیکیوں پر غالب آجائے گا“

(کتاب زیر تبصرہ ۵-۶۲، ۷)

تفسیر انہذا طبع ہو چکی ہے اور دو سو چھپاسی صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ پورے قرآن مجید کی تفسیر نہیں بلکہ سورہ بقرہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا باقی حصہ کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ اگرچہ یہ تفسیر حسن عسکری کی جانب منسوب ہے مگر اس کے مندرجات اس امر کی اٹیننہ داری کرتے ہیں کہ اس صالح امام کی طرف اس کا انتساب درست نہیں۔

اب ہم اس کے محتویات کا کچھ نمونہ تاری کریم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ وہ خود اس بات کا جائزہ لے سکے کہ اس کی نسبت جناب امام کی طرف کس حد تک صحیح ہے۔

خلافتِ علی:

قرآن کریم میں فرمایا:

وَمِنَ الْاٰنۡسِیۡنَ مَنْ یُّنۡوِلُ اٰمَنًاۤ اِلَیۡهِ
 وَبِاٰیۡوٰیۡهِمُ الْاٰخِرِیۡنَ وَهَآءِہُمُ جُمُوۡعَتِیۡنِ
 اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم
 اللہ تعالیٰ اور درو قیامت پر ایمان لائے
 حالانکہ وہ کفر میں ہیں۔ (البقرہ: ۸)

حسن عسکری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”موسلی بن جعفر کا قول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو غدیر کے دن مشہور تاریخ جگہ پر کھڑا کیا تو لوگوں کو مخاطب کر کے کہا خدا کے بندو! بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں تم سے تمہاری جان سے قریب تر نہیں ہوں؟ لوگوں نے عرض کی ”یہ شک یا رسول اللہ“ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ”وہ اسے اللہ! ان لوگوں

کے قول پر گواہ رہے۔ آپ نے یہ بات تین دفعہ دہرائی۔ پھر فرمایا ”جس کا میں دوست اور قریبی ہوں، علی بھی اس کا دوست اور قریبی ہے۔ اسے اللہ جو اس سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھے۔ اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھے۔ جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر اور جو اس کو رُسوا کرے تو اس کو رُسوا کر۔“

رسول کریم نے پھر حضرت ابو بکرؓ کو مخاطب کر کے کہا اٹھ کر حضرت علیؓ کی خلافت کی بیعت کیجیے چنانچہ آپ اٹھے اور حضرت علیؓ کی بیعت کی۔ پھر حضرت عمرؓ کو حکم دیا اور آپ نے بھی حضرت علیؓ کی بیعت کی پھر آپ نے مہاجرین و انصار کے سرکردہ تو اصحاب سے حضرت علیؓ کی بیعت کرنے کو کہا اور سب نے تعمیل ارشاد کر دی۔ حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر فرمایا ”علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو آپ میرے اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے شعیق اور مہربان ہیں۔ بیعت خلافت کا پختہ عمل کرنے کے بعد سب ادھر ادھر چلے گئے۔“

صحابہ میں مجھ سرکش اور باغی قسم کے لوگ بھی تھے۔ انہوں نے عہد کیا کہ ہم حضرت علیؓ سے یہ منصب چھین لیں گے۔ جب یہ لوگ نبی کریمؐ کے پاس آئے تو کہتے کہ آپ نے سب سے بہتر خلیفہ مقرر کیا اور ہمیں ظالموں سے بچالیا۔ حالانکہ وہ دل میں آپ کے خلاف بغض و عداوت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں سے واقف تھے۔ مذکورہ صدر آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بغض و عداوت سے آگاہ کیا گیا ہے۔

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں میں سے بغض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس خدا پر ایمان لائے جس نے تجھے علیؓ کو خلیفہ بنانے کا حکم دیا۔ وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ البتہ آپؐ اور علیؓ کو ہلاک کرنے کے بارے میں سب متفق ہیں۔ یہ سب لوگ علیؓ کے باغی اور دشمن ہیں۔“

(تفسیر زیر تبصرہ - ص - ۴۱)

اسی طرح متعدد آیات کو توڑ مروڑ کر ان سے حضرت علیؓ کی خلافت پر استدلال کیا ہے۔ ہم نے

صرف ایک مثال پر اکتفا کیا ہے۔

اہل بیت کی فضیلت میں جھوٹی روایات:

قرآن کریم میں فرمایا:-

”هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ“
وہ تو صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ بادل کے سایوں میں ان کے پاس آئے

(البقرۃ - ۲۱۰)

حسن عسکری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”علی بن حسین کہتے ہیں کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات طلب کیے اور جو نشانیاں ان کو دکھائی گئیں تھیں ان کو کافی خیال نہ کیا۔ اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ ان واضح دلائل سے مطمئن نہیں ہیں تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے پاس آنا محالاً میں سے ہے۔“

اہل بیت کے دشمنوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ جب آپ نے صراحتاً حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا اور اہل ایمان نے اس کو تسلیم کر لیا تو جو فدوی لوگ تھے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کچھ کمزور طبع لوگ تھے جو شک میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے بین بن رویتہ اختیار کیا۔ فدوی لوگوں کے دل بغض و عناد سے بھر گئے۔ ایک منافق نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی اور اپنے چچا زاد بھائی علی کی مدح و توصیف میں مبالغہ سے کام لیا ہے۔ یہ تعریفیں خدا کی طرف سے نہیں بلکہ طبع زاد ہے۔ اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خود زندہ رہیں رئیس بنے رہیں۔ اپنی وفات کے بعد خلافت و امارت کا منصب علی کو تفویض کر دیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان سے کہہ دیجیے کہ تم حضرت علی کی خلافت سے کیوں کر انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم و کریم ہے۔ اس نے اپنے بندوں میں سے ایک کو منتخب کیا اور اس کی فرمانبرداری دیکھ کر اس کو کرامات سے نوازا۔ اپنے بندوں کے امور اس کو تفویض کیے اور لوگوں کی سیاست اس کے ذمہ ٹھہرائی۔ تم دیکھتے نہیں جو کہ جب کوئی پادشاہ کسی ملازم کی خدمت و اطاعت سے خوش ہوتا ہے تو اس کو اپنا منعمد بناتا ہے۔ لشکروں اور رعایا کی حفاظت و نگہداشت اس کے سپرد کرتا ہے۔

اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک منصب جلیل پر فائز کیا ہے۔ حضرت علی کو آپ نے اپنے بعد اپنا جلیفہ آپ کے قرض کو ادا کرنے والا آپ کے وعدوں کو پورا کرنے والا آپ کے دوستوں کا خیر خواہ اور دشمنوں کا بدخواہ بنایا۔ مگر دین کے دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہ مانی۔ انہوں نے کہا آپ علی کو جو فریضہ سونپ رہے وہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے۔ بلکہ وہ لوگوں کے مال آبرو ان کے خون ان کی بیویوں ان کی اولاد ان کے حقوق ادران کی دنیا و آخرت کے تمام امور سے وابستہ ہے۔ کوئی ایسی دلیل بیان کیجیے جس سے ثابت ہو کہ علی ہی اس منصب کے اہل ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاندین کو مخاطب کر کے کہا "کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ جب میرے گھر سے نکل کر اپنے گھر کو گئے تو تم نے تاریکی میں ان کے زور کو چمکتے ہوئے دیکھا؟ جب علی گزرنے لگے تو دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور علی ان میں سے گزر گئے۔ بعد ازاں وہ شگاف باہم مل گئے۔ غدیر خم کے روز جب نبی کریم نے علی کو کھڑا کیا تو تم دیکھ رہے تھے کہ آسمان کے دروازے چوڑھ کھل گئے اور فرشتے ان میں سے تمہیں پکارنے لگے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں ان کی پیروی کرو اور نہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔"

تم دیکھ رہے تھے کہ جب علی چلتے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی چلتے لگے تھے تاکہ علی کو ٹھکانہ پڑے جب علی آگے گزر جاتے تو پہاڑ اپنی جگہ پر واپس آجاتے تھے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ! کچھ اور نشانیاں عطا کر تاکہ ان بزرگوں پر نیچے سجدت قائم ہو جائے۔ یہ بات تیرے لیے نہایت آسان ہے چنانچہ جب یہ لوگ گھروں کو واپس آئے اور اندر داخل ہوئے تو زمین نے ان کو روک دیا اور پکار کر کہا "تم اس وقت تک اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک علی کی خلافت کو تسلیم نہ کرو گے۔ چنانچہ انہوں نے اقرار کر لیا۔"

جب یہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور رات کا لیا س پینے لگے تو کپڑے اس قدر بوجھل ہو گئے کہ وہ اٹھانہ سکے کپڑوں سے آواز آئی "تم پر ہمیں استعمال کرنا حرام ہے جب تک علی کی خلافت کا اقرار نہ کرو" انہوں نے پھر اقرار کیا جب کھانا کھانے لگے تو وہ ان کے منہ میں پھترن گیا اور بولا "تم پر کھانا حرام ہے جب تک تم علی کو خلیفہ نہ مانو" پھر بول دبراز کی حاجت ہوئی تو وہ ایسا نہ کر سکے۔ پیٹ سے آواز آئی "تمہاری یہ حاجت اس وقت تک پوری نہ ہوگی جب تک علی کی خلافت تسلیم نہ کرو گے"

انہوں نے پھر اعتراض کیا۔ ان میں سے بعض نے نابھ کو کہہ لیا۔ اٹھے "اللہ اگر علی کی خلافت سنی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا ہم پر دردناک عذاب نازل کرے" اس پر یہ آیت آئی:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ
أَنْتَ فِيهِمْ

اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا۔

(الافعال - ۳۳) (تفسیر زیر تبصرہ ص ۲۶۵)

شجرہ ممنوعہ:

قرآن کریم میں ارشاد ہے:-

وَتَلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ
شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ

اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں چاہو باغزنت کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔

(البقرہ - ۲۵)

حسن عسکری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

"اس آیت میں درخت سے محمد اور آل محمد کے علم کا درخت مقصود ہے۔ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم سے نوازا وہ علم اور کسی کو نہیں دیا۔ علم کا درخت اہل بیت کا خاصہ ہے اور دوسرا کوئی شخص اس سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ جنت میں کئی طرح کے درخت ہیں۔ کچھ پھل دار بھی ہیں۔ مثلاً انگور، انجیر، عناب اور دیگر میوہ جات وغیرہ۔ اس لیے لوگوں میں اختلاف ہے کہ یہاں کون سا درخت مراد ہے۔ اس آیت کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ یعنی آل محمد کے مرتبہ و مقام پر نافرمانی ہونے کی کوشش نہ کرو۔ یہ وہ درخت ہے کہ جو شخص اس سے باذن ربانی مستفید ہوتا ہے اس کو اولین و آخرین سب کا علم عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص بلا اذن ربانی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے ناکام ہوتا ہے" (تفسیر زیر تبصرہ، ص ۸۹)

انبیائے سابقین کا نبی کریم اور اہل بیت کے ساتھ تو تسل:

تفسیر زیر تبصرہ میں ایسی احادیث مرقوم ہیں جن سے مستفاد ہوتا ہے کہ انبیائے سابقین اور گذشتہ

اقوام جیب کی سخت محسوسیت، میں مبتلا ہونے میں قرآنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے توسل کیا کرتی تھیں۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

فَاَمَّا يَلْوِيَنَّاكُمْ مَنِ هُدًى فَمَنْ يَتَّبِعْ هُدَاى فَلَآ خَوْفٌ عَلَيَّكُمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة - ۳۸)

حسن عسکری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”جب آدم علیہ السلام سے گناہ صادر ہوا تو بارگاہ خداوندی میں التجا کی کہ اسے اللہ میری توبہ قبول کرے گا، گناہ معاف فرما اور مجھے پھر میرے منصب پر فائز کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تجھے یاد نہیں کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آرام و مصائب کے وقت مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کی پاکیزہ آل کے توسل سے پکارا کرو“ حضرت آدم نے کہا ”اے اللہ یہ درست ہے“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر محمد علیؑ فاطمہ اور حسن و حسین کے وسیلہ سے مجھے پکارئیے۔ میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور تمہارے منصب پر تمہیں فائز کروں گا“ حضرت آدم نے کہا ”اے رب! تیرے نزدیک ان کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ ان کے وسیلہ سے تومیری توبہ قبول کرتا اور میرے گناہ معاف کرتا ہے۔ حلال کہ تو نے مجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ مجھے جنت میں جگہ دی۔ تیری باندی تو امیر خاں بیوی ہے اور تیرے فرشتے میری خدمت کرتے ہیں“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اے آدم! میں نے فرشتوں کو تجھے سجدہ کرنے کا حکم اسی لیے دیا تھا کہ تیری پشت میں اہل بیت کے انوار و تجلیات موجود تھے۔ اگر گناہ صادر ہونے سے پہلے تو مجھ سے اہل بیت کے طفیل سوال کرتا کہ میں تجھے گناہ سے بچاؤں تو میں ایسا کرتا۔ اور تجھے آگاہ کر دیتا کہ ایسے تیرا دشمن ہے اس سے بچتے رہنا۔ اسان کے وسیلہ سے دعا کیجیے میں آپ کی دعا قبول کروں گا۔ پھر آدم نے کہا ”اے اللہ محمد اور آپ کی پاکیزہ آل اور علی و فاطمہ و حسن و حسین اور ان کے اہل بیت کے وسیلہ سے میری توبہ قبول کر اور میرا گناہ معاف فرما“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”میں نے تیری دعا قبول کی اور تجھے تیرا منصب پھر عطا کیا۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے :-

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ

فَاتَّابَ عَلَيْهِ

(البقرة - ۳۷)

(تفسیر زبیر تبصرہ - ص ۹۰)

تقیہ :

مولف تقیہ کو دین کا ایک ضروری عنصر خیال کرتا اور اس کی تائید و حمایت میں حدیثیں ذکر کرتا ہے۔ مثلاً حضرت حسن بن علیؑ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو سب لوگوں کے مقابل میں اس لیے فضیلت دی گئی ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کی خیر خواہی کی وجہ سے دین کے دشمنوں سے تقیہ کی بنا پر حسن سلوک کرتے ہیں۔ (تفسیر حسن عسکری، ص ۱۴۲)

قرآن کریم میں فرمایا :-

وَاللَّهُمُّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
اور تمہارا معبود تو صرف ایک ہے اس کے
سوا کوئی معبود نہیں وہ رحم کرنے والا مہربان

(البقرہ-۱۳۳) - ۴ -

مولف اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”وہ اپنے مومن بندوں یعنی آل محمد پر مہربان ہے۔ ان کو تقیہ کی اجازت دی ہوئی ہے وہ دین کے خیر خواہوں کے ساتھ اظہارِ مہمردی کرتے ہیں اور اعداءِ دین کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں۔ جب اظہار و اعلان کی قدرت نہیں ہوتی اس وقت اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔“ (تفسیر زیر تبصرہ، ص ۲۳۹)

قرآن کریم میں فرمایا :-

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ
الدَّمَ وَحُمَّ الْخَنزِيرِ (البقرہ-۱۳۰)
اللہ تعالیٰ نے تم پر ہر دار، خون اور خنزیر کے
گوشت کو حرام قرار دیا۔

ذکورہ حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”امام باقر نے اپنے ایک شیعہ بھائی کو دیکھا کہ وہ ایک منافق کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہے۔ شیعہ کو تیز چل گیا کہ امام باقر نے دیکھ لیا ہے۔ نماز سے ناخ ہو کر کہنے لگا کہ رسولِ خدا کے بیٹے! میں اس منافق کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے تقیہ سے کام لیا ہے۔ اگر تقیہ پر عمل نہ کرتا تو اکیلے نماز ادا کرتا۔“ امام باقر نے کہا ”میرے بھائی! معذرت کی ضرورت نہیں۔ ساتوں آسمانوں اور ساتوں

زمینوں کے فرشتے تجھ پر سلام و رحمت اور تیرے امام پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمہاری اس تفسیر والی نماز کو سات سو نمازوں کے برابر ٹھہرایا جائے اس لیے تفسیر پر عمل کرتے رہیے۔ (تفسیر حسن عسکری، ص ۲۳۵)

فقہی مسائل میں شیعہ مسلک کی پیروی:

مولف مسترلی افکار و نظریات سے بھی بہت متاثر ہیں اور ان کی تفسیر میں اس کے واضح نشانات موجود ہیں۔ فقہی مسائل میں وہ ہر جگہ شیعہ مسلک کی پیروی کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نَمَازُكَی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔

(البقرہ - ۴۳)

مذکورہ حدیث آیت کی تفسیر میں مولف نے ایک طویل حدیث نقل کی ہے۔ جس میں واضح کیا گیا ہے کہ وضو کرتے وقت پاؤں کا مسح فرض ہے ان کا دوزمانہیں۔ البتہ تھپتہ کرتے وقت پاؤں کو دھویا جا سکتا ہے۔ مختصر کرنے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتے وقت اپنے چہرہ کو دھو تا ہے تو اس کے چہرہ کے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ جب کمینوں تک ہاتھ دھو تا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ جب پاؤں کا مسح کرتا ہے یا تھپتہ کی بنا پر ان کو دھو تا ہے تو پاؤں کے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔

(تفسیر عسکری، ص ۲۱۵)

خلاصہ یہ کہ یہ تفسیر شیعہ افکار و عقائد کی غلو و مبالغہ کی حد تک زہمانی کرتی ہے۔ اگر اس کی نسبت امام حسن عسکری کی جانب درست ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ وہ معصوم تھے اور نہ علم و فضل سے بہرہ ور تھے۔ ورنہ اس طرح قرآنی نصوص کا مذاق نہ اڑاتے۔ اور اگر بقول مصنف اعیان الشیعہ امام حسن عسکری عالم و فاضل اور متقی تھے تو اس تفسیر کا اقتساب آپ کی جانب ایک بہتان سے زیادہ نہیں۔ اور سہی بات صحیح تر ہے۔ اس لیے کہ ہمارے علم کی حد تک امام حسن عسکری اس قسم کے غالی شیعہ ہو گئے تھے۔

۳۔ مجمع البیان لعلم القرآن از طبوسی

مؤلف کا نام و نسب اور علمی مقام :

نام و نسب ابوعلی فضل بن حسن طبرسی شہدی ہے۔ شیعہ کی نگاہ میں بڑے عالم و فاضل، مفسر محدث اور فقیہ۔ ان کا خانوادہ علم و فضل میں مشہور چلا آتا تھا۔ چنانچہ ان کا بیٹا رضی اللہ عنہ ابو نصر حسن بن فضل ایران کا دختر زادہ ابوالفضل علی بن حسن اور دیگر قارب شیعہ کے اکابر علماء میں شمار ہوتے ہیں ان کے تلامذہ میں بڑے بڑے علماء خصوصاً ان کا بیٹا ایران شہر آشوب نیز شیخ نجیب الدین اور قطب راوندی جیسے فضلاء کے اسماء شامل ہیں۔ آپ نے شیخ ابوعلی بن شیخ طوسی سے کسب فیض کیا۔ آپ کی حسب ذیل تصانیف مشہور ہیں :

(۱)۔ مجمع البیان لعلم القرآن - (ذریعہ)

(۲) الوسیط فی التفسیر - اس کی چار جلدیں ہیں۔

(۳) الوجیز فی التفسیر - یہ ایک جلد میں ہے۔

(۴) اعلام الوریٰ باعلام الہدی - یہ دو جلدیں ہے۔

(۵) تاج الموالید والأدب الدینیہ -

صاحب روایات الجنات سمجھتے ہیں کہ علامہ طبرسی تفسیر مجمع البیان کی تالیف سے ۵۳۳ھ

میں فارغ ہوئے۔

صاحب مجالس المؤمنین رقم طراز ہیں :-

مد ابوعلی فضل بن حسن طبرسی عظیم مفسر تھے۔ آپ کی تفسیر مجمع البیان اس بات کی نزہ

دلیل ہے کہ طبرسی مختلف علوم و فنون کے جامع عالم تھے۔ جب تفسیر مجمع البیان تحریر

کر چکے اور تفسیر کشف ملاحظہ کی تو اسے بہت پسند کیا۔ چنانچہ ایک مختصر تفسیر

مرتب کی جو مجمع البیان اور کشف کے لطائف و نکات کی جامع تھی۔ آپ نے اس کا

نام ”الجوامع“ تجویز کیا۔ بعد ازاں ایک تیسری تفسیر قلبند کی جو سابقہ دونوں تفسیریں

کے مقابلہ میں مختصر تھی۔ فقرہ و کلام کے موضوعات پر بھی آپ نے کتابیں تصنیف کی ہیں آپ نے رضاعت کے مسئلہ پر جو مختصر کتاب ”اللعمۃ الرشقیہ فی بحث الرضاع“ کے نام سے لکھی ہے اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ طبری شیعہ مجتہدین میں شامل تھے۔ یہ کتاب رضاعت کے مسئلہ میں بہت مشہور ہے۔“

واقعہ عجیبہ :

تفسیر جمع البیان کے سبب تالیف سے متعلق ایک عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ مولف جمع البیان پر ایک دفعہ سکتہ طاری ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ چنانچہ آپ کو غسل دے کر کفین و تدفین کے فرائض انجام دیے گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دیکھا کہ قبر میں بند ہیں اور باہر نکلنے کے سبب راستے مسدود ہیں اندر میں اٹنا نذرمانی کہ اگر مجھے اس تکلیف سے رہائی ملی تو میں قرآن کریم کی تفسیر مرتب کر دوں گا۔

بیان کیا گیا ہے کہ اسی دوران ایک کفن چور نے اگر قبر کھودی۔ شیخ طبری نے چور کا ہاتھ پڑ لیا۔ کفن چوریہ دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ جب شیخ بولنے لگے تو اس کی حیرانی کی حد نہ رہی۔ شیخ نے کہا گھبرائیے نہیں میں زندہ ہوں۔ مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی اور لوگوں نے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا چونکہ کمزوری کی وجہ سے شیخ چلنے سے معذور تھے۔ اس لیے کفن چور نے آپ کو کندھے پر سوار کیا اور آپ کو گھر لے آیا۔ آپ نے اس کو انعام و اکرام سے نوازا۔ کفن چور نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ کام چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے نذر پوری کی اور یہ تفسیر مرتب کی۔ آپ نے ۵۲۸ھ میں شب عید الاضحیٰ کو وفات پائی۔

(روضات الجنات، ص ۵۱۲)

انداز تفسیر :

طبری اپنی تفسیر کے طرز و انداز پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے :
 ”میں نے ہر سورت کے شروع میں بتایا ہے کہ آیا یہ سورت ہے یا مدنی۔ پھر اس کی آیات کے شمار میں جو اختلاف ہے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اگر اس کی قرأت میں اختلاف واقع ہوا ہے تو وہ بھی بیان کیا ہے۔ پھر عربیت لغت اور اعراب سے متعلق نحوی بحث کی ہے۔ بعد ازاں اسباب نزول معانی و مطالب فقہی احکام تاویلات اور محض و

واقعات کو ذکر کیا ہے۔ پھر ربط آیات پر بحث کی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی عربیت اس کے اعراب اور معانی کے بارے میں بڑی ٹھوس اور جاندار گفتگو کی ہے۔ جو ادیب کے لیے مفید، نحوی کے لیے سود مند قاری کے لیے بصیرت افروز اور محدث فقید اور متکلم کے لیے حادی و رہنما ثابت ہو سکتی ہے۔

(کتاب زیر تبصرہ، ص ۴)

مولف مزید لکھتے ہیں :

قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کرنے سے قبل میں چند مقامات تحریر کرنا چاہتا ہوں جن سے واقفیت از بس ناگزیر ہے۔ یہ سات فنون ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :

(۱) فن اول قرآنی آیات کی تعداد سے متعلق ہے۔ نیز یہ کہ ان کی تعداد معلوم کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

(۲) دوسرے فن میں مشہور ترین قراء اور ان کے راویوں کے نام ذکر کیے جائیں گے۔

(۳) تیسرے فن میں تفسیر و تاجیل اور معنی سے بحث کی جائے گی۔ نیز یہ کہ تفسیر بالراہی کی حرمت و اباحت سے متعلق جو آثار وارد ہوئے ہیں ان کے مابین جمع و تطبیق کی صورت کیا ہے۔

(۴) چوتھا فن قرآن حکیم کے اسماء اور ان کے معانی سے متعلق ہے۔

(۵) پانچویں فن میں اعجاز القرآن اور اس سے متعلق مصنف کتب کا ذکر کیا جائے گا۔

(۶) چھٹے فن میں ان احادیث کو زیر بحث لایا گیا ہے جو قرآن اور حاملین قرآن کے فضائل کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں۔

(۷) ساتویں فن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قرآنی الفاظ کو تجوید و ترتیل کے ساتھ کیسے ادا کیا جاسکتا ہے۔

(مجموع البیان، ج ۱- ص ۴)

حق بات یہ ہے کہ اگر شہسی و معتزلی افکار و معتقدات سے صرف نظر کر لیا جائے تو اس میں شہر نہیں کہ اپنے بلب میں یہ عظیم کتاب ہے۔ اس کے مطالع سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مولف مختلف علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ مولف نے مقدمہ میں جو طریق کار واضح کیا تھا کتاب بالکل اس کے مطابق اس کی ترتیب و تہذیب نہایت حسین اور دلکش ہے۔ مولف جس علمی مسئلہ پر گفتگو کرتا ہے۔ اس میں

اپنی سادت اور برتری کا ثبوت دیتا ہے۔ مثلاً تجوید و قراءت مفردات کے لغوی معانی و جوہ اعراب اسباب نزول قصص و واقعات فقہی مذاہب ربط آیات مشکلات قرآن غرض یہ کہ جس پہلو پر بھی گفتگو کی ہے بہت عمدہ کی ہے اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔

مولف نے سابقہ مفسرین کے اقوال کو ان کی جانب منسوب کر کے نقل کیا ہے۔ ان میں سے اپنے پسندیدہ اقوال کو ترجیح دی ہے۔ اگر اس پر کوئی حرف گیری کی جاسکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ شیعہ معتقد کے اثبات میں بڑا زور کلام صرف کیا ہے۔ قرآنی نصوص و آیات کو اپنے عقائد سے ہم آہنگ کرنے کی سعی کی ہے۔ آیات الاحکام کو اپنے اجتہادات کے رنگ میں ڈھال لیا ہے۔ موضوع روایات بہت کثرت سے نقل کی ہیں۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ مولف دیگر علمائے اثنا عشریہ کی طرح غالی اور کٹر شیعہ نہیں۔

اب ہم اس تفسیر سے بعض اہمہ ذکر کرتے ہیں جن سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی کہ مولف نے کس طرح قرآنی آیات کو وہ معنی پہنائے ہیں جو اس کے مذہب و مسلک سے لگا کھاتے ہیں شدید قوت جدل و مناظرے کام لے کر اپنے مذہب کو قرآنی اساسات پر مبنی قرار دینے کی مقصد راجح سعی کی ہے جو ظواہر نصوص اس کے مسلک سے متصادم ہیں، ان کا دفاع کیا ہے۔

امامت علیؑ :

چونکہ طبری حضرت علیؑ کی امامت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت بلا فصل پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے وہ اس بات کی ہر ممکن سعی کرتے ہیں کہ قرآن سے آپ کی امامت و ولایت ثابت کی جائے۔ مثلاً قرآن کریم کی یہ آیت :

اتَّمَا وَيُنَكِّمُ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ	تمہارا حمد و اللہ تعالیٰ اس کا رسول اور امانت
وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا الَّذِيْنَ يَّهْمُوْنَ	ہیں جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے زکوٰۃ
الصَّلٰوةَ وَيَدُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ	دیتے اور اس کے سامنے جھکنے والے ہیں
رَاكِعُوْنَ۔ (المائدہ - ۵۵)	

مذکورہ حدیث سے طبری نے حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرنے کی امکانی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک ایک کر کے آیت کے مفردات کے لغوی معانی بیان کرتے ہیں۔ ولی کے

معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ولی وہ شخص ہے جو کسی کی نصرت و اعانت کرتا ہے یا کسی کام کی تدبیر انجام دیتا ہے۔ عورت کا ولی وہ شخص ہوتا ہے جو اس کے نکاح کی تدبیر کرتا ہے "ولی الدم" (خون کا ولی) وہ شخص ہے جس سے قصاص کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ سلطان امور رعیت کا ولی (سرپرست) ہوتا ہے۔ خلیفہ جس کو اپنے بعد امور رعیت کا نگران مقرر کرتا ہے اسے ولی عہد کہتے ہیں۔

المبرور اپنی کتاب العبادۃ میں لکھتا ہے کہ ولی کے معنی ہیں وہ شخص جو کسی بات کا دوسروں سے زیادہ مستحق ہو۔ مولیٰ کے معنی بھی ولی کے ہیں۔ اسی طرح بانی باری طبری نے آیت میں وارث و تمام مفردات کے معانی بیان کیے ہیں۔ پھر طویل سند ذکر کرنے کے بعد اس آیت کے سبب نزول سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ایک دفعہ چاہ زمزم کی منڈیر پر بیٹھے کہ یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ اسی دوران ایک شخص عمامہ سے منہ لپیٹے آیا۔ جب ابن عباسؓ کہتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو وہ شخص بھی یہ الفاظ دہراتا۔ ابن عباسؓ کہنے لگے میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں بناؤ کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہوئے کہا "جو شخص مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے۔ اور جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میرا نام جنید بن جنادہ بدری البوذری غفاری ہے میں نے اپنے ان کانوں سے نبی کریمؐ کو فرماتے سنا اور اگر نہ سنا ہوتا تو میرے دونوں کان ہرے ہو جاتیں۔ اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے آپؐ کو دیکھا۔ اور اگر نہ دیکھا ہوتا تو یہ اندھی ہو جاتیں حضور فرماتے تھے کہ علی نیک لوگوں کے رہنما اور کافروں کے قاتل ہیں۔ جو ان کو مدد دے گا، وہ غالب رہے گا اور جو ان کو رسوا کرے گا وہ خود رسوا ہو جائے گا۔ میں نے ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی۔ ایک سائل نے مسجد میں لوگوں سے سوال کیا۔ مگر کسی نے کچھ نہ دیا۔ سائل نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا "اے اللہ! میں نے رسول کریمؐ کی مسجد میں سوال کیا لیکن کسی نے کچھ نہیں دیا" حضرت علیؓ حالت رکوع میں تھے آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا کہ اس میں انگوٹھی ہے وہ آثار لو۔ سائل آگے بڑھا اور انگوٹھی آزاری۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔

جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آسمان کی جانب سر اٹھا کر فرمایا "اے اللہ! میرے بھائی موسیٰؑ نے تجھ سے درخواست کی تھی کہ میرے سینے کو کھول دے۔ میرا کام آسان کر دے۔ میری زبان کی گڑھ کو کھول دے تاکہ میری بات کو سمجھ لیں۔ میرے گھر کے لوگوں

میں سے میرے بھائی صلادوں کو میرا ذریعہ بنا دے۔ اس کے ساتھ میری کم کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک فرما دے“ (سورہ طہ - ۲۵-۳۲) اے اللہ تو نے یقین دلایا تھا کہ اے موسیٰ! ہم تیرے بھائی کو وزیر بنا کر تیرے بازو کو مضبوط بنا دیں گے۔ (القصص - ۲۵)

حضورؐ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! میں تیرا نبی اور برگزیدہ ہوں۔ میں بھی وہی دعا کرتا ہوں۔ جو حضرت موسیٰ نے کی تھی۔ کہ میرے خاندان میں سے میرا ایک ذریعہ بنا دے۔ ابوذر غفاری کہتے ہیں کہ نبیؐ ابھی آنحضرتؐ کے یہ الفاظ ختم بھی نہ ہونے پائے تھے کہ جبریل امینؑ مکرر صدر آیت ”إِنشَاءً وَلِيَكُمُ اللَّهُ دَرَسُوهٗ“ لے کر نازل ہوئے۔

ابو اسحاق ثعلبی نے اپنی تفسیر میں یہ روایت امی سند کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ابو بکر رازی نے بھی احکام القرآن میں یہ روایت بیان کی ہے۔ علاوہ علامہ مغربی رومانی اور طبری لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علیؑ نے نماز پڑھتے ہوئے اپنی انگوٹھی صدقہ کر دی تھی۔ مجاہد اور سدی کا قول بھی یہی ہے۔ ابو جعفر ابو عبد اللہ اور تمام اہل بیت بھی اسی کے قائل ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ مولف کی یہ کوشش بے سود ہے۔ اس لیے کہ نماز کی حالت میں انگوٹھی صدقہ کرنے کی روایت موضوع اور بے اصل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔
(منہاج السنۃ، ج ۲-۳ ص ۲)

عصمت ائمتہ:

طبری ائمہ اہل بیت کی معصومیت کے قائل ہیں اور ایڑی پٹی کا زور لگا کر اس عقیدہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا (الاحزاب - ۳۳)

اے نبی کے گھر والو! اللہ تعالیٰ تم سے طہری
کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک و صاف
کرنا چاہتا ہے۔

مولف نے یہ ثابت کرنے کی اہمائی کوشش کی ہے کہ اہل بیت میں نبی کریمؐ حضرت علیؑ و فاطمہؑ اور حسنؑ حسینؑ رضی اللہ عنہم کے سوا اور کوئی شخص شامل نہیں۔ اس سے اس کا مطلب یہ واضح کرنا ہے کہ ائمہ اہل بیت معصومیت کے اعتبار سے بالکل انبیاء کی طرح ہیں اور اس ضمن میں ان کے ادا فیاء کے

مابین کسی قسم کا فرق و امتیاز نہیں ہے۔ اس ضمن میں روایات ذکر کرنے کے بعد مولف نے لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں عام دماغ بے شمار دلائل و شواہد موجود ہیں۔ مگر ان کا ذکر موجب طوالت ہے۔ اس لیے ہم ان کو قلم انداز کرتے ہیں۔

مولف نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ صدر آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس کے آگے بھی وہی مراد ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیحہ کی عادت یہ ہے کہ وہ کبھی ایک کو مخاطب بناتے ہیں، کبھی دوسرے کو۔ قرآن کریم اس قسم کی مثالوں سے بھر پور ہے کلام عرب اور ان کے اشعار سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ مذکورہ صدر آیت اہل بیت سے متعلق ہمارا اس سے قبل ازواج مطہرات کا ذکر کیا گیا ہو۔

(مجمع البیان، ج ۱- ص ۵۰)

رجعت :

مولف چونکہ رجعت کے عقیدہ پر ایمان رکھتا ہے اس لیے قرآنی آیات سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا،

ثُمَّ يَتَّبِعَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ
سَمْعًا تَسْمَعُونَ (البقرہ-۵۱)

پھر ہم نے تمہیں مارنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔

اس آیت کی تفسیر میں طبری لکھتا ہے :

”ہمارے علمائے اس آیت سے رجعت کے عقیدہ پر استدلال کیا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ کسی نبی کے زمانہ ہی میں کسی شخص کو دوبارہ زندگی عطا کی جاسکتی ہے تاکہ نبی کے معجزہ کا اثبات ہو۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک ائمہ اور اولیاء کے ہاتھوں پر بھی معجزات کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اس کے دلائل کتب اصول میں مذکور ہیں“

(مجمع البیان، ج ۱- ص ۵۰)

مہدی و تقیہ :

طبری کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پوشیدہ ہیں اور قرب نیامت ان کا ظہور ہوگا۔ اس کے

اثبات کے سلسلہ میں وہ آیت قرآن ”يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ سے استشہاد کرتے ہیں۔ ”الغیب“ کی تائید سے متعلق مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابن مسعود اور صحابہ کی ایک جماعت کے نزدیک اس سے مراد وہ چیز ہے جس کا بندوں کو علم نہ ہو۔ طبری کہتے ہیں کہ یہ تفسیر صحیح تر ہے۔ اس لیے کہ اس میں امام حسدی کی غیبت اور ان کے خروج و ظہور کا زمانہ بھی داخل ہے۔

(مجمع البیان، ج ۱- ص ۱۶)

مولف تقیہ پر ایمان رکھتا ہے اور تفسیر میں جا بجا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کریم میں فرمایا :

”لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ
تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا“ (آل عمران)

طبری ”إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا“ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”اگر کفار غالب اور مومن مغلوب ہوں اور ایک مومن اس بات سے مخالف ہو کہ اگر کفار کی موافقت نہیں کروں گا تو مجھے جان سے مار ڈالا جائے گا۔ تو اندر میں صورت تقیہ کے طور پر وہ زبان کے ساتھ ان کی موافقت کر سکتا ہے۔ مگر دل سے اس بات کا اعتقاد نہیں رکھ سکتا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جان کے خطرہ کے وقت تقیہ دین میں جائز ہے۔ ہمارے شیعہ اصحاب کا خیال ہے کہ ضرورت کے وقت تقیہ نام حالات میں جائز ہے۔ بعض اوقات میں تقیہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ مومن کو قتل کرنے اور فساد فی الدین کے سلسلہ میں تقیہ ہدائیں“

علامہ مفید لکھتے ہیں :-

”تقیہ بعض اوقات فرض یا واجب کبھی جائز اور گاہے افضل ہوتا ہے۔ بعض اوقات تقیہ کو ترک کرنا افضل ہوتا ہے۔ شیخ ابو جعفر طوسی کہتے ہیں کہ جب جان کا خطرہ ہو تو تقیہ واجب ہوتا ہے۔ بعض اوقات تقیہ کی رخصت ہوتی ہے۔ اور اس کے

ساتھ ساتھ حق گوئی کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ سیلہ کذاب نے اصحاب رسول میں سے دو کو پکڑ لیا۔ ایک سے کہا ”کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ صحابی نے کہا ”ہاں“ پھر کہا ”کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابی نے کہا ”ہاں“ پھر دوسرے کو بلا کر یہی بات دریافت کی۔ صحابی نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سیلہ نے کہا کیا تم مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہو؟ صحابی نے کہا ہرہ ہوں۔ سیلہ نے تین مرتبہ پوچھا۔ صحابی نے یہی جواب دیا۔ سیلہ نے اس کو قتل کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ مقتول تو اپنی صداقت و یقین کے راہ پر گامزن رہا اور یقیناً فضیلت حاصل کی، انہیں مبارک ہو۔ دوسرے نے خدا کی دی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھایا اس لیے وہ بھی متوب نہیں۔ اس لیے تقیر کی اجازت ہے۔ مگر حق گوئی میں فضیلت و عزیمت ہے“ (مجمع البیان، ج ۱- ص ۱۸۳)

نکاحِ ممتنع:

طبری امامیہ اثنا عشریہ کی فقہ اور ان کے اجتماعی مسائل سے بے حد متاثر نظر آتا ہے۔ وہ ہر موقع پر قرآنی آیات سے اپنے فقہی مسائل کو ثابت کرنے اور مخالفین کے دلائل و براہین کے ابطال کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی فقہی مسلک کا اثبات ہو یا مخالفین کے دلائل کی تردید و ابطال وہ ہر موقع پر پوری شدت سے کام لیتا ہے۔ اس کی حد یہ ہے کہ جو شخص محقق اور حقیقت دانہی سے آگاہ نہ ہو۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ طبری حق پر ہے اور اس کے مخالفین باطل کے پرستار ہیں۔

امامیہ اثنا عشریہ نکاحِ ممتنع کے جواز کے قائل ہیں اور اہل سنت کی طرح اس کے جواز کو منسوخ قرار نہیں دیتے۔ طبری بھی اسی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے وہ قرآنی نصوص سے اس کی حلت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَادْخُلْنَ فِيهِنَّ
 (النساء - ۲۴)

کا صبر ان کو دے دو۔

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے طبری لکھتا ہے:

”فائدہ اٹھانے سے اس آیت میں مجامعت مراد ہے۔ حسن مجاہد اور ابن زید سے یہ منقول ہے بنا بریں اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جن عورتوں سے تم نے فائدہ اور لذت حاصل کی جو ان کو مراد کر دو۔ بعض علماء کے نزدیک ”استمتاع“ ”فائدہ اٹھانا“ سے نکاحِ متنعہ مراد ہے۔ نکاحِ متنعہ کے معنی ہیں وہ نکاح جو معتین رقم کے عوض مقررہ مدت تک کے لیے کیا جائے۔ حضرت ابن عباسؓ سدی ابن سعید اور تابعین کی ایک جماعت کا نظریہ یہی ہے۔ امامیہ اثنا عشریہ اسی کے قائل ہیں۔

امامیہ کا یہ مسلک اس لیے بھی قرین صحت و صواب ہے کہ اگرچہ استمتاع و تنعہ کے لغوی معنی نفع اور لذت حاصل کرنے کے ہیں۔ لیکن عرفِ شرع کے اعتبار سے اس کا اطلاق نکاحِ متنعہ پر ہوتا ہے۔ خصوصاً جب کہ اس کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہو۔ بنا بریں اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جب تم عورتوں سے نکاحِ متنعہ کر دو تو ان کو ان کا مراد کر دو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مہر کی ادائیگی کو استمتاع کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استمتاع سے یہاں نکاحِ متنعہ مراد ہے جماع اور لذت گیری نہیں۔ اس لیے کہ مہر تو بدوں مجامعت واجب ہو ہی نہیں سکتا۔

صحابہ کرام کی ایک جماعت جن میں ابی بن کعب، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعودؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جیسے اکابر کے اسماء شامل ہیں۔ مذکورہ صدر آیت کو ”فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ“ ”رَأَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى نَّأْتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ“ کی قراءت کے مطابق یعنی ”رَأَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى“ (ایک خاص مدت تک) کے اضافہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ قراءت نکاحِ متنعہ کے سلسلہ میں بالکل صریح ہے۔

ثعلبی اپنی تفسیر میں حبیب بن ابی ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابن عباس نے قرآن مجید کا ایک نسخہ دیا اور کہا کہ یہ نسخہ ابی بن کعب کی قراءت کے مطابق تحریر کیا گیا ہے۔ میں نے اس نسخہ میں ”رَأَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى“ کے الفاظ ملاحظہ کیے۔ اسی طرح ابو نعیرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے متنعہ کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا ”تم سورہ نساء نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی ”کیوں نہیں؟“ ابن عباس نے کہا ”یہ آیت ”رَأَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى“ ہے۔ میں نے کہا ”میں تو اس آیت کو یوں نہیں پڑھتا۔“ ابن عباس نے کہا ”خدا کی قسم یہ آیت اسی طرح اتنی تھی جیسے میں نے تلاوت کی۔“ آپ نے عین مرتبہ یہ الفاظ دہرائے۔

فجیر بن حکم بن عیینہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ سے پوچھا کہ کیا وہ آیت متعہ منسوخ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا: "اگر عمر متعہ سے نہ روکتے تو بہت کم آدمی زنا کا ارتکاب کرتے۔" عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں متعہ کی نصحت پر مشتمل آیت اتری اور اس کو منسوخ کرنے والی کوئی آیت بعد ازاں نازل نہیں ہوئی۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کا حکم دیا اور ہم نے آپ کی موجودگی میں متعہ کیا۔ آپ نے وفات پائی، اور ہمیں متعہ سے منع نہ کیا۔ اس کے بعد ہر شخص اپنی مرضی سے جو چاہے کہے۔

صحیح مسلم میں عطاء سے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تو ہم ان کے گھر گئے۔ لوگوں نے ان سے بہت سے مسائل پوچھے، ان میں متعہ کا سوال بھی شامل تھا فرمایا کہ ہم عمر رسالت اور حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کے عہد خلافت میں متعہ کرتے رہے۔

مذکورہ حدیث آیت میں لفظ "استمتاع" سے مجامعت مراد نہ لینے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر اس آیت میں اس لفظ سے یہ معنی مراد ہوتے تو عدم مجامعت کی صورت میں مہر میں سے کچھ بھی ادا کرنا لازم نہ آتا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو قبل از دخول طلاق دے دے تو اسے نصف مہر ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر استمتاع سے دائمی عقد نکاح مراد ہوتا تو اس آیت کی رو سے صرف نفیس نکاح ہی سے پورا مہر ادا کرنا واجب ہو جاتا۔ اس لیے کہ آیت میں "فَاَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ" (ان کے مہر ادا کرو) کے الفاظ ہیں۔ اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ مذکورہ صورت میں مہر کی ادائیگی واجب نہیں۔ بخلاف ازین نکاح متعہ میں صرف عقد نکاح ہی سے پورا مہر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔

نکاح متعہ کے جواز میں عمر بن الخطاب (رضی اللہ عنہ) کی مشہور روایت سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے۔ آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دو قسم کا متعہ حلال تھا۔ یعنی نکاح متعہ اور عی متعہ۔ لیکن میں ان دونوں سے منع کرتا اور ان کا ارتکاب کرنے والے کو سزا دیتا ہوں۔ اس روایت میں حضرت عمر نے بتایا کہ متعہ عمر رسالت میں راجح تھا۔ لیکن آپ نے اپنی ذاتی رائے کی بنا پر اس کو ممنوع قرار دیا۔ اگر آپ نے اس کو منسوخ کیا یا ممنوع ٹھہرایا ہوتا یا کسی خاص وقت میں اس کی اجازت دی ہوتی تو حضرت عمر تحریم کی نسبت اپنی جمانے نبی کریم کی طرف کرتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ حج متعہ منسوخ ہے نہ حرام۔ اس لیے نکاح متعہ کا حکم بھی یہی ہوگا۔ (مجمع البیان، ج ۱، ص ۲۵۵)

پاؤں پر مسح :

دیگر شیعہ علماء کی طرح طبری کا زاویہ نگاہ بھی یہی ہے کہ وضو کرتے وقت پاؤں پر مسح کرنا فرض ہے۔ ان کا دھونا نہیں۔ پینا پنچہ اس کو ثابت کرنے کی اس نے انتہائی کوشش کی ہے۔ اس کے پیش کر کہ وہ دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص نہایت ذہین و فطین اور نہایت وسیع معلومات رکھتا ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا ،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اٹھو
تو اپنے چہروں کو دھولو اور اپنے ہاتھوں
کو کہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو
اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھولو۔

اس آیت کی تفسیر میں طبری کہتے ہیں :

”قرآن کریم میں فرمایا ”وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ“ اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور فقہاء کے نزدیک وضو کرتے وقت پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ شیعہ امامیہ اس کو ”أَرْجُلِكُمْ“ پڑھتے اور پاؤں کے مسح کو فرض قرار دیتے ہیں۔ بکرہ کا قول بھی یہی ہے۔ صحابہ و تابعین کی ایک جماعت سے بھی یہی منقول ہے۔ مثلاً ابن عباس و انس و ابوالعالیہ و شعبی و غیر ہم۔ حسن بصری کا قول ہے کہ مسح و غسل میں سے جو چاہے اختیار کرے۔ طبری اور جبائی کا مسلک بھی یہی ہے۔ البتہ وہ کہتے ہیں کہ پورے پاؤں کا مسح کرنا چاہے۔ صرف بالائی حصہ پر اکتفاء کرنا درست نہیں۔ ائمہ زیدیہ میں سے ناصر الحق کا خیال ہے کہ مسح کرنا اور دھونا دونوں ضروری ہیں۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے دونوں پاؤں پر مسح فرمایا۔“

(مجمع البیان، ج ۱، ص ۳۱۴)

اہل کتاب عورتوں سے نکاح :

چونکہ طبری اہل کتاب عورتوں سے نکاح کو جائز نہیں سمجھتے۔ اس لیے اس ضمن میں وارد شدہ آیات کی تفسیر حسب مرفی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا :

وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا (البقرہ-۳۱) ایمان نہ لائیں۔
اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک

مذکورہ حدیث آیت کے مفردات لغت اعراب اور سبب نزول پر بحث کرنے کے بعد مولف لکھتا ہے :-

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ مشرک اور کافر عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک ایمان نہ لائیں۔ یہ آیت ہمارے نزدیک عام ہے۔ ہر قسم کی کافر عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ وہ اہل کتاب ہوں یا دیگر کفار میں سے۔ ہمارے خیال کے مطابق یہ آیت نہ مخصوص ہے اور نہ منسوخ۔ اس آیت کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اہل کتاب کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اہل کتاب اور مشرکین کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔

ارشاد فرمایا :

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ (البینۃ-۱) نہ تھے۔
اہل کتاب اور مشرکین باز آنے والے

مذکورہ حدیث آیت میں اہل کتاب اور مشرکین کا جدا جدا ذکر کیا اور دونوں کے درمیان واو عاطفہ لاکر دونوں کی مغایرت کو واضح کیا۔ اس لیے آیت ہذا میں منع و تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آیت وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ سب کافر عورتوں کو شامل ہے شرک کا اطلاق ہر قسم کے کفر پر ہوتا ہے۔ اس لیے اہل کتاب بھی اس میں شامل ہیں۔ جو شخص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا انکار کرتا ہے وہ آپ کے معجزات کا بھی منکر ہے اور اسی کا نام شرک ہے۔ اس لیے کہ معجزہ آپ کی رسالت کی شہادت دیتا ہے۔ (مجمع البیان، ج ۱- ص ۱۳۴)

میراثِ انبیاء :

طبری دیگر شیعہ علماء کی طرح یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے آثار کو ترکہ میں سے ورثہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کا ترکہ بھی ان کے ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا :

”بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ“ میرا دل آں یعقوب کا وارث ہو۔

(مریم - ۶)

اس آیت کی تفسیر میں مولف نے لکھا ہے :

”اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے اس کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ میرے مال کا وارث ہو اور آں یعقوب سے نبوت کا وارث پائے۔ البوصالح کا نظریہ یہی ہے۔ حسن اود مجاہد اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ”میری اور آں یعقوب کی نبوت کا وارث ہو گا۔ ہمارے صحاب نے مذکورہ صدد آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ دوسرے لوگ انبیاء کا وارث پاتے ہیں۔ وارثت سے یہاں مالی وارثت مراد ہے علم و نبوت نہیں۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ”میراث“ کا لفظ لغت و شریع میں اس مال پر لوبا جاتا ہے جو میت کے ترکہ میں سے وارث کو ملتا ہے۔ بلکہ کے علاوہ دوسری چیزوں پر اس کا اطلاق مجازاً کیا جاتا ہے۔ حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی مفہوم اسی وقت مراد لیا جاتا ہے۔ جب اس کی کوئی دلیل موجود ہو۔“

اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت زکریا نے اپنی دعائیں کہا تھا ”وَاَجْعَلْهُ رَبِّي رَسُوْلًا“ یعنی اے اللہ جو شخص میرا وارث بنے گا اس کو اپنا پسندیدہ اور تابع فرمان بنا دے۔ اگر وارثت سے یہاں نبوت کا وارث مراد لیا جائے تو اس دعا کے کچھ معنی نہیں بنتے۔ اس لیے کہ یوں کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو تا کہ ”اے اللہ فلاں شخص کو نبی مبعوث کر دے اور اس کو دانش مند اور بااخلاق بھی بنا دے۔ کیونکہ جو شخص نبی ہو گا وہ بااخلاق اور پسندیدہ بھی ضرور ہو گا۔“

اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت زکریا نے یہ بھی کہا تھا کہ ”اِنِّي نَفْسُ الْكَافِرِيْنَ مِنْ قَدْرَانِي“ (میں اپنے چچا زاد بھائیوں سے ڈرتا ہوں) اسی خوف کے پیش نظر آپ وارثت طلب کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ خوف اسی بات کا ہو سکتا ہے کہ میرے چچا زاد بھائی میرا مال وغیرہ نہ لے جائیں۔ علم اور نبوت کو ان سے کچھ خطرہ لاحق نہیں تھا۔ حضرت زکریا اس بات سے مخالفت نہیں ہو سکتے تھے کہ کسی نااہل کو ان کے بعد نبی بنا دیا جائے گا یا ان کے علم و حکمت پر وہ شخص قبضہ جمائے گا جو اس بات کی صلاحیت سے عاری ہے۔ جب ان کی بعثت ہی علم و فضل کی نشرو اشاعت کے لیے عمل میں آئی تھی تو پھر اس کے پھیل جانے اور ترقی کرنے سے آپ ہر سال کیوں کر ہو سکتے تھے؟ (مجمع البیان ج ۲ - ص ۱۱۴)

قرآن عزیز میں فرمایا :

وَدَرَيْتَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ (انفال ۷۶) سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔

اس آیت کی تفسیر میں طبرسی لکھتے ہیں :-

”اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح انبیاء سے بھی مالی وراثت لیا جاتا ہے۔ حضرت حسن کا قول یہی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے علم ان کی نبوت اور سلطنت کے وارث بنے حضرت داؤد کی اولاد میں سے دوسرا کوئی بھی آپ کا وارث قرار نہ پایا۔ وراثت کے معنی یہاں قائم مقام ہونے کے ہیں۔ جیسے جنت کے بارے میں فرمایا :

يَرْتَوُونَ اَنْفُسَهُمْ دُونَ (مومن فردوس کے وارث ہوں گے) جہاں کا قول یہی ہے۔ مگر یہ خلاف ظاہر ہے۔ اہل بیت کے نزدیک پہلے معنی صحیح تھیں“

(مجمع البیان، ج ۲، ص ۲۲۹)

اجماع :

شیعہ کے نزدیک اجماع کسی قسم کا بھی ہو شرعی حجت نہیں ہے بجز اس صورت کے جبکہ اجماع سے کسی امام کی رائے کا اظہار ہوتا ہو یا اجماع منعقد کرنے والوں میں کوئی امام بھی شامل ہو۔

(تعریف الشیعہ ص ۱۶)

ایک اثنا عشری شیعہ ہونے کے اعتبار سے طبرسی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ بنا بریں جو مرفقاء اجماع کی جمعیت کے سلسلہ میں جو قرآنی دلائل پیش کرتے ہیں وہ ان کی تردید کرتے اور کہتے ہیں کہ ان آیات کے فہم و ادراک میں ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا :

قُلْ اِنَّمَا دَعَوْتُ رَبِّيَ لِتَرْكِبُوا
رَبِّيَ اِنَّ رَبِّيَ لَدَائِمٌ رَّحِيمٌ
قُلْ اِنَّمَا دَعَوْتُ رَبِّيَ لِتَرْكِبُوا
رَبِّيَ اِنَّ رَبِّيَ لَدَائِمٌ رَّحِيمٌ

اگر کسی بات میں تمہارے یہاں تنازع پڑ جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف

لوٹاؤ۔

(النساء-۵۹)

اس کی تفسیر میں طبرسی لکھتے ہیں :

”بعض علماء نے اس آیت سے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ تنازع بپا ہونے کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تنازع موجود نہ ہو تو رجوع کا بھی ضروری نہیں یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اجماع حجت ہو۔ اس استدلال کے صحیح ہونے کی صورت یہ ہے کہ امت میں شریعت کی حفاظت کرنے والا کوئی شخص موجود ہو۔ اگر موجود نہ ہو تو یہ استدلال صحیح نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بات کیونکر درست ہے کہ امت جس بات پر بھی متفق ہو جائے۔ وہ کتاب و سنت کی طرح واجب التعمیل ہے۔ نیز یہ کہ جب امت کسی بات پر متفق ہو جائے تو اس کے بارے میں کتاب و سنت کی جانب رجوع کرنا درست نہیں ہے“ (مجمع البیان، ج ۱ - ص ۲۶۰)

سحہر :-

طبری دیگر شیعہ علماء کی طرح بہت سے افکار و آراء میں معتزلہ کا ہم خیال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقائد سے متعلق اہل سنت میں وہ اکثر ان کا ساتھ دیتا۔ مثلاً ہدایت و ضلالت روایت باری تعالیٰ کے مسائل میں وہ بالکل معتزلہ کا ہمنوا نظر آتا ہے اور قرآنی آیات کو معتزلی نظریات کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔

معتزلہ کی طرح طبری سحر کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا اور اس ضمن میں جمہور اہل سنت کے عقائد سے متعلق اہل سنت میں وہ اکثر ان کا ساتھ دیتا۔ مثلاً ہدایت و ضلالت روایت باری تعالیٰ کے مسائل میں وہ بالکل معتزلہ کا ہمنوا نظر آتا ہے اور قرآنی آیات کو معتزلی نظریات کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا :
 وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْءَ طَائِفِينَ
 عَلَىٰ مَلِكٍ سُبْحَانَ
 اور انہوں نے سلیمان کے عہد میں اس چیز
 کی پیروی کی جو شیطان پڑھتے تھے۔
 اس آیت کی تفسیر میں طبری لکھتا ہے :-

”سحر کی حقیقت کے بارے میں علماء کے مندرجہ ذیل اقوال ہیں :-
 (۱) سحر ایک طرح کی خیالی اور دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے تحفظ و نگہداشت کا طریقہ یہ سکھایا

ہے کہ کتاب ربانی کی مدد سے اس کے ضرر سے بچاؤ حاصل کیا جائے۔ سورۃ الفلق اسی ضمن میں نازل ہوئی بیشیہ علماء میں سے ابو عبداللہ شیخ المفید کا نقطہ نظر یہی ہے۔

(۲) سحر کی حقیقت کچھ نہیں۔ یہ محض فریب و ہی اور طمع سازی ہے۔ مگر سحر اس کو حقیقت خیال کرتا ہے۔

(۳) ساحر انسان کو گرہا اور جو چاہے بنا سکتا ہے۔ یہ خیال درست نہیں۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ رسالت و نبوت کا منکر ہے۔ اس کے نزدیک انبیاء کے معجزات بھی سحر کاری پر مبنی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ساحر اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا اور اپنے سے ضرر کو دور کر سکتا۔ علاوہ ازیں ساحرین سے پوشیدہ خزانے نکال سکتا، اور لوگ و سلاطین کو قتل کر کے خود ان کے تخت و تاج کا وارث بن جاتا۔

مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سحر ہمیشہ لوگ اکثر بد حال اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ان کا کام دھوکہ فریب اور طمع سازی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جن احادیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ اور آپ اس کے زیر اثر مرنے نسیان کے مریض ہو گئے تھے۔ یہ جسدی روایات ہیں اور اس لیے قابل التفات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ قول نقل کیا ہے کہ :-

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْجُورًا

تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو

(الفرقان - ۸)

اگر آپ جادو سے متاثر ہو گئے تھے تو پھر کفار کا کہنا بجا ہے اور وہ اپنے قول میں سچے تھے۔ ملاح کو رسول کریم کا دامن ایسے عبور و نقائص سے پاک ہے۔ آپ کائنات پر اللہ کی حجت اور اس کے برگزیدہ نبی تھے (جمع البیان، ج ۱ - ص ۷۵)

شفاعت:

بڑی حد تک معتزلی عقائد سے متفق ہونے کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ طبری معتزلہ کے جملہ افکار و عقائد کو تسلیم کرتے ہیں۔ بخلاف انہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کثیر مسائل میں ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے عقائد شدید جلال و ذراعت بپا کرتے ہیں۔ مثلاً شفاعت کے مسئلہ میں طبری

کاسک بمنزلہ سے مختلف ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

وَأَنْقُذِ الْيَوْمَ آلَ كَعْبَجٍ نَفْسًا عَنْ
نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
شَفَاعَةٌ (البقرہ - ۴۸)

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی
کو بدلہ نہ دے گا اور نہ ہی اس سے سفارش
قبول کی جائے گی۔

مولف اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے :

مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت کا تعلق یہود کے ساتھ ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ
ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمارے بزرگ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے
یہ آیت نازل کر کے یہود کو مایوس کر دیا۔ اس کے الفاظ اگرچہ عام ہیں مگر اس
سے خاص یہودی مراد ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پوری اُمت نبی کریم کی شفاعت
پر متفق ہے۔ تاہم جو اختلاف ہے وہ شفاعت کی کیفیت میں ہے۔ شیعہ
کے نزدیک شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ اس کی بنا پر گنہگار اہل ایمان کے علاوہ
اور ان کے الم ورنج کو ڈور کر دیا جائے گا۔

مستزاد کہتے ہیں کہ شفاعت فرماں بردار نیک اور توبہ کرنے والے اہل
ایمان کے لیے ہوگی۔ اور اس کا فائدہ توحی درجات کی صورت میں پہنچتا ہے
گنہگاروں کے لیے شفاعت نہیں۔ شیعہ کے نزدیک نبی کریم آپ کے بزرگ
اصحاب ائمہ اہل بیت اور صالح مومنین سب شفاعت کر سکتے ہیں۔ شفاعت
کی وجہ سے گنہگاروں کو نجات ملے گی شفاعت کے سلسلہ میں بکثرت احادیث
بھی وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ” میں نے اپنی اُمت کے
اہل کبار کے لیے اپنی شفاعت کے حق کو محفوظ رکھا ہے“

ہمارے شیعہ اصحاب مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا میں روز قیامت سفارش کروں گا اور میری سفارش مقبول ہوگی
حضرت علی اور دیگر اہل بیت بھی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبولیت ہے

برہ در ہوگی۔ ایک ادنیٰ درجہ کا مومن اپنے چالیس مومن بھائیوں کے حق میں سفارش کرے گا اور وہ سب کے سب دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ کفار روز قیامت حسرت و ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے :-
 فَمَا لَنَا مِنْ شَاقِّينَ وَلَا صِدِّيقٍ
 ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا
 حَبِيبٍ ۰ (الشعراء - ۱۰۰)
 اور غمگسٹ دوست نہیں۔

احادیث موضوعہ :

ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ طبرسی نے اپنی تفسیر کے بارے میں جو بیہ بات کہی تھی کہ ”یہ محدث کے لیے ایک شاہراہ ہے جس پر وہ گامزن ہو سکتا ہے“ صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ تحقیق و تلاش کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ مولف احادیث کے سلسلہ میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی تفسیر موضوعات کا پلندہ ہے۔ خصوصاً وہ احادیث موضوعہ جن کو گھڑ کر شیعہ نے نبی کریم ﷺ اور اہل بیت کی جانب منسوب کر دیا ہے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر احادیث شیعہ نظریات کی تائید و حمایت سے متعلق ہیں۔

قرآنی سورتوں کے فضائل سے متعلق مولف نے جو احادیث نقل کی ہیں وہ دیگر مفسرین کی منقولہ احادیث کی طرح سب اہل علم کے نزدیک موضوع ہیں۔ تفسیر اہل اکابر کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ شیعہ منقذات کی تائید کے سلسلہ میں مولف نے جو روایات ذکر کی ہیں ان پر حق و صداقت کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا۔

قرآن کریم میں فرمایا :

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ
 آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔
 ھا ۰ (المد - ۷)

مذکورہ صدر آیت کی تفسیر میں مولف نے بروایت شیعہ موضوع احادیث ذکر کی ہیں۔ اور ان پر کوئی نقد و جرح نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولف ان کو صحیح قرار دیتا ہے۔ مولف نے مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں علماء کے چار اقوال نقل کیے اور پھر حضرت ابن عباس کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ :-

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں متذیر ہوں اور علی میرے بعد ہادی ہیں۔“

اسے علی! آپ کے ذریعہ لوگ ہدایت یاب ہوں گے“

مولف نے حضرت ابو بکرؓ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت علیؓ بھی وہاں موجود تھے۔ وضو کرنے کے بعد نبی کریمؐ نے حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا پھر فرمایا ”آپ متذیر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے روشنی کا مینار اور ہدایت کا نشان ہیں۔ آپ سب بستیوں کے امیر ہیں۔ شہادت دیتا ہوں کہ آپ یقیناً ایسے ہی ہیں“ (مجمع البیان، ج ۲، ص ۵)

قرآن کریم میں ارشاد ہے :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ -
(الشوریٰ - ۲۳)

کہہ دیجیے کہ میں اس پر آپ سے کچھ معلو
طلب نہیں کرتا سوائے اتنا اب سے محبت
کرنے کے۔

اس آیت کی تفسیر میں مولف نے اہل بیت سے احادیث نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے دوستی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ حضرت علیؓ وفاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان احادیث میں مولف نے ایک غریب روایت ”شواہد التنزیل القواعد التفصیل“ سے مرفوعاً حضرت ابو امامہ باصلیؓ سے نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف درختوں سے پیدا کیا۔ مجھے اور علیؓ کو ایک ہی درخت سے پیدا کیا گیا۔ چنانچہ میں اس درخت کی جڑ ہوں اور علیؓ شاخ ہیں۔ فاطمہ اس کا بیوند ہے اور حسن و حسین اس کے پھل ہیں۔ ہمارے اصحاب و رفقاء اس کے پتے ہیں۔ جو اس درخت کی کسی شاخ سے وابستہ ہو گیا اس نے نجات پائی۔ اور جو اس سے پھر گیا وہ گمراہ ہوا۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ تین ہزار سال تک صفا و مردہ کے درمیان عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ پرانی مشک کی طرح بوسیدہ اور فرسودہ ہو جائے۔ مگر ہم سے محبت نہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ناک کے بل سرنگوں کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ پھر آپ نے مذکورہ حدیث آیت تلاوت فرمائی“

(مجمع البیان، ج ۲، ص ۳۸۸)

خلاصہ کلام یہ کہ طبری کسی حد تک تشیع میں معتدل نظر آتا ہے اور اس میں وہ حد سے بڑھا ہوا غلو نہیں ہے جو ہمیں دیگر امامیہ اثنا عشریہ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کی تفسیر کے درس و مطالعہ سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ اس نے کسی صحابی کی نہ تو تکفیر کی ہے اور نہ ہی کسی پر ایسا طعن کیا ہے، جس سے اس کی عدالت مجروح ہوتی ہو۔

اسی طرح طبری نہ تو حضرت علی کو الوہیت کے مقام پر فائز کرتا ہے اور نہ ہی نبی و رسول ٹھہراتا ہے۔ اگرچہ وہ آپ کو معصوم قرار دیتا ہے۔ یہ بیانات اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ شخص حب علی کے سلسلہ میں متوسط درجہ کا ہے، یا اس سے کسی قدر زیادہ۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے اصول مذہب کا دفاع بڑی شدت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور جب کسی آیت کے بارے میں اپنے ہم مشرب مفسرین کے اقوال نقل کرتا ہے تو ان کو منظر استحسان دیکھتا ہے۔

بہ کیف یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ تفسیر مجمع البیان حسن ترتیب عمدہ اسلوب نگارش و دقت فکر و نظر اور زور در بیان کی جامع ہے۔ اگرچہ طبری شیعہ افکار و عقائد کے دفاع اور ان کی تائید و حمایت کے سلسلہ میں پوری شدت سے کام لیتا ہے تاہم وہ بڑی حد تک غلو و مبالغہ آرائی سے پاک ہے جو دیگر شیعہ کا طرہ امتیاز ہے۔ بلاشبہ وہ اس درجے کا متعصب شیعہ نہیں جیسے گاندوانی اور اس کے ہمنوا دیگر اثنا عشری علماء ہیں۔

۴۔ الصّاقی فی تفسیر قرآن الکریم از ملا محسن کاشی

تعارف مفسر:

تفسیر طہذا کے مولف کا نام محمد بن شاہ مرتضیٰ بن شاہ محمود المعروف ملا محسن ہے۔ آپ کو فیض کاشی بھی کہا جاتا ہے۔ صاحب روایات الجنات آپ کے تعارف میں لکھتے ہیں :
ملا محسن کاشی علم و فضل مہارت فروع و اصول و معقول و منقول کثرت تصنیف و تالیف و حسن تعبیر و ترتیب کے اعتبار سے شیعہ کے فرقہ میں عدیم النضیر ہیں ان کی تصانیف کثیرہ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی عمر نوے سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ سلمہ کے تھوڑا عرصہ بعد فوت ہوئے۔

ان کے والد مرتضیٰ ان کے بھائی محمد المعروف نور الدین اور دوسرے بھائی مولیٰ عبدالغفور جید عالم تھے الغرض آپ کا خاندان علم و فضل میں معروف چلا آتا تھا ملا محسن تبحر علمی کے اس درجہ پر فائز تھے کہ شیعہ فرقہ میں ان کا کوئی ہمسر نظر نہیں آتا۔ شیخ علی مشمدی عالمی نے تحریر الفناء سے متعلق اپنے ایک رسالہ میں اس کے اقوال فاسدہ اور انکار باطلہ کا ذکر کیا ہے جن سے کفر کی بو آتی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کے بنیادی حقائق کا منکر ہے جن کی کوئی دلیل نہیں کی جاسکتی۔ اس کے نظریات اہل سنت اور شیعہ دونوں کے اصول و فروع سے متصادم ہیں۔

اس کے چند نظریات یہ ہیں :-

- (۱) وہ وحدۃ الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے۔
- (۲) کفار کو ابدی جہنمی قرار نہیں دیتا۔

۳۔ اکابر شیعہ محمد بن نجات یافتہ نہیں ہیں۔

۴۔ وہ محسن اشیاء کی نجاست کا قائل نہیں۔

خلاصہ یہ کہ ملاحسن کاشی شیخ علی شمدی عالمی کی بالکل قید تھے۔ اکثر معاصرین جو ملاحسن کاشی کے خلاف تھے۔ ان میں سے فاضل محدث موئی محمد طاہر قرہ صاحبکتاب حجۃ الاسلام کا نام قابل ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موصوف نے عمر کے آخری دور میں ملاحسن کی مذمت کرنے سے رجوع کر لیا تھا تو یہ اپنے شہر قم سے کاشان پایادہ چل کر گئے۔ اور دروازہ پردنگ و سے کر کہا کہ اے محسن گنگار آپ کے دروازہ پر حاضر ہے۔ ملاحسن گھر سے نکل کر نبل گیر ہوئے محدطاً اکر اسی وقت اپنے شہر کو واپس چلے گئے۔ اور کہا کہ میں نے کس نفسی اور بارگاہ ایزدی سے لپنے گناہ کی معافی طلب کرنے کے لیے یہ سفر اختیار کیا ہے۔

یہ بھی منقول ہے کہ بعض علماء نے جو ملاحسن کاشی کے مخالفین میں سے تھے ان کی وفات کے بعد اس رجوع کر لیا تھا۔ انہی میں سے ایک عالم نے ملاحسن کو خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا۔ ملاحسن نے خواب میں کہا کہ میں نے اپنی عمر کے آخری دور میں اپنے مخالف باطلہ سے توبہ کر لی تھی میری تحریر ظالم جگہ موجود ہے وہاں جا کر ملاحظہ کیجیے۔ جب بیدار ہو کر وہاں دیکھا تو اسی طرح پایا۔ اس تحریر میں ملاحسن نے تمام انکار باطلہ سے رجوع کیا تھا۔

مشہور کتاب "امل الال" کے مصنف رقم طراز ہیں :-

"محمد بن قاضی المعروف ملاحسن کاشی بہت بڑے عالم فاضل حکیم متکلم محدث نقیہ شاعر ادیب اور عظیم مصنف تھے۔ ان کی تصانیف میں سے ایک کتاب اللطانی بھی ہے۔ جس میں چاروں کتب حدیث کو جمع کر کے اس میں مندرج احادیث کی شرح کی ہے۔ مگلاس کتاب میں ان کا میلان درجمان نفوتوں کی جانب رہا ہے۔ آپ کی ایک کتاب "سفینۃ النجات فی طریقہ العمل" ہے۔ آپ نے تین تفاسیر یعنی کبیر متوسط اور صغیر مرتب کی تھیں۔ آپ کی تصانیف میں عین الیقین" کتاب علم الیقین اور کتاب حق الیقین کے اسماء قابل ذکر ہیں ؟

معروف کتاب لؤلؤة البحرین کے مصنف ملاحسن کاشی کے ترجمہ میں لکھتے ہیں :-

”ملا محسن بہت بڑے فاضل مورخ اور محدث تھے۔ اہل تشیعہ مجتہدین کے ہاں
 میں زبان طعن دراز کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب ”سفینۃ النجات“
 میں ہی طرز عمل اختیار کیا۔ کتاب مذکور سے مستفاد ہوتا ہے کہ انہوں نے بعض
 شیعہ علماء کی تکفیر بھی کی ہے۔ وہ بعض ایسے نظریات پر یقین رکھتے تھے، جو
 موجبات کفر میں سے ہیں اور فاضل صوفیہ اور فلاسفہ کے سوا کوئی ان کا قائل نہیں
 وہ وحدت الوجود کے عقیدہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں میں نے ملا کاشی کا ایک سالہ
 دیکھا تھا، جس میں اس نے ابن عربی جیسے زمینیق کے عقائد کی پیروی کی ہے
 اس رسالہ میں وہ اکثر ابن عربی کے نظریات ذکر کرتا ہے۔ مگر نام لینے کے بجائے
 ”بعض العارفین“ کہتا ہے، ملا کاشی حدیث میں سید ماجد بحرانی کے تلمیذ
 تھے۔ حکمت و اصول میں اپنے خسر صدر الدین محمد بن ابراہیم شیرازی سے
 استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ملا کاشی نے علم الاصول پر جو کتب لکھی ہیں ان میں وہ
 صوفیہ اور فلاسفہ کی راہ پر گام زن رہے ہیں۔ چونکہ ان دنوں دیار حرم میں تصوف
 کا بڑا چرچا تھا اور اکثر لوگوں کا میلان اس کی جانب تھا۔ اس لیے ان دنوں
 ملا محسن کو بڑی عزت و وقعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور اس دور میں
 وہ اپنے اقران و امثال پر سبقت لے گئے تھے۔ بعد ازاں جب علامہ مجلسی
 کا زمانہ آیا تو انہوں نے ان نظریاتِ فاسدہ کا ابطال کیا۔

ملا محسن کاشی نے بہت سی کتب تصنیف کی تھیں جن کی ایک جگہ
 طویل فہرست ہے۔ ان میں سے ”کتاب الصافی فی تفسیر القرآن“ بہت مشہور
 ہے۔ یہ کتاب قریباً ستر ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کی تالیف سلاطین
 ۵۰۰ھ میں فارغ ہوئی۔ پھر اس سے اختصار کر کے ”کتاب الاصفی“ تالیف
 کی جو اکیس ہزار اشعار کو سموئے ہوئے ہے

سید نعمت اللہ البحر آری التستری فرماتے ہیں :-

”ہمارے استاد محترم ملا محمد محسن کاشی قریباً دو صد کتب کے مصنف تھے۔ آپ

قلم کے شرمین پر دان چڑھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ سید ماجد بحرانی شیراز تشریف لائے ہیں تو استفادہ کی خاطر وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ اور اس ضمن میں استخارہ کیا تو ان کی خدمت میں حاضری دینے کا اشارہ ہوا۔

یہ ہے مولف کا مختصر تعارف جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیخہ علماء کے درمیان ایک امتیازی مقام رکھتے تھے۔ اس ضمن میں سب علماء متفق ہیں کہ وہ فاسد نظریات رکھتے تھے۔ اگرچہ روضات الجنات کا مصنف آپ کو اس الزام سے بری قرار دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے:-

”یہ آپ کی ذات پر ایک بے دلیل بہتان ہے۔ میں نے آپ کی تفسیر ملاحظہ کی ہے۔ اس میں مجھے وحدۃ الوجود کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ اور نہ ہی یہ کہ وہ کفار کو ابدی جہنمی قرار نہیں دیتے۔ میرے علم کی حد تک ان کی تفسیر تصوف و فلسفہ کی آمیزش سے پاک ہے۔ ممکن ہے کہ یہ تفسیر ان کی آخری تصانیف میں سے ہو جب آپ اپنے فاسد نظریات سے رجوع کر چکے تھے“ (روضات الجنات، ص ۵۴۲)

تعارف تفسیر:

تفسیر زیر تبصرہ میں مولف نے اثنا عشری عقائد و افکار کی روشنی میں قرآن حکیم کی شرح و توضیح کی ہے۔ یہ تفسیر دو ضخیم جلدات پر مشتمل ہے۔ اس میں قرآنی آیات کی شرح انتہائی مختصر انداز میں کی گئی ہے۔ صرف وہاں طوالت سے کام لیا ہے جہاں کسی آیت سے بظاہر کسی اثنا عشری عقیدہ کی تائید ہوتی ہو۔ یا مخالفین کے افکار و عقائد کا ابطال ہوتا ہو۔ مولف جہاں کسی قرآنی قصہ واقعہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے کسی غزوہ کی تفصیلات بیان کرتے ہیں تو وہاں خوب کھل کر گفتگو کرتے ہیں۔

مولف تفسیر قرآن کے سلسلہ میں اولین و اساسی اعتماد ائمہ و علمائے اہل بیت سے منقول تفسیری اقوال پر کرتا ہے۔ اس ضمن میں عام اثنا عشری مفسرین کا طرز و انداز ہی ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت قرآن کریم کے اسرار و معانی کے سب سے بڑے رازدان تھے۔ یہ کتاب اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ مولف اکثر شیخہ ہے، اور اس کا غلو و تعصب کسی سے ڈھکا چھٹا ہوا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ پوری قوت سے شیعہ افکار و عقائد کا دفاع کرتا ہے۔ اصحاب رسول کو

مدتِ تقدیر بنام اور ان کو کفر و نفاق سے متم کرتا ہے۔ ان امور پر آگے چل کر روشنی ڈال جائے گی۔
 ملا محسن کاشفی نے تفسیر کے مقدمہ میں بارہ موضوعات پر روشنی ڈالی ہے۔ ہم ان میں سے
 اہم امور کا تذکرہ کریں گے۔ پھر تفسیر کے مسلک و منہاج اور اسلوب و انداز پر بحث کی جائے گی
 ہم اس سلسلہ میں کتاب سے اشد نقل کر کے اس حقیقت کو واضح کریں گے کہ مولف نے کس حد
 تک شعبی انکار و معتقدات کی تائید و حمایت کی ہے۔

مولف نے تفسیر کے مقدمہ میں مندرجہ ذیل اہم امور پر بحث و تجھس کی ہے۔

اہل بیت ہی ترجمان القرآن ہیں:

مولف کی رائے یہ ہے کہ اہل بیت ہی قرآن حکیم کے مفسر و ترجمان تھے۔ وہی علوم قرآن کے
 حامل اور وحی الہی کے رازدان تھے۔ وہی اس کے اسرار و رموز سے آگاہ و آشنا تھے اس
 لیے کہ قرآن خاندان نبوت ہی میں نازل ہوا اور گھر والا ہی جانتا ہے کہ گھر میں کیا کچھ رکھا ہے۔
 مولف تنہا یہ عقیدہ نہیں رکھتا بلکہ یہ تشیع کی اجتماعی رائے ہے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ غالی ہوں
 یا اعتدال پسند۔

مولف مقدمہ میں لکھتا ہے :-

”اہل بیت ہی قرآن کریم کے مفسر و ترجمان اور اس کے ذائق و حقائق کے امین تھے
 وہی اس کی مشکلات کو حل کرنے والے اور قرآنی نکات و اسرار کا بجز غار تھے۔ قرآنی
 رموز و نکات کی حقدہ کشائی وہی کر سکتا ہے جس کے سینہ کو اللہ تعالیٰ نے کھول
 دیا اور جس کو قرآن کریم میں ”مشکوٰۃ و مصباح“ (تذیل اور چراغ) سے تشبیہ
 دی ہے۔ اہل بیت سے زیادہ تنزیل و تادیل کا محرم اور کون ہو سکتا ہے جبکہ
 ان کے گھر میں جبریل اتر کرتے تھے۔ قرآن اہل بیت کے گھر میں اتر اور وہی
 اس کے اصلی مخاطب ہیں اس لیے ان کو چھوڑ کر انسان تادیل و تفسیر کے سلسلہ
 میں اور کس کی طرف رجوع کر سکتا ہے؟“ (جلد اول، ص ۲)

آگے چل کر مولف اس کی تائید میں اہل بیت سے احادیث نقل کرتا ہے۔ ان احادیث
 کے الفاظ ہی پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ حضرات کی ساختہ پرواختہ ہیں۔ چنانچہ مولف نے

بروایت سلیم بن قیس ہلالی نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ مجھے لکھوادیتے اور اس کی تفسیر و تاویل سے آگاہ فرماتے۔ نیز یہ کہ یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ حکم یا متشابہ۔ پھر دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے فہم و ادراک سے بہرہ ور فرمائے۔ آپ کی دعا کے بعد مجھے نہ تو کوئی آیت بھولی اور نہ ہی وہ علم فراموش ہوا جو آپ نے مجھے سکھایا تھا۔

خداوند کریم نے آنحضرت کو حلال و حرام امر و نہی اور طاعت و معصیت سے متعلق جو علم بھی عطا فرمایا تھا وہ آپ نے مجھے سکھادیا۔ چنانچہ میں نے وہ حفظ کر لیا اور ایک لفظ بھی نہ بھولا۔ پھر آپ نے دست مبارک میرے سینہ پر رکھا اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو علم و حکمت سے بھر دے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! جب سے آپ نے میرے لیے دعا فرمائی ہے کہ مجھے ایک حرف بھی نہیں بھولا۔ کیا اس کے بعد نسیان کا عارضہ لاحق ہونے کا اندیشہ تو نہیں؟ فرمایا ”اس کے بعد نسیان اور لاعلمی کا خطرہ ہرگز دامن گیر نہیں“

اسی طرح مولف نے متعدد احادیث نقل کی ہیں جو موضوع اور بے اصل ہیں۔ خوفِ طواغیت سے ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔

تفسیر بالرائی کا مجاز کون ہے؟

مندرجہ صدد بیان کے پیش نظر یہ سوال لورج ذہن پر ابھرتا ہے کہ آیا لاشی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معانی و اسرار کو اہل بیت تک محدود کر دیا جائے؟ یا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے فہم و ادراک قدر مشترک کے طور پر سب علماء کو حاصل ہے اور اس میں اہل بیت کی کوئی تخصیص نہیں؟

حق بات یہ ہے کہ ملاک لاشی کے نزدیک قرآن کریم کے مطالب و معانی کا میدان سب علماء کے لیے کھلا ہے۔ اور وہ اس میں جو لائق عقل و فکر کا جوہر دکھا سکتے ہیں۔ البتہ جہاں تک قرآنی علوم میں عقل و فکر سے کام لے کر احکام کے استنباط کرنے کا تعلق ہے مولف اس کو چند حدود اور شرائط کا پابند کرتا ہے جو خالص شیعہ نقطہ نگاہ کی پیداوار ہیں مولف رقم طراز ہے :-

”اس ضمن میں صحیح مسلک یہ ہے کہ جو شخص اللہ و رسول اور اہل بیت کا اطاعت کیش ہو۔ ان کے علم کا خوشہ چین اور ان کے نقش قدم پر گام زن ہو۔ ان کے اسرار کا محرم ہو۔ علم میں راسخ اور قلبی سکون و اطمینان سے بہرہ ور ہو۔ اس کے دل کی آنکھیں کھلی اور اس کا قلب و ذہن یقین سے سرشار ہو۔ ایسا شخص قرآنی عجائب و غرائب سے مستفید ہو سکتا ہے۔ خداوند کریم کے فضل و عنایت سے یہ کچھ بعینہیں سعادت کسی قوم کا خاتمہ نہیں۔ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چند صحابہ کو جو ان صفات سے متصف تھے اپنے خاندان میں سے شمار کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ”مسلمان ہم میں سے ہیں“ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ راسخ فی العلم اور قرآنی حقائق کے مازدان ہیں“ (تفسیر زیر تبصرہ ج ۱- ص ۱۰)

اہل بیت کی تفسیر ہی معیاری و مثالی ہے :

تفسیر قرآن کے سلسلہ میں چونکہ مولف اہل بیت کے تفسیری اقوال پر اعتماد کرتا اور اس بات کا متقدّم ہے کہ وہ فہم قرآن میں دوسروں پر سبقت لے گئے تھے۔ اس لیے وہ کسی حد تک رسمی عجز و انکسار کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی تفسیر مثالی حیثیت رکھتی ہے اور باب تفسیر میں اس کی پیروی کی جانی چاہیے۔ اس کے نزدیک علمائے سلف کی تفسیری مساعی ناقابل اعتناء ہیں بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر وہ مفسرین صحابہ پر زبان طعن دراز کرتا اور ان کو نفاق سے متهم کرتا ہے۔ بنا بریں وہ صحابہ کی تفسیر کو منظر استحسان نہیں دیکھتا۔ اس کا خیال ہے کہ اہل بیت اور ان کے احباب و انصار کو چھوڑ کر باقی سب صحابہ کی عقل یا نبھ ہو چکی تھی اور وہ گمراہی کی راہ پر گامزن ہو گئے تھے۔

مولف یہ باتیں ڈنکے کی چوڑ پر کھتا اور اصحاب رسول کو مایں طور پر طعن و تشنیع کی آماجگاہ قرار دیتا ہے۔۔

”برادران اسلام! یہ ہے وہ تفسیر جس کا آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا۔ یہ ائمہ معصومین سے منقول ہے۔ یہ تفسیر میں نے کم سواد ہونے کے باوجود اپنی استقامت کی حد تک مرتب کی ہے کیونکہ جو شخص مامور ہوتا ہے وہ اس کام کو انجام دینے کے سلسلہ میں معذور ہوتا ہے۔“

میں اس کو اپنے لیے ایک ضروری کام تصور کرنا تھا۔
 اگرچہ مفسرین نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں بڑا کام کیا ہے۔ مگر کسی نے بھی اس ضمن میں مل
 گفتگو نہیں کی۔ قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ حکم و متشابہ خاص و عام فرائض و احکام اخلاق و آداب
 حلال و حرام ظاہر و باطن سبھی قسم کی آیات ہیں مگر لوگ ان سے واقف نہیں۔ ان امور سے ہی شخص
 آگاہ و آستانا ہو سکتا ہے جس کے گھر میں قرآن اُترا ہو اور وہ نبی کریم اور آپ کے آپ اہل بیت
 ہیں۔

نظر میں جو بات اہل بیت کے گھر سے نہ نکلی ہو قابل اعتماد نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ”جس شخص نے قرآن کی تفسیر اپنی لائے سے بیان کی اس نے حق بھی کتاب بھی غلطی کی“
 اہل بیت سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں احادیث کثیرہ منقول ہیں۔ مگر وہ سائیلین و مخاطبین کے
 سوال اور ان کی عقل و فہم کے مطابق ارشاد فرمائی گئی ہیں دشمنوں کے خوف کی بنا پر بعض اذفات
 تفتیہ سے کام لیا گیا۔ اس لیے تفسیر قرآن کے بعض گوشے تاریک رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس
 قسم کے بے شمار تفسیری اقوال ہم تک نہ پہنچ سکے۔

بات یہ تھی کہ جب صحابہ میں تنازعات پیا ہوئے اور ان کی وجہ سے عام لوگ گمراہ ہو گئے۔
 تو لوگوں نے کتاب و سنت سے منہ موڑ لیا اور فخر ضلالت میں ڈوب گئے۔ صرف چند اہل ایمان
 محفوظ رہے۔ چند سالوں تک لوگوں کی یہی حالت رہی۔ اس دوران حالین کتاب اس کو چھوڑنے
 پر مجبور ہو گئے۔ وہ لوگوں کے اندر ہوتے ہوئے بھی اس طرح جیسے ان میں موجود نہیں۔ اس
 لیے کہ ضلالت ہدایت سے ہم آہنگ نہیں ہوتی۔ اگرچہ وہ دونوں بیک وقت موجود ہی کیوں
 نہ ہوں۔

اس دور میں علم کمزور (پوشیدہ) اور اہل علم مظلوم تھے۔ حکم اظہار ان کے لیے ممکن
 نہ تھا۔ اس کے بعد ایسے ناخلف منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئے جو قرآنی حقائق سے بے بہرہ تھے
 انہوں نے علماء سمجھ کر ایک گردہ کی جانب رجوع کیا جو اپنی من مرضی سے قرآن کی تفسیر کرتے اور
 ان لوگوں سے تفسیری اقوال نقل کرتے جو ان کے نزدیک اکابر میں شامل تھے۔ مثلاً ابو ہریرہ، انس
 ابن عمر (رضی اللہ عنہم) اور ان کے نظائر و امثال۔

یہ لوگ امیر المؤمنین علی کو اپنے میں سے ایک اور اپنے ہی جیسا خیال کرتے تھے۔ حضرت علی کے بعد جس کے قول پر یہ لوگ اعتماد کرتے تھے وہ عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ ابن عباس تھے۔ حالانکہ یہ لوگ نہ قابل اعتماد تھے اور نہ ہی حق و صداقت کے ساتھ ان کا کچھ علاقہ تھا۔ یہ نام نہاد اکابر بعض اوقات تہجیر سے ڈرے بغیر قرآن کی تفسیر بالرائی انجام دیتے۔ بعض اوقات اپنے اقوال کو رسول کریم اور اہل بیت کی جانب منسوب کرتے۔ اور ان سے اخذ و استفادہ کرنے والے لوگ حقیقت حال سے بے خبر ہوتے۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ سب صحابہ مدلول ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان میں سے اکثر منافق تھے۔ اور اللہ و رسول پر اتر پڑا دازی کرتے تھے!

(تفسیر زیر تبصرہ، ج ۱- ص ۲)

قرآن کریم اہل بیت کی شان میں آتما:

مولف کا عقیدہ ہے کہ قرآن کا اکثر حصہ اہل بیت کی مدح و توصیف میں آتما۔ جو آیت مدح و ستائش پر مشتمل ہیں وہ اہل بیت اور ان کے اعموان و احباب سے متعلق ہیں اور جو آیات مذمت یا وعید و تہدید کی جامع ہیں وہ اہل بیت کے مخالفین اور اعداء کے بارے میں ہیں۔ پھر اس کی تائید و حمایت میں اہل بیت سے منقول روایات ذکر کرتا ہے۔ مثلاً یہ روایت کہ ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم چار حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ ہم سے متعلق ہے اور دوسرا ہمارے اعداء کے بارے میں تیسرا حصہ آداب پر مشتمل ہے اور چوتھا فرائض و احکام پر۔

مولف لکھتا ہے:

”قرآن حکیم کی تفسیر کے سلسلہ میں اہل بیت سے بے شمار روایات منقول ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے اکثر صحاب نے تفسیر قرآن سے متعلق کتب مرتب کی ہیں جو صرف اہل بیت کے تفسیری اقوال کی جامع ہیں۔ میں نے اس قسم کی ایک کتاب دیکھی تھی جو میں ہزار اشعار پر مشتمل تھی۔ مثلاً یہ روایت جو الکافی نے ابو جعفر علیہ السلام سے آیت کریمہ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (الشراء) کی تفسیر کے سلسلہ میں نقل کی ہے کہ اس سے حضرت علی کی خلافت و ولایت مراد ہے۔“

(تفسیر زیر تبصرہ، ج ۱- ص ۶)

تحریف القرآن :

علامن کاشی کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم سب سے پہلے حضرت علی نے جمع کیا تھا۔ آپ نے ہونسخہ جمع کیا وہی کامل قرآن ہے جو ہر قسم کی تحریف و تبدیل سے پاک ہے۔ اس کی تائید میں مولف اہل بیت سے منقول روایات ذکر کرتا ہے۔ مثلاً وہ روایت جو اعلیٰ نے اپنی تفسیر میں بسند خود ابو عبد اللہ علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ نبی کریمؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا۔ اے علی! میرے بستر کے چھپے قرآن کریم کے اجزاء کا غذا اور دشمنی کپڑے پر لکھے ہوئے ہیں ان کو لے کر جمع کرو اور اس طرح ضائع نہ ہونے دو جس طرح یہود نے تورات کو ضائع کر دیا تھا۔ حضرت علیؑ گئے اور ان اجزاء کو زرد رنگ کے کپڑے میں بچھا کر لیا۔ پھر گھر میں لاکر سر بہر کر دیا اور کہا جب تک ان کو جمع نہ کروں گا۔ میں اپنی چادر نہیں اوڑھوں گا۔ رادی کا بیان ہے کہ کوئی ملاقا تاقی حضرت علیؑ سے ملنے کے لیے آتا تو چادر اوڑھے بغیر اسے ملنے جاتے۔ یہاں تک کہ سارا قرآن جمع کر لیا۔

اس ضمن میں ایک روایت حضرت ابو ذر غفاریؓ سے منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور حضرت علیؑ نے آنحضرتؐ کی وصیت کے مطابق قرآن کریم جمع کر لیا تو اُسے مہاجرین و انصار کو دکھایا۔ جب ابو بکر نے اسے کھولا تو پہلے ہی صفحہ پر صحابہ کے نقائص و معائب لکھے ہوئے پاٹے۔ عمرؓ یہ دیکھ کر اچھل پڑے اور کہا علیؑ اسے واپس کر دو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ علیؑ اس کو لے کر لوٹ گئے۔ اندریں انا زید بن ثابتؓ آٹھے تو عمرؓ نے انہیں بتایا کہ علیؑ قرآن کریم کا ایک نسخہ لے کر آٹھے تھے۔ اور اس میں مہاجرین و انصار کے معائب مذکور تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ قرآن جمع کریں اور وہ اس میں سے حذف کریں۔ زید بن ثابتؓ نے یہ بات تسلیم کر لی اور کہا اگر میں نے آپ کے حسب خواہش قرآن جمع کر دیا اور علیؑ نے اپنا جمع کردہ قرآن لوگوں کو دکھایا تو ہماری سب کاوشیں بے کار نہیں ہو جائیں گی ؟

یہ سن کر عمرؓ نے کہا ”پھر اس کا حل کیا ہے؟ زید کہنے لگے ”یہ تو آپ ہی بتائیں گے۔“ عمرؓ نے کہا۔ اس کے سوا کیا علاج کہ ہم علیؑ کو قتل کر کے اس قرآن سے نجات پائیں۔ چنانچہ عمرؓ نے خالد بن ولید کو یہ کام سپرد کیا مگر وہ بھی ایسا نہ کر سکا۔ جب عمرؓ عقیقہ قرار پائے تو علیؑ سے قرآن کا وہ نسخہ لانے کے لیے کہا۔ عمر اس کو ذرا آتش کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علیؑ سے کہا ”ابو الحسن! آپ ابو بکر کے پاس

بھی تو قرآن کا وہ نسخہ لائے ہی تھے میرے پاس بھی لے آئیے تاکہ ہم اس پر متفق ہو جائیں، علی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن میں نے ابوبکر کو اس لیے دکھایا تھا کہ تم پر رحمت قائم ہو جائے اور تم روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس قرآن کا پتہ ہی نہیں یا تم یوں کہو کہ یہ قرآن ہمارے پاس لایا ہی نہیں گیا۔ حضرت علی نے کہا اس قرآن کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک باز ہیں اور میری اولاد میں سے جو اوصیاء ہیں، عمر نے کہا کیا اس قرآن کے اظہار کا وقت متعین ہے؟ علی نے کہا ہاں جب میری اولاد میں سے امام منقرض آئے گا تو وہ لوگوں کو اس قرآن پر جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔

(تفسیر زیر تبصرہ، ج ۱- ص ۱۰)

مگر مذکورہ صدر احادیث نقل کرنے کے بعد موقف ایک سوال اٹھاتا اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن میں تحریف کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس لیے کہ ہر آیت کے بارے میں یہ احتمال ہو گا کہ وہ محرف ہو اور خدا کی نازل کردہ نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ قرآن حجت نہ ٹھہرے گا۔ پھر اس کا اتباع اور اس کے ساتھ ترک کیوں کر ممکن ہے؟ مزید برآں قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ:-

إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ
 مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

یہ غالب کتاب ہے، باطل نہ اس کے آگے
 کی طرف سے اس میں گھس سکتا ہے اور
 نہ پیچھے سے۔

(سودہ نفلت - ۴۱-۴۲)

دوسری جگہ فرمایا:-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
 لَنَاطِقُونَ ۝ (الجم - ۹)

ہم نے ہی اس قرآن کا اتارا اور ہم ہی اس
 کے نگران ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ حفاظتِ خداوندی کی صورت میں قرآن میں تحریف کیسے ممکن ہے؟
 ملاحظہ فرمائیے کہ مذکورہ سوال کے دو جواب دیے ہیں:-

(۱) اگر تحریف قرآن کے سلسلہ میں وارد شدہ احادیث صحیح ہیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ تحریف ایسی معمولی باتوں میں ہوئی ہے جس سے مقصود میں کچھ خلل نہیں آتا۔ مثلاً یہ کہ حضرت علی اور آل محمد کا نام حذف کر دیا یا منافقین کے نام جو قرآن میں مذکور تھے ان کو باقی نہ رہنے دیا۔

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ جن الفاظ کو حذف کیا گیا ہے وہ اصل قرآنی الفاظ نہ تھے بلکہ ان کی حیثیت شرح و تفسیر کی تھی اس لیے قرآن میں معنوی تحریف ہوئی ہے لفظی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معانی و مطالب کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔“

(تفسیر زبیر تبصرہ، ج ۱- ص ۱۰)

یہ ہیں وہ انکار و مسائل جن پر ملاحسن نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں اظہار خیال کیا ہے۔ یہ بیانات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ یہ تفسیر غلو و مبالغہ کی آخری حد تک شیعہ نقطہ نظر کی بنیاد کرتی ہے۔ مولف اس بات کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ قرآنی آیات کو شیعہ نظریات کے سانچہ میں ڈھالے یا اپنے مخالفین و خصوم کے مذہب و مسلک کا ابطال کرے۔ چنانچہ مولف اس کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اس تفسیر کا تاریخی تاثر ایسے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کتاب میں ناپسندیدگی کی آخری سرحد تک تعصب سے کام لیا گیا ہے۔ اب اس عریاں تعصب کے چند نمونے تاریخی کریم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔

قرآن اور اہل بیت :

قرآن کریم کی لاتعداد آیات ایسی ہیں جن کا اہل بیت اور ان کے مناقب و شمائل کیساتھ کچھ تعلق نہیں۔ مگر مولف مذہبی تعصب کی بنا پر آیات کو ٹوڑ مروڑ کر اہل بیت کے اوصاف و محامد پر محمول کرتا ہے۔ مثلاً

قرآن کریم میں فرمایا:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا

اور جب ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔

الرَّادَّة - (البقرہ - ۳۴)

اس آیت کی تفسیر میں مولف لکھتا ہے :

”حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ یہ ہے ان کا پشت میں نبی کریم اور اہل بیت کے انوار تھے ان کو ملائکہ کے مقابلہ میں اس لیے فضیلت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اہل بیت خدا کی راہ میں مصائب و آلام سے دوچار ہوں گے۔ اس لیے یہ سجدہ اہل بیت کے لیے تعظیماً اللہ تعالیٰ کے لیے عبودیت اور حضرت آدم کے لیے طاعت تھا۔ علی بن حسین حضرت حسین سے وہ حضرت علی سے اور

وہ نبی کریمؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو! خداوند تعالیٰ نے ہمارے انوار کو عرش سے حضرت آدمؑ کی پشت کی طرف منتقل کر دیا۔ جب آدم نے اپنی پشت سے نور بلند ہوتا دیکھا اور ہماری صورتوں کو نہ دیکھ سکے تو عرش کی اے رب! یہ انوار کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اہل بیت کی صورتوں کے انوار ہیں جن کو میں نے عرش سے تیری پشت کی طرف منتقل کیا ہے۔

میں نے فرشتوں کو اسی لیے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ یہ انوار تمہاری پشت میں تھے حضرت آدم نے کہا اے اللہ آپ نے پہلے کیوں نہ بتایا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم! ذرا عرش کے کنارے کی طرف دیکھو۔ آدم نے عرش کی طرف دیکھا تو ہمارے انوار کا عکس عرش پر منعکس ہو گیا۔ جس طرح شیشہ میں انسان کی صورت دکھائی دیتی ہے۔ یہ عکس دیکھ کر آدم بولے اے اللہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم! یہ تمام مخلوقات سے افضل مخلوق کا عکس ہے یہ محمدؐ ہیں، میں محمود ہوں اور میں نے ان کا نام اپنے نام سے اخذ کیا ہے۔

دوسرے علیؑ ہیں۔ میرا نام بھی علیؑ ہے۔ ان کا نام میرے ہی نام سے مشتق ہے۔ یہ فاطمہؑ ہیں۔ میں آسمان وزمین کا فاطر پیدا کنندہ، ہوں۔ اور انا فاطمہ اُحد آئی۔ یعنی میں اپنے دشمنوں کو روز قیامت اپنی رحمت سے مجھ کرنے والا ہوں۔ یہ حسنؑ و حسینؑ ہیں اور میں ”مُحَسِّنٌ“ دحسن سلوک کرنے والا، ہوں۔ ان کا نام بھی میں نے اپنے نام سے نکالا۔ یہ میرے بہترین خلیفہ اور افضل ترین مخلوق ہیں۔ میں انہی کی وجہ سے لیتا دیتا اور انہی کے سبب صلہ اور سزا دیتا ہوں۔ لے آدم ان کا وسیلہ بکڑیے۔ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو میرے سامنے ان کی سفارش پیش کرو۔ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ان کا نام لینے والوں کو محروم نہیں کروں گا۔ جب حضرت آدم سے غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے اہل بیت کے وسیلہ سے بارگاہ ایزدی میں دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور ان کو معاف کر دیا۔“

(تفسیر زیر تبصرہ، ج ۱ ص ۲۹)

صحابہ پر نقد و طعن :

ہم دیکھتے ہیں کہ مولف حضرت ابو بکر و عمر و عثمان اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

کو ملعون کرتا اور ان پر ایسے اتہامات باندھتا ہے جو کسی مومن کے بھی لائق نہیں۔ چہ جائے کہ ان کی نسبت ایسے صحابہ کی جانب کی جائے جنہوں نے آنحضرت کی رفاقت میں جہاد کیا اور اپنا مال اور اپنا خون خدا کی راہ میں قربان کیا۔ وہ بنو امیہ کو ہر قسم کے تعاقب و عیوب کی آماجگاہ ٹھہرا تا ہے اس بغض و عناد کا محرک صرف اس کا مبالغہ آمیزی کی حد تک بڑھا ہوا تشیع ہے اور بس۔

حضرت عثمانؓ پر طعن :

سورہ بقرہ کی آیت ۸۲ - ۸۵ کی تفسیر کرتے ہیں موقت نے القمی سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ابوذر غفاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب حضرت عثمان نے ابوذر غفاری کو مقام ربذہ کی جانب جلا وطن کرنے کا حکم دیا تو ابوذر ان کے یہاں آئے۔ اس وقت وہ بیمار تھے اور لاشی کے سہارا چل کر حضرت عثمان کے پاس پہنچے تھے۔ اس وقت حضرت عثمان کے سامنے ایک لاکھ درہم پڑے تھے۔ جو کہیں باہر سے آئے تھے۔ کچھ لوگ حضرت عثمان کے پاس اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ درہم ان میں بانٹ دیں گے۔

حضرت ابوذر نے حضرت عثمان کو مخاطب کر کے کہا "کیا چار دینا زیادہ ہوتے ہیں یا ایک لاکھ درہم؟ عثمان نے جواب دیا "ایک لاکھ درہم زیادہ ہوتے ہیں" ابوذر کہنے لگا شاید آپ کو یاد ہو کہ میں اور آپ بارگاہ نبوت میں عشاء کے وقت حاضر ہوئے تھے۔ رسول کریمؐ نہایت غم زدہ بیٹھے تھے ہم نے سلام کہا مگر آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ہم دوبارہ صبح کو حاضر ہوئے تو آپ کو سردرد شادمان پایا۔ میں نے عرض کی آپ کل رات نہایت مغموم تھے مگر آج خوش و خرم ہیں۔ فرمایا "ہاں میرے پاس مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے چار دینا بیچ کر ہے تھے۔ مجھے ظہر لاتی تھا کہ ایسا نہ ہو میں فوت ہو جاؤں اور میرے پاس پڑے رہیں۔ آج وہ تقسیم کر دیے اور راحت پائی۔"

حضرت عثمان نے کعب الاحبار کی جانب دیکھ کر کہا "آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شخص اپنے مال کی نکلوتہ ادا کر دے۔ تو کیا اس کے ذمہ کچھ اور چیز بھی واجب ہے؟ کعب الاحبار نے کہا "اگر کسی شخص کے پاس فرضی نکلوتہ ادا کرنے کے بعد سونے اور چاندی کی انگلیں بھی ہوں تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔ یہ سن کر ابوذر نے اپنی لاشی اٹھائی اور کعب الاحبار کے سر پر دس ماریں۔ پھر کہنے لگے "اے یہودی اور مشرک عورت کے بیٹے تجھے اسلامی احکام سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ کا نون

تیرے قول سے زیادہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَالَّذِينَ يَكُونُونَ الذَّهَبَ وَ
الْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ -
جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ان
کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں عذاب
عذاب کی بشارت سنا دوں۔

(التوبہ - آیت ۳۴)

حضرت عثمان کہنے لگے "الوزر! آپ بڑھے کھوسٹ جو گئے ہیں اور آپ کی عقل جاتی رہا ہے
اگر آپ رسول کریم کے صحابی نہ ہوتے تو میں آپ کو قتل کر دیتا۔" الوزر نے کہا "عثمان! آپ جھوٹ بولتے
ہیں۔ مجھے میرے حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوزر! لوگ نہ تو آپ کو قتل کر سکیں گے اور
نہ قتل میں ڈال سکیں گے۔ جہاں تک میری عقل کا تعلق ہے مجھ میں اتنا فہم و شعور باقی ہے جس کی بنا پر
مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے جو آپ نے تمہارے اور تمہاری قوم کے بارے میں
ارشاد فرمائی تھی۔"

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جب تیس آدھی ابوالعاص کے پاس پہنچ جائیں
گے تو وہ اللہ کے مال کو ذوقی جاؤ اور بنا لیں گے۔ کتاب ربانی سے دھوکہ فریب کریں گے۔ اللہ کے
بندوں کو نابل غنیمت سمجھیں گے اور نیک لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہوں گے۔"

حضرت عثمان نے لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث آنحضرت سے
سنی ہے؟ انہوں نے کہا "نہیں" حضرت عثمان نے کہا "حضرت علی کو بلائیے" چنانچہ آپ
تشریف لائے۔ عثمان نے کہا "ابوالحسن! ذرا سنیے یہ کذاب بڑھا الوزر کیا کہتا ہے؟ حضرت
علی نے کہا "عثمان ان کو کذاب نہ کہیے۔ میں نے آنحضرت کو فرماتے سنا نیلے آسمان کے نیچے
اور اس کائنات پر الوزر سے زیادہ سچا شخص اور کوئی نہیں۔"

صحابہ بڑے علی سچ کہتے ہیں۔ یہ بات ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ یہ شخص
الوزر رونے لگے اور کہا "مقام انوس ہے کہ تم میں سے ہر شخص اس مال کا خواہاں ہے۔ تم
سمجھتے ہو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا باندھا۔ پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا "تم میں
سے افضل کون ہے؟ وہ کہنے لگے آپ اپنے کو ہم سے افضل قرار دیتے ہیں۔ الوزر نے کہا "جی ہاں"

تم نے جو غلط کام کیے ہیں ان کے بارے میں تم سے پرسش ہوگی اور مجھ سے نہیں ہوگی۔

(تفسیر زبیر تبصرہ، ج ۱، ص ۴۲-۴۳)

حضرت ابو بکرؓ پر طعن :

قرآن کریم میں ارشاد فرمایا :

لَا تَقُولُ لِمَا كُنْتَ تَحْزَنُ
إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔

جب وہ اپنے ساتھی سے کہتے تھے غم نہ
کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے

اس آیت کی تفسیر میں مولف حضرت ابو بکرؓ کی مدح و توصیف کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کو

بہت تنقید جاتے ہوئے لکھتا ہے :

• اہل کفائی میں حضرت باقرؓ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں ابو بکرؓ سے

کہا " میرے دوستوں سے کام لیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے "۔ اور حضرت ابو بکرؓ کی یہ حالت تھی کہ ڈر کے

بارے کانپ رہے تھے۔ جب آپؓ نے ابو بکرؓ کی حالت دیکھی تو فرمایا " اگر آپ انصار کو اپنی مجالس

میں باتیں کرتے ہوئے اور جعفر اور ان کے ساتھیوں کو سمندر میں غوطے لگاتے ہوئے دیکھنا

چاہیں تو میں آپ کو دکھاؤں؟ ابو بکرؓ نے عرض کی " جی ہاں! چنانچہ نبی کریمؐ نے اپنا ہاتھ ابو بکرؓ کے

چہرے پر پھیرا۔ ابو بکرؓ نے دیکھا کہ انصار باہم بات چیت کر رہے ہیں اور جعفر کے رفقاء سمندر

میں غوطے لگا رہے ہیں۔ ابو بکرؓ کے جی میں یہ بات آئی کہ آپؓ جاؤ گے ہیں :

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُوتَهُ عَلَيْهِ۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر سکون نازل کیا۔

اہل کفائی میں رضا سے منقول ہے کہ وہ " علیؓ فرماتے تھے " پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت یعنی

نازل ہوئی ہے۔

ایسا شی رضا سے نقل کرتے ہیں کہ اہل السننہ " تَأْتِي السُّنَيْنِ إِذْ مُنَا فِي الْفَارِ " کے الفاظ

سے شیعہ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے حق میں اس کے امد کوئی دلیل موجود نہیں

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : " عَلِيٌّ رَسُوْلُهُ " یعنی سکون و اطمینان صرف نبی کریمؐ پر نازل

ہوا تھا۔ ابو بکرؓ کا اس میں کچھ ذکر نہیں کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس آیت کو یونہی پڑھتے ہیں

انہوں نے کہا ہاں! ہم اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں " (تفسیر زبیر تبصرہ، ج ۱، ص ۲۵۷)

احادیث موضوعہ:

ہم اس بات سے آگاہ کرنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ مولف اپنے نظریات کی تائید و حمایت میں رسول کریمؐ اور اہل بیت سے جو احادیث نقل کرتا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر جھوٹی موضوعہ اور بے اصل ہیں۔ ایسی بکثرت احادیث ہم نقل بھی کر چکے ہیں ان احادیث پر کسی نقد و جرح کی حاجت نہیں۔ ان کے الفاظ ہی ان کے موضوع ہونے کے شاہدِ عدل ہیں۔

مولف کا دستور ہے کہ وہ ہر سورت کے آخر میں اہل بیت سے ایسی روایات نقل کرتا ہے جن سے اس مخصوص سورت کی فضیلت اور اس کی تلاوت کا اجر و ثواب واضح ہوتا ہے۔ یہ سب روایات بالکل جھوٹی اور بے بنیاد ہیں۔ مثلاً وہ احادیث جو سورتوں کے فضائل کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس اور ابی بن کعب کی جانب منسوب ہیں۔ جب مولف نے از ادل تا آخر اپنی کتاب کے اوراق کو احادیث موضوعہ کے ساتھ سیاہ کر دیا ہے تو جھوٹی روایات کا اندراج اس کے حق میں کچھ بھی حیرت انگیز نہیں۔

۵ تفسیر القرآن از سید عبداللہ علوی

تعارف مولف :

مولف کا نام سید عبداللہ بن محمد رضا علوی حسینی المعروف شبر ہے۔ آپ ۱۸۸۸ء میں نجف کے مقام پر پیدا ہوئے۔ پھر اپنے والد کے ساتھ کاظمیہ چلے گئے اور اسی مقام پر ۱۲۴۲ھ میں وفات پائی۔

آپ شیعہ کے عظیم مفسر محدث فقیہ اور عالم تھے۔ آپ نے اپنے والد محترم اور امام کبیر سید محسن اعرجی کے سامنے زانوئے ادب تمہ کیا۔ آپ کے اصحاب و تلامذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے کہ آپ کو شیعہ و غصلائیوں میں ایک امتیازی مقام حاصل تھا۔ آپ زندگی بھر تفسیر تالیف میں لگے رہے اور بہترین علمی کتب تفسیر لکھی۔ جن میں سے مندرجہ ذیل تصانیف قابل ذکر ہیں۔

تصانیف :

(۱) - الدر المنثورۃ فی المواعظ الماثورۃ -

(۲) - رسالۃ فی صحیحۃ خبر الواحد -

(۳) - اعمال السنۃ -

(۴) - رسالۃ فی صحیحۃ العقل -

(۵) - مصباح الظلام -

(۶) - قصص الانبیاء -

(۷) - البرہان البین -

(۸) - شرح شیخ البلاغۃ -

(۹) - صفوۃ التفسیر - (یہ ساٹھ ہزار اشعار پر مشتمل ہے)

(۱۰) - الجواهر الثمینیۃ فی تفسیر القرآن البین - (یہ دو جلدوں میں ہے اور تیس ہزار اشعار پر)

مشمول ہے۔

(۱۱) - التفسیر الوجیز - یہ ایک جلد میں ہے اور اٹھارہ ہزار اشعار کو سمونے ہوئے ہے۔ غالباً یہی تفسیر ہمارے پیش نظر ہے۔
ان کے علاوہ کچھ اور کتب بھی ہیں جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔
(روضات الجنات، ص ۳۷۴)

تعارف تفسیر:

یہ تفسیر بھی اثنا عشری زاویہ نگاہ کی ترجمان ہے۔ مولف قرآنی الفاظ کو ایسے معانی کا جامہ پہناتا ہے جو اس کے مسلک کے اصول و تعلیمات پر منطبق ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اہل بیت کی مدح و توصیف میں تعصب و غلو سے کام لیتا اور ان اصحاب کی تنقیص کا مترکب ہوتا ہے جو اس کے خیال میں حضرت علی امدان کے اہل بیت کے خیر خواہ نہ تھے۔ یہ کتاب اختصار و جامعیت کی آئینہ دار ہے۔ نہایت تلیل الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معانی کو سو دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب بڑی حد تک تفسیر جلالین سے ملتی جلتی ہے۔ تفسیر جلالین کی طرح اس کی سہل اور مختصر عبارت دقیق و عمیق حقائق و دقائق کی جامع ہے۔

مولف اس بات کی انتہائی کوشش کرتا ہے کہ صرف اہل بیت سے منقول تفسیری اقوال پر اعتماد کرے۔ مگر اکثر و بیشتر وہ ہر قول کو اس کے قائل کی جانب منسوب نہیں کرتا۔ وہ شیعہ اصول و فروع کی تائید و حمایت اور ان سے دفاع کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ جن قرآنی آیات کا تعلق کلامی مسائل کے ساتھ ہے ان کی شرح و تفسیر کے دوران وہ بعض اوقات معتزلہ کا ہنموں نظر آتا ہے اور گاہے اہل سنت کی ماہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولف گاہے معتزلہ کا ہم خیال ہوتا ہے اور گہمی اہل سنت کا۔ علمائے اثنا عشریہ کی غالب اکثریت کا طرز و انداز بھی یہی ہے۔ قرآن حکیم کی عبارت پر جو لسانی و نحوی اعتراضات وارد ہوتے ہیں مولف ان کو ذکر کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ معانی و بیان کے نکات پر روشنی ڈالتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لغوی اور نحوی مسائل کو بھی زیر بحث لاتا ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ مولف کا انداز تحریر اس قدر دلکش حسین اور جاذب توجہ ہے کہ فارسی نہ عبارت کی عیب پسندی کا شکوہ کرتا ہے اور نہ اس

کی طوالت سے بیزار ہوتا ہے۔

مولف نے کتاب کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ تفسیر جمادی الاولیٰ ۱۳۳۹ھ میں اتمام پذیر ہوئی کتاب ایک ضخیم جلد پر مشتمل ہے اور چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔ ہم قبل ملازمین متعدد شیعی کتب تفسیر پر تبصرہ کر چکے ہیں۔ شیعہ اثنا عشریہ کے مخصوص افکار و عقائد سے متعلق ہم نے جو عنوانات قائم کیے اور پھر ان تفاسیر سے اقتباسات پیش کر کے بتایا تھا کہ شیعی مفسر کس طرح قرآنی نصوص کو اپنے نظریات کے قالب ڈھالتا ہے۔ یہ بات اس تفسیر میں بھی بالکل اسی طرح پائی جاتی ہے جیسی دیگر تفاسیر میں۔ بنا بریں ہم ان عنوانات کو دہراتے نہیں۔ بلکہ چند نئے عنوانات قائم کر کے ان کے بارے میں مولف کا زاویہ نگاہ پیش کریں گے۔ وہ عنوانات مندرجہ ذیل ہیں:

ہر امام اپنا جانشین مقرر کرتا ہے :

مولف یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امامت کسی ایک شخص کو سپرد نہیں کی گئی۔ بلکہ ہر امام اپنے بعد

اپنا جانشین مقرر کرتا ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَكَاثِرَ إِلَىٰ أَهْلِهَا -

الشرعیاتیں حکم دیتا ہے کہ امامتیں ان
کے مالکوں کو دے دو۔

(النساء - آیت ۸۵)

مولف کے نزدیک یہ حکم عام ہے اور اس میں ہر قسم کی امامت شامل ہے۔ ائمہ اہل بیت

نے حکم دیا ہے کہ ہر امام اپنا جانشین مقرر کرے۔ (تفسیر زیر تبصرہ - ص ۲۰۳)

ہر زمانہ میں ایک امام ہوتا ہے :-

مولف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں ہوتا۔ نیز یہ کہ ائمہ انبیاء کی طرح معصوم

ہوتے ہیں اور دوسرا کوئی شخص معصوم نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب کسی مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو جائے

اور کتاب و سنت کی نص موجود نہ ہو تو امام کی جانب رجوع کرنا ضروری ہے۔ ائمہ کے ماسوا اور ہر

لوگوں کی جانب کسی حالت میں بھی رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ دینی مسائل میں غیر معصوم کی

راے قابل اعتماد نہیں ہوتی۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (اندر-۵۱)

اسے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور
اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے
اصحاب الامر کی۔

اس آیت کی تفسیر میں مولف لکھتا ہے :

”اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ اصحاب الامر ہر زمانہ میں موجود ہوتے ہیں اور ان کے علم و فضل اور معصومیت کی بنا پر ان کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ آیت کا یہ مفہوم امامیہ کے مسلک کے مطابق ہی درست ہو سکتا ہے۔ ائمہ اہل بیت سے منقول ہے کہ اولی الامر سے انہی کی ذات مراد ہے۔ اس آیت میں سب اہل ایمان کو روز قیامت تک ائمہ اہل بیت کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں کسی دینی امر میں نزاع پیا ہو جائے تو اس کے حل کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کیجیے۔ اگر کتاب و سنت میں اس کا حل مذکور نہ ہو تو اولی الامر یعنی ائمہ اہل بیت سے اس اشکال کا ازالہ چاہیں“

(تفسیر زیر تبصرہ، ص ۲۰۴)

تقیہ :-

چونکہ مولف تقیہ پر ایمان رکھتا ہے اس لیے قرآنی آیات سے اس کا اثبات کرتا ہے

قرآن کریم میں فرمایا :

لَا تَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ
يَعْمَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي
شَيْءٍ إِلَّا أَنْ سَبَّوْا مِمَّا نَكَاهُ.

اہل ایمان مومنوں کو کھپوڑ کر کفار کو دوست
نہ بنائیں۔ اور جو شخص ایسا کرے اللہ
سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ مگر یہ کہ ان سے
بچاؤ حاصل کرنا چاہو۔

(آل عمران - ۲۸)

مولف اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے :-

”جب کفار سے خطرہ لاحق ہو تو ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کرنے کی اجازت ہے۔ دل میں ان کے خلاف بدستور عداوت موجود رہے گی۔ اسی کا نام تقیہ ہے جس پر امامیہ یقین رکھتے ہیں۔ احادیث متواترہ سے اس عقیدہ کا اثبات ہوتا ہے“

(تفسیر زیر تبصرہ، ص ۱۲۹)

آگے چل کر مولف شیخہ کے مخصوص نظریات۔ مثلاً،

تحریت القرآن، صحابہ پر نقد و طعن، اہل بیت کی مدح و ستائش، نکاح متنعہ و منکر تے وقت پاؤں کا مسح میراث انبیاء رویت خداوندی اور دیگر عنوانات پر بالکل اسی قسم کی بحث کرتا ہے جس کا ذکر ہم قبل ازیں دیگر شیعی تفاسیر کے سلسلہ میں کر چکے ہیں۔ اس لیے ان مباحث کا اعادہ نہیں کرتے۔

۶۔ بیان السعادة في مقامات العبادة

از سلطان محمد خراسانی

تعارف تالیف و مؤلف :

مؤلف کا نام سلطان محمد بن حیدر جناب مذکور خراسانی ہے۔ یہ چودھویں صدی ہجری کے
کے عالی شیعہ علماء میں سے تھے۔ مؤلف کے تعارف کے سلسلہ میں اس سے زیادہ کچھ
معلوم نہیں۔ اس تفسیر کا طرز و انداز امامیہ اثنا عشریہ کی کتب تفسیر سے بالکل جداگانہ نوعیت کا
ہے۔ ہم نے قبل ازیں جن ضمیمی تفاسیر کا ذکر کیا ہے وہ بڑی حد تک ایک دوسری سے ملتی جلتی ہے
ان کا عام اسلوب و انداز یہ ہے کہ ان میں آئمہ اہل بیت کے تفسیری اقوال منقول ہے۔ فرق و
اختلاف جو کچھ بھی ہے صرف اسی قدر ہے کہ ان میں سے بعض عالی شیعہ ہیں اور بعض اعتدال
پسند۔ مزید برآں اپنے نظریات کی تائید و حمایت میں دلائل و براہین پیش کرنے کے سلسلہ
میں بھی وہ سب مساوی نہیں۔ بخلاف ازیں بعض میں دلائل پیش کرنے کی قوت زیادہ پائی جاتی
ہے اور بعض میں کم۔

مگر تفسیر زیر قلم کا مؤلف ایک ایسی راہ پر چلا ہے جو مذکورہ صدر انداز سے یکسر جداگانہ
نوعیت کا ہے۔ اس لیے اس کا رنگ و ڈھنگ سابق الذکر کتب سے بالکل ہی الگ نکل گیا ہے
اگرچہ اس کا مؤلف بھی دیگر شیعہ علماء کی طرح یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ آئمہ اہل بیت قرآنی
علوم کا مخزن تھے۔ مگر اس نے محض آئمہ اہل بیت ہی پر اعتماد نہیں کیا بلکہ اپنی تفسیر میں
دیگر عناصر کو بھی جگہ دی ہے۔

مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے صوفیانہ تفسیر کو بھی کتاب زیر تبصرہ میں شامل کیا ہے یہ
تفسیر تصوف کے زاویہ نگاہ کی نمائندگی کرتی ہے اور اس کی اساس رموز و اشارات پر رکھی گئی
ہے اور جن دقیق و عوالم حقائق و دقائق پر مشتمل ہے۔ اس کے پیش نظر قاری یہ تاثر لے لے بغیر

نہیں رہ سکتا کہ اس کے معانی و مطالب کی غوامضی کا رے دارد، والی بات ہے۔ اس کتاب کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کرنا یعنی برحق و صداقت ہے اور اس میں بالانہ کا کوئی عنقر شام نہیں۔ بعض جگہ عبارت اس قدر دقیق ہے کہ عقل انسانی اس کے فہم و ادراک سے قاصر رہتی ہے۔ تفسیر زیر تبصرہ کے سلسلہ میں ایک بات یہ قابل ذکر ہے کہ مولف شیعہ کے اصول مذہب کا دفاع بڑی شدت کے ساتھ کرتا ہے اور اس میں بڑی طوالت سے کام لیتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا غلو و عناد کے درجہ تک پہنچا ہوا تعصب پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ جہاں تک فقہی فروع اور اجتہادی مسائل کا تعلق ہے ان پر سے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور بلاہین و دلائل سے بہت کم کام لیتا ہے۔

اس سلسلہ میں دوسری ضروری بات یہ ہے کہ مولف صرف شیعہ تفسیر ہی سے اقتباسات پیش نہیں کرتا بلکہ اہل سنت کی تفسیر مثلاً بیضاوی وغیرہ سے بھی استفادہ کرتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اپنے زاویہ نگاہ کی تائید و حمایت میں بسا اوقات مولف فارسی کتب سے بھی دلائل و شواہد نقل کرتا ہے جو فارسی زبان میں ہوتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ تفسیر بحیثیت مجموعی صوفیانہ تفسیر سے قریب تر ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ مولف کا اولین مقصد مطمح نظر صوفیانہ طرز تفسیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ بنا بریں اس کتاب میں قاری کو وہی رموز و اشارات ملیں گے جو متصوفانہ تفسیر کی خصوصیت ہیں۔ لہذا اگر ہم اس کتاب پر صوفیہ کی تفسیر کے سلسلہ میں تبصرہ کرتے تو بے جا نہ ہوتا۔ مگر ہم نے اس کو شیعہ تفسیر میں اس لیے شامل کیا ہے۔ کہ اس پر فرقہ دارانہ رنگ غالب ہے اور مولف غلو و مبالغہ کی حد تک شیعہ نقطہ نظر کی حمایت کرتا ہے۔ یہ کتاب دو جلدوں میں چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔ کتاب کے آخری صفحہ پر مرقوم ہے کہ مولف اس کی ترویج و تالیف سے اللہ میں فارغ ہوا۔

اہم افکار و عقائد :

تفسیر زیر تبصرہ جن مخصوص شیعہ عقائد کی جامع ہے ان میں سے اکثر دیشتر وہی ہیں جن کی نشان دہی ہم سابق الذکر تفسیر پر تبصرہ کے دوران کر چکے ہیں۔

وہ اہم افکار و معتقدات جن کے ضمن میں مولف نے شیعہ کی ہم نوائی کی اور دلائل و بلاہین

کی روشنی میں ان کو ثابت کرنے اور آیات قرآنی کو ان سے ہم آہنگ بنانے کی کوشش کی ہے حسب ذیل ہیں:

(۱) موجودہ قرآن وہ اصلی قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ بخلاف ازیں اس کو تبدیل کر کے اس میں کمی بیشی کر دی گئی ہے۔ لہذا یہ قابل اعتماد نہیں رہا۔

(۲) جملہ ادیان و مذاہب اور آسمانی کتب اہل بیت کی عظمت و فضیلت کے اظہار کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کی اکثر جہتیں آیات صراحتہ یا اشارہ اہل بیت کے احباب و اعداؤں اور ان کے اعداء سے متعلق ہیں۔ اس لیے یوں کہنا بالکل سجا اور درست ہے کہ سارا قرآن اہل بیت کے بارے میں اترا۔

(۳) یہ تفسیر دُور از کا زیادتی اور بے کار و موزد اشارات پر مشتمل ہونے کی بنا پر مقصودانہ تفسیر کی نمائندگی کرتی ہے مولف نے بے شمار آیات کی تفسیر اسی اشاری انداز میں کی ہے۔

(۴) مولف دیگر شیعہ علماء کی طرح یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اُمم البقرین محروف تھے۔ ان امتوں میں بھی اہل بیت کے متعقدین موجود تھے جو ان کی پیروی کرتے اور ان کے وسیلہ سے خیر و برکت حاصل کرتے تھے۔

(۵) قرآن کریم میں جو قصص و واقعات مذکور ہیں۔ ان کے بارے میں مولف کا خیال ہے کہ ان سے ظاہری واقعات مراد نہیں۔ بلکہ ان سے خاص امور کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے جو شخص ان کو ظاہر پر معمول کرتا ہے ان کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس لیے کہ صرف قوت بشری کے بل بوتے پر ان کی گتہ و حقیقت کا فہم و ادراک ممکن نہیں ہے۔

(۶) مولف صحابہ کی تکفیر نہیں کرتا۔ اس کی تفسیر میں کوئی ایسا نشان موجود نہیں جس سے صراحتہ صحابہ کا کفر واضح ہوتا ہو۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن آیات سے صحابہ کی مدح دستاویز کا پہلو نکلتا ہے مولف اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ سے اس کو سلب کرے اور اس کی اہمیت کو کم کر کے دکھائے۔ بعض اوقات وہ صحابہ کی جانب ایسی باتوں کو منسوب کرتا ہے جس سے ان کے کفر و فسق کی جانب اشارہ نکلتا ہے۔

(۷) مولف کا نادر نگاہ یہ ہے کہ جو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب یا تہدید و وعید پر

مشتمل ہیں اگر فرض کر لیا جائے کہ ان حضوروں سے معصیت سرزد ہوئی تو بھی ان آیات کے مخاطب آپ نہیں۔ بظاہر یہ خطاب آپ سے کیا گیا ہے مگر درحقیقت کوئی اور شخص مخاطب ہے اس لیے کہ رسول و نبی کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ اس پر عقاب نازل ہو یا اسے ڈانٹا اور ملامت کی جائے۔

(۸) مولف متعہ کو جائز تصور کرتا ہے اور اس کے اثبات میں قرآنی آیات سے احتجاج کرتا ہے
 (۹) مولف دیگر شیعہ علماء کی طرح یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء کے آثار ان کے ترکہ سے ورثہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح وضو کرتے وقت وہ پاؤں کے مسح کو فرض قرار دیتا ہے۔ دھونے کو فرض خیال نہیں کرتا۔

(۱۰) معتزلہ کی طرح مولف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ روایتِ خلد اندی ممکن نہیں ہے۔

(۱۱) مولف سحر کی حقیقت کو تسلیم کرتا اور قرآنی نصوص سے اس کا اثبات کرتا ہے۔ بخلاف ازیں دیگر شیعہ علماء حقیقتِ سحر کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اس بات کا قائل ہے کہ لعین بن احمم یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔

بہر کیفیت تفسیر زیر تبصرہ بڑی حد تک شیعہ نقطہ نگاہ کی ترجمان ہے۔ مگر اس میں تصوف و فلسفہ کا اختلاط و امتزاج بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ یہ کتاب تشیع و تصوف کا حسین مرکب ہے۔

امامیہ اسماعیلیہ (باطنیہ)

اسماعیلیہ کے افکار و عقائد:

ہم قبل ازیں بتا چکے ہیں کہ اسماعیلیہ فرقہ شیعہ امامیہ کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اسماعیل بن جعفر صادق کی جانب منسوب۔ ان کو باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ قرآن کے ظاہری معانی کو نظر انداز کر کے اس کے باطنی معنی و مضموم پر زور دیتے ہیں یا اس لیے کہ یہ امام باطن پر ایمان رکھتے ہیں جو اس وقت پوشیدہ ہے۔

حق بات یہ ہے کہ یہ گروہ فرقہ ہائے اسلامی میں شامل نہیں ہے۔ دراصل یہ مجوسی ہیں۔ جب مجوسیوں نے اسلام ادا اہل اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت و شوکت کو دیکھا تو انہوں نے خیال کیا کہ طاقت کے زور سے مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ وہ حسد و عناد کی آگ میں جلتے گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اسلامی فوج کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اس لیے مسلمانوں کے خلاف حیلہ جوئی سے کام لینا چاہیے۔

فرقہ اسماعیلیہ کے بانی:

اس فرقہ کی ترم ریزی خلیفہ ماموں کے عہد میں چند اشخاص کے ہاتھوں ہوئی جو عراق کے قید خانہ میں محبوس تھے۔ ان میں سے عبداللہ بن میمون القلاح کا نام قابل ذکر ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا آزاد کردہ غلام تھا۔ ان میں ایک شخص محمد بن حسین تھا، جو فریدان کے نام سے مشہور تھا۔ ان کے علاوہ کچھ اور لوگ تھے۔ ان لوگوں نے قید خانہ میں جمع ہو کر باطنی فرقہ کے اصول و قواعد وضع کیے۔ جب قید خانہ سے رہائی پائی تو ان کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی اور ان کی دعوت اسلامی بلاد و دیار تک پھیل گئی۔ یہ فرقہ ہنوز بعض اسلامی ممالک میں پایا جاتا ہے۔

(الفرق بین الفرق، ص ۲۶۶ نیز التفسیر فی الدین ص ۸۳)

اس فرقہ کے بانیوں نے دیکھا کہ وہ کلمہ کھلا مسلمانوں کی مخالفت نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے

اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے حیلہ جوئی سے کام لینا شروع کیا۔ چنانچہ وہ کشتیوں کا لبادہ اوڑھ کر اہل بیت کی تائید و حمایت کی آڑ میں مسلمانوں میں گھس گئے۔ اہل اسلام میں متنفر و فساد کی تہمیر پھیلنے لگی۔ انہوں نے یہ حیلہ اختیار کیا۔

اسماعیلیہ کی مختصر تاریخ :

دوسرے فرقوں کی طرح یہ فرقہ بھی سرزمین عراق میں پروان چڑھا اور دیگر فرقوں کی طرح وہاں تفتہ و فتنہ، ظلم و ستم بنا۔ انہیں فارس و خراسان اور دیگر اسلامی ممالک مثلاً ہندو ترکستان کی طرف بھگانا پڑا۔ وہاں جا کر ان کے عقائد میں قدیم فارسی افکار اور ہندی خیالات گڈ گڈ ہو گئے۔ اور ان میں عجیب و غریب خیالات کے لوگ پیدا ہونے لگے جو دین کے نام پر اپنی مقصد برآئی کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد فرقے اسماعیلیہ کے نام سے موسوم ہو گئے۔ بعض دینی امور کے اندر محدود رہے اور بعض اسلام کے اساسی اصولوں کو ترک کر کے اسلام سے باہر نکل گئے۔

اسماعیلیہ فرقہ کے افراد پر ہندو برہمنوں، اشراقی فلاسفہ اور بدھ مت کا اثر غالب تھا۔ کلدانیوں اور ایرانیوں میں روحانیت اور کواکب و نجوم سے متعلق جو افکار پائے جاتے تھے انہوں نے وہ بھی اخذ کیے پھر ان مختلف النوع افکار و نظریات کا ایک عجیب و غریب مرکب بنایا۔ یہ لوگ دائرہ اسلام سے بہت دور نکل گئے۔ ان کے سب سے بڑے داعی باطنیہ تھے جو جمہور امت سے کٹ گئے تھے اور اہل سنت کے نظریات سے انہیں کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ جس قدر عقائد کو چھپاتے تھے اسی حد تک عام مسلمانوں سے دور نکلتے جاتے تھے۔ ان کے جذبات انشاء کا یہ عالم تھا کہ خطوط لکھتے وقت اپنا نام نہیں لکھتے تھے۔

باطنیہ کی وجہ تسمیہ :

اسماعیلیہ کو باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسماعیلیہ کو یہ لقب اس لیے ملا کہ یہ اپنے معتقدات کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسماعیلیہ میں انشاء کا ترجمان پہلے پہل جو روح تم کے دُور سے پیدا ہوا اور پھر ان کی عادتِ ثانیہ بن گیا۔ ان کو باطنیہ کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر حالات میں امام کو مستور مانتے ہیں۔ ان کی رائے میں مغرب میں ان کی سلطنت کے قیام کے زمانہ تک

امام مستور ہا۔ یہ حکومت پھر مصر منتقل ہو گئی۔

ان کو باطنیہ ان کے اس قول کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ لوگوں کو صرف ظاہر شریعت کا علم ہے۔ باطن کا علم صرف امام کو ہوتا ہے اسی عقیدہ کے تحت باطنیہ الفاظ قرآن کی بڑی دور از کار تادیلین کرتے ہیں۔ ان تادیلات علیہ کو وہ علم باطن کا نام دیتے ہیں۔ ظاہر و باطن کے اس چکر میں اثنا عشریہ بھی باطنیہ کے ہمنوا ہیں بہت سے سویاء نے بھی باطنی علم کا عقیدہ اسماعیلیہ سے اخذ کیا۔

بہر کیف اسماعیلیہ اپنے عقائد کو پس پردہ رکھنے کی کوشش کرتے اور مصلحت وقت کے تحت بعض افکار کو منکشف کرتے تھے۔ باطنیہ کے اختفاء عقائد کا یہ عالم تھا کہ مشرق و مغرب میں برسرِ اقتدار ہونے کے دوران بھی وہ اپنے افکار و آراء کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔

باطنیہ کے اصول اساسی :

اعتدال پسند باطنیہ کے افکار و معتقدات دراصل تین امور پر مبنی تھے۔ ان سب میں اثنا عشریہ ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں :-

(۱)۔ علم و معرفت کا وہ فیضان الہی جس کی بناء پر ائمہ عظمت و فضیلت اور علم و فضل میں دوروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ علم و معرفت کا یہ عطیہ ان کی عظیم خصوصیت ہے۔ جس میں کوئی دوسرا فرد بشر ان کا سیم و شریک نہیں۔ جو علم انہیں دیا جاتا ہے وہ عام انسانوں کے لیے بالائے ادراک ہوتا ہے۔

(۲)۔ امام کا ظاہر ہونا ضروری نہیں بلکہ وہ مستور بھی ہوتا ہے۔ اس حالت میں بھی اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ امام ہی لوگوں کا ہادی اور پیشوا ہوتا ہے۔ کسی زمانہ میں اگر وہ ظاہر نہ بھی ہو تو کسی نہ کسی وقت وہ ظاہر ہوگا۔ قیام قیامت سے قبل امام کا منظر عام پر آنا ان کے نقطہ نگاہ کے مطابق ضروری ہے۔ امام جب ظاہر ہوگا تو کائنات عالم پر عدل و انصاف کا دور دورہ ہو جائے گا۔ جس طرح اس کی عدم موجودگی میں جور و استبداد کا سکہ جاری رہتا تھا۔ اب اسی طرح عدل و انصاف کی کار فرمائی ہوگی۔

(۳) امام کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔ ان کے افعال کیسے بھی ہوں کسی کو ان پر

خردہ گیری اور انگشت نمائی کا حق حاصل نہیں۔ بلکہ سب کے لیے امام کے افعال پر ہر تصدیق ثبت کرنا اور ان کو نیکی پر معمول کرنا واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جس علم سے بہرہ ور ہے سب لوگ اس سے محروم ہیں۔ اسی سے انہوں نے عصمتِ ائمہ کا عقیدہ وضع کیا۔ ان کے نزدیک ائمہ کے معصوم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جو گناہ ہمیں معلوم ہیں ائمہ ان کا ارتکاب نہیں کرتے۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن باتوں کو ہم گناہ تصور کرتے ہیں وہ ان کے مخصوص علم کی روشنی میں ان کے لیے جائز اور مباح ہوتے ہیں۔

فرقہ حاکمیہ:

باطنیہ کے ذکر وہ افکار کے بعض گوشے ایسے ہیں جنہیں کفر مرتج سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب و سنت میں ان کا ذکر نہیں پایا جاتا۔ اگرچہ اکثر باطنیہ یہ عقائد رکھتے تھے۔ تاہم کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلامی احکام کے جڑ کو اتار پھینکا اور اس کی حدود کو پھانڈ گئے۔ باطنیہ کے عقائد باطلہ کے زیر اثر حاکمیہ کا فرقہ پر دان چڑھا۔ حاکمیہ غالبی فرقہ تھا۔ جو اسلامی حدود سے تجاوز کر گیا تھا۔ بعض حاکمیہ نے اشراق الہی کے معنی و مفہوم میں اس حد تک اغراق و مبالغہ سے کام لیا کہ وہ ائمہ کی ذات میں حلولِ باری تعالیٰ کے قائل ہو گئے۔ ان غالبی شیعہ کا سرغنہ حاکم بامر اللہ نامی تھا جو کہا کرتا تھا کہ ذاتِ خداوندی اس میں حلول کرائی ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیا کرتا تھا۔ وہ رُود پوش ہو گیا تھا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے پیرو اس کی موت کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ اٹھایا گیا ہے اور لوٹ کر آئے گا۔ اس فرقہ کو حاکمیہ کہا جاتا ہے۔

فرقہ نصیریہ:

ملک شام میں حاکمیہ کے گرد و نواح میں ایک غالبی فرقہ اور بھی تھا جسے نصیریہ کہتے تھے اس فرقہ کے افراد نے بھی ان غالبی اسماعیلیہ کے زیر اثر تربیت پائی تھی۔ جو اسلامی احکام کی اطاعت سے آزاد تھے۔ نصیریہ حاکمیہ کی طرح ملک شام میں بود و باش رکھتے تھے۔ یہ آٹھ عشرہ کے ہم خیال تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے معرفت علی الاطلاق حاصل ہوتی ہے یہ حضرت علی کو الہ قرار دیتے تھے اور ان کی موت کے قائل نہ تھے۔ یہ شریعت کا ظاہر و باطن قرار

دینے میں باطنیہ کے ہم خیال تھے۔ ان کی رائے میں باطن کا علم صرف امام کو ہوتا ہے۔ کیونکہ امام پر ہی تجلیات انوار کا نزول ہوتا ہے۔ جس سے اسے شریعت کی حقیقت اور اس کے باطن کا شعور و ادراک حاصل ہو جاتا ہے۔

خلاصہ کلام! یہ فرقہ شیعہ کے عالی فرقوں کے انکار و نظریات کا معجون مرکب تھا۔ انہوں نے شیعہ کے کافرانہ اور برباد شدہ فرقہ بسٹیہ سے حضرت علی کی الوہیت اور ان کے غلو و دروغت کا عقیدہ اخذ کیا اور باطنیہ سے شریعت کے ظاہر و باطن کا مسئلہ سیکھا۔
حسن بن صباح اور اس کے اتباع:

ان عالی لوگوں نے اسلامی اصول و شعائر کو خیر باد کہہ دیا تھا اور ان میں اسلام صرف برائے نام باقی تھا۔ فاطمیہ مصر و شام کے عہد حکومت میں یہ فرقے خوب پھیلے پھوئے۔ حاکم بامر اللہ بھی ان کی پشت پناہی کرتا تھا۔ انہی وجوہات کی بناء پر حاکم بامر اللہ کے عہد اقتدار میں باطنیہ کا ٹیس درعیم حسن بن صباح فارس میں منظر عام پر آیا۔ ایک طرف حاکم بامر اللہ الوہیت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہوا۔ دوسری طرف حسن بن صباح نے عباسیوں کے خلاف ریشہ ووائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حسن نے سرزمین شام میں باطنی داعیوں کا جال پھیلا دیا تھا جو لوگوں کو اپنے مذہب کی دعوت دیتے تھے۔

ملک شام میں یہ عالی شیعہ بڑی کثرت سے نمودار ہوئے۔ انہوں نے "السمان" نامی پہاڑ کو اپنا مرکز بنایا۔ آج کل اسے "جبل نسیر" کہتے ہیں۔ ان کے بعض پیشوا اپنے مریدوں کو بھنگ نوشی کی تلقین کرتے تھے۔ اسی بناء پر تاریخ اسلام میں یہ مشاشیں دھبگ نوش کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب صلیبی حملہ آوروں نے بلو شام اور پھر دیگر اسلامی ممالک کو تاخت تاراج کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں کا ساتھ دیا۔ جب صلیبی اسلامی دیار و اہلدار پر مسلط ہو گئے تو انہوں نے ان کو اپنا مقرب خاص بنایا اور بڑے بڑے عہدے پیش کیے۔

سلطان نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر سلاطین ایوبیہ رحمہم اللہ کے عہد اقتدار میں باطنیہ نظروں سے اوجھل ہو گئے اور کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ ان کے عہد حکومت میں ان کا کام صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے قائمین کے خلاف سازشیں کرتے اور

ان کے خلاف کرو فریب کا جال بھیلانے میں مصروف رہتے تھے۔

بعد ازاں جب تاتاریوں نے ملک شام پر دھاوا بولا تو فرقہ نصیریہ والوں نے ان کی نصرت و حمایت کا دم بھرنے شروع کر دیا۔ جس طرح قبل ازیں صلیبیوں کی امداد کی تھی۔ باطنیہ نے مسلمانوں کی خون ریزی اور قتل و غارت میں امکانی حد تک سفاک تاتاریوں کا ساتھ دیا۔ جب تاتاریوں نے غارتگری سے دم لیا تو باطنیہ بہادروں میں جا چھپے اور مسلمانوں کو تہمتیں سننے کے لیے کوئی اور منصوبہ سوچنے لگے۔

باطنیہ کے مراتب و دعوت :

باطنیہ نے اپنے عقائد کی نشر و اشاعت اور اسلامی اصول و ضوابط کے ابطال کے لیے پویشیدہ انجمنیں بنا رکھی تھیں۔ انہوں نے مکرو فریب پر مشتمل اپنا ایک خاص پروگرام تیار کیا جو آٹھ اجزاء تھا۔ ان کا اولین نصب العین یہ تھا کہ اسلامی احکام کی تائید کر کے ان کو باطنیہ کے مبنی بر دہریت و الحاد اصول و قواعد کے سانچہ میں ڈھالا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دعوت و تبلیغ کے چند مراتب مقرر کر رکھے تھے۔ وہ مراتب حسب ذیل تھے۔

۱۔ ذوق :- ذوق سے مراد یہ ہے کہ دعوت دینے سے قبل یہ دیکھا جائے کہ جس شخص کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جہاں دعوت کے مقبول ہونے کے آثار مفقود ہوں وہاں دعوت دینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ جس گھر میں کوئی عالم یا معلم موجود ہو تو وہاں بھی دعوت نہیں دیتے تھے۔

۲۔ تائیس :- تائیس سے وہ مراد لیتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے میلانات و رجحانات کے پیش نظر اپنے عقائد سے مانوس کرنے کی سعی کی جائے۔ اگر اس کا ذہنی میلان زہد کی جانب ہو تو اس کے زہد و زہد کی مدح و ستائش اور حرص و آرزو کی مذمت کی جائے۔ اور اگر آزاد مش ہو تو اس کے سامنے آزاد خیالی اہد آدرگی کی مدح و توصیف اور زہد و تقویٰ کی قباحت پر لکچر دینے جائیں۔ داعی جس شخص کو دیکھے کہ وہ البکر و عمر کا مداح ہے تو اس کے پاس ان کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دے۔ اور اسے بتائے کہ البکر و عمر بھی شرعی احکام کی تائید کرنے کے

سخن میں تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکرؓ کو اپنے ساتھ غار میں لے گئے اور ان کو تاویل کا طریقہ سکھایا تھا۔

۳۔ **تشکیک** :- باطنیہ کا میسر طریقہ یہ تھا کہ دین اسلام کے اصول و ارکان کی صداقت کو مخاطب پر مشتبہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثلاً اس سے پوچھے کہ سورتوں کے آغاز میں جو حروف مقطعات ہیں ان کا مطلب و مفہوم کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت و مصلحت مضمون ہے کہ حائضہ روزہ کی قضا دیتی ہے اور نماز کی نہیں؟ منی سے غسل واجب ہوتا ہے اور بول سے نہیں۔ آخر یہ فرق کس لیے؟ نماز کی رکعات میں فرق و اختلاف کیوں ہے کہ بعض کی دو رکعتیں ہیں، بعض کی تین اور بعض کی چار؟ اس طرح مخاطب کے ذہن کو شک کے جال میں پھنسا کر ان باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے۔ تاکہ مخاطب ان کی جانب رجوع کر کے ان سے استفادہ کرے۔

۴۔ **رابط** :- رابط سے وہ دو باتیں مراد لیتے تھے:

(۱)۔ مخاطب سے عد لیتے تھے کہ وہ ان کا راز افشا نہیں کرے گا۔ وہ اس کو یہ آیت سناتے:

دَلَا تَنْفُضُونَ آيْمَانَكُمْ
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا - مت توڑو۔

(۲) وہ مخاطب کو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ جب بھی کسی الجھن میں مبتلا ہو اس کا حل امام سے دریافت کرے۔ کیوں کہ امام کے سوا دوسرا کوئی شخص اس کی گرہ کشائی نہیں کر سکتا۔

۵۔ **تندلیس** :- باطنیہ کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دینی و نبوی اکابر کے بالکل ہم نوا ہیں۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے مسلک کو فروغ حاصل ہو۔ اپنی مخصوص اصطلاح میں وہ اس کو تندلیس (فریب دہی) کہا کرتے تھے۔

۶۔ **تاسیس** :- مخاطب کو دعوت دینے سے قبل باطنیہ اس کے حسب حال کچھ باتیں بطور تمہید و مقدمہ کے بیان کرتے تھے تاکہ مخاطب ان کی دعوت کا قائل ہو جائے۔ اس کو وہ تاسیس (نبی اور گھنا) کہتے تھے۔

۷۔ خلع :- وہ یہ مراد لیتے تھے کہ اسلام میں بدنی اعمال (نماز - روزہ) کی کچھ اہمیت نہیں۔

۸۔ سلخ :- سلخ کے لفظی معنی کھال اتارنے کے ہیں۔ باطنیہ کے نزدیک سلخ کا مطلب یہ تھا کہ جس شخص کو اپنے عقائد کی دعوت دی جائے، پہلے اس کو اسلامی عقائد سے برگشتہ و منحرف کر لیا جائے اور پھر اسے اسلامی احکام کی من مانی تادیلات قبول کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ (المواقف، ج ۸ - ص ۳۸۹ نیز الفرق بین الفرق - ص ۲۸۲)

موجودہ صدر بیانات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ باطنیہ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اسلامی افکار و معتقدات کو مشکوک بنا دیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک قرآن مسلمانوں کے پاس موجود و محفوظ ہے وہ اس سے مستفیض و مستیر ہوتے رہیں گے۔ لوگوں کو قرآن سے صرف تاویل ہی کے ذریعہ ہٹایا جاسکتا ہے۔ اور وہ یوں کہ الفاظ سے ان کے ظاہری معانی مراد نہ لیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے پوری بے باکی کے ساتھ قرآن کی تادیلات کرنا شروع کیں۔ تاکہ اسلامی تعلیمات کو طیامیٹ کر دیا جائے جو ان کی آنکھ میں کھٹکتا خار تھیں۔

قرآن تادیلات کا عوام کے یہاں بار پانا بظاہر ایک مشکل کام تھا۔ اس لیے باطنیہ نے اس کو مقبول عام بنانے کے لیے ائمہ اہل بیت کی مدح سرائی کا ڈھونگ رچایا۔ وہ کہتے گئے :

(۱) ائمہ اہل بیت ہی خدا کے امین اور محرم راز ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے باطن بھی ظاہر کی طرح کھلا ہوا اور واضح ہوتا ہے۔

(ج) گمراہی سے نجات پانے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کی جانب رجوع کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ حضور! آپ کے بعد ہدایت کہاں سے تلاش کریں؟ آپ نے جواباً فرمایا۔ کیا میں نے تمہارے اندر قرآن اور اہل بیت کو نہیں چھوڑا؟ (فضائح الباطنیہ، ص ۶)

مگر باطنیہ نے تاویل قرآن کو بہانہ بنا کر اسلامی شریعت کو بے کار بنانے کے سلسلہ میں

جو سامعی انجام دی تھیں۔ وہ عقل سلیم رکھنے والے مسلمانوں میں مقبول نہ ہو سکیں۔ اسی طرح جن علماء نے قرآن کریم کو گمراہ فرقوں کے باطل عقائد سے محفوظ رکھنے کا عزم باندھ رکھا تھا وہ بھی ایسے نہ تھے کہ باطنیہ کے دام فریب میں آجاتے۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا۔ جب کہ اہل اسلام بالعموم اور علماء بالخصوص اس حقیقت سے پوری طرح باخبر تھے کہ جب شارح کی کسی تصریح اور شدید عقلی ضرورت کے بغیر الفاظ کو ان کے ظاہری مفہوم سے الگ کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الفاظ سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ جس سے اللہ و رسول کے کلام کی افادیت یا قیام نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ جب ظاہر و متبادر معنی مراد نہیں تو باطنی معنی کا کیا اعتبار؟ باطنی معانی تو کئی ایک ہو سکتے ہیں جن میں تحدید و تعیین کا

امکان ہی نہیں۔
باطنیہ کی تفسیری مساعی :

اگرچہ باطنیہ نے تاویل قرآن کا دوازہ کھول کر اپنے خاص مقاصد کی تکمیل چاہی تھی۔ تاہم ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کسی نے قرآن کریم کی کوئی مستقل تفسیر مرتب کی تھی۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پورے قرآن کو اپنے عقائد کے قالب میں نہیں ڈھال سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ہر ہر سورت اور آیت کی جامع تفسیر طہیند تہیں کی اور اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے تو ان کے راستہ میں مشکلات کے پہاڑ حائل ہو جاتے اور وہ ان کو سر کرنے سے قاصر رہتے۔ بنا بریں باطنیہ نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جو کوشش کی ہے وہ اسی انداز کی ہے کہ انہوں نے جن آیات کو تاویل کا ہدف بنایا ہے وہ مختلف کتب تفسیر میں پراگندہ و منتشر صورت میں ملتی ہیں۔

ہماری رائے میں تفسیر قرآن کے سلسلہ میں باطنیہ کے موقف کو دو قسموں میں منقسم کیا

جا سکتا ہے۔

- (۱) تفسیر قرآن سے متعلق قدیم باطنیہ کا موقف۔
- (۲) تفسیر قرآن کے بارے میں متاخرین باطنیہ کا طرز عمل۔

تفسیر قرآن سے متعلق متقدمین باطنیہ کا موقف

یہ حقیقت قبل ازیں منکشف ہو چکی ہے کہ باطنی دعوت کی اولین و اساسی غرض دعائیت بالعموم تمام ادیان و مذاہب کو مفسحہ گیتی سے مٹانا اور بالخصوص دین اسلام کو کائناتِ ارضی سے ملیا میٹ کرنا تھا۔ چونکہ یہ لوگ دین اسلام کے خلاف نبرد آزما تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ یہ اسلام کے بنیادی ستون اور رکنِ رکنِ قرآن کریم کے خلاف محاذِ جنگ کھولیں۔ چنانچہ باطنیہ نے ایک ایک کر کے ہتھیار سب آزمائے۔ آخر کار اس حربہ کو سب سے زیادہ کارگر پایا کہ قرآنی آیات کی تاویل کی جائے اور ان کو وہ معانی پہنائے جائیں جو خداوند کریم نے ان سے مراد نہیں لیے۔

عبد اللہ بن حسن قیروانی نے سلیمان بن حسن بن سعید بخانی کو ایک خط میں تحریر کیا:-
 ”میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ قرآن کریم تو رات و انجیل اور زبور کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں شکوک پیدا کریں۔ مذاہب و ادیان کی بے وقعتی لوگوں پر واضح کر دیں۔ عوام الناس کو بتائیں کہ حشر و نشر ملائکہ حق و غیرہ کچھ نہیں۔ یہ صرف توہمات ہیں۔ لوگوں کو بتائیں کہ حضرت آدم سے پہلے بھی دنیا پر انسان آباد تھے۔ اس سے آپ عالم کی قدامت ثابت کر سکیں گے۔“
 (الفرق بین الفرق، ص ۱۸۰)

متقدمین باطنیہ کی تاویلات:

متقدمین باطنیہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں تاویل کی راہ پر گامزن تھے۔ مشتے نمونہ ازخردار سے کے طور پر باطنیہ کی چند تاویلات ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ”ووضو“ سے امام کی پیروی مراد ہے۔

(۲) ”تیمم“ کا مطلب یہ ہے کہ جب اصلی امام موجود نہ ہو تو اس کے جانشین سے استفادہ کیا جائے۔

- (۳) ”صلوٰۃ“ سے رسولِ ذہبی مراد ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے۔
 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔
- (۴) ”غسل“ جو شخص غیر شعوری طور پر کسی راز کو افشا کر دے اس سے دوبارہ رازداری کا عہد لینے کو ”غسل“ کہتے ہیں۔
- (۵) ”استحلام“ رازناش کرنے کو استحلام کہتے ہیں۔
- (۶) ”ذکوٰۃ“ باطنیہ کے نزدیک زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ باطنی عقائد و احکام کا علم حاصل کر کے اپنے نفس کو پاک کیا جائے۔
- (۷) ”کعبہ“ کعبہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہیں۔
- (۸) ”باب“ باب یعنی دروازہ سے حضرت علی مراد ہیں۔
- (۹) ”صفا دمردہ“ صفا سے نبی کریم اور مردہ سے حضرت علی مراد ہیں۔
- (۱۰) ”تیلیفہ“ دلیک لیک کنا، تیلیفہ کے معنی ہیں دعوت کو قبول کرنا۔
- (۱۱) ”سات مرتبہ طواف کعبہ“ سے سات ائمہ کے ساتھ اظہار الفت و محبت مراد ہے
- (۱۲) ”جنت“ تکلیف سے آرام پانے کا نام جنت ہے۔
- (۱۳) ”جہنم“ مشقت اٹھانے کو دوزخ کہتے ہیں۔
- (۱۴) ”أَنْهَأْتُم مِّنْ ذَلِيلٍ“ ہر دودھ کی نہریں یعنی علم کے خزانے۔ دودھ سے باطنی علم مراد ہے۔ جس طرح دنیوی زندگی کا قیام و بقاء شیر مادر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح روحانی زندگی کا انحصار علم کے حاصل کرنے پر ہے۔
- (۱۵) ”أَنْهَأْتُم مِّنْ خَسِيٍّ“ (شراب کی نہریں) اس سے ظاہری اور دنیوی علم مراد ہے۔
- (۱۶) معجزات۔ فرشتے۔ جن۔ شیطان۔ آدم۔ دجال۔ یاجوج و ماجوج وغیرہ کچھ نہیں سب انسانے ہیں۔
- (۱۷) ”ملائکہ“ سے باطنیہ کے وہ داعی مراد ہیں جو ان کے عقائد کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔
- (۱۸) ”شیاطین“ سے باطنیہ کے مخالفین مراد ہیں۔
- (۱۹) ”طوفان“ اس سے علم کا سیلاب مراد ہے۔

(۲۰) ”سفینہ“ (کشتی) اس سے مراد وہ بچاؤ کی جگہ ہے جہاں امام کی دعوت کو قبول کرنے والا پناہ لیتا ہے۔

(۲۱) ”نار ابراہیم“ اس سے حقیقی آگ مراد نہیں بلکہ نمود کی ناراضگی مقصود ہے

(۲۲) ”عساموسی“ اس سے لکڑی کی لالھی نہیں بلکہ دلیل و حجت مراد ہے۔

(۲۳) ”الغمام“ (بادل) یعنی وہ امام جس کو حضرت موسیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا تھا۔

(۲۴) ”من وسلویٰ“ سے آسمانی علم مراد ہے۔

(۲۵) ”عیسیٰ“ باطنیہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بلا باپ پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کا والد یسوع بڑھتی تھا۔

(۲۶) ”احیاء الموتی“ مردوں کو زندہ کرنے سے مراد جہلاء کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہے۔

(۲۷) ”ابراء الاعلیٰ“ داندھے کو بینا کرنا، اس سے گمراہوں کو راہ راست پر لانا مراد ہے۔

(۲۸) ”دجال“ بقول باطنیہ اس سے حضرت ابوبکر مراد ہیں (نعوذ باللہ من ذالک) اس لیے کہ دجال کا نام ابوبکر کا اور ابوبکر بھی صرف ظاہر کی آنکھ سے دیکھتے تھے باطنی آنکھ سے نہیں۔

(۲۹) ”یا جوج و ماجوج“ اس سے اہل ظاہر مراد ہیں۔

(۳۰) ”عبادت“ باطنیہ کہتے تھے کہ جو شخص عبادت کے مفہوم سے آگاہ ہو جائے اس کے

لیجے عبادت ضروری نہیں رہتی

(۳۱) ”نکاح محرمات“ باطنیہ کے نزدیک بیٹی بہن اور سب محرمات کے ساتھ نکل حلال ہے

(فضائح الباطنیہ ص ۱۳۰ - نیز الفرق بین الفرق ص ۲۷۹)

قیروانی نے سلیمان بن حسن کے نام ایک خط میں تحریر کیا:

”اس سے زیادہ حیرت انگیز بات اور کیا ہوگی کہ ایک شخص اپنے آپ کو دانا کہتا ہو

اس کی کوئی خوبصورت بہن یا بیٹی موجود ہو اور ایسی حسین بیوی موجود نہ ہو۔ پھر وہ

خوبصورت بہن یا بیٹی کو کسی اجنبی کے نکاح میں دے دے۔ اور اگر وہ ذرا بھی کچھ

تور بات اس کی سمجھ میں آجائے کہ وہ اجنبی کی نسبت اپنی بہن یا بیٹی کا زیادہ

خفدار ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس کو یہ لوگ نبی سمجھتے ہیں۔ اس نے ان کے لیے طہیبات کو حرام ٹھہرایا اور ایک غائب ہستی کا خوف دلایا ہے۔ جس کو بزعم خود اللہ کہتے ہیں۔

اس مزمومہ اللہ نے ان کو ایسی باتیں بتائیں جو ہرگز وقوع پذیر نہ ہوں گی۔ مثلاً یہ کہ لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ پھر ان کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ پھر جنت و دوزخ میں جائیں گے۔ یہ سب وہی باتیں ہیں۔“

(التبصیر فی الدین، ص ۸۷)

باطنیہ وجود اللہ کے منکر ہیں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو کھجی تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک انسان شرعی ادا و احکام کے مکلف و مامور نہیں ہیں۔ بعض باطنیہ اس حد تک غلو سے کام لیتے تھے کہ محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق کو الٰہ قرار دیتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ موصوف ہی نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے کہا تھا :

میں ہی تیرا رب ہوں۔

کتاب الفرق بین الفرق کے مصنف ابو منصور بغدادی نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جس نے باطنی مسلک اختیار کیا اور پھر اُسے ترک کر دیا تھا۔ اس شخص نے علامہ بغدادی کو بتایا کہ جب باطنیہ کو میرے بارے میں یقین ہو گیا کہ یہ شخص ہمارا ہمنوا بن گیا ہے تو انہوں نے کہا یہ لوگ جن کو انبیاء کہہ کر پکارا جاتا ہے مثلاً نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد (علیہم السلام)، طالع آزمائش کے لوگ تھے اور لوگوں کے لیڈر بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے شرعی احکام کے بہانہ سے لوگوں کو غلام بنا چاہا۔

اس شخص نے امام بغدادی سے کہا پھر وہی شخص اپنے سابقہ قول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق ہی تھا۔ جس نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ”میں ہی تیرا رب ہوں“ میں نے اس باطنی لیڈر کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا تم مجھے خالق و مالک کے ساتھ کھڑے کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو الٰہ تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہو۔ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ محمد بن اسماعیل ولادت سے قبل الٰہ تھا۔ اور اسی نے

موسمی کو مبعوث کیا۔ اگر تم موسمی کو کاذب خیال کرتے ہو تو جس شخص نے تمہارے دعویٰ کے مطابق اسے مبعوث کیا، وہ بھی کاذب ہوگا۔ وہ باطنی لیڈر رکھنے لگا۔ تم کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔ اسے سخت ملامت ہوئی کہ اس نے یہ راز کیوں افشا کیا۔ آخر میں نے توبہ کر لی اور ان کی بدعت سے نجات پائی۔ (الفرق بین الفرق، ص ۲۸۸)

تفسیر قرآن کے بارے میں متاخرین باطنیہ کا زاویہ نگاہ

ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ باطنیہ کئی ناموں سے معروف ہیں۔ وہ ہنوز بعض اسلامی بلاد و امصار میں پائے جاتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی باطنیہ موجود ہیں اور ان کو بوجھہ یا اسماعیلیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب ہی رہنما آغا خاں اسماعیلی ہے۔ باطنیہ فرقہ کے افراد کُردستان میں بھی پائے جاتے ہیں اور ان کو علویہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ حضرت علی کی الوہیت کا خفیہ رکھتے ہیں۔ باطنیہ ترکی میں بھی موجود ہیں۔ ان کو بکد اشیہ کہتے ہیں۔ مصر میں البانی الاصل باطنیہ موجود ہیں اور معادری نامی پہاڑ پر بود باش رکھتے ہیں۔ جب ۱۹۵۲ء میں مصر میں انقلاب آیا تو باطنیہ کے اس گروہ کو جو بکد اشیہ کہلاتا تھا، مصر سے نکال دیا گیا۔ باطنیہ ایران میں بھی موجود ہیں اور بابیہ کہلاتے ہیں۔ فلسطین میں ان کو ”بہائی“ کہا جاتا ہے۔ ۲۳ جولائی ۱۹۵۲ء کے انقلاب مصر میں بہائی فرقہ کو مصر سے نکال کر ان کے مرکز پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ پھر اس کی تکمیل ایک عام اجلاس میں ۱۹۶۱ء میں ہوئی۔

یہ فرقے جو تا ہنوز اسلامی دیار و بلاد میں پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک قرآن کی باطنی تاویل کے بارے میں ایک مخصوص نظریہ رکھتا ہے۔ ان کے علماء نے بھی لازماً قرآن کریم کی تاویلات کی ہوں گی۔ مگر افسوس کہ اس ضمن میں ہمارے پاس تفصیلی معلومات موجود نہیں۔ البتہ بابیہ و بہائیہ کے بارے میں جو کم و بیش معلومات ہم رکھتے ہیں وہ پیش کرینگے۔ بنا بریں ہماری بحث و تحقیق کا دائرہ صرف اسی فرقہ تک محدود رہے گا۔ اور ہم تفسیر قرآن کے بارے میں ان کے موقف پر روشنی ڈالیں گے۔ اس سے قبل ہم بابیہ و بہائی فرقے کی مختصر تاریخ بیان کرینگے اور پھر ان کی تفسیر کی

فرقہ بابیہ و بہائیہ

بہائی فرقہ کیوں کر عالم وجود میں آیا :

بہائی فرقہ نے شیعہ اثنا عشریہ سے جنم لیا۔ اس کتاب میں بہائی فرقہ کا ذکر کرنے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اسلامی فرقہ ہے چونکہ یہ فرقہ مسلمانوں میں پروان چڑھا اور اس کا بانی و مؤسس بھی ایک اسلامی فرقہ کی جانب منسوب تھا۔ لہذا ہم نے اس کے ذکر و بیان کو ضروری تصور کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ بہائی فرقہ ان اصول و مبادی کو تسلیم نہیں کرتا جن پر مسلمانوں کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اور جن کی حقیقت اساسی و بنیادی ہے۔

بہائی فرقہ کا بانی مرزا علی محمد شیرازی ۱۲۵۷ھ مطابق ۱۸۴۰ء ایران میں پیدا ہوا۔ یہ اثنا عشری شیعہ سے تعلق رکھتا تھا۔ مگر اثنا عشریوں کی حدود سے تجاوز کر گیا۔ اس نے اسماعیلی فرقہ کے عقائد باطلہ اور فرقہ سبہ کے عقیدہ حلول کا ایک ایسا مجموعہ مرکب تیار کیا جسے اسلامی عقائد سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔

یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ امام مستور کا عقیدہ اثنا عشری شیعہ کے اساسی عقائد میں سے ہے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق بارہواں امام "سَوَّ مَنْ سَأَى" کے شہر میں نائب ہو گیا تھا اور ابھی تک وہ اس کے منتظر ہیں۔ مرزا علی محمد بھی دیگر اثنا عشری کی طرح ہی عقیدہ رکھتا تھا۔ اکثر اہل فارس جن میں یہ نوجوان (مرزا علی محمد) پروان چڑھا اسی نظریہ کے حامل تھے۔ اس نے اثنا عشری فرقہ کی حمایت میں بڑی غیرت کا ثبوت دیا۔ جن کے نتیجہ میں یہ لوگوں کی توجیہ کا مرکز بن گیا۔

نفیسات سے اسے گرا لگاؤ تھا۔ یہ فلسفیانہ نظریات کے درس و مطالعہ میں بھی لگا رہتا۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے صلہ میں مرزا علی محمد نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ امام مستور کے علوم و فنون کا واحد ناضل بے بدل ہے۔ اور اس کی طرف رجوع کیے بغیر وہ علوم حاصل نہیں کیے جاسکتے۔ اس لیے کہ شیعہ فرقہ کے قول کے مطابق دیگر ائمہ اثنا عشریہ کی طرح امام مستور

ائمہ سابقین کی وصیت کی بنا پر قابل اتباع علوم کا جامع اور مصدق ہدایت و معرفت جو تلبہ ہے۔

اس مفروضہ کی بنا پر کہ مرزا علی محمد ائمہ سابقین کے علوم کا حامل ہے، اسے حجت سمجھا جانے لگا۔ اور بلا پس و پیش اس کی اطاعت کی جانے لگی۔ ایک کامل امام کی حیثیت حاصل ہو جانے پر مرزا علی محمد ایک متنبوع عام قرار پائے۔ اور بلا استثناء ان کے جملہ اقوال کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی۔

کچھ عرصہ گزرنے پر مرزا علی محمد غلو سے کام لینے لگا اور اس نظریہ کو مطلقاً نظر انداز کر دیا کہ وہ امام منور کے علوم کا ناقل ہے۔ اس نے مستقل تہمدی ہونے کا دعویٰ کر دیا جس کا ظہور غیر بیتہ امام کے ایک ہزار سال بعد ہونے والا تھا۔ امام غائب ۱۲۶۰ھ میں نظروں سے اوجھل ہوئے تھے۔ مرزا نے اس سے بڑھ کر یہ دعویٰ بھی داغ دیا کہ ذاتِ خداوندی اس میں حلول کر آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے مخلوقات کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آخری زمانہ میں موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کا ظہور اس کے ذریعہ ہوگا۔ اس نے نزول عیسیٰ کے عام عقیدہ سے تجماد ذکر کے اس پر رجوع موسیٰ کا اضافہ کیا اور کہنے لگا کہ ان دونوں انبیاء کا ظہور اس کے توسط سے ہوگا۔

مرزا علی محمد کی شخصیت میں اتنی جاذبیت پائی جاتی تھی کہ لوگ اس کے بلند بانگ دعائی کو بلا چون و چرا مان لیتے تھے۔ مگر علماء نے امامیہ ہوں یا غیر امامیہ یک زبان ہو کر اس کی نکلان آواز بلند کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مزعومات و دعائی قرآن کے پیش کردہ حقائق و عقائد کے سراسر منافی تھے۔ مرزا نے علماء کی مخالفت کی پرواہ نہ کی بلکہ انہیں منافق، لالچی اور خوشامد پسند کہہ کر لوگوں کو ان سے متنفر کرنے لگا۔ یاس ہمہ لوگ اس کی باتوں کو سنتے اور بلا حجت برہان اس کی پیروی کا دم بھرتے رہے۔

بانی بہائیت کے عقائد و اعمال:

ان دعائی باطلہ کے بعد مرزا علی محمد چند عقائد و اعمال کا اعلان کرنے لگا۔ ہم ذیل میں وہ امور ذکر کرتے ہیں۔ اعتقادی امور یہ تھے :-

(۱) مرزا علی محمد روزِ آخرت اور بعد از حساب دخولِ جنت و جہنم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا

دعویٰ تھا کہ روزِ آخرت ہے ایک جدید روحانی زندگی کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے۔

(۲) وہ بالفصل ذاتِ خداوندی کے اس میں حلول کر آنے پر اعتقاد رکھتا تھا۔

(۳) رسالتِ محمدی اس کے نزدیک آخری رسالت نہ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ذاتِ باری محمد میں حلول کر آئی ہے۔ اور میرے بعد آنے والوں میں بھی حلول کرتی رہے گی۔ گویا حلولِ الٰہی کا یہ دورہ اپنے لیے مخصوص نہیں ٹھہراتا تھا۔

(۴) وہ کچھ مرکبِ حروف و ذکر کے ہر حرف کے عدد لکھتا اور اعداد کے مجموعہ سے عجیب و غریب نتائج اخذ کرتا تھا۔ وہ ہندسوں کی تاثیر کا قائل تھا۔ انیس کا ہندسہ اس کے نزدیک خصوصی مرتبہ کا حامل تھا۔

(۵) اس کا دعویٰ تھا کہ وہ تمام انبیاء سابقین کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ مجموعہٴ رسالات ہے اور اس اعتبار سے مجموعہٴ ادیان بھی۔

بابریں بہائی فرقہٴ یہودیت و نصرانیت اور اسلام کا مجموعن مرکب ہے اور ان میں کوئی حدِ فاصل نہیں پائی جاتی۔ مرزا نے اسلامی احکام میں تبدیلی پیدا کر کے عجیب و غریب قسم کے عملی امور مرتب کیے تھے۔ وہ امور حسبِ ذیل ہیں :-

(۱) عہدتِ میراث اور دیگر امور میں مرد کے برابر ہے۔ یہ آیتِ قرآنی کا صریح انکار ہے۔ جو موجبِ کفر ہے۔

(۲) وہ بنی نوع انسان کی مساواتِ مطلقہ کا قائل تھا۔ اس کی نگاہ میں جنس و نسل و دین و مذہب اور جسمانی رنگت موجب امتیاز نہیں ہے۔ یہ بات اسلامی حقائق سے میل کھاتی ہے۔ اور ان کی منافی نہیں۔

علی محمد باب کے اتباع و تلامذہ

یہ انکار و آراء مرزا نے اپنی تحریر کردہ تصانیف میں جمع کر دیے تھے جس کا نام "البیان" ہے۔ بحیثیتِ جمہوری اس کے عقائد دینی انکار و منقولات سے اعراض و انحراف بلکہ انکار پر مبنی تھے۔ اس نے حلول کے نظریہ کو از سر نو زندہ کیا۔ جسے عبداللہ بن سبآن نے حضرت علی کے لیے گھڑا تھا، اور جو صریح کفر ہے۔ انہی وجوہات کے پیش نظر حکومت اس کے خلاف ہو گئی اور

مرزا علی محمد اور اس کے اتباع کو ادھر ادھر بھگا دیا۔ مرزا شاہ ۱۸۵۷ء میں صرف تیس سال کی عمر میں راہی ملک عدم ہوا۔

مرزا علی محمد نے اپنی نیابت کے لیے اپنے دو مریدان باصفا کو منتخب کیا تھا۔ ایک صبح ازل نامی احد دوسرا ہباء اللہ۔ ان دونوں کو فارس سے نکال دیا گیا تھا۔ صبح ازل قبرص میں سکونت پذیر ہوا اور ہباء اللہ نے ترکی میں "ادرنہ" کو اپنا مسکن بنایا۔ صبح ازل کے پیر و بہت کم تھے۔ اس کے مقابلہ میں ہباء اللہ کا حلقہ ارادت خاصا وسیع تھا۔ بعد ازاں اس مذہب کو ہباء اللہ کی طرف منسوب کر کے بہائی کہنے لگے۔ اس فرقہ کو بانی و موسس کی جانب منسوب کر کے بابی بھی کہا جاتا ہے۔ مرزا علی محمد نے اپنے لیے "باب" کا لقب تجویز کیا تھا۔

صبح ازل اور ہباء اللہ میں نقطہ اختلاف یہ تھا۔ کہ اول الذکر بابی و بہائی مذہب کو اس طرح چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ جیسے اس کے بانی نے اسے منظم کیا تھا۔ اس کا کام صرف تبلیغ و اشاعت تھا۔ بخلاف انیس ہباء اللہ نے مرزا کی طرح بہت سی اختراعات کیں۔ وہ بھی مرزا کی طرح حلال کا قائل تھا۔ اور اپنے آپ کو منظر الوہیت قرار دیتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا۔ کہ مرزا علی محمد نے میرے متعلق بشارت دی تھی۔ مرزا کا وجود میرے لیے تمہید کا حکم رکھتا تھا۔ جس طرح نصاریٰ کی نظر میں حضرت مسیحی علیہ السلام ظہور صریح کا پیشہ خیمہ تھا۔ مشہور مستشرق گولڈ میہر اپنی کتاب العقیدہ والشریہ میں لکھتے ہیں ہباء اللہ کی شخصیت میں روح الہی کا ظہور ہوا۔ تاکہ اس عظیم کام کی تکمیل کی جائے۔ جسے بہائیت کا بانی تثنیہ تکمیل چھوڑ گیا تھا۔ بنا و بریں ہباء اللہ کی ذات سے قائم ہے۔ اور ہباء اللہ اس کو قائم رکھنے والا ہے۔ ہباء اللہ اپنے آپ کو ذات الہی کا ظہور قرار دیتا تھا۔ اور کہا کرتا تھا کہ وہ ذات باری کے حسن و جمالی کا جلوہ گاہ ہے۔ اور اس کے ماس شیشہ کی طرح ذات ہباء اللہ میں صوفشاں ہیں۔

ہباء اللہ کی شخصیت بذات خود "جمال اللہ" ہے۔ جو ارض و سماوات میں یوں تاباں و درخشاں ہے۔ جیسے عمدہ قسم کے پتھر کو پالش کیا جائے۔ تو وہ تابانی کے جوہر دکھاتا ہے۔ ہباء اللہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ جس کا ظہور اس جوہر (مرزا علی محمد) سے ہوا۔ اس جوہر کی معرفت ہباء اللہ کے بغیر حاصل نہیں کی جاسکتی۔ ہباء اللہ کے پیروا سے فوق البشر تصور کرتے اور اسے اکثر صفات

الہی کا مجموعہ قرار دیتے تھے۔ (العقیدہ والشرعیۃ، ص ۲۴۴)

ہماء اللہ کے افکار و عقائد :

جس طرح عوام کا لانا نام شخصیت پرستی کے عادی ہوتے ہیں اسی طرح ہماء اللہ کے سیر و بھی اسی جرم کے ترکیب تھے۔ بعد ازاں ہماء اللہ اور صبح ازل کے اختلافات کی طبع وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ یہ دونوں قریب قریب رہتے تھے۔ ایک آدنہ میں قیام پذیر تھا اور دوسرا قرص میں۔ چنانچہ دولت ترکیب نے ہماء اللہ کو عکا کی طرف ملک بدر کر دیا جہاں اس نے اپنے مشرکانہ عقائد کو مدون کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس نے قرآن کریم کے خلاف بہت کچھ لکھا اور اپنے اُستاد کی مرتب کردہ کتاب البیان کی تردید پر قلم اٹھایا۔

ہماء اللہ نے عربی و فارسی دونوں زبانوں کو تعبیر و بیان کا ذریعہ بنایا۔ اس کی مشہور ترین تصنیف ”الاقدم“ ہے۔ جس کے متعلق اس کا دعویٰ تھا کہ وہ وحی الہی پر مبنی اور ذاتِ مخلوق کی طرح قدیم ہے۔ وہ علانیہ کہا کرتا تھا کہ اس کی تصنیفات جملہ علوم کی جامع نہیں۔ بلکہ اس نے بہت سے علوم کو اپنے برگزیدہ اصحاب کے لیے الگ محفوظ کر رکھا ہے۔ اس لیے کہ دوسرے لوگ ان باطنی علوم کے متحمل نہیں ہو سکتے۔

ہماء اللہ کا دعویٰ تھا کہ جس مذہب کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ اسلام سے الگ ایک جداگانہ مسلک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات ہماء اللہ اور اس کے استاد میں ابلاستیار ہے اس کے استاد مرزا علی محمد کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے افکار سے اسلام کی تجدید و احیاء کر رہا ہے اور وہ اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں ہے۔ وہ بزعم خویش اسلام کو ایک جدید مذہب قرار دیتا تھا اور اس کی اصلاح کا مدعی تھا۔

بخلاف انہی ہماء اللہ اپنے مذہب کو دین اسلام سے ایک الگ مذہب تصور کرتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے دین اسلام پر بڑا احسان کیا اور اسے اپنے مذہب کی باطلگی کی آلودگی سے پاک رکھا۔ ہماء اللہ اپنے مذہب کو بین الاقوامی حیثیت دیتا اور اس بات کا دعویٰ دار تھا کہ یہ مذہب جمیع اویان و مذاہب کا جامع اور سب اقوام کے لیے یکساں حیثیت رکھتا ہے۔ وہ وطن پرستی کے خلاف تھا اور کہا کرتا تھا کہ زمین سب کی ہے اور وطن سب کا ہے۔

چونکہ بہاء اللہ اپنے مذہب کو بین الاقوامی مذہب سمجھتا اور مظہر الہی ہونے کا مدعی تھا اس لیے اس نے مشرق و مغرب کے سلاطین و حکام کو دعوتی خطوط ارسال کیے اور ان میں یہ دعویٰ کیا کہ ذاتِ الہی اس میں حلول کر آئی ہے۔ وہ قرآنی اجزاء کی طرح اپنی تحریروں کو سورہ و سورت کی جمع (کما کرتا تھا) اسے غیبِ دانی کا بھی دعویٰ تھا۔ وہ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی پیش گوئیاں بھی کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے بعض باتیں درست ثابت ہو جاتیں۔

اس نے پیش گوئی کوئی تھی کہ نپولین سوم کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ چار سال کے بعد یہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اس پیش گوئی کے ظہور سے اس کے پیروؤں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا بہاء اللہ ہوشیاری سے کام لے کر نذولِ حکومت کی کوئی تاریخ متعین نہیں کی تھی۔ ممکن ہے اس نے سیاسی بصیرت کی بناء پر یہ بھانپ لیا ہو کہ یہ حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ مگر یہ دعویٰ کسی شخص نے بھی نہیں کیا کہ بہاء اللہ کی سب پیش گوئیاں حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں یہاں تک کہ اس کے بڑے سرگرم پیرو بھی یہ دعویٰ نہ کر سکے۔ بہاء اللہ کو اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے اپنے اتباع کو ترغیب دلا یا کرتا تھا کہ وہ دوسری زبانیں سیکھیں۔

بہاء اللہ کی دعوت کے خصوصی خدو خال :

بہاء اللہ کی دعوت کے خصوصی نکات یہ تھے :

(۱) بہاء اللہ نے تمام اسلامی قواعد و ضوابط کو ترک کر دیا تھا۔ بنا بریں اس کا مذہب اسلام قطعی طور پر بے تعلق تھا۔ یہ بات بہاء اللہ اور اس کے استاد مرزا علی محمد میں مابدا امتیاز ہے۔

(۲) وہ انسانوں کے رنگ و نسل اور آدیان و مذاہب کے اعتبار سے مختلف ہونے کے باوجود ان کی مساوات کا قائل تھا۔ مساوات بنی آدم کا نظریہ اس کی تعلیمات میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ تعصب و اختلافات سے پرکائنات عالم میں بہاء اللہ کا یہ نظریہ بڑا جادو نظر تھا۔

(۳) بہاء اللہ نے عالمی نظام مرتب کیا اور اس میں اسلام کے بنیادی قوانین کی خلاف ورزی کی چنانچہ وہ تعددِ ازدواج سے روکنا تھا اور شافو و نادر حالات میں اس کی اجازت دیتا تھا۔

بصورتِ اجازت بھی وہ دو بیویوں سے تجاوز نہیں کرنے دیتا تھا۔ طلاق کی اجازت وہ ناگزیر حلالاً میں دیتا تھا۔ اس کے نزدیک مطلقہ کے لیے کوئی عدلت مقرر نہ تھی بلکہ طلاق کے بعد وہ فی الفور نکاح کر سکتی تھی۔

(۴) اس نے نماز باجماعت منسوخ کر دی۔ صرف نمازِ جنازہ جماعت کی اجازت تھی۔

(۵) وہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار نہیں دیتا تھا۔ بلکہ اس کا اپنا سکونتی مکان قبلہ کی حیثیت رکھتا تھا چونکہ وہ حلولِ باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھتا تھا۔ لہذا قبلہ وہی جگہ ہونی چاہیے جہاں خدا کی ذات حلول کر چکی ہو۔ اور وہ بزرگم خویش بہاء اللہ کا مکان تھا۔ جب بہاء اللہ اپنی سکونت تبدیل کر لیتا تو بہائی بھی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا کرتے تھے۔

(۶) بہاء اللہ نے اسلام کی پیش کردہ طہارتِ جسمانی و روحانی کو بحال رکھا تھا۔ بنا بریں وہ وضو اور غسلِ جنابت کا قائل تھا۔

(۷) بہاء اللہ نے حلال و حرام سے متعلق جملہ احکامِ اسلامی کو نظر انداز کر دیا اور اس ضمن میں عقلِ انسانی کو حاکم تصور کرنے لگا۔ اگر حق کی توفیق شامل حال ہوتی تو اُسے معلوم ہوتا کہ اسلام کی حلال کردہ اشیاء عقل کے نزدیک بھی حلال ہیں۔ اور محرمات کے حق میں عقل بھی حرمت کا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ اس ضمن میں ایک اعرابی کا واقعہ ذکر کرنے کے قابل ہے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایمان لائے۔

اس نے جواباً کہا۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ جس میں آنحضرتؐ اس کو انجام دینے کا حکم صادر کریں اور عقلِ انسانی کہے کہ ایسا نہ کر۔ اور نہ کوئی ایسا معاملہ میری نگاہ سے گزرا۔ کہ عقل منع کرے اور آپ وہ کام کرنے کا حکم دیں۔ اگر بہاء اللہ اس اعرابی کی بات پر غور کرتا تو حقیقت کو بائینا۔ مگر اس کا مقصد صرف تخریب تھا۔ ظاہر ہے، کہ تخریب کے لیے صرف پھپھوڑا مطلوب ہے۔ جو ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔

(۸) اگرچہ بہاء اللہ اور اس کا اُستاد مرزا علی محمد انسانی مسادات کے قائل تھے۔ مگر جمہوریت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ کو معزول کرنا ان کے نزدیک جائز نہ تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کو معزول کرنا ان کے نظریات سے میل نہیں کھاتا تھا۔ ان کے مذہبی نظریات

کی اساس یہ تھی کہ ذات باری تعالیٰ انسانوں میں حلول کر آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اندریں صورت انسانوں کو لغت دین کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان میں حال نہ بھی ہو۔ اس لیے کہ ان میں حلول کا امکان ہوتا ہے۔ بناریں تقدیس سلاطین کا نظریہ ان کی عقل و منطق کے ساتھ ہم آہنگ تھا۔

تقدیس سلطان کے باوجود بہاء اللہ علماء کی فضیلت و عظمت کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ بلکہ اس کا استاد مرزا علی محمد ان علماء کے خلاف جنگ آزار رہا۔ جو اس کے نظریات کا ابطال کرتے تھے۔ اس طرح بہاء اللہ بھی علمی اجارہ داری کے خلاف معرکہ آزار رہا۔ خواہ وہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہو یا یہود و نصاریٰ میں۔

بہاء اللہ کا جانشین عباس آفندی:

بہاء اللہ کا اردو اقتدار ۱۶ مئی ۱۸۹۲ء کو اس کی موت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عباس آفندی جسے عبدالنبی یا غصن اعظم (بڑی شاخ) بھی کہتے تھے اس کا نائب قرار پایا چونکہ سب عقیدت مند بہاء اللہ سے خلوص رکھتے تھے۔ اس لیے کوئی بھی بہاء اللہ کا خلیفہ بننے میں اس کا مزاحم نہ ہوا۔ عباس آفندی مغربی تہذیب و تمدن سے پوری طرح باخبر تھا۔ اس لیے اس نے اپنے والد کے افکار کو مغربی طریق فکر و نظر میں ڈھال دیا۔ اس نے حلول کے عقیدہ کو اپنے مذہب سے خارج کر دیا۔ اس کا والد جن خوارق عادات کا مدعی تھا۔ اس نے یہ دعویٰ بھی ترک کر دیا۔ مغربی تہذیب و ثقافت کے زیر اثر اس نے یہود و نصاریٰ کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔

بہائی مذہب کی تدریجی ترقی کی داستان بڑی عجیب ہے۔ اس مذہب کے اولین بانی نے اسلام کی تجدید و اصلاح کے نام سے اس کی تعلیمات کی تخریب کا بیڑا اٹھایا تھا۔ جب اس کا نائب بہاء اللہ مسند نشین اقتدار ہوا تو اس نے جملہ تعلیمات اسلامی کا انکار کر کے اپنے استاد کے مشن کی تکمیل شروع کر دی۔ جب تیمر سے گدی نشین نے مسند سنبھالی تو اس نے اصول اسلامی کے انکار پر ہی بس نہ کی بلکہ قرآن کریم کی بجائے کتب یہود و نصاریٰ کی جانب متوجہ ہوا اور ان سے اعوذ و استفادہ کرنے لگا۔

یہود و نصاریٰ میں بہائیت کی اشاعت :

اس کے زیر اثر یہ مذہب یہود و نصاریٰ اور مجوس میں پھیلنے لگا۔ اور ان مذاہب کے لوگ جو حق و برحق بہائیت میں داخل ہونے لگے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب عباس آفندی اور اس کا والد بہاء اللہ مسلمانوں سے باپوس ہو گئے تو انہوں نے اپنی توجہ دیگر مذاہب والوں کی طرف منقطع کرنا شروع کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرزمین فارس اور اس کے قرب و جوار میں یہود و نصاریٰ کثرت سے بہائیت کے حلقہ گوشہ ہو گئے۔ انہوں نے بلاد و ترکستان میں علامتیں تعمیر کر رکھی تھیں جہاں اجلاس منعقد کیا کرتے تھے۔ یہ مذہب یورپ و امریکہ میں بڑی تیزی سے پھیلنے لگا اور بہت سے لوگ ان کے دام تزییر میں پھنس گئے۔

مشہور کتاب ”العقیدہ والشریعتہ“ کا مصنف لکھتا ہے :-

”شہر عکا کے نبی (بہاء اللہ) نے محسوس کیا کہ یورپ و امریکہ کے بعض لوگ بڑے جوش و خروش سے بہائیت کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ عیسائیوں میں بھی ان کے حلقہ گوشہ پیدا ہو گئے۔ امریکہ میں جن ادبی انجمنوں کا قیام عمل میں آیا وہ بہائیت کے اصول و ضوابط کے استحکام میں مہم و معاون بن گئے۔ امریکہ سے ۱۹۱۸ء میں ایک مجلہ ”نجم الغرب“ نامی نکلنا شروع ہوا جس کے سال بھر میں انیس شمارے شائع ہو کر تھے۔ انیس کی وجہ تھیں یہ تھی کہ یہ ہندسہ ان کے یہاں بڑا اہم تر تھا۔ بہائی یوں بھی اعداد کی قوت تاثیر کے قائل تھے۔ جیسا کہ ہم سرزا علی محمد کا حال بیان کرتے وقت تحریر کر آئے ہیں۔ بہائیت اضلاع متحدہ امریکہ کے دور افتادہ علاقوں میں پھیل گئی اور شکاگو میں ایک مرکز بھی قائم کر لیا“

(العقیدہ والشریعتہ ص ۲۵۰)

بہائی فرقہ والوں نے عیسائیوں کو درغلانے کے لیے ان کی کتابوں سے استدلال کرنا شروع کیا اور یہ دعویٰ کھڑا کر دیا کہ عہد قدیم و جدید میں بہاء اللہ اور اس کے بیٹے کی بشارت موجود ہے۔ گولڈ سیبراس ضمن میں لکھتا ہے :-

مدعباس آفندی کے ظہور سے بہائی مذہب نے تورات و انجیل سے مدولے کر ایک نیا قالب اختیار کیا۔ تورات و انجیل میں عباس آفندی کے ظہور کی خبر دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ وہ امیر و رئیس ہوگا اور عجیب و غریب القاب سے ملقب ہوگا۔ یہ ذکر کتاب اشعیاء کے ایسویں باب کی آیت نمبر ۶ میں مذکور ہے۔ اس میں مرقوم ہے۔

ہمارے یہاں ایک لڑکا (ہباء اللہ) پیدا ہوگا۔ جس کے گھر میں ایک بچہ جنم لے گا جو بڑا نام پاٹے گا اسے بڑے القاب و آداب سے یاد کیا جائے گا اور شیخ الاسلام کے نام سے پکارا جائے گا۔
 (العقیدہ والشرعیہ)

یہ سے بہائیت کی اصلی تصویر ان کے اپنے بیانات کی روشنی میں سابقہ بیانات سے حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ کہ یہ فرقہ مجموعہ ادہام سے یہ مذہب امریکہ و یورپ اور ان مسلمانوں میں پھیلا تھا جو دین برحق سے برگشتہ ہو گئے تھے۔ بائیں ہمہ یورپین لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں میں بہائیت کے کثیر التعداد افراد ہیں مگر وہ ہدفِ ظلم و ستم بننے کے خوف سے اس کا اظہار نہیں کرتے ان کا یہ دعویٰ لٹائل سے عاری ہے۔

بہائی مذہب کے متعلق مصری حکومت کا فیصلہ:

یہ امر قابل ذکر ہے کہ مصر کے محکمہ قضاء نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے کہ بہائیت آسمانی مذہب نہیں۔ بلکہ سرے سے کوئی مذہب ہی نہیں۔ بخلاف ازیں یہ چند افکار پریشان کا مجموعہ ہے جس کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا، انار کی پیدا کرنا اور مسلمانوں میں الحاد و دوہریت کو پھیلانا ہے۔ انہی وجوہات کی بناء پر مصری حکومت کے اس حکم نے جو نکاح کی رجسٹریشن کے سلسلے میں قائم کیا گیا ہے۔ بہائی مذہب سے متعلق تین اشخاص کے بارے میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ وہ اسلامی اصولوں کے منکر ہیں۔ یہ فتویٰ دینے سے قبل اس بات کی تحقیق کر لی گئی تھی کہ بہائی مذہب کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعلیمات عقائد فاسدہ پر مشتمل اصول دین کے منافی اور مسلمانوں کے

انبیاء و کتب مقدسہ میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی موجب ہیں۔ مصری حکومت کے حکم تضاء کے
 اراکین قبل ازیں پارلیمنٹ میں ان خیالات کا اظہار کر چکے تھے۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بہائیت
 آسمانی مذاہب کے منافی ہے۔

فرقہ بائبہ و بہائیت کا تفسیر قرآن کے بارے میں طرز عمل :
 مندرجہ صدر انکار و عقائد کے باوصف بائبہ اور بہائیت قرآن کریم کی جانب رجوع کر کے اپنے
 عقائد باطلہ کے اثبات کے سلسلہ میں اس کی آیات و نصوص سے احتجاج کرتے تھے۔ جس سے
 ان کا مقصد وحید عوام الناس کو دام تزدید میں پھنسانا اور ناتجربہ کار جہلاء کو فریب دینا تھا۔
 یہ فرقہ شرم و جفا سے اس حد تک عاری تھا کہ اہل سنت کی کتب تفسیر پر جرح و نقد
 کرنے میں کوئی باک نہ سمجھتا تھا۔ اس فرقہ کے مشہور داعی ابوالفضل ایرانی نے اپنے ایک خط میں
 جو ایک دوست کے نام تھا تحریر کیا :

” پیارے دوست انسان اہل سنت کی تعلیمات باطلہ اور مضحکہ خیز تقاسیر کو دیکھ کر در طہ
 حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ ہمارے بعض امریکی دوست جو حال ہی میں ارض پاک کی زیارت کے
 لیے آئے بیروت میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور ہم نے ان کی معیت و رفاقت میں حیفاً کا
 سفر کیا۔ انہوں نے ہمیں ایسی باتیں بتائیں جنہیں سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حیرانی ہے، کہ
 ایسی بے کار تفسیروں کی موجودگی میں اسلام کیسے دُور دراز ممالک میں پھیل گیا؟ تہرت خداوندی اللہ
 اس کی آیات کے ظہور و شیوع کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟“

(رسائل ابوالفضل ص ۶۶)

ابوالفضل کا مقصد یہ بتانا ہے کہ وہ اور اس کے ہمنوا بائبہ فرقہ کے لوگ ہی قرآن فہمی
 کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اسرار و رموز کا محرم ان کے سوا دوسرے کوئی نہیں۔ اس کا خیال ہے
 کہ ہم ہی لاسخ فی العلم ہیں جو قرآن کے باطنی علوم سے آگاہ و آشنا ہیں۔ وہ کہنا ہے :-

” اگر قرآنی آیات کے اصلی و حقیقی معانی وہی ہوں جو ظاہر ہیں اور جن سے
 ہر عربی دان اور علوم ادیبہ سے بہرہ ور شخص آشنا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کا یہ قول کیوں کر درست ثابت ہو سکتا ہے کہ ”قرآن کے عجائبات

کبھی تم ہونے میں نہ آئیں گے اور خداوند کریم کا یہ ارشاد کیسے صحیح ثابت ہو گا کہ:
لَا يَجِدُكُمْ تَائِبِينَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ اور حید علماء کے سوا اور
فِي الْعِلْمِ - کوئی نہیں جانتا۔

(آل عمران آیت - ۷۰)

بہائی فرقہ کی تاویلات باطلہ :

ہمارے علم کی حد تک اس فرقہ کے کسی شخص نے پورے قرآن کریم کی تفسیر مرتب نہیں
کی ہے۔ اس کے بانی دوسیس نے سورہ بقرہ سورہ یوسف اور سورہ کوثر کی تفسیر لکھی تھی مگر آج کل وہ
کس دستیاب نہیں آج جو کچھ موجود ہے وہ بہاء اللہ اور اس فرقہ کے بعض داعیوں کے تفسیری
اجزاء ہیں جو ان کی تصانیف میں منتشر پڑے ہیں یا ان کتب و مقالات میں پائے جاتے ہیں جو ان
کے بارے میں کھی گئی ہیں۔ یہ تفسیری مواد اگرچہ بہت کم ہے مگر اس بات کا آئینہ دار ہے کہ یہ لوگ
قرآن حکیم کی تحریف کے کس حد تک جریں تھے اور کس طرح قرآنی آیات کو اپنے فاسد نظریات سے
ہم آہنگ کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ہم ذیل میں بہائی فرقہ کی چند تاویلات پیش کرتے ہیں
جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ یہ فرقہ کس طرح قرآن عزیز کا مذاق اڑاتا اور اس کے معانی و مطالب
کو سب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

مرزا علی محمد المعروف باب کی تاویلات :

مرزا علی محمد نے سورہ یوسف کی تفسیر اس انداز میں کی ہے جس کو نہ اسلامی شریعت قبول کر سکتی
ہے اور نہ عقل سلیم۔

قرآن کریم میں فرمایا :

إِنِّي مَلَيْتُ أَحَدًا عَشَرَ كُوَيْبًا وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ لَا يَدْفَعَانِي مَسَاجِدِينَ -
میں نے گیارہ ستاروں اور سورج چاند کو دیکھا
ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

(سورہ یوسف - آیت ۴)

مرزا علی محمد باب اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے :

اس آیت میں یوسف سے نبی کریم مراد ہیں۔ ایک روز حضرت حسین نے اپنے

والد سے کہا کہ میں نے گیارہ ستاروں اور چاند اور سورج کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔
اس آیت میں سورج سے حضرت فاطمہ چاند سے نبی کریم اور ستاروں سے
ائمہ اہل بیت مراد ہیں (مفتاح باب الابواب ص ۳۰۹)

قرآن کریم میں ارشاد ہے :

يَا بَنِي آدَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُفْسِدُوا لِلَّهِ مَا كُنْتُمْ تَحْسِبُونَ
اے میرے بیٹے اپنا خوب اپنے بھائیوں
(یوسف - ۵) کو زینت بناؤ۔

مرزا اس کی تفسیر میں لکھتا ہے :

”اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے بیٹے خداوند کریم نے جن باتوں سے تجھے
آگاہ کیا ہے وہ اپنے بھائیوں کو تمت بناؤ۔ خداوند کریم نے تمہارے بارے
میں جو فیصلہ کیا ہے اگر تو نے اس سے دوسروں کو آگاہ کر دیا تو وہ تجھے نقصان
پہنچانے کی کوشش کریں گے اور وہ یہ کہ خدا کی محبت میں اپنے آپ کو ہلاک
کر دیں گے۔ اور خدا کے علم میں مقدر ہے کہ زمین آپ کے خون سے رنگین ہوگی
خدا کی مشیت ہی ہے کہ آپ کا جسد مبارک زمین پر پڑا ہوگا اور آپ کی بیٹیاں
اور دیگر خواتین کفار کے ہاتھوں میں قید ہوں گی“

(مفتاح باب الابواب - ص ۳۱۰)

ہماء اللہ کی تاویلات :

ہماء اللہ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ”صراط“ زکوٰۃ، صیام، حج، کعبہ اور بلدا الحرام کے
جو الفاظ وارد ہوئے ہیں، ان کے ظاہری معانی مراد نہیں۔ بمخلاف ازیں اس قبیل کے جملہ الفاظ
سے ائمہ اہل بیت مراد ہیں۔ وہ لکھتا ہے :

”ابو جعفر طوسی کہتے ہیں میں نے ابو عبد اللہ سے کہا قرآن کریم میں صراط زکوٰۃ (اور
حج کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں کیا اس سے ائمہ اہل بیت کی ذات مراد ہے
وہ فرمانے لگے صراط زکوٰۃ، حج، صیام، بلدا الحرام، الشہر الحرام، کعبۃ اللہ، قبلۃ اللہ
اور وجہ اللہ سے ہماری (ائمہ اہل بیت) ذات ہی مقصود ہے“ (الکتاب ص ۸۲)

مشہور کتاب ”ہباء اللہ والعصر الجدید“ کا مصنف رقم طراز ہے :
 ”بہائی فرقہ والے حشر و نشر اور جنت و جہنم پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک
 روز قیامت اور یوم الجزاء سے بہاء اللہ کا تشریف لانا مقصود ہے۔ بہائی
 فرقہ کی کتب تفسیر کے پیش نظر ہر منظر الہی کی آمد یوم الجزاء سے عبارت ہے۔“
 (رسائل الاصلاح، ج ۳- ص ۹۷)

مصنف مذکور مزید لکھتا ہے :

”کتاب مقدسہ میں جہاں جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں خاص حقائق
 کی جانب اشارہ مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ جنت کا لفظ لیل کر حیات کاملہ اور
 جہنم کے لفظ سے حیات ناقصہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ بہاء اللہ کے
 نزدیک روحانی زندگی اس پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور
 روحانی موت اس کی دعوت کی تکمیل سے ہے۔“

(کتاب بہاء اللہ والعصر الجدید ص ۹۷)

عبدالہباء عباس کی تاویلات :

عبدالہباء عباس بھی اپنے پیش رو کی طرح قرآن کریم کی دُور از کار تاویلات کرتا ہے۔
 اس کے تفصیلی مطالعہ کے لیے مندرجہ ذیل کتب کی جانب مراجعت کی جائے :

- ۱- خطابات و محاسبات عبدالہباء۔
- ۲- المبادی البہائیتہ۔
- ۳- رسائل ابوالفضل۔
- ۴- رسائل الاصلاح۔
- ۵- الحج البقیۃ۔

یہ فرقہ بہائیت کی چند تاویلات ہیں جو مستحتمل نمونہ از خرد اسے کے طور پر ہم نے ذکر کی ہیں
 ان سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ یہ فرقہ باطنیہ کے نقش قدم پر گامزن رہا ہے۔ باطنیہ
 کی طرح ان کا اولین و اساسی مہلج نظریہ ہے کہ آیات قرآنی کی تاویل کا دروازہ کھول کر اسلامی تشریفات

کے قصر رفیع کو منہدم کر دیا جائے۔ اس فرقہ کے بانی دواعی نبوت و رسالت کے بھی مدعی تھے حالانکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔
 خلاصہ کلام! فرقہ بابیہ ادران کے پیش رو باطنیہ کو تاویلِ نصوص کے سلسلہ میں اولیت و تقدم کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ بخلاف ازیں یہ کوشش جس سے دین اسلام کی اصل اساس ہی اکھڑ جاتی ہے سب سے پہلے یہودی فلاسفہ نے انجام دی جو ان سے پہلے ہو گزرے تھے چنانچہ ”فیلون“ نامی یہودی فلسفی نے جو ولادت حضرت عیسیٰ سے تیس سال قبل پیدا ہوا تھا۔ تاویلِ تورات کے سلسلہ میں ایک کتاب تصنیف کی تھی۔ اس کتاب میں اس نے اس نظریہ کا اظہار کیا تھا کہ تورات میں بعض باتوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اور ان سے ظاہری مفہوم مقصود نہیں۔

تاریخ فلسفہ کے موضوع پر لکھنے والوں نے اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ اسکندر کے یہودی اُدباء میں ”فیلون“ نامی یہودی سے قبل تاویلِ رمزی کا طریقہ موجود تھا۔ اس تاویل کی مثال انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ وہ آدم سے عقل و فہم جنت سے ریاست و قیادت ابراہیم سے علمی فضیلتِ اسحق سے طبعی فضیلتِ ادر یعقوب سے وہ عزت و عظمت مراد لیتے تھے، جو مشق و تمرین سے حاصل ہو۔ اور اس قسم کی دیگر تاویلات باطلہ جن کو وہی شخص قبول کر سکتا ہے۔ جو عقل و حکمت سے عاری ہو۔“

(رسائل الاصلاح، ج ۳۔ ص ۹۷)

قدیم و جدید باطنیہ کے افکار و عقائد ادران کی تفسیری مساعی کے کشف و اظہار کے بعد اب ہم فرقہ زیدیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔

فرقہ زیدیہ

زید یہ کا ظہور و شیوع :

یہ شیعہ کے تمام فرقوں میں سے اہل سنت کے زیادہ قریب اور مبنی بر اعتدال ہے۔ یہ ائمہ کو منصب نبوت پر فائز نہیں کرتے اور نہ انبیاء کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں ائمہ عام لوگوں کی طرح انسان تھے مگر آنحضرتؐ کے بعد سب سے افضل تھے۔ یہ اصحاب رسولؐ کی تکفیر نہیں کرتے۔ خصوصاً وہ صحابہ جن کی امامت کو حضرت علیؑ نے تسلیم کیا تھا اور ان کے دستِ حق پرست پر بیعت کی تھی۔ ان کے امام زید بن علی بن حسین تھے۔ جنہوں نے ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا۔ لیکن مقتول ہو کر کوفہ میں سولی پر لٹکاٹے گئے۔ مورخ مسعودی زید بن علی کے خروج کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”زید بن علی ایک مرتبہ خلیفہ ہشام اموی کے دربار میں گئے۔ بیٹھنے کے لیے جبکہ نہ تھی۔ چنانچہ مجلس کے آخر میں جا کر بیٹھ گئے ہشام کو مخاطب کر کے فرمایا امیر المؤمنین کوئی شخص بڑا آدمی بن کر تقویٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور نہ تقویٰ کی زندگی اختیار کر کے اس میں چھوٹا بن پیدا ہوتا ہے“

ہشام بولا :

”چپ رہ تیری ماں مرے تو لوڑی زادہ ہونے کے باوجود خلافت کا امیدوار ہے“

زید کہنے لگے :

”امیر المؤمنین ! اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بات کا جواب دوں ورنہ خاموش رہوں“

ہشام بولا ”جواب دیجیے“

حضرت زید نے کہا :

”مورخین مردوں کو اعلیٰ مقاصد سے باز نہیں رکھ سکتیں۔ حضرت اسماعیل کی ماں

حضرت اسحاق کی والدہ کی لونڈی تھیں۔ اس کے باوجود حضرت اسماعیل مقام نبوت پر فائز ہوئے اور سب عربوں کے جدِ امجد قرار پائے۔ ان کی نیت سے خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے۔ تو مجھے ان الفاظ سے مخاطب کرتا ہے

حالانکہ میں حضرت علیؑ و فاطمہؑ کا فرزند ہوں۔

امام زید کا علم و فضل :

اس واقعہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ امام زید و اصل خلیفہ کے اطاعت شعار تھے اور باغی نہ تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے تھے۔ علمائے وقت کے ساتھ آپ کے خوش گوار مراسم تھے اور وہ آپ سے استفادہ کرتے تھے۔

روایات میں منقول ہے کہ فرقہ معتزلہ کے بانی و اصل بن عطاء نے آپ سے استفادہ کیا تھا۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ بھی آپ سے ملتے تھے اور کسب فیض کیا۔ آپ امام زید کے زبردست حامی تھے۔ جب امام زید اموی لشکر سے لڑنے کے لیے نکلے تو امام ابوحنیفہ نے فرمایا آپ کا جنگ کے لیے نکلنا اسی طرح ہے جیسے نبی کریمؐ جنگ بدر کے لیے نکلے تھے۔ امام زید بڑے فقیہ اور ماہر علم الکلام تھے۔ آپ نے علم فقہ پر ”کتاب المجموع“ تحریر کی تھی۔

افکار و معتقدات :

(۱) زید یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کریمؐ نے نام لے کر کسی کو امام مقرر فرمایا تھا۔ بلکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ آپ نے کچھ اوصاف بتا دیے تھے جن کا امام میں پایا جانا ضروری ہے۔ ان اوصاف کے حامل آپ کے بعد صرف حضرت علی تھے۔ ان اوصاف کی رو سے امام کا ہاشمی متقی عالم اور سخی ہونا ضروری ہے۔ اپنی طرف دعوت دینا بھی امام کے فرائض میں سے ہے۔ حضرت علی کی وفات کے بعد ہونے والے آئمہ کا اولاد فاطمہ سے ہونا بھی ان کے یہاں شرط ہے۔ دوسروں کو اپنی طرف دعوت دینے اور خروج کرنے میں بہت سے شیعہ ان کے مخالف تھے۔ ان کے بھائی محمد باقر بھی اس ضمن میں ان کے ہم خیال تھے۔ باقر فرمایا کرتے تھے تمہارے مذہب کی رو سے تو تمہارے والد بھی امام نہیں۔ کیونکہ انہوں نے نہ کبھی خروج کیا، اور نہ اس کے درپے ہوئے۔

(۲) زید یہ کے نزدیک مفضول کی امامت جائز ہے۔ گویا امام افضل و کامل میں ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے اور وہ دوسروں کی نسبت اس کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ لیکن اُلامت کے اربابِ بیعت و کشتاد کسی ایسے شخص کو امام چُن لیں جس میں یہ بعض صفات موجود نہ ہوں اور اس کی بیعت کر لیں تو اس کی امامت درست اور بیعت لازم ہوگی۔

بنابراین حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی امامت زید یہ کے یہاں درست اور صحیح تھی۔ اس بیعت کی بناء پر وہ صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے تھے۔ زید یہ حضرت علیؓ کو افضل الصحابہ تصور کرتے تھے۔ مگر ان کے نزدیک ایک مصلحت اور دینی قاعدہ کے تحت خلافت ابو بکرؓ کو تفویض کی گئی تھی وہ مصلحت یہ تھی کہ فتنہ کی آگ بجھ کر اُٹھے۔ نیز عوام الناس کی رائے کا احترام۔ اس لیے کہ اسلامی غزوات کا زمانہ ابھی قریب تھا اور امیر المؤمنین حضرت علیؓ کی تلوار سے مشرکین کا خون ابھی خشک ہونے نہ پایا تھا سینوں میں انتقام کی آگ بجھ کر رہی تھی۔ لہذا لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل نہ ہوتے تھے۔ اور نہ آپ کے سامنے تسلیم غم کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ خلیفہ ایک ایسا شخص ہو جو حلیم الطبع محبت پیشہ معتمد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی اور سابق الاسلام ہو۔

انہی خیالات کی بنا پر اکثر شیعہ نے زید کو آڑ سے وقت میں تنہا چھوڑ دیا۔ علامہ نبدادی کتاب الفرق بین الفرق میں رقم طراز ہیں :-

”جب زید اور یوسف بن عمر ثقفی میں گھسان کا دن پڑا تو شیعہ کہنے لگے ہم اس شرط پر آپ کی امداد کریں گے کہ آپ ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کریں۔ جنہوں نے آپ کے جدا مجد حضرت علیؓ پر ظلم کا از نکاب کیا۔ زید کہنے لگے کہ میں تو ان کے بارے میں اچھی بات کہوں گا۔ بنو امیہ کے خلاف تو میں نے اس لیے خروج کیا تھا کہ انہوں نے میرے دادا حضرت حسینؓ کو شہید کیا۔ ترہ کے روز مدینہ پر غارت گری کی۔ بیت اللہ پر سنگ باری کی۔ شیعہ یہ سُن کر آپ سے جدا ہو گئے۔“

(۳) زید کے یہاں بیک وقت دو مختلف علاقوں میں الگ الگ دو امام ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے علاقہ کا امام ہو گا۔ بشرطیکہ وہ اوصاف مذکورہ سے آناستہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا

ہے کہ وہ ایک ہی خطہ ارضی میں دو اماموں کے وجود کو ناجائز خیال کرتے تھے۔ کیوں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ لوگ بہ یک وقت دو اماموں کی بیعت کریں اور یہ شرعاً ممنوع ہے۔

(۴) زید یہ کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب ابراہی جہتی ہے بشرطیکہ وہ تو بر نہ کرے۔ انہوں نے معتزلہ سے یہ عقیدہ اخذ کیا تھا۔ کیونکہ زید معتزلہ کے ہم خیال تھے۔ اور اپنے استاد و اصل بن عطاء سے آپ کے گمراہی سے اس سے آپ نے بہت سے اصول و قواعد سیکھے۔ انہی خیالات کی بنا پر شیخہ ان سے بغض و عناد رکھتے تھے۔ واصل کا عقیدہ تھا کہ حضرت علیؑ نے جو جنگیں اہل شام اور اصحابِ جہل سے لڑیں ان میں آپ کا راہِ راست پر ہونا یقینی نہیں۔ دونوں میں ایک فریق غلطی پر تھا۔ مگر معلوم نہیں کون؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ صرف واصل سے عداوت رکھتے تھے۔ عام معتزلہ کے خلاف نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ عام عقائد میں اشاعرہ و ماتریدیہ کے برعکس معتزلہ کے ہم نوا تھے۔

امام زید کے جانشین :

زید جب قتل ہوئے تو زید یہ نے ان کے بیٹے یحییٰ کی بیعت کر لی۔ جب وہ بھی مقتول ہوئے تو ان کے بعد عبداللہ بن حسن کے دونوں بیٹوں محمد اور ابراہیم کی بیعت کی گئی۔ عبداللہ بن حسن امام ابو حنیفہ کے محترم استاد تھے۔ پھر ابراہیم نے عراق میں خروج کیا اور محمد نے مدینہ میں۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو عراق میں اور امام مالک کو مدینہ میں بڑی تکلیف کا سامنا ہوا۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ عراق کے امام ابراہیم کی نصرت و حمایت سے روکتے نہ تھے۔ بلکہ لوگوں کو اس پر آمادہ کرتے اور امام کی مدح و توصیف میں رطب اللسان رہتے تھے۔

ابو جعفر منصور اس سے غافل نہ تھا۔ جب یہ تھر یک ختم ہو گئی اور مالک میں امن و امان کا دور دورہ ہوا، تو منصور نے امام ابو حنیفہ کو ان کی خطائیں یاد دلایں اور سزا کے لیے ایک جیلہ بھی گھڑ لیا۔ وہ جیلہ یہ تھا کہ آپ کو منصبِ قضا کی پیشکش کی جائے۔ اگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہوں تو سزا دی جائے۔

امام مالک نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جس شخص کو کسی بات پر مجبور کیا جائے اس کی قسم معتبر نہیں۔ محمد بن زکریا کے رفقہ کا خیال تھا کہ منصور کی بیعت جبراً ہی گئی ہے۔ لہذا انہوں نے اس فتویٰ کو جو

حدیث نبوی کی روشنی میں دیا گیا تھا۔ منصور کی بیعت توڑ دینے کا ذریعہ بنایا۔ روایت کیا گیا ہے، کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نفس زکیتہ کے خروج کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر بغاوت عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ کے خلاف ہو تو ناروا ہے۔ اور اگر ایسے شخص کے خلاف نہ ہو تو جانے دیجیے۔ کہ اللہ تعالیٰ ایک ظالم کے ذریعہ دوسرے ظالم سے انتقام لیں۔ پھر روزِ محشر دونوں خدا کے حضور جواب دہ ہوں گے۔

ابو جعفر منصور کی متجسس نگاہ اس سے بے خبر نہ تھی۔ چنانچہ وادیِ مدینہ نے امام مالک پر سخت عتاب نازل کیا۔ بعد میں منصور کہا کرتا تھا کہ یہ میرے حکم سے نہیں ہوا تھا۔

زید یہ کے عقائد میں تبدیلی:

اس کے بعد فرقہ زید یہ کمزور پڑ گیا اور دوسرے شیعہ فرقے اس پر غالب آ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زید یہ فرقہ والے اپنی خصوصیات کو کھو بیٹھے۔ یہ مفسول کی امامت کے عقیدہ سے منحرف ہو گئے۔ اور ان روافض میں شمار ہونے لگے جو حضرت ابوبکر و عمر کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس سے ان کی عظیم ترین خصوصیت جاتی رہی۔ بنا بریں ہمارا خیال ہے کہ زید یہ کی دو قسمیں ہیں:-

(۱) متقدمین جو روافض میں شمار نہیں ہوتے اور حضرت ابوبکر و عمر کی امامت کے قائل ہیں۔

(۲) متاخرین جو رافضی ہیں اور شیعیان کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے۔

زید یہ فرقہ آج کل یمن میں موجود ہے۔ یمن کے زید یہ متقدمین زید یہ سے بہت قریب ہیں اور وہی عقائد رکھتے ہیں۔

قرآن کریم کے بارے میں زید یہ کا نقطہ نظر

زید یہ اور اہل سنت کے مابین اس قسم کا فرق و اختلاف نہیں پایا جاتا جیسا کہ فرقہ امامیہ اور جمہور اہل سنت میں موجود ہے۔ زید یہ کی کتب کا درس و مطالعہ اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ شیعی فرقوں میں سے زید یہ اہل سنت سے قریب تر ہیں۔ مزید برآں زید یہ اور اہل سنت میں جو اختلاف موجود ہے وہ بھی اس نوعیت کا ہے کہ سرے سے قابل ذکر ہی نہیں ہے۔ زید یہ کے اہم افکار و عقائد حسب ذیل ہیں

- ۱- حضرت علیؑ افضل الصحابہ اور آنحضرتؐ کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں
 - ۲- سرفاطمی جو علم و زہد اور سخاوت کے اوصاف سے بہرہ ور ہو وہ امامت کا اہل ہے خواہ حضرت حسنؑ کی اولاد میں سے ہو یا حضرت حسینؑ کی اول سے۔
 - ۳- زید یہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے اظہارِ براہوت نہیں کرتے۔ نہ ان کی تکفیر کہتے ہیں اور نہ ان کی خلافت کو ناروا سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ ان کی رائے میں ایک افضل شخص کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت و خلافت درست ہے۔
 - ۴- وہ شیعہ امامیہ کی طرح تقیہ اور عصمت ائمہ کا عقیدہ نہیں رکھتے۔
 - ۵- وہ امام کے پوشیدہ ہونے اور اس کے دوبارہ آنے کے بھی قائل ہیں۔
 - ۶- زید یہ کے نزدیک ائمہ میں اجتہاد کی شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اسی لیے ان کے یہاں اجتہاد کا بڑا چرچا ہے۔
 - ۷- کوئی حدیث ان کے نزدیک اسی صورت میں قابل اعتماد ہوتی ہے جب اہل بیت سے مروی و منقول ہو۔ پنا پنچم فرقہ زید یہ کی "کتاب المجموع" صرف انہی احادیث پر مشتمل ہے جو حضرت زید بن علی زین العابدین سے منقول ہیں اور وہ ائمہ اہل بیت کے واسطے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔
- زید یہ کے بارے میں یہ امر پیش نظر رہنا چاہیے کہ وہ بڑی حد تک معتزلہ کے

انکار و آراء سے متاثر نظر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے امام زید بن علی یا بیانی اعتراض و اصل بن عطاء کے تلیذ عزیز تھے

نظر بریں زید کی تفسیر سے متعلق ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اہل سنت کی تفسیر سے بالکل جدا گانہ نوعیت کی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر بڑی حد تک مفسر کے طرز و انداز کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ جب مفسر خصوصاً رجحانات و میلانات کا حامل ہوگا تو اس کی تفسیر لازماً اس کی عکاس کرے گی۔ اگر زید کے مفسر کی نظریات سے صرف نظر کر لیا جائے تو وہ اہل سنت کی تعلیمات سے چنداں دور نظر نہیں آتے۔ اس لیے ان کی تفسیر بھی اہل سنت کی تفسیر سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔

زید کی اہم کتب تفسیر:

فرقہ زید کی کتب تفسیر کی طلب و تلاش میں جب دور حاضر کی بہترین لائبریریوں کی جانب رجوع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ آج کل صرف حسب ذیل دو تفاسیر موجود ہیں۔

- ۱۔ فتح القدر للشوکانی۔ یہ تفسیر روایت و درایت کی جامع ہے اور کامل قرآنی تسلیم کی تفسیر ہے۔
- ۲۔ الثمرات الی انوار شمس الدین یوسف بن احمد۔ یہ نویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آیا فرقہ زید کے اکابر علماء صرف یہی دو تفاسیر مرتب کر سکے؟ یا علاوہ ان میں اور تفاسیر بھی مرتب کی گئی تھیں مگر وہ گردشِ دُوران سے مرٹ گئیں یا وہ ہنسوز موجود ہیں مگر ہم ان سے آگاہ و آشنا نہ ہوں گے؟

اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ فرقہ زید کے فضلاء نے یقیناً اور تفاسیر مرتب کی تھیں۔ ان میں سے کچھ تو صفحہ مستی سے محو ہو گئیں اور بعض ہنسوز ذاتی اور شخصی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ انہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا اسلامی فرقہ جو اپنے وجود کے اعتبار سے نہایت قدیم ہوا اور جس نے اپنی مخصوص تعلیمات کو ابھی تک محفوظ رکھا ہو مگر اس کا تفسیریں صرف یہی اس قدر معمولی ہو۔

اس سلسلہ میں جب ان کتب کی جانب رجوع کیا گیا جن میں علمی کتب اور ان کے مصنفین کا ذکر کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ نہ سنت، این ندیم میں زید کی دیگر تفاسیر کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ ابن ندیم لکھتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان زید پر فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور موصوف نے "التفسیر الکبیر" اور کتاب نوادر التفسیر" تلیذ ندکی تھیں۔ (الفہرست ابن ندیم ص ۲۵۴)

ابن ندیم مزید کہتے ہیں کہ زید بن فرقہ کے ابو جعفر محمد بن منصور مروزی نے تفسیر قرآن پر دو کتابیں تحریر کی تھیں۔ ایک کا نام "کتاب التفسیر الصغیر" اور دوسری کا "کتاب التفسیر الکبیر" ہے۔ (الفرست ص ۲۷۴) فرقہ زیدیہ کے علماء میں سے احمد بن عبداللہ الجندی نے علم فقہ پر اپنی کتاب شرح الازہار کے مقدمہ میں تفسیر قرآن سے متعلق فرقہ زیدیہ کے علماء کی چند تصانیف کا ذکر کیا ہے۔

یہ کتب حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ تفسیر غریب القرآن از امام زید بن علی۔ اس کو ائمہ زیدیہ میں سے محمد بن منصور بن زید کہہ فی متوفی ۲۱۵ھ نے امام زید بن علی کی سند کے ساتھ مرتب کیا (مقدمہ شرح الازہار ص ۳۶)
- ۲۔ تفسیر اسماعیل بن علی البستی الزیدی متوفی ۴۱۰ھ۔ یہ ایک جلد میں ہے۔ (حوالہ مذکور ص ۷)
- ۳۔ التذنب۔ از محمد بن محمد بن کرامہ معتزلی زیدی۔ اس کو ۴۹۷ھ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ تفسیر نہایت مشہور اور بہترین ترمذیب کی حامل ہے۔ ان کا انداز نگارش یہ ہے کہ پہلے پوری آیت لکھتے ہیں۔ پھر اس کی قراءت کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں۔ بعد ازاں اعراب و لغت پر روشنی ڈال کر اس کا معنی و مطلب بیان کرتے ہیں۔ پھر اس ضمن میں وارد شدہ اقوال ذکر کر کے اس کے قائل کا نام ذکر کرتے ہیں۔ پھر سب نزول ذکر کرنے کے بعد اس سے فقہی احکام استنباط کرتے ہیں۔ (حوالہ مذکور

ص ۲۳)

- ۴۔ تفسیر عطیہ بن محمد خزان زیدی متوفی ۲۶۵ھ۔ یہ تفسیر نہایت نفیس اور فرقہ زیدیہ کے علوم کی جامع ہے۔ (حوالہ مذکور ص ۲۳)

۵۔ التیسیر فی التفسیر از حسن بن محمد نحوی صنعانی متوفی ۷۹۱ھ (حوالہ مذکور ص ۱۱)

۱۹۲۵ء میں یعنی علماء کا ایک وفد مصر آیا تھا جو فرقہ زیدیہ کے جید علماء پر مشتمل تھا۔ اس میں قاضی محمد بن عبداللہ عامری زیدی بڑے جلیل القدر عالم تھے۔ جب موصوف سے علمائے زیدیہ کی تفاسیر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ علمائے زیدیہ نے بکثرت تفاسیر مرتب کی ہیں ان میں سے بعض باقی ہیں اور بعض گردش دوران سے مٹ گئیں۔ جو کتب موجود ہیں وہ بھی زبور طبع سے آہستہ نہیں ہوئیں بلکہ مخطوطات کی صورت میں زیدیہ کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ اس ضمن میں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ تفسیر ابن اقصم۔ یہ ایک زیدی عالم تھے۔

۲۔ تفسیر آیات الاحکام از حسین بن احمد عجمی۔ یہ آٹھویں صدی ہجری کے زیدی عالم ہیں۔

۳۔ الثمرات الیائعه از شیخ شمس الدین یوسف بن احمد بن محمد بن احمد بن عثمان۔ یہ نویں صدی ہجری کے زیدی عالم تھے۔

۴۔ منقحی المرام فی شرح آیات الاحکام ساز محمد بن حسین بن قاسم۔ یہ گیارھویں صدی ہجری کے زیدی علماء میں سے ہیں۔

۵۔ تفسیر قرآن از قاضی بن عبدالرحمن مجاہد۔ یہ تیرھویں صدی ہجری کے زیدی عالم تھے۔

جب سابق الذکر قاضی صاحب سے دریافت کیا گیا کہ فرقہ زیدیہ کی تفاسیر کے طبع نہ ہونے کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس کے دو سبب ہیں۔ (۱) ایک یہ کہ زیدیہ کے یہاں طباعت کا رواج بہت بعد میں ہوا (۲) دوسرے یہ کہ چونکہ فرقہ زیدیہ اور معتزلہ کے مابین قریبی روابط پائے جاتے ہیں اس لیے وہ اکثر و بیشتر زعمشہ کی تفسیر کشاف پر اعتماد کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زیدیہ نے دیگر تفاسیر سے بے اعتنائی کا شیوہ اختیار کیا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ مستقبل قریب میں زیدی تفسیر کا یہ علمی سرمایہ شائع ہو کر علماء سے خراجِ نجیب حاصل کرے گا۔

چونکہ فرقہ زیدیہ کے تفسیری اثاثہ میں سے صرف دو تفاسیر یعنی فتح القدر و شوکانی اور الثمرات الیائعه از شمس الدین یوسف بن احمد ہی موجود ہیں۔ اس لیے ہمارا نقد و تبصرہ صرف انہی دو تفاسیر تک محدود رہے گا۔ پہلے فتح القدر و شوکانی کا ذکر کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ تفسیر مکمل طور پر فرقہ زیدیہ کی نمائندگی نہیں کرتی۔ الثمرات الیائعه کا تفصیلی تذکرہ فقہاء کی تفاسیر کے ضمن میں کیا جائے گا۔

فتح القدير للشوكاني

تعارف مولف:

اسم گرامی علامہ محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ شوکانی ہے۔ آپ ہجرہ شوکان کے مقام پر ۱۷۷۵ء میں پیدا ہوئے۔ آپ صنعا کے شہر میں پروان چڑھے اور اپنا بیچن والد گرامی کے زیر اثر نہایت پاکیزگی اور پاکدامنی کے ساتھ گزارا۔ آغاز طفولیت ہی سے طلب علم میں لگ گئے اور اکابر علماء سے کسب فیض کیا۔ تحصیل علم کے سلسلہ میں اپنی مساعی جلیلہ جاری رکھیں۔ بیان تک کہ ایک قابل اعتماد فاضل قرار پائے۔ آپ اپنے عصر و عمر کے کیتائے روزگار فاضل اور علم و فضل کا ایک بحر بیکراں تھے۔ آپ بیک وقت مفسر و محدث اور مجتہد تھے۔ اور اس ضمن میں کوئی شخص ان کا سہیم و شریک نہیں ہو سکتا تھا۔

علامہ شوکانی نے نہایت گراں قدر تصانیف و رشتہ میں چھوڑیں۔ ان میں تفسیر فتح القدير نیز تفسیر بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ علاوہ ان میں "بیل الاوطار شرح منقح الاخبار" علم حدیث میں لاثانی کتاب سے آپ کی تصانیف میں ارشاد انقذات الی اتفاق الشرائع علی التوحید و المعاد و النبوت، بھی بڑی گراں قدر کتاب ہے۔ یہ کتاب آپ نے موسیٰ بن میمون اندلسی یہودی کی ترمیم میں تحریر کی تھی۔ مذکورہ صدر کتب کے علاوہ بھی آپ نے بہت سی کتب تصنیف کی تھیں۔

امام شوکانی نے زیدی فقہ کا بھرپور مطالعہ کیا اور اس میں بڑا نام پیدا کیا۔ پھر تصنیف توالیف اور افتاء میں لگ گئے۔ آگے چل کر تقلید کا جو اثر انارہیبینکا اور منصب اجتماع پر فائز ہوئے۔ اس سلسلہ میں آپ نے ایک رسالہ "القول المفید فی اذاتہ الایمان و التقلید" نامی مرتب کیا۔ جس کی بنا پر علماء کی ایک جماعت آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور غیظ و غضب کا اظہار کرنے لگی۔ اس کے زیر اثر یہی کے شر صنعا میں ایک عظیم فتنہ پھا ہو گیا۔ شوکانی سلفی المشرک تھے اور صفات النبی کو جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں بلا تاویل ظاہری معنی پر محمول کرتے تھے۔ اس ضمن میں آپ نے ایک رسالہ "التعقب بذبب السلف" تصنیف کیا تھا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے ۱۲۵۰ھ میں وفات پائی۔ تفصیلی

تعارف کے لیے ملاحظہ فرمائیے۔

(مقدمہ فتح القدر و ذیل الاوطار)

تعارف تفسیر:

تفسیر فتح القدر کے درس و مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ شوکانی ایک آیت تحریر کرنے کے بعد اس کی نہایت عمدہ تفسیر کرتے ہیں جو عقلاً بھی قابل قبول اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ پھر اس کی تفسیر میں علمائے سلف کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سابق الذکر کتب تفسیر سے بھی اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ربط آیات و سورتوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ وہ الفاظ کے لغوی معنی کی جانب خصوصی توجہ مبذول کرتے اور ائمہ لغت مثلاً تبر و البوعینہ اور قرآن کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔

امام شوکانی کا ہے قرأت سبعہ پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ فقہی مذاہب مسالک کا ذکر و بیان ان کا خاص انداز ہے اور وہ اس کا موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ فقہاء کے اختلافات اور ان کے ذکر کردہ دلائل و براہین کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی رائے پوری آزادی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ شوکانی حسب مرضی بعض اقوال کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ آیات سے احکام و مسائل استنباط کرتے ہیں۔ اور اس میں کامل حریت فکر و نظر سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک کامل مجتہد تصور کرتے ہیں جو کسی طرح بھی دیگر مجتہدین کے مقابلہ میں کمتر نہیں ہے۔

موضوع و ضعیف احادیث:

یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ شوکانی بکثرت موضوع و ضعیف احادیث ذکر کرتے ہیں اور ان پر نقد و جرح کیے بغیر آگے گزر جاتے ہیں۔

قرآن حکیم میں فرمایا:

إِنَّمَا أَدِيبُكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول

تمہارے دوست ہیں۔

(المائدہ - ۵۵)

مذکورہ صدر آیت کی تفسیر میں شوکانی شیعہ کی وضع کردہ روایات ذکر کرتے ہیں مگر ان پر کوئی

نقد و جرح نہیں کرتے، حالانکہ ان کا قول یہ ہے کہ ایسی احادیث سے حضرت علی کی امامت پر احتجاج نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ وہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کی یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے حالت رکوع میں جب اپنی انگوٹھی مددہ کر دی تو نبی کریمؐ نے سائل سے دریافت کیا یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی؟ اس نے کہا ”اس رکوع کرنے والے (حضرت علی) نے“ تب مذکورہ مددہ آیت نازل ہوئی۔ یہ روایت جملہ اہل علم کے نزدیک موضوع ہے مگر شوکانی نے اس پر خاموشی کا اظہار کیا ہے۔ (فتح القدیر، ج ۲ - ص ۵۰)

آیت کریمہ ”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ“ (المائدہ - آیت ۶۶) کی تفسیر میں شوکانی حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غدیر خم کے روز حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا اس آیت میں ہم مدد رسالت میں یہ الفاظ بھی پڑھا کرتے تھے:

أَنْ عَلَيَّا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ

شوکانی ان دونوں روایتوں پر کوئی نقد و جرح نہیں کرتے۔

(فتح القدیر، ج ۲ - ص ۵۷)

تقلید و مقلدین کی مذمت:

جن آیات میں مشرکین کی مذمت کی گئی ہے کردہ اپنے آباؤ اجداد کی پیروی کرتے تھے شوکانی ائمہ فقہ کے مقلدین کو ان کا مصداق ٹھہراتے ہیں۔ وہ مقلدین پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کے تارک اور سنت رسولؐ سے انحراف کرنے والے ہیں۔ چند امثلہ ملاحظہ فرمائیں۔

قرآن عزیز میں فرمایا،

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا

وہ جب کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑوں کو یہ کام کرتے پایا ہے۔

(الاعراف - ۲۸)

اس آیت کی تفسیر میں شوکانی لکھتے ہیں:

”اس آیت کریمہ میں مقلدین کے لیے درس پند و موعظت ہے جو خلاف حق مذاہب

میں اپنے آباء کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ کفار کی پیروی ہے اہل حق کی نہیں۔ مقلدین بھی کہتے ہیں کہ ”ہم نے اپنے اکابر کو ایک مذہب پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر گامزن ہیں“ (الزخرف - ۲۳) مقلد اس فریب میں مبتلا ہوتا ہے کہ اُس نے اپنے اکابر کو اسی روش پر پایا اور اس کا حکم خدا ہی نے دیا تھا۔ اگر وہ اس دھوکے کا شکار نہ ہوتا تو اس پر قائم نہ رہتا۔

اسی غلط فہمی کی اساس پر یہودی یہودیت پر نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی اپنی بدعت پر قائم ہے۔ اس گمراہانہ روش پر گام زن رہنے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو یہودیت نصرانیت اور بدعت کی راہ پر گام زن پایا۔ یہ لوگ اپنے بڑوں کے بائے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ حق کی راہ پر رواں دواں ہیں۔ یہ حق کی طلب و تلاش کی زحمت کو ادا نہیں کرتے۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ حالانکہ اس اُمت میں خدا نے ایک ہی رسول بھیجا تھا جس کی اطاعت کا حکم دیا اور منہ لفت سے منع فرمایا۔ اگر ائمہ مذاہب کی محض رائے ہی واجب الاتباع حجت ہوتی تو اس اُمت کے اتنے ہی رسول جہتے جس قدر ائمہ فتنہ کی تعداد تھی۔ حق سے بُعد اور غفلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ مقلدین کتاب و سنت کے ہر تے ہر تے بھی رجال و اشخاص کی آراء اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اندر ایسے علماء و مفسرین ہیں جن سے وہ کتاب و سنت کے دلائل معلوم کر سکتے ہیں اور وہ عقل و شعور اور فہم و ادراک کی صلاحیت سے بھی بہرہ ور ہیں (فتح القدر ج ۲ ص ۱۸۹)

قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

لَا تَخْذُواْ اٰخِيَارَهُمْ وَّوَدَّعِبَادُهُمْ
اَزْ بَابِ اَيِّمَنْ دُونَ اللّٰهِ - خدا کے سوا رب بنا لیا

اس آیت کی تفسیر میں شرکان لکھتے ہیں:-

”یہ آیت ہر عقل و بصیرت رکھنے والے انسان کو تقلید سے باز رکھتی اور اس بات سے روکتی ہے کہ ائمہ کے اقوال کو کتاب و سنت کے مقابلہ میں ترجیح دی جائے۔“

جو لوگ مخصوص دلائل کی مخالفت کر کے علماء و ائمہ کی آراء کی تعمیل کرتے ہیں ان کا طرز عمل یہود و نصاریٰ سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رت بنا لیا تھا۔ یہ جتنی قطعی بات ہے کہ یہود و نصاریٰ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے بخلاف ازیں وہ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ جس چیز کو وہ حلال کہتے اس کو حلال سمجھتے اور جس کو حرام کہتے اس کو حرام قرار دیتے تھے۔

اس امت کے تقلیدین کا طرز عمل بھی بعینہ ہی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک کھجور دوسری کھجور سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ اور جس طرح انڈا انڈے کے اور پانی پانی کے شاہد و مماثل ہوتا ہے۔ مقام حیرت و تاسف ہے کہ لوگوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے ہی جیسے آدمیوں کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے انکار و آراء کی پیروی کرنے لگے۔ اگرچہ دینی دلائل و براہین سے ان کی تائید نہ ہوتی ہو۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی نصوص بانگِ دہل اس کی تردید کرتی ہیں۔

(فتح القدر، ج ۲ - ص ۲۳۷)

حیاتِ شہداء :

امام شوکانی کا عقیدہ یہ ہے کہ شہداء کو خداوند کریم کے نزدیک حقیقی زندگی حاصل ہے۔ اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ شہداء کو خداوند کریم کی قسم کی نہیں ہے۔ اس کا اظہار انہوں نے فتح القدر کے متعدد مقامات پر کیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے :-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا سَبِيلِ اللَّهِ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
جن لوگوں کو خدا کی راہ میں قتل کیا گیا ہے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں خدا کے نزدیک رزق دیا جاتا ہے۔

(آل عمران - ۱۶۹)

امام شوکانی اس آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں :
”اہل علم کے یہاں اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس آیت میں کن شہداء کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ آیت شہداء اٹھائے اُحد کے بارے میں

اتری۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نزول غزوہ بدر یا پٹرموند کے شہداء کے بارے میں ہوا۔ اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ آیت کسی خاص موقع پر نازل ہوئی تھی، تو اعتبار عمر و میت الفاط کا ہوگا۔ چونکہ الفاظ عام ہیں اس لیے اس کا مفہوم بھی عام ہی ٹھہرے گا۔ جمہور علماء کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہیں کہ شہداء کو حقیقی زندگی حاصل ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس کی صورت یہ ہے کہ قبروں میں شہداء کی روح ان میں لوٹائی جاتی ہے۔ اور وہ وہاں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ شہداء کو قبروں میں جنت کے پھل دیے جاتے ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک اس سے مجازی زندگی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ حکم خداوندی کے مطابق جنت میں انعامات کے مستحق ہوں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد ہیں۔ مجازی معنی مراد لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہداء کے ارواح کو سبز پرندوں کے پیٹ میں داخل کیا جاتا ہے اور وہ جنت میں اڑتے کھاتے پیتے اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔“

(فتح القدیر، ج ۱ - ص ۳۶۵)

توسل:

امام شوکانی انبیاء و اولیاء کے ساتھ توسل کرنے کی مخالفت کرتے اور اس کے ظالمین کی تردید کرتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں فرمایا:

فَلَا أَهْلِيكَ دِنْفِيْهِمْ فَكَفَرُوْا
نَفْعًا اِلَّا مَا كَسَبَتْ اَنْفُسُهُمْ

فرما دیجیے کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے

(سورہ یونس - ۴۹)

شوکانی مذکورہ صدر آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے اور زندگی کے حوادث و آلام میں ان سے استمداد کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس آیت میں درس عبرت و موعظت

ہے۔ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتوں کا سوال بھی کرتے ہیں جو صرف بارگاہ الہی سے ہی انسان کو ملتی ہیں۔ مصائبِ آلام میں صرف ذاتِ خداوندی کو ہی پکارنا چاہیے جس نے انبیاء و صالحین اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ وہی ان کو رزق دیتا۔ زندہ رکھتا اور مارتا ہے۔ کسی نبی فرشتے یا نیک آدمی سے وہ چیز کس لیے طلب کی جائے جس سے وہ عاجز ہے۔ اور اس خدا کو نظر انداز کر دیا جائے جو رب الارباب ہے اور ہر چیز کی قدرت سے بہرہ ور ہے۔ اس آیت کریمہ میں عزت و موظلت کا جو درس دیا گیا ہے ہی کافی ہے۔

مقامِ غور و فکر ہے کہ آیت زیر تفسیر میں سید اولادِ آدم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں۔ جب آپ اپنے لیے نفع و ضرر کے مالک نہیں ہیں تو دوسروں کے لیے کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ پھر جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتبہ میں فرد تر ہیں وہ اپنے اور دوسروں کے لیے نفع و ضرر کے مالک کیوں کر ہوں گے؟ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ لوگ قبروں پر جا کر اہل قبور سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ زیر زمین مدفون ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور ان کا یہ فعل -
 لا الہ الا اللہ اور "قل هو اللہ احد" کی خلاف ورزی ہے۔
 (فتح القدیر، ج ۲ - ص ۴۲۹)

مشابہات :

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں شوکانی سلفی المشرب ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں ایسے الفاظ آتے ہیں جن سے خداوند کریم سے مشابہت کا مفہوم نکلتا ہے تو وہ ان کو ظاہری معنی پر محمول کتے ہیں اور اس کی کیفیتِ خداوند کریم کو تفویض کرتے ہیں۔
 قرآن کریم میں فرمایا :-

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۗ اِسْ كِى كُرْسِى نِ اَسْمٰنِ وَرِى نِ كُوسْمٰلِیٰ

(البقرہ - ۲۵۵)

شوکانی اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

یہ کرسی کے معنی وہی ہیں جو عام طور سے معروف ہیں۔ معتزلہ کی ایک جماعت اس کی منکر ہے۔ یہ ان کی سخت غلطی ہے۔ بعض علمائے سلف کرسی سے علم مراد لیتے ہیں۔ مفسر ابن جریر کا قول بھی یہی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک کرسی کے معنی قدرت یا سرش کے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ عظمت خداوندی بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔ لہذا اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں۔ گرجی بات یہ ہے کہ کرسی کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے۔“

(فتح القدر، ج ۱ - ص ۲۴۴)

معتزلی افکار و عقائد :

اگرچہ زید کے افکار و آراء بڑی حد تک معتزلہ سے متاثر تھے۔ تاہم امام شوکانی معتزلی نظریات کی جانب چند مل رحمان و میلان نہیں رکھتے۔ بخلاف ازیں وہ اکثر ان کی شدید تردید کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا :

وَاَوْقَلْتُمْ يٰٓمُوسٰى لَنْ نُّوۡفِىَنَّ
لَكَ حَقِّ نَرۡسِى ۗ اَللّٰهُ جَهۡنَّمَ

اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ کلمہ کھلا اللہ کو دیکھ لیں۔

شوکانی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”بنی اسرائیل کو سزا اس لیے دی گئی تھی کہ انہوں نے دنیا میں رویت خداوندی کا مطالبہ کیا تھا جس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ معتزلہ اور ان کے ہمنوا دنیا و آخرت میں رویت خداوندی کے منکر ہیں۔ جب کہ دوسرے لوگ دنیا و آخرت دونوں میں اس کو جائز اور درست خیال کرتے ہیں اور آخرت میں اس کے عملی

ذوق کے قائل ہیں۔ احادیث صحیحہ متواترہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اہل اسلام آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ یہ احادیث قطعی الدلالت ہیں۔ کسی منصف مزاج شخص کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ معتزلہ کے کلامی قواعد و ضوابط کے پیش نظر ان احادیث کو نظر انداز کر دے۔ معتزلہ کا دعویٰ نہایت بودا اور کمزور ہے اور اس کے فریب میں وہی شخص آسکتا ہے جس کا دامن علم سے غاری ہو۔
(فتح القدر، ج ۱- ص ۷۲)

زمخشری کا دعویٰ ہے کہ اعمال صالحہ دخول جنت کا سبب ہیں۔ شوکانی اس کی ———
— زدید کرتے اور کہتے ہیں کہ دخول جنت کا سبب عنایت ربانی ہے انسانی اعمال نہیں۔

قرآن عزیز میں ارشاد ہے :

وَلَوْ دُودًا اَنْ يُّلَكِّمُ الْجَنَّةَ الْاٰتِيَةَ
اَوْ سِثًا مِّمَّهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
اور ان کو پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت
جو تمہارے اعمال کی وجہ سے تم کو درپیش
دی گئی ہے۔ (الاحزاب)

شوکانی لکھتے ہیں :

”زمخشری کی رائے میں اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جنت اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ فضل ربانی کے باعث نہیں۔ مگر یہ بات غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیحہ میں فرمایا ہے کہ ”سیدھے رہو اور راہِ حق کے قریب رہو اور عمل کرتے رہو۔ بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا“ صحابہ نے عرض کیا ”حضور! کیا آپ بھی اپنے اعمال کے باعث جنت میں نہیں جائیں گے؟“ فرمایا ”میں بھی نہیں بجز اس کے کہ فضل خداوندی مجھ کو اپنی انورش میں لے لے“ اگر عنایتِ ایزدی عامل کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ عمل ہی نہ کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی صرف یہی ہوتی کہ اس نے قدرتِ عمل سے بہرہ ور کیا۔ تو پھر بھی یہ بات صحیح ہوتی کہ جنت اعمال سے نہیں بلکہ فضلِ الہی سے ملتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا :-

ذَٰلِكَ الْفَعْلُ مِنَ اللَّهِ

(انسار... ۶۰) (فتح القدیر، ج ۲ - ص ۱۹۶)

معتزلہ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ نظر لگنے کا تصور غلط ہے اور نظر سے کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ شوکان اس کی ترویج کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا:

يَا بَنِي آدَمُ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ دَاخِلٍ
وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ
میرے بیٹو! سب ایک ہی دروازہ سے
داخل نہ ہو بلکہ الگ الگ دروازوں سے
داخل ہو۔ (سورۃ یوسف - ۶۴)

اس آیت کی تفسیر میں شوکانی لکھتے ہیں :-

یہ معتزلہ میں سے ابوہاشم اور بلخی نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ نظر لگنے سے بھی کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دراصل معتزلہ سے کچھ بعید نہیں کہ وہ ایسے عقائد کو تسلیم نہ کریں۔ ان کا تو شیوہ ہی یہ ہے کہ وہ عقلی دھوکوں سنوں کے بل بوتے پر کتابت سنت کے دلائل کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ نظر لگنے سے کیا چیز مانع ہو سکتی ہے۔ جب کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے کہ نظر حقیقت لگ جاتی ہے۔ عمدہ رسالت میں چند صحابہ کو نظر لگ گئی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی اس سے محفوظ نہ رہی۔ مقام حیرت ہے کہ یہ لوگ شرعی نصوص کو کیسے ٹھکرا دیتے ہیں؟ اور وہ بھی صرف عقلی قیاسات کی بناء پر۔ زرخیزی کی عادت یہی ہے کہ وہ محض عقلی استبعاد کے پیش نظر شرعی دلائل کو رد کر دیتا ہے۔“

(فتح القدیر، ج ۲ - ص ۲۸)

غلام کلام فتح القدیر قیمتی معلومات کا گنجینہ اور نہایت گراں بہا تفسیری ارتقا ہے یہ کتاب پانچ جلدوں میں چھپ چکی اور اہل علم کے مابین معروف و متداول ہے۔

خوارج

خارجی مذہب کی اساس:

خوارج اپنے عقائد و افکار کے دفاع ان کی حمایت اور تدین و تشریح میں تمام اسلامی فرقوں سے زیادہ سخت تھے۔ یہ اظہار جرات و جلالت سے چند الفاظ سے چمٹے رہے جن کے ظواہر کو لے کر انہوں نے اسے دینی مقدس کا درجہ دے رکھا تھا جس سے کسی ایمان دار کو مجال انحراف نہیں اور جس کی خلاف ورزی وہی شخص کر سکتا ہے جو بہتان کی طرف مائل اور کفر و عصیان اس کی راہ میں حائل ہو۔ لَاحِکَمَ اِلَّا اللّٰہُ کے الفاظ ہر لمحہ ان کے پیش نظر رہتے۔ یہی ان کا دین تھا جس سے مخالفین پر آوازے کئے اور ہر بات کو ختم کر کے رکھ دیتے۔ جب حضرت علی کو مشغول گفتگو دیکھتے ہی نعرہ لگانے لگتے۔ منقول ہے کہ جب حضرت علی نے بار بار ان کا یہ نعرہ سنا تو فرمایا:

”یہ سچی بات ہے مگر اس کو غلط معنی پہنائے گئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ فرماں روائی صرف اسی کی ہے۔ مگر یہ لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ خدا کے سوا عوام کا کوئی داعی اور امیر بھی نہیں۔ حالانکہ ایک امیر کا ہونا لوگوں کے لیے از بس ضروری ہے وہ نیک ہو یا بد۔ کہ جس کی حکومت کے سایہ میں ایمان دار کام کریں۔ کافر نامہ اٹھائیں اور انسان عنایت ایزدی سے اجل طبعی نیک پہنچ جائے۔ یہ امیر دشمن سے ملتا۔ مال عنایت جمع کرتا۔ راستوں کو محفوظ بناتا اور کمزور کو زبردست سے قصاص لینے پر قادر کرتا ہے۔ نیک لوگ اس کی حکومت میں راحت پاتے ہیں اور بدکاروں سے نجات ملتی ہے۔“

حضرت عثمان دغلی اور ظالم حکام سے اظہار براعت کا خیال ان پر غالب رہتا تھا یہ چیز ان کے قلب و دماغ پر چھا گئی اور ان کے لیے سچی تک رسائی حاصل کرنے کے سبب دوائے بند کر دیے تھے۔ عثمان دغلی و ظلم و زور و غیر اور ظالم نبی اُمیہ سے بیزاری کا اظہار کرنے والے کو اپنے مرہ

میں شامل کر لیتے تھے۔ اور بعض دیگر اصول و قواعد میں نرم سلوک کرتے۔ حالانکہ وہ مسائل ان سے زیادہ اہم ہوتے اور ان میں مخالفت کا ارتکاب کرنے سے وہ ان سے زیادہ دُور جا پڑتے۔ مگر اظہارِ براءت کی مخالفت میں بیخطرہ نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب امویوں کے خلاف خروج کیا تو خوارج نے ان کی مدد کی۔ ان کی نصرت پر قائم رہنے اور ان کی صف میں شریک ہو کر لڑنے کا وعدہ کیا۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ ابن زبیر اپنے والد زبیر طلحہ علی اور عثمان سے اظہارِ براءت کرنے کو تیار نہیں ہیں تو ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔

خوارج کی صرف یہی خصوصیت نہیں تھی کہ وہ غیر معمولی طود پر بہادری اور شجاعت تھے۔ بلکہ ان کو صفت یہ بھی تھی کہ فدایت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ موت کے انتظار میں بے چین رہتے تھے۔ کسی قوی سبب کے بغیر بھی بڑے سے بڑے خطرے میں کود پڑنے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ اس کا سبب محض لوگوں میں کم عقلی اور اضطرابِ اعصاب ہونا تھا۔ اس معاملہ میں خوارج عیسائیوں کے اس گروہ سے بہت ملتے جلتے تھے جو انڈس میں عرب حکومت کے زیر اثر رہتے تھے۔ ایک فریق ان میں سے کم عقلی کا نشانہ ہو کر فکیر فاسد اور شدید تعصب کے زیر اثر موت کے منہ میں چلا جاتا تھا۔

خوارج کا تشدد:

خوارج میں حد درجہ کا تعصب اور گروہی جنون پایا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خوارج کی اکثریت بانیان تھے۔ ان میں شہروں کے رہنے والے بہت کم لوگ تھے۔ یہ لوگ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے رہے تھے۔ جب اسلام آیا تو بھی ان کی مادی حالت کچھ بہت بہتر نہیں ہوئی۔ کیونکہ ان کی اکثریت نے جنگ کی زندگی حسب سابق جاری رکھی۔ یہ زندگی سخت کوشی اور صعوبتِ حیات پر مشتمل تھی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کی سادگی فکر انہیں پسند آگئی۔

لیکن ان کے تصور کا دائرہ تنگ نکلا رہا۔ علوم سے بھی انہیں کوئی لگاؤ نہ تھا۔ ان امور کا بحیثیت مجموعی نتیجہ یہ ہوا کہ مہلمان تو تھے، لیکن تنگ نظری کے باعث متعصب اور جلد جذبات میں آ جاتے تھے۔ لذاتِ دنیوی سے بے تعلق تھے۔ کیونکہ وہ ان کو میسر نہ آسکی تھیں۔ اور جب انسان کو دنیوی نعمتیں ملی نہ سکیں اور اس حالت میں ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہو جائے۔ اور

وجہ ان میں اعتقاد صحیح آجائے تو وہ دنیا کی رغبتوں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ زندگی کی لذتیں اس کا دامن اپنی طرف نہیں کھینچ سکتیں اور حیات اخروی ہی کی طرف اس کی ساری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ جنت کے انعامات ہی اس کا منتہا ٹٹے نظر بن جاتے ہیں۔ اور ان چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے جو دنیا کی طرف لے جانے والی ہوں۔

در اصل خوارج کی معیشت ہی ان کی نشوونما قسوت اور تشدد کا سبب تھی اس لیے کہ نفس انسانی عام طور پر اپنے احوال کی پیداوار ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے رفاہیت کی زندگی دیکھی ہوتی اور کسی درجہ میں بھی نفیم دنیا سے بہرہ ور ہوئے ہوتے تو ان کی اس صلاحیت میں سچک پیدا ہو جاتی اور ان کی خشکی میں تری کی جھلک نظر آنے لگتی اور اس کی حدت نرم پڑ جاتی۔

روایت ہے کہ زیاد بن ابیہ کو اطلاع ملی کہ ایک شخص جس کی کنیت ابو انجیر ہے بڑا بہادر اور دلیر ہے۔ لیکن اب وہ خارجی ہو گیا ہے۔ زیاد نے اسے بلایا اور اس کو ایک عمدہ دسے بیا اور چار ہزار درہم ماہانہ تنخواہ مقرر کر دی اور ایک لاکھ سالانہ الاونس مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ابو انجیر نے یہ کتنا شروع کر دیا کہ :

” اطاعت سے بہتر میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی اور نہ جماعتی زندگی سے بہتر زندگی “

یہ شخص اس وقت تک اپنے عمدہ پر فائز رہا جب تک کہ خود زیاد - ہی اس کی بات سے چڑ گیا اور اس نے اسے قید کر دیا۔ قید خانہ ہی میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس واقع سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کی تبدیلی نے اس شخص کی عادت اور طبیعت میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔

خوارج کے افکار و معتقدات :

مندرجہ صدر بیان سے خوارج کی عقلیت اور نفسیاتی کیفیت کا پتہ چل گیا۔ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے افکار و نظریات بے حد سادہ اور سطحی تھے۔ یہ قریش اور تمام مضر قبائل سے نفرت کرتے تھے۔ اب ہم ان کے چند مخصوص افکار و معتقدات پر روشنی ڈالیں گے۔

(۱) خلیفہ کا تقرر آزادانہ اور منصفانہ انتخاب سے ہونا چاہیے۔ جس میں تمام مسلمان حصہ لیں

اور کسی ایک گروہ پر اکتفاء نہ کیا جائے۔ خلیفہ اس وقت تک اپنے منصب پر قائم رہے گا، جب تک وہ عمل پر قائم رہے۔ شریعت کے احکام نافذ کرے۔ خطا اور کج روی سے کنارہ کش رہے۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑ دے تو اس کا معزول کر دینا بلکہ قتل کر دینا جائز ہے۔

(۲) خلافت کسی عرب خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ قریش کی بھی اس میں کوئی تخصیص نہیں جیسا کہ دوسرے اہل سنت کہتے ہیں۔

(۳) یہ بھی غلط ہے کہ عجمی خلیفہ نہیں ہو سکتا صرف عرب ہی اس منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ تمام اہل اسلام خلیفہ ہونے کا یکساں حق رکھتے ہیں۔ بلکہ افضل یہ ہے کہ خلیفہ کسی غیر قریش کو بنایا جائے۔ تاکہ اگر وہ راہ حق سے منحرف ہو یا خلافت شرع حرکات کا از کتاب کرے تو اسے معزول کرنا یا قتل کر دینا آسان ہوگا۔ کیونکہ غیر قریشی خلیفہ کو معزول یا قتل کر دینے کے باعث قبائلی عصبیت اڑے نہیں آٹھے گی۔ نہ خاندانی جذبہ بروک بن سکے گا۔ غیر قریشی خلیفہ کو سائبہ النبی کے سوا کوئی اور سایہ پناہ نہیں دے سکے گا۔

(۴) اسی نقطہ نظر کے ماتحت شروع میں خارجیوں نے اپنا امیر عبداللہ بن وہب راہبی کو بنایا اور اسے امیر المؤمنین کہنے لگے۔ یہ شخص قریشی نہیں تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خارجیوں کا بھدات نامی فرقہ اس بات کا قائل تھا کہ کسی امام یا خلیفہ کی سرے سے ضرورت ہی نہیں لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں اپنے معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ پیشا لیا کریں تاہم اگر ایسا نہ ہو سکے اور امام کے بغیر کام نہ چلے تو امام کو منتخب کر لینے میں بھی مصافقہ نہیں ہے گویا ان کے نزدیک منصب امام واجب نہیں۔ بلکہ ضرورت و مصلحت پر منحصر ہے۔

(۵) خوارج ہر گناہگار کو کافر سمجھتے تھے خواہ یہ گناہ بڑی نیت سے ہو یا غلط فہمی سے اور خطا و اجتہادی سے۔ یہی وجہ تھی کہ تحکیم کے معاملہ میں وہ حضرت علی کو (معاذ اللہ) کافر کہتے تھے۔ حالانکہ حضرت علی تحکیم کے لیے اپنے طور پر تیار نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اگر وہ از خود بھی تیار ہو گئے تھے اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تحکیم کا معاملہ درست نہ تھا تو بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی کی یہ خطا اجتہادی تھی۔

مگر خارجیوں کا حضرت علی کی تکفیر پر اصرار اس امر کا غماز تھا کہ وہ خطا و اجتہادی کو دین سے خارج ہونے کا سبب اور فساد عقیدہ کی علامت جانتے تھے۔ یہی دلیلہ ان کا حضرت عثمان حضرت طلحہ و زبیر وغیرہ اکابر صحابہ کے بارے میں تھا۔ جن سے خارجیوں کو جزئیات ہی میں اختلاف تھا۔ لیکن ان کی منزعہ منہ خطا و اجتہادی بھی ان کے نزدیک موجب کفر تھی۔

خوارج کا باہمی اختلاف :

یہ تو تھے خوارج کے متفقہ عقائد۔ اس کے علاوہ جو ان کے دوسرے انکار و نظریات تھے۔ ان پر وہ خود جمع نہ ہو سکے۔ بلکہ ان میں بہت اختلاف پایا جاتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے امور کے بارے میں آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ یہی تفرق و انقسام ان کی ہزیمتوں کا سبب ہوا۔ عبد اموی میں مہلب بن ابی صفور نے جو خوارج کے شتر سے بچانے کے سلسلہ میں عامۃ المسلمین کے لیے ایک ڈھال کا کام دے رہے تھے۔ خارجیوں کے اختلافات کو ان کی جمعیت توڑنے ان کی قوت کے پارہ پارہ اور ان کی تیزی کے کم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ بلکہ ان میں اختلاف نہ بھی ہوتا تو ان میں سے ایسے اشخاص بھیج دیتا جو ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیتے۔

ابن ابی الحدید نے ایک واقعہ لیں نقل کیا ہے :-

”خارجیوں کے فرقہ از فرقہ کا ایک لوہا زہر آلود تیر تیار کرتا تھا۔ خوارج انہی تیروں کی بارش اصحاب مہلب پر کیا کرتے تھے یہ معاملہ جب مہلب کے سامنے پیش کیا گیا تو اُس نے کہا میں اس کا تدارک کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ایک آدمی کو ایک خط دیا اور ایک ہزار درہم دیے۔ اور اسے قطری بن العجاہ کے لشکر کی طرف جانے کی ہدایت کی اور کہا کہ یہ خط اور یہ درہم چکے دئے دشمن کے لشکر میں پھینک آؤ۔ اور وہاں اپنے بچاؤ کا خیال رکھنا۔ وہ آدمی تعمیل ارشاد کے لیے روانہ ہو گیا۔“

اس خط کی عبارت یہ تھی :-

”آنا بعد! آپ کے تیر مجھے مل گئے۔ میں ایک ہزار درہم بھیج رہا ہوں۔ یہ ارشاد قبول کیجیے اور مزید تیر بنا کر مجھے بھیج دیجیئے۔“

یہ خط قطری تک پہنچا دیا گیا۔ قطری نے لوہار کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ خط کس کا ہے؟ اس نے کہا ”مجھے نہیں معلوم“ قطری نے کہا ”یہ درہم کیسے ہیں؟ اس نے کہا ”مجھے کچھ خبر نہیں“ قطری نے حکم دیا اسے قتل کر دو۔ فوراً اسے قتل کر دیا گیا۔

یہ خبر سن کر بنو قیس بن ثعلبہ کا ایک شخص آیا اس نے قطری سے کہا ”آپ نے ایک شخص کو بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے قتل کر دیا۔ یہ کیا کیا؟ قطری نے جواب دیا ”مخادعہ کے لیے کسی شخص کو قتل کرنا معیوب نہیں ہے۔ اور امام کو بیعتی حاصل ہے کہ جو مناسب سمجھے کرے رعیت اس پر اعتراض نہیں کر سکتی“

اس شخص پر یہ بات بہت گراں گزری۔ تاہم جماعت سے علیحدگی نہیں اختیار کی۔ یہ بات جب مہلب کو معلوم ہوئی تو اس نے خوارج کے پاس ایک نصرانی بھیجا اور اس سے کہا ”جب تم قطری کے پاس پہنچو تو مسجد سے میں گر پڑو“ وہ منع کرے تو کہنا ”میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں“ نصرانی نے ایسا ہی کیا۔ قطری نے اسے سر بسجود دیکھ کر کہا ”سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے نصرانی نے کہا ”میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں“ ایک خارجی نے قطری سے کہا ”یہ خدا کو چھوڑ کر آپ کی عبادت کرتا ہے“ قطری نے کہا ”عیسائی عیسیٰ بن مریم کو پوجتے ہیں۔ لیکن اس سے حضرت عیسیٰ کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ یہ سن کر خارجی اٹھا اور اس نے اس نصرانی کو قتل کر دیا۔ یہ بات قطری کو ناگوار گزری۔ اور قطری کی یہ ناگواری بہت سے خوارج کو نا پسند آئی۔ مہلب کو پتہ چلا تو اس نے تحقیق احوال کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ وہ شخص خوارج کے یہاں حاضر ہو کر پوچھنے لگا:-

”یہ بتائیے کہ بالفرض دو شخص آپ کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ ایک راستہ میں فوت ہو گیا اور دوسرا آپ کے یہاں پہنچ گیا۔ تم نے اسے آزما یا مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟

بعض کہنے لگے فوت شدہ آدمی یقیناً جنتی ہے اور دوسرا کافر۔ دیگر خوارج بولے ”وہ کافر ہیں۔ مسلم اس وقت ہوں گے جب آزمائش میں کامیاب ہوں۔“

اس مسئلہ میں خوارج کے یہاں بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ قطری مصنف کے شعر میں جا کر سکونت پذیر ہو گیا۔ اس کی عدم موجودگی میں یہ جھگڑا چلتا رہا؛

(شرح نہج البلاغہ، ج ۱- ص ۲۰۱)

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب ایسے سپہ سالارِ اعظم نے کس طرح حکمتِ عملی سے کام لے کر خوارج میں اختلاف کی آگ بھڑکائی اور ان کی سادہ لوحی اور کم عقلی سے پورا فائدہ اٹھایا اور کس آسانی سے ان کی حماقت کے باعث انہیں آپس میں لڑا دیا۔ جس کے نتیجے میں ان کی قوت کمزور پڑ گئی۔ اور وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی سکت سے محروم ہو گئے۔ سچ پوچھیے تو ان میں اندرونی طور پر اختلافات بہت زیادہ تھے۔ جو کسی دوسرے کے پیدا کردہ نہیں تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ وہ مختلف گروں میں تقسیم ہو گئے۔

خوارج کے اوصافِ مخلصی:

خوارج گونا گون اوصاف کے حامل تھے۔ ان کا خصوصی طرہ امتیاز یہ تھا کہ وہ بڑی شدت سے اپنے مسلک کی حمایت کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ مخالفین کے دلائل سنتے اور ان کے تیروں ہی سے ان کو تڑکا کر لیتے۔ اپنے آراء و افکار سے تعصب کی حد تک چمٹے رہتے اور کسی قیمت پر ان کو تڑک کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مخصوص نظریات محدود و مقید ہو کر رہ گئے تھے۔ ان میں عام قواعد کی طرح حق و باطل کی تمیز کا کوئی امکان نہ تھا۔ نہ کوئی ایسا ضابطہ و معیار تھا۔ جس پر رکھ کر انہیں جانچا پرکھا جاسکے۔

خوارج مندرجہ ذیل خصوصیات کے حامل تھے۔

(۱) فصاحت و بلاغتِ طلاقتِ لسانی اور خوش بیانی خوارج کا خصوصی وصف تھا جس سے وہ اکثر مہوون ہوتے تھے۔ وہ بے حد نڈر اور بے باک واقع ہونے لگتے۔ کسی سے ڈرتے نہ تھے اور نہ اپنے دلائل ذکر کرتے ہوئے جھجکتے۔

مردی ہے کہ عبدالملک بن مردان کے پاس کسی خارجی کو لایا گیا۔ عبدالملک نے محسوس کیا کہ وہ بڑا صاحبِ فہم و فراست اور مہوشیار ہے۔ چاہا کہ وہ خارجی مذہب کو تڑک کر دے اس پر خارجی نے مزید علم و تحقیق کا ثبوت دیا۔ یہ دانش مندی دیکھ کر عبدالملک میں اس

داعیر نے مزید کر دیا کہ وہ خارجی نظریات کو خیر باد کہہ دے۔ یہ سن کر خارجی بولا :-
 ”آپ کی پہلی باتیں ہی کافی تھیں اور اس ضمن میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہ تھی۔
 تاہم آپ نے کہا اور میں نے سنا۔ اب میری باتیں بھی گوش گزار کیجیے“
 عبدالملک بولا ”فرمائیے“

خارجی نے بڑے پرتاثر اور مبلغ انداز میں اپنے افکار و نظریات بیان کیے۔ عبدالملک کا
 بیان ہے کہ اس نے اپنے زور بیان سے میرے اندر یہ تاثر پیدا کر دیا تھا کہ جنت خارجیوں کے
 لیے ہی پیدا کی گئی ہے۔ اور یہ کہ توارج کی حمایت میں لڑنا ہی اسلامی جہاد ہے۔ مگر خدا داد حجت
 اور حق دہد الفت کی محبت نے مجھ میں انگڑائی لی اور میں نے خارجی کو مخاطب کر کے کہا :-
 ”دنیا و آخرت کا مالک حقیقی خداوند تعالیٰ ہے۔ اسی نے یہ حکومت و سلطنت

مجھے عطا کر رکھی ہے“

ابھی عبدالملک خارجی سے محو گفتگو تھا کہ اس کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ عبدالملک پر یہ بڑا ناگوار گزارا خارجی
 عبدالملک کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا ”اسے رونے دیجیے۔ رونے سے اس کی باپھیں کھل
 جائیں گی۔ اس کا دماغ درست ہو جائے گا اور آواز بلند ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑا فائدہ
 یہ ہو گا کہ خدا کی عبادت کرتے ہوئے جب رونے کی ضرورت لاحق ہوگی تو اس وقت اس کی
 آنکھیں رونے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔“

عبدالملک بیٹن کر بولا :

”کیا تمہارے لینے وہ مصیبت کافی نہیں جس سے تم دو چار ہواؤں بلاوجہ دوڑو
 کے معاملہ میں دخل اندازی کرتے ہو“

خارجی کہنے لگا :-

”دنیا کی کوئی طاقت مومن کو سچی بات کہنے سے روک نہیں سکتی“

عبدالملک نے اسے قید خانہ بھیجنے کا حکم صادر کیا اور معدت کے طور پر کہا :

”اگر مجھے یہ ڈرنہ ہونا کہ تم اپنی چرب زبانی سے میری رعایا میں فساد پیدا کرو

کے تو میں نہیں قید نہ کرتا۔ جس شخص نے مجھے شکوک و شبہات کے درطہ میں ڈال دیا

یہاں تک کہ حفاظتِ خداوندی نے میرا دامن تھاما۔ اس سے کچھ بعید نہیں کہ

وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دے“ (الکامل للبرد، ج ۲- ص ۱۰۱)

(۲) فصاحت و بلاغت کے علاوہ خوارج کتاب و سنت فقہ الحدیث اور آثار العرب کو بڑی فرہانت و فطانت اور بیدار مغزی کے ساتھ حاصل کرتے تھے روایات میں مذکور ہے۔ کہ خوارج کے فرقہ ازارقہ کا امیر نافع بن ازرق علمی استفادہ کے لیے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نافع نے ابن عباس سے ”دَالِیْلٍ دَمَادَسَقَ“ کا مفہوم دریافت کیا۔ ابن عباس نے فرمایا ”دَسَقَ جَمَعَ“ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نافع نے پوچھا ”عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ حضرت ابن عباس نے جواب میں ایک شعر پڑھ دیا۔

(۳) جدل و مناظرہ شعر و شاعری اور ادبیانہ اقوال و آثار خوارج کا محبوب مشغلہ تھا۔ میدانِ حربِ قتال میں بھی یہ شعروادب کے تذکروں میں مشغول رہتے تھے۔ ابن ابی الحدید نے الانانی سے نقل کیا ہے کہ جب حملب بن ابی صفرہ اور قطری بن فجاءہ کے مابین جنگ ہو رہی تھی تو خوارج لڑائی بند کر کے بڑے امن و سکون سے باہم دینی مسائل پر بحث و تمحیص کرتے تھے۔

(۴) یہ حقیقت ہے کہ خوارج کے مناظرات و مناقشات پر تصیب کا رنگ نمایاں ہوتا تھا۔ وہ کبھی نہ خصم کی دلیل کو تسلیم کرتے نہ اس کے نظریہ کی صحت کا اعتراف کرتے۔ خواہ حق سے کس قدر ہی قریب کیوں نہ ہو۔ مخالف جس قدر زیادہ قوی دلیل پیش کرتا اسی قدر یہ اپنے عقیدہ پر زیادہ لاسخ ہو جاتے اور اپنی تائید و حمایت میں دلیلیں دیتے۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے افکار ان کے نفوس پر چھائے رہتے تھے۔ ان کے نظریات و معتقدات ان کے قلوب کی گہرائی تک جاگزین ہو چکے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی قوتِ فکر و نظر کی تمام لہاں مسدود ہو کر رہ گئیں۔ ادران کے ادراکات و احساسات میں قبولِ حق کی کوئی صلاحیت باقی نہ رہی۔ بایں ہمہ خوارج میں شدتِ نزاع و خصومت کا جذبہ کارفرما رہتا تھا جو ان کے بدروی الاصل اور ناشائستہ ہونے کا پتہ دیتا تھا۔*

یہ اسباب تھے جن کی بناء پر خوارج کے افکار میں بڑی تنگ نظری پیدا ہو گئی تھی وہ ان کی جانب صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھا کرتے اور دوسروں کے نظریات کو خواہر میں نہ لاتے تھے۔

(۵) خوارج ظواہر قرآن سے تمسک کرتے تھے اور اس کے معنی و مفہوم کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہ کرتے۔ نصوص پر سطحی نگاہ ڈالنے سے جو سرسری مفہوم ذہن میں بیٹھ جاتا اس اُسی کے ہو رہتے اور اس سے ایک پارچہ بھی ادھر ادھر کرنا اور اترتے کرتے۔ جب خوارج میں سے کوئی کسی قسمت کا شکار ہوتا تو ازالہ قسمت کے لیے ظواہر آیات سے کام چلاتا اور ان کے معنی و مطلب سے اسے کوئی واسطہ نہ ہوتا۔

خوارج کے فرقے:

ہم نے جن اصول و عقائد کا ذکر کیا ہے مجموعی طور پر سب خوارج میں پاٹے جاتے تھے۔ مگر اس کے بعد کثرت اختلاف کے باعث ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ اور وہ مختلف مذاہب و مذاہب میں منقسم ہو گئے ہر فرقہ اپنے نظریات کے گرد گھومنے لگا۔ اور اس طرح ان سے مختلف مذاہب یا قسم کے چند گروہ معرضِ ظہور میں آئے۔ مگر بایں ہمہ خوارج کے یہ فرقے باہم کبھی شافذاد رہی نہ ہر دو آزما ہوئے۔

خوارج کے فرقوں میں نقطہ اختلاف بعض اوقات کوئی جوہری امر ہوتا اور بعض اوقات کوئی جزئی واقعہ یا حادثہ خوارج کے فرقہ جات کی تفصیلات بیان کرنے سے یہ حقیقت منظر نام پر آئے گی کہ کن فرقوں میں جوہری فرقہ پایا جاتا تھا اور کن میں سطحی اور فرعی اختلاف تھا۔

۱۔ ازراقہ :-

یہ نافع بن ازرق کے پیرو تھے۔ یہ جویش میں سب فرقوں سے زیادہ سخت تھا اور تعداد میں بھی زیادہ تھا۔ قوت و شوکت میں بھی سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ نافع کی سرکردگی میں ازراقہ نے امویوں اور ابن زبیر سے کامل انیس سال تک نہایت پامردی اور استقلال کے ساتھ جنگ جاری رکھی۔ میدان جنگ میں اڑتے ہوئے جب نافع قتل ہو گیا تو عنانِ قیادت نافع بن عبد اللہ

کے ہاتھ میں آئی۔ اس کے بعد قطری بن نجاء نے اس فرقہ کی سرداری سنبھالی۔
 قطری کے عہد میں یہ فرقہ رُودِ بزدال ہوا۔ کیونکہ اب عوامِ خوارج کی خون ریزی اور سنگ دلی
 کے باعث ان سے سخت نفرت کرنے لگے تھے۔ مسلمانوں میں ان کے خلاف جذبہ انتقام و
 غماد پیدا ہو گیا۔ آپس میں بھی خوارج برسرِ پیکار رہنے لگے۔ چنانچہ اب ہر معرکہ میں انہیں شکست
 فاش سے دوچار ہونا پڑا۔ اور قطری کے بعد مسلسل شکستوں کے باعث اس فرقہ کا خاتمہ
 ہو گیا۔

۲۔ نجدات :-

یہ لوگ نجدہ بن عُوَیم کے پیرو تھے، جو قبیلہ بنو حنیفہ کی طرف منسوب تھا۔ یہ متعدد مسائل
 میں ازارقہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ مثلاً یہ جنگ سے جی چرانے والے خوارج کی تکفیر نہیں کرتے
 تھے۔ مسلمانوں کے بچوں کا قتل جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی رائے میں نصبِ امام کی حیثیت
 ایک شرعی وجوب کی نہیں بلکہ مصلحت کے پیش نظر واجب ہے۔ اگر مسلمان اشاعتِ اسلام
 کا فریضہ بدوں امام کے ادا کر سکتے ہوں تو انہیں تقررِ امام کی کوئی ضرورت نہیں۔

نجدات ایک نظریہ میں باقی خوارج سے بالکل منفرد تھے۔ اور وہ تفسیر کا اعتقاد تھا۔
 تفسیر کے پیش نظر جہاں ضرورت ہوتی وہ تحفظِ مال و جان کے لیے کہہ دیتے کہ وہ خارجی نہیں۔
 مناسب وقت آنے پر اپنے خارجی ہونے کا اظہار کر دیتے۔ اس فرقہ کے لوگ یمامہ میں
 رہتے تھے۔ پہلے اس جماعت کا سردار ایک شخص ابوطاؤت خارجی تھا۔ پھر نجدہ کے ہاتھ پر
 بیعت کر لی۔ پھر اس فرقہ نے بڑا عروج حاصل کیا۔ چنانچہ بہت جلد لوگ بحرین، عمان، حضرموت
 یمن اور طائف پر قبضہ ہو گئے۔

۳۔ صُفَریہ :-

اس فرقہ کے لوگ زیاد بن اصغر کے پیرو تھے۔ یہ اپنے انکار و نظریات میں ازارقہ سے
 کم درجہ پر تھے۔ لیکن دوسروں سے سختی کرتے تھے۔ یہ کبائر کا ارتکاب کرنے والوں کے بائے
 میں ازارقہ سے اختلاف رکھتے تھے، اور ان کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ ان میں سے بعض
 کا خیال تھا کہ جن گناہوں کے بارے میں قرآن میں حد کا ذکر آگیا ہے وہ اسی نام سے موسوم

ہوگا جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ مثلاً سائق و زانی وغیرہ۔

اس فرقہ کے لوگوں میں ابو بلال مرد اس بڑا نیک آدمی تھا۔ یزید بن معاویہ کے عہد میں بصرہ کے قریب اس نے خروج کیا۔ لیکن عوام کو نہیں چھیڑا۔ کہیں موقع مل جاتا تو سلطان مال پر قبضہ کر لیتا۔ جنگ نہیں کرتا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر بھیجا اور وہ قتل کر دیا گیا۔

صفریہ کا ایک اور شخص عمران بن حطان تھا۔ یہ شاعر بھی تھا اور زاہد بھی۔ اپنے گروہ سے بھاگ کر بلادِ اسلامیہ کے چکر کاٹتا رہا۔ ابو بلال کے بعد صفریہ نے اس کو اپنا قائد اور امام بنا لیا اس فرقہ کے اُمراء و رؤساء کا حال معلوم کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خون کو نہ مباح سمجھتے تھے نہ مخالفین کے ملک کو دارالحرب قرار دیتے۔ نہ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو قید کرتے تھے۔ بلکہ صرف سلطانی لشکر سے جنگ کرتے تھے۔

۴۔ عجاروہ :

اس فرقہ کے لوگ عبدالکریم بن عجر د کے پیرو تھے۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے اعتبار سے فرقہ نجات سے بہت قریب تھے۔ ان کے افکار و آراء بھی ان سے ملتے جلتے تھے۔ مثلاً ان کے نزدیک جنگ سے جی چرانے والے خارجی اگر دیانت دار ہوں تو انہیں عہدے تفویض کیے جا سکتے ہیں۔ ہجرت ان کے نزدیک فرض نہ تھی بلکہ صرف سبب فضیلت۔ مخالف کا مال ان کے نزدیک اس وقت تک مالِ غنیمت قرار نہیں دیا جائے گا جب تک وہ مخالف زندہ ہے اور اُسے قتل نہیں کیا جاتا۔

۵۔ ابا ضعیبہ :

یہ لوگ عبداللہ بن اباض کے پیرو تھے۔ یہ فرقہ خوارج میں معتدل اور نکر درائے میں عام مسلمانوں سے زیادہ قریب تھا۔ یہ لوگ غلو اور استہاپندی سے بالکل الگ تھے۔ میانہ روی اور توسط و اعتدال ان کا شعار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کے بعض اطراف میں یہ اب بھی موجود ہے۔

فرقہ اباحیہ والوں نے نہایت عمدہ فقہ مرتب کی۔ ان میں ممتاز علمائے دین پاٹے

جاتے تھے۔ ان کے بعض طوائف مغربی صحراؤں میں بودو بائش رکھتے تھے اور بعض بلاد زنجبار میں اقامت کریں تھے۔ ان کے کچھ فقہی مسائل بھی تھے۔ موجودہ مصری قانون میں عوارض سے متعلق ان کے بعض افکار کو اخذ کیا گیا ہے۔

اباضیہ مندرجہ ذیل نظریات رکھتے تھے۔

- (۱) غیر خارجی مسلمان نہ مشرک ہیں نہ مومن۔ البتہ انہیں کفرانِ نعمت کی وجہ سے کافر کہا جائیگا
- (۲) غیر خارجی مسلمانوں کا خون بہانا حرام ہے۔ ان کا ملک دارالتوحید ہے۔ البتہ بادشاہ کی چھاؤنی کفرگاہ ہے۔ مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتے۔ ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مخالفین کی خون ریزی حرام ہے اور ان کا ملک دارالتوحید ہے۔
- (۳) غیر خارجی مسلمانوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد ان کے مسلحہ جنگ گھوڑوں اور جانوروں کو، نیز ان تمام چیزوں کو جن سے جنگ میں کام لیا جاتا ہو مالِ غنیمت میں شمار کیا جائے گا۔ البتہ سونا چاندی وغیرہ ان کے مالکوں کو واپس کر دیے جائیں گے۔
- (۴) غیر خارجی مسلمانوں کی شہادت قبول کی جاسکتی ہے۔ ان سے معاملات نکاح و وراثت کے تعلقات قائم کیے جاسکتے ہیں۔

اباضیہ کے ان افکار و آراء سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے خارجی فرقوں کے مقابلہ میں یہ لوگ اعتدال پسند تھے اور اپنے مخالفوں کے ساتھ نسبتاً عادلانہ اور انصاف کا سلوک کرنے پر آمادہ رہتے تھے۔

خوارج کے عالی فرقی:

دراصل خارجی مذہب کی بنیاد تشدد اور غلو پر ہے۔ دین کے فہم دارانکے معاملہ میں یہ لوگ بہت زیادہ عالی اور تشدد تھے۔ اس چیز نے انہیں گمراہی کے راستے پر لا ڈالا تھا۔ یہ عام مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے کے درپے رہتے تھے۔ لیکن صادق الایمان لوگوں نے کبھی ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہیں گمراہ کہا ہو۔ مروی ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے اصحاب کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد کسی خارجی سے لڑائی نہ کی جائے۔ کیونکہ جو حق کی

تلاش میں نکلا اور ٹھوکر کھائی وہ اس شخص کی طرح نہیں جو باطل کی جستجو میں نکلا اور اسے پالیا۔“ حضرت علی کے مندرجہ صدر بیان سے واضح ہوتا ہے کہ آپ امویوں کو باطل کا طلب گار اور ان کے مقابلہ میں خارجیوں کے سختی کے جو یا خیال کرتے تھے۔ انہوں نے سختی کی تلاش میں ٹھوکر کھائی اور امویوں نے باطل کو پالیا۔ لیکن خوارج میں ایسے فرقے بھی تھے۔۔۔۔۔ اور وہی زیادہ تھے۔۔۔۔۔ جن کا مسلک ایسا تھا جس کی تائید کسی درجہ میں بھی کتاب اللہ سے نہیں ہوتی۔ بلکہ کسی تاویل کے بغیر نصوص قرآنیہ ان کی تردید کرتی ہیں۔

امام ابو منصور بغدادی نے اپنی کتاب ”الفرق بین الفرق“ میں خوارج کے ان دو فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ جن کو وہ خارج از اسلام قرار دیتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:-

۱- یزیدیمہ :

یزید بن ابی ایبہ خارجی کے پیرو تھے۔ جو پہلے اباضی تھا، پھر دعویٰ کرنے لگا، کہ خداوند تعالیٰ مجھ سے ایک رسول بھیجیں گے اور اس پر کتاب نازل کریں گے۔ جو شریعت محمدیہ کو منسوخ قرار دے گی۔

۲- میموتیمہ :

یہ لوگ میمون عجمی کے پیرو تھے۔ اس فرقہ نے نبات اولاد اور بھائی بہنوں کی اولاد کی بیٹیوں سے نکاح کو جائز قرار دیا تھا۔ وہ اس کی وجہ یہ بیان کیا کرتا تھا کہ قرآن نے ان لڑکیوں کو محرمات میں ذکر نہیں کیا ہے۔ اس فرقہ نے سورہ یوسف کے قرآن ہونے کا یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ ایسی صورت قرآن میں کس طرح ہو سکتی ہے جس میں داستان محبت بیان کی گئی ہے بنا بریں وہ سورہ یوسف کو قرآن میں شامل نہیں کرتے تھے۔

(الفرق بین الفرق، ص ۲۶۳-۲۶۵)

تفسیر قرآن سے متعلق خوارج کا موقف

جس طرح خوارج کے فرقہ و مذاہب گونا گوں اور بظلموں تھے اسی طرح ان کے افکار و

نظریات میں بھی بڑی حد تک اختلاف و تنوع پایا جاتا تھا۔ چونکہ خوارج کے سب فرقے اسلام کے دعویٰ دار تھے، اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ وہ اپنے اصول و عقائد کے اثبات کے سلسلہ میں قرآن سے احتجاج کرتے۔ جو آیات و نصوص بظاہر ان کے عقائد سے ہم آہنگ تھیں ان سے استدلال کرتے۔ اور جو ان کے اصول و مبادی سے منضام تھیں ان کی تاویل کر کے ان کو اپنے مفقادات کے قالب میں ڈھال لیتے۔

خوارج کی تاریخ اور ان کے تفسیری اقوال کا درس و مطالعہ اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ یہ لوگ اپنے نظریات میں حد درجہ غالی تھے۔ اس لیے یہ قرآن حکیم کا مطالعہ اپنے انکار ہی کی روشنی میں کرتے تھے۔ اسی طرح قرآنی آیات سے ان کا اخذ و استفادہ بھی خارجی نظریات کے زیر اثر ہوتا تھا۔

مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر خوارج کے نزدیک کبار کا از نکاب کرنے والا کافر اور ابدی جہنمی ہے۔ مشہور شیعہ عالم ابن ابی الحدید نے ”شرح نہج البلاغہ“ میں خوارج کا ذکر کیا اور مزین کبار کے کفر کے سلسلہ میں ان کے دلائل و براہین پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ ابن ابی الحدید خوارج کے بیان کردہ دلائل پر نقد و جرح بھی کرتے ہیں جس سے ہمیں کچھ سوکار نہیں۔ ہم فارسی کریم کے علم میں چند آیات لانا چاہتے ہیں جن سے خوارج نے احتجاج کیا ہے اس سے یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ خوارج فہم قرآن کے سلسلہ میں اپنے عقائد سے کس حد تک متاثر تھے آیات حسب ذیل ہیں :-

قرآن کریم میں فرمایا :

۱۔ وَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَرَجٌ الْبَيْتِ	اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا
مِنْ أَسْطِطَاعٍ إِلَيْهِ سَبِيلٌ	حج فرض ہے اُس شخص کے لیے جو وہاں
مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ عَنِّ	پہنچ سکے۔ اور جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ
الْعَالَمِيْنَ (آل عمران - ۹۷)	سب جہان والوں سے بے نیاز ہے۔

خوارج کہتے ہیں کہ اس آیت میں تارک حج کو کافر قرار دیا گیا ہے۔

۲۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُبْدِي سُرْحَمَةَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ
 اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی ایسے |

اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ۔ ہوتے ہیں۔

(سورہ یوسف، آیت ۸۷)

خوارج کہتے ہیں کہ فاسق چونکہ اپنے فسق پر اصرار کرتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ کی رحمت سے یالوس ہے اور کافر ہے۔

۳۔ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلْهُمَا آتِزَلْ
 اللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَكْفُرَ مِنْ
 اور جو لوگ خدا کے نازل کردہ حکم کے مطابق
 فیصلہ نہ کریں، وہ کافر ہیں۔
 (سورہ المائدہ، آیت ۴۴)

خوارج کہتے ہیں کہ جو شخص بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اس لیے وہ کافر ہے۔

۴۔ ذَلِكَ جَزَاءُ مَا كَفَرُوا
 وَهَلْ يُجَاوِزُهَا إِلَّا الْكُفُورُ۔
 یہ سزا ہم نے ان کو کفر کے سبب دی
 اور ہم کفار ہی کو سزا دیتے ہیں۔
 (سورہ سبأ، آیت ۱۷)

خوارج کہتے ہیں کہ اس آیت کی بنا پر فاسق کو بھی سزا دی جائے گی۔ اس لیے وہ کافر ہے۔
 علاوہ ازیں دیگر آیات۔

ہم نے یہ چند آیات نقل کی ہیں۔ جن سے خوارج نے اپنے اس نظریہ پر استدلال کیا ہے کہ کبار کا مرتکب جو بلا توبہ مر جائے وہ ابدی جہنمی ہے۔ خوارج کے نزدیک ان کے نظریہ کے اثبات کے لیے یہ دلائل قاطعہ و براہین سا طعہ ہیں۔ جن سے انحراف ممکن نہیں اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خوارج حد درجہ متعصب تھے اور قرآن کریم کے فہم و ادراک میں اپنے عقائد کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔

بعض قرآنی نصوص ایسی بھی ہیں جن کا سہارا لے کر خوارج کے بعض فرقوں نے اپنے مفرد اور جداگانہ نظریات کو ثابت کرنے کی سعی لاماصل کی تھی۔ خوارج کے یہ فرقے مقابلہ زیادہ فہمی اور متعصب تھے۔ مثلاً نافع بن ارنق تقیہ کے حتیٰ میں نہ تھا۔ وہ تقیہ کی حرمت کے سلسلہ میں خندبہ ذیل آیت سے استدلال کیا کرتا تھا:

اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَعْثُرُونَ النَّاسَ
 ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے یوں
 كَفَشِيَّةٍ لِلَّهِ
 ڈرتا ہے، جیسے اللہ سے ڈرتا ہے۔

(النساء - ۷۷)

بخلاف ازیں مشہور خارجی نجدہ بن عامر، نافع بن ازیق کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتا تھا
 وہ تفسیر کے جواز کا قائل تھا اور اس آیت سے استدلال کیا کرتا تھا۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
 اور آل فرعون میں سے ایک مومن نے
 يَكْتُمُ آيَاتِنَا
 کہا جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا

(سورہ غافر - ۲۸) تھا۔

نافع بن ازیق کا عقیدہ تھا کہ جو لوگ جہاد میں شرکت نہ کریں وہ کافر ہیں۔ وہ مخالفین کے
 نابالغ بچوں کے قتل کو مباح قرار دیتا تھا۔ اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اعداء و خصوم کی امائیں
 ان کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس قسم کے دیگر افکار و نظریات جن میں وہ بالکل منفرد تھا
 نجدہ بن عامر ان تمام مسائل میں اس کے خلاف تھا اور اس نے ایک طویل خط اس ضمن
 میں نافع کو تحریر کیا تھا۔

خوارج کے فہم قرآن کا طرز و انداز:

قرآن کریم کے معانی و مطالب معلوم کرنے کے سلسلہ میں خوارج گہرائی میں اترنے کی
 کوشش نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کا طرز فکر بالکل عامیانہ اور سطحی تھا۔ قرآن عزیز کے اسرار و
 رموز کے فہم دادراک کے لیے وہ محنت و کاوش کے توگر نہیں تھے۔ قرآن فہمی کے ضمن میں
 وہ صرف قرآنی حروف و الفاظ کے بجا رہی تھے۔ وہ آیات کے صرف ظاہری معانی مراد لیتے
 تھے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ عند اللہ مقصود ہوں یا نہ ہوں۔

خوارج نے خصوص قرآنی کو جو ظاہری معنی پہنائے اور جس طرح اپنے نظریات کے
 اثبات کے سلسلہ میں ان سے تمسک کیا تھا ان کو دیکھ کر ایک صاحب بصیرت شخص ہنسی
 ضبط نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں ہم چند واقعات مخزم قارئین کی خدمت میں پیش کرتے
 ہیں۔ تاکہ وہ بذات خود فیصلہ کر سکیں کہ خوارج راہ راست سے کس قدر دور نکل گئے تھے۔

مردی ہے کہ عبیدہ بن حلالیش کبریٰ ایک لوہار کی بیوی سے متہم ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوہار کے گھر میں بلاذن آیا جابا کر تہمتاً۔ خوارج نے اپنے امیر قطری بن حجاج سے یہ واقعہ بیان کیا۔ قطری نے کہا ”تم جانتے ہو عبیدہ کس قدر دین دار ہے۔ جہاد کے سلسلہ میں اس نے جو خدمات انجام دیں تم ان سے بھی آگاہ ہو“

خوارج نے کہا ”ہمیں اس کا ایک بڑے کام پر مہر رہنا گوارا نہیں“

قطری نے کہا ”چلے جاؤ“

پھر عبیدہ کو بلا کر حقیقت حال دریافت کی۔ عبیدہ نے کہا ”امیر المؤمنین! مجھ پر بہتان طرازی

کی گئی ہے۔

قطری نے کہا ”میں مخالفین کو تمہارے رُدر و بلاؤں گا۔ نہ تو ایک مجرم کی طرح اپنے جرم کا اعتراف کیجیے اور نہ ہی ایک پاک دامن کی طرح دراز دستی سے کام لیجیے“

قطری نے خوارج کو بلایا۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ جو اب عبیدہ نے کھڑے ہو کر واقعہ انکس کی آیات تلاوت کیں :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِثْمِ عُصْبَتًا مِّنْكُمْ -

حتیٰ کہ اس واقعہ سے متعلق تمام آیات پڑھ ڈالیں خوارج سن کر دوپڑے۔ عبیدہ کو گلے لگایا اور کہا ہمیں معاف کیجیئے۔ (الکامل للبر، ج ۲، ص ۲۳۴)

اس واقعہ سے عیاں ہے کہ عبیدہ نے یہ آیات تلاوت کر کے خوارج کو ٹال دیا۔ اور اس بات کی مصلحت نہ دی کہ وہ سوچیں کہ آیا یہ واقعہ درست ہے۔ اور اس کی بنا پر عبیدہ سزا کا مستحق ہے یا بے گناہ ہے۔ اور انہوں نے بہتان طرازی کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ آیات سن کر خوارج نے مطلقاً غور و فکر کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اور جس طرح بلا دلیل اسے گناہ سے لوث کرنے کی سعی لاحقہ کی تھی اب اسے بری قرار دیا۔ خوارج کا یہ طرز عمل اس امر کا آئینہ دار ہے کہ کسی دلیل پر غور کیے بغیر وہ ان کی ان میں ایک نقیض سے کوہر دوسری نقیض تک پہنچ جایا کرتے تھے۔

خوارج کی ظاہر پرستی کی یہ حد ہے کہ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص قییم کے مال سے دو پیسے بھی کھائے تو جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے :

رَبِّكَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ
 بولوگ از روٹے ظلم تمیوں کا مال کھاتے
 فَلَمَّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
 ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے
 (النساء - ۱۰) ہیں

لیکن اگر کوئی شخص یتیم کو قتل کر دے یا اس کا پیٹ پھاڑ دے تو اس کا جہنمی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اس کی تصریح نہیں کی گئی۔

(تلمیس ابلیس، ص ۹۵)

خوارج کے فرقہ میمونہ کا قائد میمون عجمی بنات اولاد بنتی پوتی اور نواسی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے نزدیک بھتیجے اور بھتیجی کی بیٹیوں سے بھی نکاح درست ہے۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ قرآن کریم نے جن حرام رشتوں کا ذکر کیا ہے ان میں یہ رشتے مذکور نہیں ہیں۔

(الفرق بین الفرق، ص ۲۶۴)

مردی ہے کہ خوارج کے فرقہ اباضیہ کے ایک شخص نے چند خارجیوں کو دعوت دی۔ اس کی ایک لونڈی بھی اسی مذہب کی حامل تھی۔ اس نے لونڈی سے کہا کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ لونڈی نے بہت دیر کر دی۔ مالک نے قسم کھائی کہ میں اسے بدوں کے پاس فروخت کر دوں گا۔ حاضرین نے کہا تم ایک مومن لونڈی کو کفار کے پاس فروخت کر رہے ہو، اس نے یہ آیت تلاوت کی :

وَأَحَلَّ النَّبِيُّ وَحَرَّهَ الرَّسُولُ
 اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود

(البقرہ - ۲۷۵) کو حرام ٹھہرایا۔

خوارج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ واقعہ انک میں آپ گھر سے کیوں نکلی تھیں۔ جب کہ مستورات کو گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا :

دَقِّنَ فِي بَيْوتِهِنَّ
 اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔

(الاحزاب - ۳۳)

خوارج کے فرقہ ازارقہ والے اس بات کے قائل تھے کہ جو شخص پاکدامن عورت پر بہتان

لگانے اُسے شرعی حد لگائی جائے گی۔ اور جو شخص پاک دامن مرد کو متمم کرے اس پر حد نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں عورت پر بتان لگانے والے کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے۔ مرد پر بتان لگانے والے کے لیے سزا کا ذکر نہیں کیا گیا۔

(التبصیر فی الدین ص ۲۹)

خوارج کا قول ہے کہ معمولی سے معمولی چیز چرانے والے کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں ”سارق“ (چرانے والا) کے الفاظ ہیں۔ اور اس سلسلہ میں کوئی قید یا شرط نہیں عائد کی گئی۔

مندرجہ بالا مسئلہ سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ خوارج قرآن حکیم کے فہم و ادراک میں نہایت سطحی واقع ہوئے تھے۔

خوارج کی تفسیری خدمات :

خوارج نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں اس قدر محنت و کاوش سے کام نہیں لیا تھا جس قدر معتزلہ و شیعہ اور دیگر فرق و مذاہب نے۔ دیگر فرقوں نے متعدد تفاسیر مرتب کی تھیں متقدمین خوارج سے جو تفسیری اقوال منقول ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ ان کی حیثیت چند منتشر و پراگندہ افکار کی ہے جو ان کے مناظرات و مجادلات کے ضمن میں کبھر سے ہوئے ملتے ہیں۔ اس قسم کے تفسیری افکار کتب میں جا بجا ملتے ہیں۔ اور ہم قبل ازیں متعدد اقوال ذکر کر چکے ہیں۔

مگر سوال یہ ہے کہ آیا خوارج کی تفسیری خدمات اسی دائرہ تک محدود و مقصور ہیں یا انہوں نے مستقل تفاسیر مرتب کی تھیں مگر گردش دوران نے انہیں صفحہ گیتی سے محو کر دیا؟

التفسیر والمفسرون کے مصنف محمد حسین الذہبی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خوارج کے فرقہ اہلیہ کے ایک عالم رکن شیخ ابراہیم دارالکتب المصریہ کے شعبہ ادب میں پروفیسر تھے جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے اس امر کا اعتراف کیا کہ دیگر فرقوں کے مقابلہ میں خوارج کی تفسیری خدمات کم ہیں۔ تاہم تفسیر کے سلسلہ میں انہوں نے جو کام کیا تھا وہ بھی آج موجود نہیں۔ بلکہ خوارج کا بیشتر تفسیری سرمایہ گردش دوران سے مٹ گیا۔

محمد حسین الذہبی لکھتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ خوارج کی مرتبہ کتب

تفسیر کے کچھ نام آپ کو یاد ہیں؟ تب انہوں نے مندرجہ ذیل کتب گنائیں۔

خواجہ کی کتب تفسیر:

- (۱) تفسیر عبدالرحمن بن رستم الفلاسی - یہ تیسری صدی ہجری کے عالم ہیں۔
- (۲) تفسیر ہود بن حکم العواری - یہ بھی تیسری صدی ہجری کے مفسر ہیں۔
- (۳) تفسیر ابوالقیوب یوسف بن ابراہیم درجلانی - یہ چھٹی صدی ہجری میں تھے۔
- (۴) داعی العمل لیوم الال از شیخ محمد بن یوسف - یہ چودھویں صدی ہجری کے عالم ہیں۔
- (۵) ہمیان الزاد الی دار المعاد از شیخ محمد بن یوسف مذکور۔
- (۶) تیسیر التفسیر از شیخ مذکور۔

اور جب شیخ ابراہیم سے یہ دریافت کیا گیا کہ آیا مذکورہ صدر کتب تفسیر میں سے ہنوز کوئی کتاب موجود بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ عبدالرحمن بن رستم کی تفسیر تو مفقود ہے۔

البتہ ہود بن حکم کی تفسیر موجود ہے اور بلاد مغرب کے باغیہ فرقہ میں عام طور سے متداول ہے۔ یہ تفسیر چار جلدوں میں ہے۔ شیخ ابراہیم نے اس تفسیر کی پہلی اور چوتھی جلد مجھے دکھائی یہ دونوں غیر مطبوعہ مخطوط کی صورت میں تھیں۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ انعام پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی سورہ الزمر سے شروع ہو کر سورہ الناس پر اتمام پذیر ہوتی ہے۔

شیخ ابراہیم نے بتایا کہ ابوالقیوب درجلانی کی تفسیر آج کہیں موجود نہیں۔ محققین علمائے خوارج کا کہنا ہے کہ بحث و تحقیق کے اعتبار سے یہ تفسیر عدیم المثال ہے۔ جہاں تک تفسیر "داعی العمل لیوم الال" کا تعلق ہے وہ نامتام ہے۔ مولف اس کو تیسس جلدوں میں مکمل کرنا چاہتے تھے۔ پھر یہ اداوہ تبدیل کر دیا اور تفسیر "ہمیان الزاد" کی تسوید و تصنیف میں لگ گئے۔

محمد حسین الذہبی کا بیان ہے کہ بقول شیخ ابراہیم مذکورہ تفسیر "داعی العمل" کے چار اجزاء دو جلدوں میں مجلد ہیں۔ اور مصنف کے ہاتھ کے تحریر کردہ ہیں۔ ان میں سے ایک جلد کتاب کے جزو نمبر ۲۹ پر مشتمل ہے۔ اور سورہ الرحمن سے شروع ہو کر سورہ التحریم پر ختم ہوتی ہے۔ دوسری جلد کتاب کے جزو ۳۱، ۳۲ کی جامع ہے اور سورہ تبارک سے ہو کر آخر قرآن پر اتمام پذیر ہوتی ہے۔ دوسری جلد کے ساتھ بعض اوراق پیوستہ ہیں جن میں سورہ ص کی تفسیر کا آغاز کیا گیا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ مصنف

نے سورہ الرحمن سے تفسیر لوسی کا آغاز کر کے اس کو سورہ الناس پر ختم کیا۔ اور پھر سورہ ص کی تفسیر لکھنا شروع کی، مگر اس کی تکمیل نہ کر سکے۔

باقی رہی تفسیر ”ہیمان الزاد“ تو وہ چھپ چکی ہے اور نیزہ^{۱۳} ضخیم مجلدات پر مشتمل ہے۔ دارالکتب المصریہ میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔ خوارج کی تحریر کردہ ”تیسیر التفسیر“ بھی چھپ چکی ہے اور سات متوسط الحجم مجلدات پر مشتمل ہے۔ دارالکتب المصریہ میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔

خوارج کی تفسیری مساعی کی قلت کے اسباب :

مذکورہ صدر بیان اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ خوارج کی تفاسیر خواہ موجود ہوں یا غیر موجود سب کی سب خوارج کے فرقہ اباضیہ کی مرصون منت ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اباضیہ کے مسوا خوارج کے دیگر فرقے صفحہ کائنات پر آج کہیں موجود نہیں۔ اباضیہ فرقہ ہنوز موجود ہے، اور اس کے وابستگان دامن بلاد مغرب حضرت موت عثمان اور زنجبار میں پائے جاتے ہیں۔

ایسا یہ سوال حل طلب ہے کہ خوارج کی تفسیری کاوش میں کمی کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے حسب ذیل تین وجوہ و اسباب ہیں :-

(۱) خوارج زیادہ تر دیہات میں لڑو و باش رکھتے تھے۔ ان کی غالب اکثریت بنو تمیم کے قبائل سے وابستہ تھی۔ جو تھوڑے بہت خوارج کو ذہن و لبہ میں سکونت پذیر تھے وہ بھی اپنی بددینت پر قائم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دینی علی اور اجتماعی کاموں میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ خوارج دراصل اس فطری سادگی کی نمایندگی کرتے تھے جو آغاز اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔ اور جس میں دیگر اقوام دائم کی تعلیمات کی آمیزش نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں دیہاتی خصوصیات پوری طرح موجود تھیں۔ وہ سادگی و فکر و نظر اور زنگ فطری کا موقع تھے اور اپنے قرب و جوار میں بسنے والی اقوام کی تہذیب سے متاثر نہیں ہوئے تھے۔

(۲) دوسری وجہ یہ تھی کہ خوارج آغاز ظہور سے ہی طویل و شدید لڑائیوں سے دوچار رہے وہ پہلے حضرت علیؓ کے خلاف برسرِ بیکار رہے اور پھر امویوں سے ٹھن گئی۔ ابھی ان سے گلہ خلاصی نہیں ہوئی تھی کہ عباسیوں سے اُلجھ گئے۔ عباسیوں کے ساتھ جنگوں میں قربانیاں خوارج

کا قطع ہو گیا۔ لڑائیوں میں انہماک کی وجہ سے خوارج کو ایسی فرصت نہ مل سکی جو بحث و تحقیق کے لیے درکار ہے۔

(۳) اس کی تیسری وجہ یہ تھی کہ نفری قلت کے ساتھ ساتھ خوارج اپنے عقائد میں بے حد متشدد و واقع ہوئے تھے۔ وہ بڑے پکے مومن تھے اور کذب و دروغ کو کبیرہ گناہ خیال کرتے تھے۔ ان کے خیال میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اہل ایمان کے زمرہ سے خارج ہو جاتا ہے ممکن ہے کہ خوارج کا حد سے بڑھا ہوا تقویٰ تفسیر قرآن سے مانع ہوا ہو۔ مبادا وہ قرآن کی غلط تفسیر کریں اور خداوند کریم پر افترا پردازی کے مجرم ثابت ہوں چنانچہ ایک خارجی جسے جیسا دریافت کیا گیا کہ آپ قرآن کی تفسیر کیوں نہیں کرتے تو اس نے یہ آیت تلاوت کی :-

دَلُّوا كَقَوْلِ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِيلِ
اِدْرَاكَ (محمدؐ) کوئی بات گھر کر ہماری طرف
لَا خِذْنَا مِنْهُ بِالْأَيْمِينِ
منسوب کر دیتے تو ہم اسے دائیں ہاتھ

(المائدہ - ۶۴ - ۶۵) سے پکڑ لیتے۔

یہ ہیں وہ وجوہ و اسباب جن کے پیش نظر خوارج کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں تفسیری مساعی انجام دیتے۔ اور یہ بات صرف تفسیر قرآن تک محدود نہیں بلکہ دیگر علوم فنون کا بھی یہی حال ہے۔ آج علوم حدیث و تفسیر فقہ و اصول اور علم الکلام پر خوارج کی جو کتب موجود ہیں وہ سب کی سب فرقہ باضنیہ کی محنت و کاوش کی مرہون احسان ہیں۔ اس لیے کہ یہی ایک فرقہ ہے جو آج موجود ہے اور مختلف اسلامی بلاد و دیار میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ فرقہ بڑی حد تک معتزلی نظریات اور دیگر فریق مذہب کے انکار سے متاثر ہوا ہے اور عصر حاضر کی علمی اجتماعی کاوشوں کا ساتھ دے رہا ہے۔

بہر کیف یہ ہے خوارج کا تفسیری سرمایہ! اس میں شک نہیں کہ یہ سرمایہ نہایت گراں قدر اور بیش بہا ہے۔ گراں گراں کیا گیا جائے کہ اس کا اکثر حصہ گردش و دوران کی نذر ہو چکا ہے اور بہت کم باقی ہے۔ تفسیر قرآن سے متعلق خوارج کے جو علمی آثار ہنوز باقی ہیں ان میں سب سے اہم "ہیمان الزاد الی دار المعاد" ہے۔

فصل پنجم تفسیر صوفیہ

لفظ تَصَوُّف کی اصل :

لفظ تَصَوُّف کی اصل کے بارے میں مندرجہ ذیل خیالات کا اظہار کیا گیا ہے :-

(۱) تَصَوُّف کا لفظ صَوْف (اُون) سے ماخوذ ہے۔ چونکہ صوفیہ بنا برزہ و دروغ عام لوگوں کے برعکس ہمیشہ قیمت لباس سے احتراز کرتے اور اُون کا لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کو یہ لقب ملا۔

(۲) تَصَوُّف صَفَاء (پاکیزگی۔ صفائی) سے نکلا ہے۔ چونکہ صوفیہ مُرید کے دل کو باطنی امر اس سے پاک کرتے ہیں اور خود ان کے دل بھی روحانیوں بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے وہ اس نام سے موسوم ہیں۔

(۳) تَصَوُّف صَفَہ سے نکلا ہے۔ صَفَہ کی جانب نسبت کر کے فقراء صحابہ کی ایک جماعت کو اہل صَفَہ کہا جاتا تھا۔ چونکہ صوفیہ بھی اہل صَفَہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اس لیے یہ نام پایا۔

(۴) اہل لغت کی ایک جماعت کے نزدیک تَصَوُّف کا لفظ مُشْتَق نہیں بلکہ جامد ہے۔ مُشْتَرِی فرماتے ہیں کہ لفظ تَصَوُّف کے مشتق ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ قیاس سے بھی اس کی نائید نہیں ہوتی۔ ظاہر بات یہ ہے کہ یہ لقب ہے اور کسی سے مشتق نہیں۔ جو لوگ اس کو صَوُّف یا صَفَاء سے ماخوذ قرار دیتے ہیں لغوی اعتبار سے ان کی بات بعید از قیاس ہے۔

(مقدمہ ابن خلدون، ص ۵۲۲)

تَصَوُّف کا معنی و مفہوم :

تصوف کے معنی و مفہوم کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اپنے نفس کو ارادۃ اللہی کے تابع کر دینے کا نام تصوف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ "قلب و ریح سے مرگوشی کرنے کو

تصوّت کہتے ہیں۔ اس سرگوشی میں اس شخص کے لیے طہارت و پاکیزگی کا سامان ہے جو ناپاکی اور غلامت سے پاک و صاف ہونا چاہتا ہے۔ اس سے آدمی ملائکہ میں شمار ہونے لگتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ ربانی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

تصوّت کا ارتقاء :

تصوّت بابت معنی آغاز اسلام سے موجود ہے۔ کثیر صحابہ دنیوی مال و متاع سے نفور، اور زہد و تقشف کے دلدادہ تھے۔ وہ راتوں کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ بعض روحانی تربیت کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ البتہ وہ صوفیہ کے نام سے معروف نہیں ہوئے۔ البتہ دوسری صدی ہجری میں جو لوگ فنا فی اللہ ہو چکے تھے۔ اور زہد و تقویٰ کا زندہ پیکر تھے۔ اس لقب سے مشہور ہوئے۔ اولین شخص جس نے صوفی کا لقب پایا۔ ابو حاشم صوفی متوفی ۱۵۷ھ تھا۔ (کشف الظنون، ج ۱، ص ۱۵)

دوسری صدی ہجری میں اور اس کے بعد صوفیانہ نظریات پیدا ہوئے اور جوں جوں مانہ گزرتا گیا بڑھتے اور پھلتے پھولتے چلے گئے۔ پھر معاشرہ اور ماحول کے زیر اثر یہ نظریات تغیر پذیر رہے۔ فلاسفہ منکلبین اور فقہاء نے بھی صوفیانہ افکار پر خاطر خواہ اثر ڈالا۔ صوفیہ فلسفہ سے مقابلتہ زیادہ اثر قبول کیا۔ بلکہ اپنا ایک جداگانہ فلسفہ اختراع کیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ صوفیہ میں بعض ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو ان کی نسبت فلاسفہ سے قریب تر ہیں۔ بعض صوفیہ ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں جو دینی اصول و عقائد سے منصادم ہیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جمہور اہل سنت و فلسفیانہ تصوّت کے خلاف نبرد آزاں ہوئے۔ اور اس تصوّت کی تائید کرنے لگے جو زہد و تقویٰ اور نفس کی تربیت و اصلاح کے لیے مفید ہے۔ اہل سنت اور فلسفیانہ تصوّت کے درمیان یہ آویزش جاری رہی یہاں تک کہ اہل سنت نے ساتویں صدی ہجری کے اہتمام پر ایسے تصوّت کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔

اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہوئی کہ تصوّت میں ایسے لوگ بھی آدھکے جو اس کے اہل نہ تھے۔ ان لوگوں نے زہد و تقویٰ کا لبادہ اڑھ لیا۔ اور جاہل محض ہونے کے باوجود اتباع و مربی بن کی اصلاح و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ صوفیہ کی تعلیمات کا دائرہ اور دائرہ آؤ کار میں محدود ہو کر

رہ گیا۔ اور اگر وہ اس دائرہ سے باہر بھی نکلتے تو تفسیر و حدیث اور فقہ سے متعلق بعض محدود مباحث میں گھر کر رہ جاتے۔

اقسام تصوف :

سابقہ بیان سے یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ تصوف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں :-

۱۔ نظری تصوف :

یہ تصوف بحث و تحقیق پر مبنی ہے۔

۲۔ عملی تصوف :

اس تصوف کی اساس زہد و تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔

تصوف کی مندرجہ صدر دونوں ہی قسمیں تفسیر قرآن پر اثر انداز ہوئیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تصوف

کی تفسیر بھی دو قسموں میں بٹ گئی۔

(۱) نظری صوفیہ کی تفسیر۔

(۲) تفسیر اشاری جس کو تفسیر فیضی بھی کہتے ہیں۔ اب ان دونوں پر تفصیلی روشنی ڈالی جائیگی

۱۔ نظری صوفیہ کی تفسیر

ہم نبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ صوفیہ میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے تصوف کی بنیاد فلسفیانہ نظریات پر رکھی تھی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ وہ قرآن حکیم کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے جو ان کے افکار و آراء سے ہم آہنگ ہوتی۔ یہ بات آسان نہ تھی کہ صوفیہ کو قرآن کریم میں ایسا مواد ملتا جو صراحتاً ان نظریات کی ترجمانی کرتا جن کے وہ قائل ہیں۔ کیونکہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، کسی مخصوص نظریہ کے اثبات کے لیے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریات تو روح دین سے عاری اور خلاف عقل بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر قرآن ان کی تائید و حمایت کیسے کر سکتا ہے؟

چونکہ صوفی اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس کے نظریات و مقدمات عوام میں مقبول

ہوں اس لیے وہ مفرد بھر اس بات کے لیے کوشاں رہتا ہے کہ قرآن سے اس کے افکار کا اثبات ہو سکے۔ چنانچہ وہ قرآنی آیات کو تکلف و معانی پہنانے کی سعی کرتا ہے جو خلاف ظاہر اور عربی لغت کے منافی ہوتے ہیں۔

فلسفیانہ تصوف اور ابن عربی :

ہم بانگ دہل اس امر کا اعلان و اظہار کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی اس قسم کی تفسیر کے بانی و مؤسس تھے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے بھی اس قسم کی تفسیر میں حصہ لیا شیخ کے قدم اس میدان میں ان سب سے آگے ہیں۔ اگرچہ آپ نے تفسیر اشاری کے سلسلہ میں بھی اس قدر کام کیا ہے کہ ان کو تفسیر اشاری کے مفسرین میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کو تفسیر اشاری کا بانی و شیخ نہیں کہا جاسکتا۔

جب ہم ابن عربی کے نظریات کو ان کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں جن کی نسبت ان کی جانب شکوک ہے مثلاً ان کی تفسیر قرآن۔ یا وہ کتب جو درحقیقت آپ کی تحریر کردہ ہیں مثلاً فتوحات مکیہ و فصوص الحکم۔ تو یہ حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ وہ قرآنی آیات کو اپنے فلسفیانہ تصوف سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

چند امثلہ ملاحظہ فرمائیں :-

قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا :-

دَسَّ فَعَمَّا كَا مَكَا نَا عَدِيْنَا - ادرہ نے اس کو بلند جگہ پر اٹھالیا۔

(سورہ مریم - آیت ۵۷)

ابن عربی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”بلند ترین جگہ وہ ہے جس پر عالم افلاک کی چکی گھومتی ہے اور وہ فلک شمس ہے۔ وہاں حضرت ادریس کی رُوح مقیم ہے۔ سات آسمان اس کے اوپر ہیں اور سات نیچے فلک شمس پندرہواں آسمان ہے۔ ان چودہ آسمانوں کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ سب سے بلند مرتبہ امت محمدیہ کا ہے۔ جس کی شان میں“

دار ہے“ (فصوص الحکم، ج ۱ - ص ۲۶)

ارشاد فرمایا :-

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
دَقِّقِينَ مِنَ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ -
ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد
لگا ہمارے رسول بھیجے۔

(البقرہ - ۸۷)

ابن عربی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”ظاہر ہے کہ جبریل سے عقلِ فعال مراد ہے۔ میکائیل فلکِ ششم کی رُوح ہے
اور نباتات کا ظہور اس سے وابستہ ہے۔ اسرافیل فلکِ چہارم کی رُوح ہے۔
اور حیوانات اس سے متعلق ہیں۔ عزرائیل فلکِ ہفتم کی رُوح ہے اور اس کا تعلق
ارواحِ انسانی کے ساتھ ہے۔“ (تفسیر ابن عربی، ج ۱- ص ۵۱)

ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عربی نے تفسیر قرآن کے ضمن میں وحدۃ الوجود کے عقیدہ پر زور دیا
ہے۔ وحدۃ الوجود ابن عربی کا اساسی و بنیادی عقیدہ ہے جس پر اس نے اپنے فلسفیانہ تصورات
کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ اکثر و بیشتر قرآنی آیات کی شرح و تفسیر اسی عقیدہ کی روشنی میں کرتے
ہیں۔ اور اس میں اس حد تک کھینچا تانی سے کام لیتے ہیں کہ مراد ربانی خبط ہو کر رہ جاتی ہے
ابن عربی کی تفسیر اس کی مثالوں سے بھر پور و معمور ہے۔ اس لیے مثالیں پیش کر کے ہم غائر بنیں
کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔

سابقہ بیان کی روشنی میں یہ بات پورے ذوق کے ساتھ کسی جا سکتی ہے کہ نظری
صوفیہ کی تفسیر اکثر و بیشتر قرآن حکیم کو اس کے اصلی مقصد سے نکال دیتی ہے۔ ظاہر ہے
کہ قرآنی آیات و نصوص کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح صوفیانہ بحث و نظر بھی مقصدیت
سے خالی نہیں۔ یہ دونوں مقاصد ایک دوسرے سے مختلف و متضاد بھی ہو سکتے ہیں۔ صوفی
چاہتا ہے کہ قرآن کو اس کے اہداف و مقاصد سے نکال کر اپنے نصب العین کے تابع کر دے
اور یہ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنے نظریات کو قرآن کی اساس پر مبنی کر سکے۔ اس طرح صوفی
فلسفیانہ تصورات کی خدمت تو انجام دے سکتا ہے مگر قرآن کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ بجز ان
تاویلات کے جو دین اسلام کے لیے ایک عظیم شر ہیں اور آیات قرآنی میں الحاد کا دروازہ کھولتی ہیں۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابن عربی قرآنی آیات کی تخریف کر کے ان کو وحدۃ الوجود کے عقیدہ سے ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح دیگر صوفیہ مثلاً البرزید بسطامی اور حلاج وغیرہما بھی اسی راہ پر گامزن ہوئے۔ ان صوفیہ کے نزدیک وحدۃ الوجود کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں وجود صرف ایک ہی ہے اور سب عالم اس کا مظہر ہے۔ یعنی موجود حقیقی صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اس کے ماسوا جو کچھ بھی ہے سب وہم و خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر موجودات عالم کو مجازاً موجود کہا جاتا ہے۔ ورنہ درحقیقت وہ صفت وجود سے عاری ہیں۔

وحدۃ الوجود کا نظریہ بعض صوفی زوالگوں نے فلاسفہ اور باطنیہ اسماعیلیہ سے اخذ کیا تھا اس قسم کے مدعیان تصوف جب باطنیہ فرقہ والوں سے ملے تو ان میں سرایت کر آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ائمہ میں حلول کر آیا ہے۔ صوفیہ نے اس عقیدہ کو اس رنگ میں پیش کیا کہ یہ حقیقت میں باطنیہ کا چرہ تھا مگر اصطلاح و الفاظ میں ان سے مختلف تھا۔ اس میں شک نہیں کہ وحدۃ الوجود اور حلول کے نظریہ میں فرق ہے اور یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ دراصل وحدۃ الوجود کے عقیدہ پر یقین رکھنے والے صوفیہ دو قسموں میں بٹ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک جماعت حلول کی قائل ہے اور دوسری نہیں (فلسفہ اسلامیہ از ڈاکٹر محمد الہی، ص ۴۷)

اسی خود ساختہ تصور کے زیر اثر منصور حلاج نے ”آنا اللہ“ (میں اللہ ہوں) کہا اور یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ ابن عربی نے کہا کہ ”بنی اسرائیل کے پچھڑے کو منظر بنا کر اللہ تعالیٰ اس میں حلول کر آیا تھا۔ ابن عربی یہ بھی کہتے ہیں کہ جملہ اویان و ملاہب میں کوئی فرق و امتیاز نہیں خواہ وہ آسمانی ہوں یا غیر آسمانی۔ اس لیے کہ سب لوگ اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس کا ظہور ان کی اپنی اور تمام معبودات کی صورتوں میں ہوا ہے۔“

ابن عربی کا یہ طرز فکر و نظر ایسا ہے جو دین اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ پھر ہمارے اور ابن عربی جیسے شیخ اکبر کے لیے یہ بات کیوں کر درست ہو سکتی ہے کہ ہم سے فہم قرآن کی اصل و اساس قرار دیں۔ چندا شملہ ملاحظہ فرمائیں۔

قرآن حکیم میں فرمایا:

رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءً عَلَيْهِمْ

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے

عَاذُوا بِمَوْلَانَا هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (البقرة - ۶)

برابر ہے کہ ان کو ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

شیخ ابن عربی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں :

”اے محمد! کفر کرنے والوں کو چھوڑیے انہوں نے اپنی محبت کو میرے اندر چھپا رکھا ہے۔ برابر ہے کہ آپ ان کو اس وعید کے ساتھ ڈرائیں جو دے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یا نہ ڈرائیں وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے کہ میرے سوا وہ کسی چیز کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ وہ آپ پر کیسے ایمان لاسکتے ہیں جب کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور اپنے سوا کسی اور کے لیے گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑی۔ اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے وہ میرے سوا کسی کی بات سن ہی نہیں سکتے۔ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ چنانچہ وہ میرے بغیر اور کسی کو دیکھتے ہی نہیں“

(فتوحات ج ۱ - ص ۱۱۵)

تسرا ن عزیز میں فرمایا :

دَالِكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ۔ اور تمہارا معبود ایک ہے۔

(البقرہ - ۱۶۳)

ابن عربی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”خداوند کریم نے اس آیت کریمہ میں اہل اسلام اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو مخاطب کیا ہے۔ چونکہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے پیش نظر بھی خدا ہی کا تقرب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ زیادہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بذات خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم غیر اللہ کی عبادت تقرب الہی کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا الٰہ اور مشرک کا الٰہ جس کے توسط سے وہ خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے ایک ہی ہوٹے۔ ان میں کچھ فرق نہیں۔“

بایں طور مسلم اور مشرک خدا کی احدیت پر متحد ہو گئے۔ اسی لیے قرآن میں

”وَاللّٰهُمَّ جَمْعُ كَلِمَاتٍ لَمْ يَجْمَعُهَا اِلَّا رَجُلٌ مِّنْكُمْ“ گویا اگر انہوں نے شرک کا ارتکاب بھی کیا ہے تو خدا ہی کے لیے کیا ہے۔ جو شخص کسی خاص مقصد کے تحت کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کا مقصود اصلی وہی ہوا کرتا ہے۔“

اس ضمن میں صحیح اور آخری رائے یہ ہے کہ جو تفسیر وحدۃ الوجود کے عقیدہ پر مبنی ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح جس تفسیر کی اساس فلسفیانہ نظریات پر رکھی گئی ہو اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ ابن عربی اور دیگر صوفی نمالوگ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں اسی راہ پر گامزن رہے ہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ یہ تفسیر مقصود ربانی کے مطابق ہے اور نزول قرآن کی اصلی غرض یہ تھی۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آیت میں اس مفہوم کی گنجائش ہو جو ابن عربی نے بیان کیا ہے۔ بشرطیکہ وہ مفہوم قرآن کے منافی و معارض نہ ہو۔ اس پر مزید یہ کہ ابن عربی کا بیان کردہ معنی و مطلب غلطی ہے جو کسی وقت بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن کریم کو یہ معنی کیسے پہنائے جاسکتے ہیں؟ جب کہ باطل آگے یا پیچھے سے قرآن کے گرد نہیں پھٹک سکتا۔

تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ابن عربی کا یہ طرز فکر کہ وہ نادیدہ حقائق کو موجودات پر قیاس کرتے ہیں درست نہیں۔ مثلاً میزان اعمال کے بارے میں ابن عربی نے اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ محض قیاس آرائی ہے ظاہر ہے کہ جو دینی حقائق شارع سے صرف سن کر ہی معلوم کیے جاسکتے ہیں ان میں ظن و تخمین کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ جو تفسیر نحوی و بلاغی اصول و قواعد پر مبنی ہو اگر وہ سیاق و سباق سے ہم آہنگ ہو تو مقبول ہے ورنہ مردود و خلاف سیاق ہونے کی صورت میں اسے رد کر دیا جائے گا۔ اور وہ تفسیر مقبول ہوگی جو دلیل کے ساتھ ثابت ہو۔

یہ ہے ہماری رائے نظری صوفیہ کی تفسیر کے بارے میں! ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ایسی تفسیر کے جو از کے لیے غلط راہنشی سے کام لیں جو ناسد نظریات پر مبنی ہے اور جس کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو دین اسلام بیخ و بن سے اکھڑ کر رہ جاتا ہے۔ ابن عربی اور ان کے ہمنواؤں نے عالم علوی و سفلی ملائکہ روح معرّش اور کرسی اھد دیگر موجودات کے بارے میں جن خیالات کا

اظہار کیا ہے اگر ہم ان سے حتم پوشی بھی کر لیں تو بھی وحدۃ الوجود پر مبنی تفسیر سے اعلا شہرت سے ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اگر بادل ناخاستہ ہم ان صوفیہ سے صرف نظر بلجی کر لیں جنہوں نے وجد کے عالم میں خود نا آستہ ہوتے ہوئے کچھ شدید الفاظ کہے ————— مثلاً کسی نے خود فراموشی کے عالم میں انا الحق تک کہہ دیا ————— تو بھی ہم ان صوفیہ کو معاف نہیں کر سکتے جنہوں نے دیدہ دانستہ بقائمی ہوش و حواس اس قسم کی تفسیر مرتب کی۔

ہمارے علم کی حد تک نظری صوفیہ نے پورے قرآن کی کوئی تفسیر مرتب نہیں کی۔ البتہ مختلف کتابوں میں منتشر طور پر قرآنی آیات کی تفسیر ملتی ہے۔ مثلاً اس تفسیر میں جو ابن عربی کی جانب منسوب ہے۔ علاوہ ازین ابن عربی کی فتوحات مکہ اور القمصوم میں بھی بعض آیات کی شرح و تفسیر کی گئی ہے۔

۲۔ تفسیر فیضی یا اشاری :

تفسیر فیضی یا اشاری کا مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ اشارات کی بنا پر جو اصحاب تصوف ہی کو معلوم ہوتے ہیں قرآن کریم کی ایسی تفسیر بیان کی جائے جو اس کے ظاہری مفہوم کے خلاف ہو البتہ ظاہری اور باطنی مفہوم میں جمع و تطبیق کا امکان ہو۔

بنا بریں نظری صوفیہ کی تفسیر اور تفسیر اشاری میں دو طرح سے فرق کیا جاسکے گا۔

(۱) نظری صوفیہ کی تفسیر چند علی مقدمات پر مبنی ہوتی ہے جو پہلے صوفی کے ذہن میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ قرآن کو ان پر محمول کرتا ہے۔ بخلاف ازین تفسیر اشاری کی اساس علمی مقدمات پر نہیں رکھی جاتی۔ بلکہ یہ روحانی ریاضت کے زیر اثر ہوتی ہے۔ صوفی ریاضت کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس پر عبادت کے پردہ میں کچھ اشارات قدسیہ منکشف ہونے لگتے ہیں اور اس طرح آیات میں جو معارف و حقائق ہوتے ہیں وہ ابرغیب سے اس پر برس پڑتے ہیں۔

(۲) دوسرا فرق یہ ہے کہ نظری صوفی کسی آیت کی جو تفسیر کرتا ہے اس کے بارے میں اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آیت اس کے ماسوا کسی دوسرے مفہوم کی مضمحل ہی نہیں۔ اس کے برعکس تفسیر اشاری میں صوفی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آیت میں دوسرے معنی کی گنجائش ہے

بلکہ وہ ظاہری معنی ہیں اور ذہن انسانی سب سے پہلے اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔

یہاں طبعا یہ سوال تاری کے ذہن میں ابھر سکتا ہے کہ آیا تفسیر اشاری کے لیے کوئی شرعی اصل و اساس بھی ہے یا نہیں؟ نیز یہ کہ اس کا وجود اسلام کے عصر ازل میں بھی تھا یا اس کا ظہور اس وقت ہوا جب تصوف کا پرچا ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عزیز کے معانی و مطالب کے اظہار و بیان میں تفسیر اشاری کا انداز نہا نہیں بلکہ یہ اس وقت سے جانا پہچانا طریق ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگاہ کیا تھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس سے آگاہ و آشنا تھے۔

چند آیات ملاحظہ فرمائیں :

اس قسم کو کیا ہو گیا ہے کہ بات ہی نہیں سمجھتی۔

فَنَالَهُمُ اللَّوَاهُ الْقَوْمَ لَا يَكَادُونَ
يَعْقِبُونَ حَدِيثًا (النساء - ۷۸)

کیا قرآن میں غور نہ نہیں کرتے۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ

(النساء - ۸۲)

کیا قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَمَلَى
قُلُوبِهِمْ أَفْعَالَهَُا

(سورہ محمد - ۲۴)

مندرجہ صدر آیات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اس لیے کہ خداوند کریم ان آیات میں کفار کو اس بات پر ملامت کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ نفس قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اور انہیں قرآن کے ظاہری معانی معلوم کرنے کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ کیونکہ وہ عرب تھے۔ عربی ان کی مادری زبان تھی۔ اس لیے وہ قرآن کے ظاہری مفہوم سے پوری طرح آگاہ تھے۔ منشاء الہی و اصل یہ ہے کہ وہ مراد ربانی کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے ان کو قرآنی آیات میں غور و تدبر کی دعوت دی گئی ہے۔ یہی قرآن کا باطنی مفہوم ہے جس سے وہ نا آشنا تھے۔ ذمہ واقعات

شاطبی، ج ۳، ص ۳۸۲ =

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے آگاہ فرمایا ہے۔ چنانچہ افریابی حضرت حسن سے مرسل روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر حوت کی ایک حد ہے اور ایک بندی۔ اسی طرح ذیل میں نے عبدالرحمن بن عوفؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن عرش کے نیچے تھا۔ اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ وہ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔

مذکورہ صدر دونوں احادیث میں صراحت ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن البتہ علماء نے اس ضمن میں اختلاف کیا ہے کہ ظاہر و باطن سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلہ میں علماء کے اقوال حسب ذیل ہیں :-

(۱) ظاہر سے لفظی معنی مراد ہیں اور باطن سے تاویل مفہوم۔

(۲) ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اُمم سابقہ اور ان کی ہلاکت کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کا ظاہری مفہوم ان کی تباہی و بربادی کی خبر دیتا ہے اور باطنی معنی دوسروں کو ایسی حرکات سے باز رکھنا ہے تاکہ ان کا انجام بھی ویسا نہ ہو۔

(۳) ابن نقیب کا قول ہے کہ قرآن کے ظاہری معنی وہ ہیں جو عام طور سے اہل علم کو معلوم ہوں۔ قرآن کے باطنی مفہوم سے وہ اسرار مراد ہیں جو صرف اہل حقائق ہی کو معلوم ہوتے ہیں۔

صحابہ سے جو اقوال منقول ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تفسیر اشاری سے آگاہ اور اس کے قائل تھے۔ چند اقوال ملاحظہ ہوں :

ابن ابی حاتم بطریق ضحاک حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ قرآنی علوم چند انواع و اقسام پر مشتمل ہیں۔ اس کے کئی ظاہر اور کئی باطن ہیں۔ اس کے عجائبات ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ جس نے اس میں نرمی کے ساتھ غوطہ لگایا اس نے نجات پائی۔ اور جس نے سختی اختیار کی، وہ ہلاک ہوا۔ اس میں آخیاں و امثال حلال و حرام ناسخ و منسوخ حکم و مشابہ نظر و بطن سب کچھ ہے۔ اس کا ظاہر اس کا درس و مطالعہ ہے اور اس کا باطن اس کی تاویل و تفسیر ہے قرآنی معلومات کے حصول کے لیے علماء کی صحبت میں بیٹھو اور جملہ سے پرہیز کرو۔

حضرت البرالدرداء کا قول ہے کہ آدمی اس وقت تک فقیہ نہیں بن سکتا جب تک قرآن

کو ظاہر و باطن کئی وجوہ پر مشتمل قرار نہ دے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ:

”جو شخص اولین و آخرین کے علوم سے آگاہ ہونا چاہے وہ قرآن کا مطالعہ کرے۔“

ظاہر ہے کہ یہ مقصد قرآن کی ظاہری تفسیر سے پورا نہیں ہو سکتا۔

جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اشاری تفسیر بھی کرتے

تھے ان میں سے حضرت ابن عباسؓ کی صحیح بخاری میں ذکر کردہ یہ روایت بھی ہے کہ جناب

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہیں بدری صحابہ کی موجودگی میں شرف باریابی بخشا کرتے تھے، بعض

صحابہ نے ناراض ہو کر حضرت عمر سے کہا کہ ”ہمارے بھی بیٹھے ہیں اور ہم ان کو آپ کی مجلس

میں نہیں لاتے۔ پھر ابن عباس کے آنے کی وجہ ہے“ حضرت عمر نے فرمایا ”حقیر میاں پ

کو پتہ چل جائے گا“

چنانچہ حضرت عمر نے ایک روز دیگر صحابہ کی موجودگی میں ابن عباسؓ کو بھی ملاقات

کا شرف بخشا۔ صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ آیت کریمہ ”مَاذَا جَاءَ نَصْرَ اللَّهِ“ کے بارے

میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں اس آیت میں حمد و استغفار کا حکم دیا گیا

ہے۔ بعض خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ابن عباس کو مخاطب کر کے اس آیت

کے معنی دریافت کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں دیگر صحابہ کے بیان سے متفق نہیں ہوں۔ اس

آیت میں بتایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل طبعی قریب آگئی ہے۔ اس لیے آپ

کو اب پہلے سے بھی زیادہ حمد و استغفار کرنا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا اس

ضمن میں میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے“ (صحیح بخاری باب التفسیر)

اس سے واضح ہوا کہ بعض صحابہ نے اس آیت کو ظاہر پر محمول کیا تھا۔ مگر حضرت عمرو

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے جو مفہوم مراد لیا ہے وہ خلاف ظاہر ہے۔ یہ باطنی مفہوم

ہے اور بطریق اشارہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا:

اليوم اكملت لكم دينكم

آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل

اَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ فَعِمَّتِي وَصَلَّتْ
لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا۔

کمل کروا۔ اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو
ایک دین کی حیثیت سے تمہارے لیے قبول
کر لیا۔

(المائدہ ۳۰)

جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ بہت خوش ہو گئے۔ مگر حضرت عمر فاروق نے لگے
فرمایا جب دین کامل ہو چکا ہے تو اب نبی کریم دنیا میں موجود نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس آیت
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے کہ اس کا وقت قریب ہے۔ محدث
ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے لگے۔ رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے دین میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا،
جب دین کامل ہو گیا تو اس کی تکمیل کے بعد اب تنزل کا آغاز ہو گا۔ (اور وہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے) سرور کائنات نے فرمایا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔

(روح المعانی، ج ۴، ص ۶۰)

چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مذکورہ صدر آیت سے اشاری مفہوم مراد لیا
اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی۔ دیگر صحابہ یہ آیت سن کر اس لیے خوش
ہوئے تھے کہ انہوں نے اس سے ظاہری مفہوم مراد لیا تھا۔

یہ دلائل دہراہین اس امر کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی
ہر عربی دان ظاہر قرآن کے فہم و ادراک پر قادر ہے۔ البتہ باطن سے ارباب دانش و بصیرت
ہی آگاہ ہو سکتے ہیں۔ باطنی معانی کی آخری سرحد وہ نہیں ہے جہاں تک ہمارے حواس کی
رسائی ہے۔ بلکہ یہ امر ہمارے تصور سے بالاتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے
کہ فہم قرآن کا میدان بہت وسیع ہے۔ جو شخص اولین و آخرین کے علوم سے آگاہ ہو ناچاہتا
وہ قرآن کا مطالعہ کرے۔

وشرآن عزیز میں فرمایا:

دَسَّخَتْهُ لَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
ہم نے قرآن میں کوئی ہی باقی نہیں چھوڑی۔

(الانعام - ۳۸)

باطنی معانی کے فہم میں فرق مراتب :

یہ امر مشک و شبہ سے بالا ہے کہ قرآن جن باطنی معانی پر مشتمل ہے سب مفسرین کو وہاں تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح جو مفسرین ان کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ بھی مساوی المدبر نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں فرق مراتب پایا جاتا ہے۔ پھر جن معانی کا ادراک انہیں حاصل ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو۔ بخلاف انہیں اس بات کا قوی احتمال ہے کہ ان کے معلوم کردہ بعض معانی صحیح ہوں اور بعض غلط۔ پھر جس کے فہم میں غلطی سرزد ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ مبنی بر جہالت ہو اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ دانستہ اور بدینتی کے باعث ہو۔

امامیہ ظاہر پرست ہونے کے باوجود باطنی معانی کے قائل ہیں۔ مگر وہ دانستہ ایسے باطنی معانی مراد لیتے ہیں جو ان کے عقائد سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ باطنیہ فرقہ والے ظواہر قرآن کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ صرف باطنی معانی کے قائل ہوتے ہیں وہ بھی دانستہ ایسے باطنی معانی مراد لیتے ہیں۔ جن سے ان کے افکار و عقائد کی تائید ہوتی ہے۔

جہاں تک اہل حقیقت صوفیہ کا تعلق ہے وہ قرآن کے ظاہر و باطن دونوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ مگر باطنی معانی کی شرح و توضیح کرنے وقت جہاں قابل قبول معانی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ وہاں ایسے مطالب بھی بیان کرتے ہیں جن کو عقل و شریعت قبول نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم صوفیہ کے لیے کہہ باطنی معانی بیان کر کے حق و انصاف کی روشنی میں بتائیں گے کہ وہ کس حد تک قرین عقل و صواب ہیں۔ پھر ایسے شرائط بیان کریں گے جن کی موجودگی میں وہ تفسیر قابل قبول ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ ان شرائط کے فقدان کی صورت میں ہم باطنی تفسیر کو نظر انداز کر دیں گے۔ قطع نظر اس سے کہ اس کا قائل قوم کی نگاہ میں کس حد تک واجب الاحترام ہے۔

تفسیر اشاری کا معیار و مدار

ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ نیز یہ کہ ظاہر و باطن معانی سے کیا مراد ہے۔ اس ضمن میں ذکر کردہ اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر قرآن سے اس کا ظاہری مضمون

مراد ہے جو عربی الفاظ کے اعتبار سے سمجھا جاسکے۔ بخلاف انہیں باطنی معنی سے وہ مطلب و مفہوم مقصود ہے جس غرض کے پیش نظر خداوند تعالیٰ نے اسے نازل کیا۔ بالفاظ دیگر باطنی معنی سے مقصود ربانی مراد ہے۔ یہ سب سے عمدہ قول ہے جو ظاہر و باطن کے سلسلہ میں کہا گیا ہے۔

تفہیم ہم کہتے ہیں کہ عربی الفاظ کے وہ معانی و مطالب جن کے بغیر فہم قرآن ممکن نہیں سب ظاہر میں شامل ہیں۔ اس لیے قرآن کے ظاہری مفہوم کو سمجھنے کے لیے علم بیان و بلاغت کے مسائل سے آگاہی از بس ناگزیر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ ”صَبِيحٌ“ کا لفظ وارد ہوا ہے اور دوسری جگہ ”مَضَانِقُ“ کا۔ ”صَبِيحٌ“ صفت مشبہ ہے۔ جو دوام و ثبوت پر دلالت کرتی ہے۔ بخلاف انہیں ”مَضَانِقُ“ اسم ناعل ہونے کی حیثیت سے حدود و تحدید پر دلالت کرتا ہے جو ایک عارضی و منگامی وصف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ان دونوں کے فرق و امتیاز کو سمجھتا ہوگا۔ وہ قرآن کے ظاہری مفہوم کے فہم و ادراک پر قادر ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے ظاہری معانی سے آگاہ ہونے کے لیے صرف عربی دلتی کافی ہے اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ نیز یہ کہ قرآن سے ماخوذ جو معنی و مطلب عربی زبان کے اصول و قواعد پر پورا نہ آتا ہو وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی شخص اس کو تفسیر قرار دیتا ہے تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

باقی رہا قرآن کا باطنی مفہوم تو اس کے سلسلہ میں صرف عربی دلتی کافی نہیں۔ بلکہ عربی لغت سے آشنائی کے ساتھ ساتھ خدا وادوانش و بصیرت کی بھی ضرورت ہے جس کی بنا پر ایک شخص صاحب بصیرت اور سلیم الفکر بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطنی مفہوم قرآنی الفاظ کے مدلول سے کوئی الگ چیز نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ باطنی مفہوم کی صحبت کے لیے علماء نے دو بنیادی شرطیں عام کی ہیں :-

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ باطنی معنی عربی زبان کے اصول و قواعد سے متصادم نہ ہو۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی نص ایسی موجود ہو جس سے باطنی معنی کی تائید ہوتی ہو اور اس کا کوئی معارض نہ ہو۔

پہلی شرط قائم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں آتا ہے۔ اگر اس کا مفہوم کلام عرب

کے موافق نہ ہو تو اس کو علی الاطلاق عربی کہنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ دوسری شرط اس لیے ضروری ہے کہ اگر باطنی معنی کی تائید کسی نص سے نہ ہوتی ہو یا اس کا کوئی معارض بھی ہو تو اندر میں صورت یہ ایک ایسا دعویٰ ہو گا جو بلا دلیل درحان ہے۔ ظاہر ہے کہ دعویٰ بلا دلیل علماء کے نزدیک مقبول نہیں۔

(الموافقات، ج ۳ - ص ۳۹۴)

باطنی معنی میں جب یہ دونوں شرائط موجود ہوں تو اسے صحیح معنی ہونے کے اعتبار سے قبول کر لیا جائے گا۔ ورنہ ناسد معنی تصور کرتے ہوئے اسے رد کر دیا جائے گا۔

جب مندرجہ صدف ضابطہ کی روشنی میں علماء کے بیان کردہ باطنی معانی کو جانچنے پر کھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ان میں سے کچھ معانی مقبول ہیں اور بہت سے مردود۔ اس راہ کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان میں سے بعض معانی ایسے اکابر علماء کی جانب منسوب ہیں جن کو بڑی عزت و وقعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ بعض اقوال کی نسبت صحابہ حضرات صحابہ کی جانب بھی کی گئی ہے۔ جو کتاب خداوندی کے سب سے بڑے رازدان تھے۔ جو باطنی معانی علماء سے منقول ہیں۔ اور ان کے صحیح ہونے کا بھی احتمال ہے اس کی ایک مثال یہ آیت کریمہ ہے :

خَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اٰنۡدَاۡ اَلۡاٰنۡتُمۡ
تَعْلَمُوۡنَ - (البقرہ - ۲۲)

جانتے بھی ہو۔

سہل نستری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ”آندادا“ کے معنی ہیں ضد اور مخالفت نفس امارہ سب سے بڑا مخالف ہے جو ہدایت خداوندی کے برعکس لوگوں کو خواہشات نفس کی پیروی کی تلقین کرتا ہے“ (تفسیر القرآن از سہل نستری ص ۱۷۷)

سہل نستری کے اس قول سے مستفاد ہوتا ہے کہ لفظ آندادا کا مفہوم وسیع ہے۔ اور نفس امارہ بھی اس میں شامل ہے گویا آیت کے معنی یہ ہیں کہ کسی بُت شیطان یا نفس امارہ کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ ظاہر ہی معنی کے اعتبار سے یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ آیت کے سیاق و سباق اور قرآن و آثار سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آندادا سے وہ معبود مردود ہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ خواہ وہ بت ہوں یا کچھ اور۔ ظاہر ہے کہ نفس امارہ کی پوجا نہیں کی

جاتی تھی۔ تاہم اس امر کا احتمال ہے کہ یہ معنی بھی صحیح ہوں۔ اور اس کی وجہ حسب ذیل ہے۔
 قرآن کریم کا قاری دناظر عبرت پذیری کے نقطہ خیال سے کسی آیت سے بعض ایسے معنی مراد لیتا ہے۔ جن کے بارے میں وہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ وہ معنی اس آیت کے مقصد نزول سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سئل تستری نے جب یہ معنی بیان کیے تو ان کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ نفس امارہ بھی شرعی اعتبار سے بند (خدا کا شریک) ہی ہے۔ اس لیے کہ بند شریک اور مخالفت کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نفس امارہ اس اعتبار سے خدا کا شریک ہے کہ وہ نفس انسانی کو غلط راہ پر ڈالتا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ لوگوں نے جو بت بنا رکھے تھے وہ بھی منشاۓ ربانی کی مخالفت کے لیے تھے۔ اس لیے سئل کا قول درست ہے۔

صوفیہ کے کلام میں ایسے معانی کی کمی نہیں۔ البتہ تفسیر اشاری کے سلسلہ میں صوفیہ سے بعض ایسے اقوال منقول ہیں جن کے سامنے عقل انسانی عاجز و قاصر رہ جاتی ہے اور ان کے لیے کوئی صحیح محل تلاش نہیں کر سکتی۔ چند اشلہ ملاحظہ فرمائیں۔

صوفیہ حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ”السم“ کی تفسیر لویوں بیان فرمائی کہ الف سے اللہ، لام سے جبریل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حضرت محمد اور جبریل علیہما السلام کی قسم کھائی۔

(تفسیر القرآن العظیم از تستری ص ۱۱۱)

اگر اس کی نقل و روایت درست ہے تو اس کو تسلیم کرنا نہایت دشوار ہے۔ اس لیے کہ حروف کے ذریعہ کلمات کی جانب اشارہ کرنے کا رواج عرب میں نہیں ہے۔ حروف سے کلمات کی طرف اشارہ صرف اس وقت کیا جاتا ہے جہاں کوئی لفظی یا حالی قرینہ موجود ہو جیسا کہ ایک شاعر نے کہا

فقلت لها قفنی ففقت قاف

میں نے اس عورت سے ٹھہ جانے کو کہا اس نے کہا میں ٹھہ گئی

قاف سے وقفت (میں ٹھہ گئی) کی جانب اشارہ کیا۔ اس لیے کہ یہاں ”قفنی“ کا

قرینہ موجود ہے۔

مگر ایسا کوئی قرینہ ”آسم“ میں موجود نہیں۔ مزید برآں کسی خارجی دلیل سے بھی اس تفسیر کی تائید نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اگر اس کی کوئی دلیل موجود ہوتی تو عادتاً اس کو نقل کیا جاتا۔ جب اس کی کوئی دلیل موجود نہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ متشابہات کے قبیل سے ہے۔ اگر کسی دلیل سے اس کی تائید ہوگی تو ہم اس کو تسلیم کریں گے ورنہ توقف سے کام لیں گے۔

سہل تستری نے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کی تفسیر میں جو کچھ کہا ہے وہ ابن عباس کی مذکورہ صدر روایت سے بھی عجیب تر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ کی باء سے ہباء اللہ۔ سین سے سناء اللہ اور میم سے مجد اللہ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اور لفظ اللہ اسم اعظم ہے جو سب اسماء کو شامل ہے۔ اس کے الف دلام کے درمیان ایک حرف پوشیدہ ہے جس کے راز سے وہی شخص آگاہ ہو سکتا ہے جو میل کجیل سے پاک ہو اور حلال روزی پر نفاعت کرنے والا ہو۔ رحمن ایک اسم ہے جس میں الف دلام کے مابین پوشیدہ حرف کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ رحیم کے معنی ہیں اپنے بندوں کو رزق دے کر ان پر رحم کرنے والا۔ ان کا پیدا کرنے والا اور اپنے قدیم علم کے مطابق ان کو شفقت کی نگاہ سے دیکھنے والا“

(تفسیر القرآن از تستری ص ۹)

ابو عبدالرحمن الشلی سورہ بقرہ کے ابتدائی الفاظ ”آسم“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا الف ”الواحدینہ“ سے لام ”لطف“ سے اور میم ”الملک سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں، کہ جو شخص سب علاقہ و اغراض کو چھوڑ کر صحیح معنی میں مجھے پانا چاہے تو میں اس کو لطف و کم کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اس کو غلامی کی پستی سے نکال کر ملک اعلیٰ پر فائز کرتا ہوں۔ جس سے مالک الملک کے ساتھ ربط و اتصال مراد ہے۔

ابو عبدالرحمن الشلی لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک ”آسم“ کے الف سے افسردہ سبوح تیر سے راز کو الگ کر دوں گا، لام سے لیت جوار حیک لبعادتی کا ش کی تیر سے اعضاء میری عبادت کے لیے وقف ہوتے) اور میم سے ”آتم معنی“ (میرے ساتھ کھڑا ہو جا) مراد ہے۔

(حقائق التفسیر، ص ۹)

سہل تستری اور ابو عبدالرحمن الشلی نے جو بات کہی ہے وہ ابن عباس کی روایت سے

بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ ان کے دعویٰ کا حاصل یہ ہے کہ ان حروف سے غیبی اسرار کی نسبت اشارہ کیا گیا ہے۔ بقول ان کے جب ان حروف کو ایک خاص طریقہ سے ترکیب دی جائے تو ان سے ایک نیا اور عجیب مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اذقات وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حروف علوم و فنون کی اصل و اساس ہیں اور ان سے دنیا و آخرت کے حالات منکشف ہوتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان الفاظ کے ساتھ عرب کے امی لوگوں کو مخاطب کیا تو اس کی مراد یہی تھی۔ حالانکہ عرب کے جاہل ان سے مطلقاً نا آشنا ہیں۔ یہ سب دعادی انہوں نے قرآن کے بارے میں کیے ہیں مگر کسی کی بھی دلیل و برہان پیش نہیں کی۔ اس ضمن میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ صوفیہ نے کشف والہام کی بنا پر یہ دعویٰ کیا ہے مگر واضح ہے کہ کشف والہام کو شرعی دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

قرآن کریم میں فرمایا :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
 (آل عمران ۴۱)

سب سے پہلا گھر جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔

سہل تستری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”اولین گھر سے خانہ کعبہ مراد ہے۔ یہ اس آیت کے ظاہری معنی ہیں۔ باطنی معنی کے مطابق اس سے رسول کریم مراد ہیں جن پر ایک موحّد شخص ہی ایمان لاسکتا ہے“
 (تفسیر القرآن از تستری ص ۴۱)

قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا :

وَالْبُحَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
 الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ (النساء - ۳۶)

اور رشتہ دار پر دوسی اور اجنبی ہمسایہ اور اجنبی رفیق کار اور مسافر۔

سہل تستری اس آیت کی ظاہری تفسیر ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

”اس آیت کی باطنی تفسیر یہ ہے کہ ”الجار ذی القربی“ سے دل مقصود ہے۔
 ”بجار الجنب“ سے طبیعت ”الصاحب بالجنب“ سے عقل انسانی اور ”ابن السبیل“

سے وہ اعضاء جسمانی مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں۔
(تفسیر القرآن تفسری، ص ۲۵)

شکران کریم میں فرمایا:

دَايَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ
أَحْيَيْنَاهَا وَأَمْرَجْنَا مِمَّا جَبَّأْنَا
فَنُتْنَهُ يَأْكُلُونُ۔ (سورہ یسین۔ ۳۳)

اور مردہ زمین میں ان کے لیے قدرت کی
نشانی ہے کہ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس
سے دانے نکالے جن کو وہ کھاتے ہیں۔

ابن عطیاء اللہ سکندری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”جو دل غفلت کی بنا پر مردہ ہو چکے تھے، ہم نے ان کو عبرت و موعظت کے ذریعے
خواب غفلت سے جگایا۔“ (تفاتیح التفسیر السلی، ص ۲۸۲)

خلاصہ یہ کہ صوفیہ سے اس قسم کے تفسیری اقوال منقول ہیں جن کی کوئی عقلی توجیہ ممکن نہیں
اگر یہ کہا جائے کہ صوفیہ نے اس قسم کے اقوال میں قرآنی آیات کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے
تو ان کے اور باطنیہ کے افکار و نظریات میں کسی قسم کا فرق و امتیاز باقی نہ رہے گا۔ اس لیے کہ سابقہ
آیات کو جو معانی پہنائے گئے ہیں عرب ان سے کسی طرح بھی آگاہ نہیں نہ حقیقی معنی کے اعتبار سے
اور نہ مجازی مفہوم کی حیثیت سے۔

ظاہر ہے کہ قرآن عربی میں اُترا۔ اس کے مخاطب عرب ہیں جو اس کے الفاظ و تراکیب کو سمجھتے
ہیں۔ قبل ازیں جن آیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک عرب ان سے وہی مفہوم سمجھ سکتا ہے جو ان الفاظ کو
سننے ہی اس کے ذہن میں آتا ہے۔ چنانچہ البیت الحرام، الجار ذی القربی، الجار الجنب اور
ابن السبیل کے الفاظ سے وہی معنی مراد لے جائیں گے۔ جو ایک عربی شخص ان کو سن کر سمجھتا ہے اس کے سوا ہوسنی مراد لے جائینگے۔
مزید برآں سلف صالحین، صحابہ و تابعین سے ایسی تفسیر بالکل منقول نہیں۔ اگر ایسی تفسیر
ان کے یہاں معروف ہوتی تو وہ ضرور نقل کرتے۔ اس لیے کہ صحابہ بالاتفاق قرآن کے ظاہری و باطنی
معانی کے سب سے بڑے عالم تھے۔ یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ پچھلے تاریخی ادوار کا کوئی شخص
صحابہ سے بڑھ کر شریعت کا ارازدان ہو اور عربی زبان کو ان لوگوں سے بہتر طور پر سمجھتا ہو۔ جن کی
زبان میں قرآن اُترنا تھا۔

ظاہر ہے کہ قرآن عربی میں اُترا۔ اس کے مخاطب عرب ہیں جو اس کے الفاظ و تراکیب کو سمجھتے ہیں۔ قبل ازیں جن آیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک عرب ان سے وہی مفہوم سمجھ سکتا ہے جو ان الفاظ کو سننے ہی اس کے ذہن میں آتا ہے۔ چنانچہ البیت الحرام، الجار ذی القربی، الجار الجنب اور ابن السبیل کے الفاظ سے وہی معنی مراد لے جائیں گے۔ جو ایک عربی شخص ان کو سن کر سمجھتا ہے اس کے سوا ہوسنی مراد لے جائینگے۔

دینی علمی اعتبار سے معشرین کا جو مقام ہماری نگاہ میں ہے اور جس طرح وہ اپنی تفاسیر میں قرآن کے ظاہری معانی کا اعتراف اور باطنی معانی پر تنقید کرتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حسن ظن سے کام لیں اور ایسے معانی کے بارے میں یہ رائے قائم کریں کہ ان میں قرآن حکیم کی تفسیر بیان نہیں کی گئی۔ بلکہ یہ باتیں چونکہ قرآن کے موضوع سے ملتی جلتی ہیں اس لیے ان کو مشابہ و مماثل کی حیثیت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ محدث ابن الصلاح نے اپنے فتاویٰ میں یونہی ذکر کیا ہے۔

(فتاویٰ ابن الصلاح، ص ۲۹)

تفسیر اشاری کے بارے میں علماء کے اقوال:

علماء نے صوفیہ کی تفسیر سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان کی اساس صوفیہ کے ساتھ حسن ظن پر رکھی گئی ہے۔ اس ضمن میں علماء کے چند اقوال ملاحظہ فرمائیں۔

محدث ابن الصلاح:

محدث ابن الصلاح سے جب صوفیہ کی تفسیری اقوال کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے امام ابو الحسن الواحدی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو عبد الرحمن اشعلی نے مدحائق التفسیر، نامی کتاب تحریر کی ہے۔ اگر انہوں نے یہ کتاب تفسیر قرآن ہونے کے اعتبار سے مرتب کی ہے تو کفر کا ارتکاب کیا۔ ابن الصلاح کہتے ہیں کہ جب کوئی قابل اعتماد آدمی قرآن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے تو میں حسن ظن کی بنا پر کہتا ہوں کہ وہ قرآن کی تفسیر نہیں کہتا اگر ایسا ہوتا تو پھر باطنیہ اور ایسے لوگوں میں کچھ فرق و امتیاز نہ ہوتا۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ مندرجات قرآن کی تائید و حمایت میں ایسی باتیں کہتے ہیں۔ اس لیے کہ بات سے بات نکل ہی آتی ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں فرمایا:

تَاٰتُوْا الَّذِیْنَ یَدُوْنُکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ
(التوبة - ۱۲۳) لٹو۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس آیت میں کفار اور خود، اپنے نفس سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر ایسے خیالات کا اظہار قرآن میں مناسب نہیں۔ اس لیے کہ اس سے غلط فہمیاں اور توہمات پیدا ہوتے ہیں۔

(فتاویٰ ابن الصلاح، ص ۲۹)

شاطبی :

علامہ شاطبی کہتے ہیں کہ صوفیہ سے یہ اقوال عبرت انگیزی کے نقطہ خیال سے صادر ہوئے تھے۔ تاہم ان کو قرآن کے معانی پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر درست ہے کہ جن صوفیہ سے یہ اقوال صادر ہوئے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن کی شرح و تفسیر کر رہے ہیں یہ بات صوفیہ کے ساتھ حسن ظن کی آئینہ داری کرتی ہے۔

(الموافقات، ج ۳ ص ۲۰۳)

سعد الدین تفتازانی :

انسفی نے اپنی کتاب العقائد میں لکھا ہے کہ ”نصوص کو ان کے ظاہر پر محمول کیا جائیگا ظاہری معانی سے عدول کر کے ایسے معنی مراد لینا جن کا دعویٰ باطنیہ فرقہ دالے کرتے ہیں۔ دہریت اور السادہ ہے تفتازانی نے شرح العقائد میں اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے۔ کہ باطنیہ کو اس نام سے اس لیے پکارا جاتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نصوص سے ان کے ظاہری معانی مراد لینا درست نہیں۔ بخلاف ازیں ان کے باطنی معانی مقصود ہیں۔ جن سے صرف اہل علم ہی آگاہ ہوتے ہیں۔ باطنیہ کا مقصد دراصل یہ ہے کہ پوری شریعت کی انہی کر دی جائے۔ تفتازانی لکھتے ہیں کہ بعض محققین نے جو یہ بات کہی ہے کہ اگرچہ نصوص کو ان کے ظاہر پر محمول کیا جاتا ہے۔ تاہم ان میں ایسے پرشیدہ اشارات بھی پائے جاتے ہیں جو ارباب سلوک ہی پر منکشف ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ان کے کمال ایمان اور تمام عرفان کی غمازی کرتی ہے۔

(شرح عقائد انسفی تفتازانی۔ ص ۱۲۳)

ابن عطاء اللہ سکندری :

امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ ابن عطاء اللہ سکندری نے اپنی کتاب ”لطائف المتن“

میں لکھا ہے :

”صوفیہ کے گردہ نے قرآن وحدیث کے جو عجیب غریب معانی بیان کیے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ انہوں نے ظواہر نصوص کو تبدیل کر دیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ظاہری معانی تو لنت کی مدد سے سہولت سمجھ میں آسکتے ہیں۔ البتہ آیات واحادیث کے کچھ باطنی معانی بھی ہوتے ہیں۔

اور وہ اس شخص پر متکشف ہوتے ہیں جسے شرح صدر عطا کیا گیا ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہر آیت کا ایک ظہر ہے اور ایک بطن۔ کسی جھگڑا لوشخص کے کھنڈے پر ان معانی کے اخذ و استفادہ سے ٹک نہیں جانا چاہیے۔ لوگ کہیں گے کہ ظلال آیت کے اصلی معانی سے عدول کیا گیا ہے۔ مگر عدول تو جب ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس آیت کے صرف یہی معنی ممکن ہیں اور نہیں۔ ظاہر ہے کہ صوفیہ اس طرح نہیں کہتے۔ وہ ظاہری معانی کو قائم رکھتے ہوئے القاء ربانی سے باطنی معنی و مفہوم کو سمجھتے ہیں۔“

(الاتقان، ج ۲ ص ۱۸۵)

ابن عربی :

علماء کے مندرجہ صدر اقوال اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے صوفیہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی بنا پر کہی ہے۔ علماء کا یہ طریق کار نہایت پسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ امکانی حد تک ایک مومن سے حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ مگر جب ہم ابن عربی کے ان خیالات کا مطالعہ کرتے ہیں جن کا اظہار انہوں نے اپنی کتاب فتوحات میں کیا ہے تو حسن ظن پر مبنی یہ فتوحات پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ابن عربی نے صراحتہً لکھا ہے کہ صوفیہ نے کتاب الہی کی شرح و ترویج کے سلسلہ میں جو کچھ کہا ہے وہ قرآن حکیم کی حقیقی تفسیر ہے۔ ان الفاظ و آیات سے وہی معانی مطلوب و مقصود تھے جن کا اظہار صوفیہ نے کیا ہے۔ وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ صوفیہ کے ان تفسیری اقوال کو جو اشارات قرار دیا جاتا ہے تو یہ ایک قسم کا تقیہ کا ہے اور یہ صرف علمائے ظاہر کی ولداری کے لیے کیا گیا ہے جو علماء ابن عربی اور صوفیہ پر تنقید کرتے تھے۔ اس مقالہ میں ابن عربی نے ان پر تاثر توڑ دیا ہے کہ یہ اس کو اصل الرسوم“ (ظاہر پرست) کے نام سے یاد کیا ہے۔

ابن عربی پر نقد و جرح :

ہم ابن عربی کے ساتھ اس امر میں متفق ہیں کہ خداوند کریم اپنے اصفیاء و احباب کے قلوب پر ایسے معانی کا القاء کرتا ہے جن سے دوسرے لوگ محروم ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ جس طرح درجات سلوک کے اعتبار سے ان میں فرق مراتب پایا جاتا ہے اسی طرح معانی کا الہام و القاء پر سب پر یکساں نوعیت کا نہیں ہوتا۔ ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ان معانی کے

ذریعہ قرآن کریم کی تفسیر کی جاسکتی ہے۔ مگر یہ اس صورت میں ممکن ہے جب یہ معانی عربی زبان کے اعتبار سے قرآنی الفاظ کے تحت آتے ہوں۔ علاوہ ازیں کسی شرعی دلیل و برہان سے بھی ان معانی کی تائید و حمایت ہوتی ہو۔

بصورت دیگر جب یہ معانی قرآنی الفاظ کے مدلول و مفہوم سے خارج ہوں اور ان کی کوئی شرعی دلیل بھی نہ ہو۔ تو ان کو تفسیر قرآن کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ قرآن کی اولین حیثیت یہ ہے کہ وہ عربی میں نازل ہوا۔ خداوند کریم نے اس کی شان میں فرمایا،

كِتَابٌ مُّفَصَّلٌ آيَاتُهُ قُرْآنًا
عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔

یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو کھول کر بیان کیا گیا۔ یہ قرآن عربی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو۔ (سورہ فصّلت ۳)

اسیاب کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ایک چھستان اور زمانا کر رکھ دیتا جب کہ وہ خود کتاب ہے کہ میں نے قرآن کو آسان بنا کر بھیجا ہے۔ (سورہ القمر - ۱۷)

تفسیر اشاری کی قبولیت کے شروط

ہم قبل ازیں واضح کر چکے ہیں کہ تفسیر اشاری کی ایک قسم مقبول ہے اور دوسری غیر مقبول اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تفسیر اشاری میں کن شروط کا پایا جانا ضروری ہے جس سے وہ قابل قبول ہو سکے۔ وہ شروط مندرجہ ذیل ہیں :

- (۱) تفسیر اشاری قرآن کریم کی ظاہری نظم و ترتیب کے منافی نہ ہو۔
- (۲) کسی شرعی دلیل و برہان سے اس کی تائید ہوتی ہو۔
- (۳) اس کا کوئی شرعی یا عقلی معارض نہ ہو۔

ہم قبل ازیں ان شروط سے گانہ کی تشریح کر چکے ہیں لہذا اب اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔

(۴) چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ دعویٰ نہ کیا جائے کہ صرف اشاری تفسیر ہی مراد ہے اور ظاہری معنی۔

مبادیہ میں بخلاف ازیں پہلے ظاہری معنی کا اعتراف ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب تک

ظاہری معنی کی تفسیر نہ کی جائے باطنی معنی تک رسائی ممکن نہیں۔ جو شخص قرآنی اسرار کے فہم و ادراک کا مدعی ہو مگر ظاہری تفسیر نہ جانتا ہو۔ وہ اس شخص کی مانند ہے جو دروازہ بھورا کرنے سے پہلے ہی کسی گھر کے مرکز تک پہنچ جانے کا دعویٰ دار ہو۔

(الاتقان، ج ۲ - ص ۱۸۵)

مندرجہ صدر حقائق کی روشنی میں یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ کوئی دانش مند شخص بعض صوفیہ کی بیان کردہ مندرجہ ذیل تفسیر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔

قرآن کریم میں فرمایا:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ الرَّبِّ
كُنْ هُوَ جِوَّاسُ كِي اجازت کے بغیر اس
کے پاس سفارش کرے۔

(البقرۃ - ۲۵۵)

ایک صوفی نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ ”مَنْ ذَا الَّذِي“ کے معنی ہیں ”مَنْ الذَّلِيلُ“ (ذلت سے) ”ذِي“ اسم اشارہ ہے اور اس کا مشار الیہ نفس انسانی ہے۔ ”كَيْتَشَفِ“ کا مادہ شَفَعَا ہے۔ اور ”ع“ ”وَعِي“ کے مصدر سے فعل امر حاضر ہے۔

(الاتقان، ج ۲ - ص ۱۸۳)

قرآن کریم میں فرمایا:

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کے

(العنکبوت - ۲۹)

ایک صوفی صاحب کا قول ہے کہ ”لَمَعَ“ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اس کے معنی ہیں ”روشن کر دیا“ اور ”المحسنین“ ”لَمَعَ“ کا مفعول ہے۔ اس لیے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو روشن کر دیا ہے۔ (مبادی التفسیر از خضریٰ، ص ۱۷)

اس قسم کی تفسیر آیات قرآنی میں الحاد کے مترادف ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ فِي آيَاتِنَا
جو لوگ ہماری آیات میں الحاد سے کام لیتے
ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

(سورہ نعت - ۴)

علامہ آلوسی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

”جو لوگ قرآنی آیات میں انحراف سے کام لیتے ہیں اور صحیح و درست معانی کو چھوڑ کر باطل مطالب پر مغمول کرتے ہیں وہ ہماری نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ حضرت بولاند بن عباسؓ نے بھی اس آیت کا یہی مطلب بتایا ہے“

(روح المعانی، ج ۲۴، ص ۱۱۲)

مندرجہ صدر شرط جب تفسیر اشاری میں موجود ہوں گے تو وہ مقبول ہوگی۔ مقبول ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اسے رد نہیں کیا جائے گا۔ یہ معنی نہیں کہ اس کا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ رد و نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر کے منافی نہیں اور کوئی شرعی دلیل اس کی معارض نہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ اس کا تسلیم کرنا ضروری نہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وجدانیات کے قبیل سے ہے۔ اور وجدانیات کی اساس کسی دلیل دبر بیان پر نہیں رکھی جاتی۔ یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو صوفی کے جی میں آتی ہے۔ اور یہ صوفی اور اس کے رب کے مابین ایک راز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے صوفی خود تو اس پر عمل کر سکتا ہے۔ مگر کسی دوسرے کو اس کا پابند نہیں بنا سکتا۔

تفسیر اشاری پر مشتمل اہم کتب

- (۱) اس قسم کی تفسیر نویسی کے سلسلہ میں علماء کا طرز عمل مختلف رہا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔
 علماء کی ایک جماعت ظاہری تفسیر کی دلدادہ رہی اور انہوں نے تفسیر اشاری کی جانب مطلقاً توجہ نہ دی۔ مثلاً قاضی مینادری و زنجیری۔
- (۲) علماء کی ایک قسم وہ ہے جنہوں نے یوں تو ظاہری تفسیر کو اپنی توجہات کا مرکز قرار دیا۔ تاہم کسی حد تک تفسیر اشاری سے بھی اعتناء کیا۔ مثلاً آلوسی و بیس بووری۔
- (۳) ایک قسم کے علماء وہ تھے جن پر تفسیر اشاری کا غلبہ تھا۔ مگر وہ کسی حد تک ظاہری تفسیر کی جانب توجہ دیتے تھے۔ چنانچہ نسل ستیری نے اسی طرح کیا ہے۔
- (۴) کچھ علماء وہ تھے جو تفسیر اشاری ہی میں گم ہو کر رہ گئے۔ اور ظاہری تفسیر کو مطلقاً قابل انتفاع

ذبحھا۔ مثلاً ابو عبد الرحمن السلمی۔

(۵) علماء کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جس نے ظاہری تفسیر سے اعراض کیا اور تفسیر سے متعلق اپنی کتاب میں نظری صوفیہ کی تفسیر اور تفسیر اشاری کو یکجا کر دیا۔ چنانچہ جو تفسیر ابن عربی کی جانب منسوب ہے وہ اسی طرز عمل کی آئینہ دار ہے۔

ہم تیسرا ٹوڈی اور آلوسی کی ہر دو تفاسیر کے اشاری پہلو پر گفت گو نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ یہ تفاسیر صوفیہ کی نسبت اہل الظاہر کی تفاسیر سے قریب تر ہیں۔ ان میں تفسیر اشاری کا پہلو ضمنی و اجمالی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم قبل ازیں ان دونوں تفاسیر پر تفصیل تبصرہ کر چکے ہیں۔ تفسیر اشاری کے سلسلہ میں ہم صرف انہی کتب کا تذکرہ کریں گے۔ جن کے مصنفین نے اکثر و بیشتر اسی قسم کی تفسیر کو موضوع بحث بنایا اور اپنی توجہات کو صرف اسی کی طرف مبذول کیا ہے۔

۱۔ تفسیر القرآن العظیم

از تستری

تعارف مؤلف :

اسم گرامی سہل بن عبداللہ کینت ابو محمد اور نسبت تستری ہے۔ آپ تسترد بضم تاء اول سکون سین و فتح تاء ثانی کے مقام پر ۲۸۳ھ میں پیدا ہوئے۔

آپ ایک عظیم عارف اور زہد تقویٰ میں عظیم المثال تھے۔ آپ صاحب کرامات تھے، آپ مکہ میں مشہور عارف باللہ ذوالنون مصری سے بھی ملے تھے۔ بصرہ میں عرصہ دراز تک قیام کیا۔ اور ۲۸۳ھ یا ۲۸۴ھ میں باختلاف روایات وفات پائی۔

تعارف تفسیر :

یہ تفسیر چھپ چکی ہے اور ایک جلد پر مشتمل ہے۔ یہ پورے قرآن کریم کی تفسیر نہیں ہے مؤلف نے چیدہ چیدہ آیات قرآنیہ کی شرح و توضیح کی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفسیر درحقیقت سہل نے مرتب نہیں کی۔ ہوا یوں کہ سہل نے مختلف مواقع پر جن آیات کی تفسیر کی تھی اُس کو ان کے تلمیذ عزیز ابو بکر محمد بن احمد بلدی نے یکجا کر دیا۔ اس کتاب میں ابو بکر اکثر یوں کہتے ہیں کہ سہل سے فلاں آیت کی تفسیر دریافت کی گئی۔ اور انہوں نے یوں فرمایا۔ چنانچہ یہ کتاب مرتب کر کے ابو بکر نے اس کو سہل کی جانب منسوب کر دیا۔

مؤلف نے شرح میں ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں ظاہر و باطن اور حد و مطلع کا مفہوم

بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

”ہر آیت قرآنی چار معانی کی متحمل ہوتی ہے۔ ظاہر۔ باطن۔ حد۔ مطلع۔“

ظاہر سے اس کی تلاوت اور باطن سے اس کا فہم و ادراک مراد ہے۔ حد سے حلال و حرام مقصود ہے۔ جو اس کتاب میں مذکور ہے۔ مطلع سے وہ فہم و ادراک مراد ہے جو انسان کو خداوند کریم کی جانب سے ودیعت کیا جاتا ہے۔ ظاہری علم ایک عام چیز ہے جو ہر کس و نا کس میں پائی جاتی

ہے۔ بخلاف ازیں باطنی علم مخصوص و محدود ہے۔

فَسَمَانٌ عَزِيزٌ مِّنْ فِرْيَايَا؛

اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ بات ہی نہیں سمجھتی۔

فَكَرِهْتُمُوهُمْ وَلَا تَحْكُمُوا لَهُمْ اَلَا يُكَاذِبُوْنَ
يَفْقَهُوْنَ حَدِيثًا (النساء-۷۸)

دوسری جگہ کہتے ہیں :-

”سہل کا قتل ہے کہ امتِ محمدی میں کوئی ولی ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نہ سکھایا ہو۔ خواہ وہ ظاہر ہو یا باطن۔ ان سے کہا گیا کہ ظاہر تو ہمیں معلوم ہے باطن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سہل نے کہا باطن سے قرآن کریم کا فہم و ادراک مقصود (تفسیر القرآن - ص ۷۷)

مذکورہ صدر بیان اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ سہل کے نزدیک ظاہر سے محض لغوی معنی مراد ہیں۔ بخلاف ازیں باطنی معنی وہ ہے جو کسی لفظ سے متفاد و مستنبط ہو یا جو اللہ تعالیٰ نے اس کلام سے مراد لیا ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سہل کے نزدیک ظاہری معانی ایک عام چیز ہے اور ہر عربی دان ان سے آگاہ ہوتا ہے۔ البتہ باطنی معانی ایک خاص چیز ہے اور اس سے وہی لوگ باخبر ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ ان معانی سے آگاہ کر دیتا ہے۔

تفسیر زیر ظلم کے مطالعہ سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ مولف نے صرف باطنی معانی پر اکتفاء نہیں کیا۔ بخلاف ازیں بعض اوقات وہ ظاہری معانی بیان کر کے اس کے بعد باطنی معانی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بعض جگہ صرف ظاہری معانی بیان کرتے ہیں۔ اور بعض مواقع پر صرف اشاری پر اکتفاء کرتے ہیں۔

سہل قرآنی آیات کے جو اشاری معنی بیان کرتے ہیں وہ ہر جگہ واضح نہیں ہوتے۔ بعض اوقات اس قسم کے عجیب و غریب معانی بیان کرتے ہیں جن کو مراد بانی قرار دینا بعید از قیاس نظر آتا ہے۔ ہم قبل ازیں سہل سے ”۲ آسم“ اور ”طیم اللہ“ کے معانی نقل کر چکے ہیں۔ بعض مواقع پر وہ ایسے معانی بیان کرتے ہیں جو یوں تو عجیب و غریب نظر آتے ہیں مگر آیت میں ان کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو آیت کا مدلول قرار دے سکتے ہیں۔ ان کی تفسیر کا غالب حصہ اسمی قسم کے

معانی پر مشتمل ہے۔

مولف کا مقصد بڑی حد تک نفوس انسانی کی اصلاح و تزکیہ اور اخلاقی حمیدہ سے آراستہ پیراستہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسی کے پیش نظر وہ علماء کے اخبار و واقعات ذکر کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ان اعتراضات کے ازالہ کی کوشش کرتے ہیں جو قرآنی عبارت پر وارد ہوتے ہیں۔ ان کی تفسیر کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔

قرآن کریم میں فرمایا :

وَاتَّخَذَ قَوْمٌ مَّرْسِيًّا مِّن بَعْدِكَ
مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا (الاعراف-۱۳۸) ایک بچھڑا بنا لیا۔

سہل اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”بچھڑے سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان اللہ سے منہ موڑے۔ مثلاً اہل دوا و دوا اور مال وغیرہ۔ اس سے خلاصی اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان تمام خواہشات کو ختم کر دے جس طرح بچھڑے کے بچاری اس سے اسی حالت میں پھسکا لایا جاسکتے ہیں جب وہ اپنی جانوں کو تلف کر دیں۔“
(تفسیر مذکور، ص ۶۰)

قرآن کریم میں فرمایا :

وَقَدْ يَمَنُّونَ بِسُجُوتِ عِطِيمٍ
اور اس (حضرت اسماعیل) کے عوض ہم نے ایک بڑا جانور دے دیا۔ (انعامات-۱۰۷)

اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”حضرت ابراہیم چونکہ بتقاضائے بشریت اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے اس لیے آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ منشاٹے خداوندی دراصل یہ نہ تھا کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کر ڈالیں۔ بلکہ مقصد یہ تھا کہ غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دیا جائے۔ جب یہ بات پوری ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی عادت سے باز آئے تو اسماعیل کے عوض ”ذبح

عظیم، عطا ہوئی ۷

(تفسیر زیر تبصرہ، ص ۱۲۰)

ظاہر ہے کہ اس قسم کے معانی قابل قبول ہیں اور قرآنی آیات سے بلا تکلف مراد لیے جاسکتے ہیں۔ کتاب کا غالب حصہ ایسے ہی معانی پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس پر نقد و جرح کی کوئی گنجائش نہیں۔

۲۔ حقائق التفسیر از سلمیٰ

تعارف مولف :

اسم گرامی محمد بن حسین، کنیت ابو عبد الرحمن اور نسبت ازوی و سلمیٰ ہے۔ ۳۳۳ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ خراسان میں صوفیہ کے بہت بڑے فاضل اور شیخ تھے۔ طریقی سلف پر گامزن رہے۔ تصوف اپنے والد محترم سے اخذ کیا۔ آپ تصوف کے تمام آداب و اطوار سے بخوبی آگاہ تھے۔ علم حدیث میں مہارت و بصیرت رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ چالیس برس تک حدیث کے درس و مطالعہ اور املاء میں مشغول رہے۔ آپ نے نساہور، مرو و عراق اور حجاز میں گھوم پھر کر حدیثیں لکھیں۔ اور اہل خراسان کے لیے حدیث کی ایک کتاب مرتب کی۔ حفاظ حدیث میں سے ابو عبد اللہ حاکم ابوالقاسم قشیری وغیرہ نے آپ سے استفادہ کیا تھا۔ آپ نے بیش قیمت تصانیف کا ذخیرہ در ثمرہ میں چھوڑا۔ جن کی تعداد ایک سو سے زائد ہے۔ یہ کتب تصوف تاریخ اور حدیث و تفسیر کے علوم سے متعلق ہیں۔

گر سلمیٰ عظمت و جلال اور اپنے حلقہ مریدین میں شہرت کے باوصف نقد و جرح سے محفوظ ذرہ کے خلیب ابندادی کہتے ہیں :

”محمد بن یوسف نساہوری کا بیان ہے کہ سلمیٰ ثقہ نہ تھے اور صوفیہ کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے“

خطیب یہ قول نقل کرتے کے بعد کہتے ہیں کہ سلمیٰ اپنے شہر والوں کی نگاہ میں بڑے حلیل القدر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ محدث بھی تھے۔

طبقات الشافعیہ کے مصنف ابن سبکی لکھتے ہیں :

”خطیب کا قول صحیح ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کے ثقہ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے“ مولف نے ۴۱۲ھ میں وفات پائی۔

(طبقات المفہرین سیوطی، ص ۳۱ و طبقات الشافعیہ ج ۳- ص ۶۰)

اندازِ تفسیر:

یہ تفسیر ایک بڑی جلد پر مشتمل ہے اور اس کے دو قطعی نسخے مکتبہ ازہرہ یہ میں محفوظ ہیں۔ یہ تفسیر اگرچہ تمام قرآنی سورتوں پر مشتمل ہے۔ تاہم اس میں سب آیات کی تفسیر نہیں کی گئی۔ بخلاف نازیں بعض آیات کی تفسیر کی ہے اور بعض کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کامل کتاب تفسیر اشاری کی آئینہ دار ہے اور اس میں ظاہری تفسیر سے مطلقاً تفرض نہیں کیا گیا۔ مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ ظاہری تفسیر مراد ہی نہیں ہے وقت نہ مقدمہ میں لکھا ہے کہ جس طرح اہل الظاہر علماء نے تفاسیر مرتب کی ہیں میں صوفیہ کے طریقہ پر ایک تفسیر طلبند کرنا چاہتا ہوں۔

ابو عبدالرحمن السُّلَمی نے اس کتاب کی ترتیب و تہذیب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ انہوں نے ارباب تفسیر کے تفسیری اقوال کو یکجا کر کے ان کو سُور و آیات کے مطابق مرتب کر دیا اور اس کا نام "حقائق التفسیر" بتویز کیا ہے۔ مولف اکثر و بیشتر جعفر صادق ابن عطاء اللہ سکندی مجتہد، فضیل بن عیاض سہل بن عبداللہ قسری وغیرہم کے اقوال نقل کرتے ہیں۔

تفسیر لہذا پر نقد و جرح:

چونکہ مولف نے اس کتاب میں تفسیر اشاری پر انحصار کر کے ظاہری معانی سے اعراض کیا ہے اس لیے علماء نے اس کتاب اور اس کے مولف دونوں کو شدید نقد و جرح کا ہدف بنایا ہے۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب طبقات المفسرین میں ابو عبدالرحمن سُلَمی کا ذکر بدعتی مفسرین کے ضمن میں کیا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ سُلَمی کی تفسیر "غیر محمود" (ناپسندیدہ) ہے (طبقات المفسرین - ص ۳۱)

حافظ ذہبی لکھتے ہیں :-

"سُلَمی نے حقائق التفسیر نامی کتاب مرتب کی ہے۔ اسے کاشش اکر وہ یہ کتاب نہ لکھتے۔ اس لیے کہ وہ باطنیہ کے عقائد کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ کتاب عجائبات پر مشتمل ہے"

(طبقات الشافعیہ، ج ۳ - ص ۹۱)

امام سبکی رقمطراز ہیں :-

"حقائق التفسیر کے بارے میں بڑی لمبے دے ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ وہ محض تاویلات

کا پلندہ ہے اور اس میں ایسی باتیں مذکور ہیں جس سے قرآنی الفاظ ابا کرتے ہیں ؟
(حوالہ مذکور)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
«ستائنی التفسیر میں امام جعفر صادق سے جو تفسیری اقوال منقول ہیں سب جھوٹ
ہیں۔ ان کی نسبت جعفر صادق کی جانب درست نہیں۔ جس طرح دوسرے لوگوں نے
بھی بعض اقوال کو جھوٹ ٹوٹ ان کی طرف منسوب کیا ہے۔»

(منہاج السنۃ، ج ۲ - ص ۱۵۵)

۳۔ عرائس البیان فی حقائق القرآن

از ابو محمد شیرازی

تعارف مولف و تفسیر :

مولف کا نام ابو محمد روز بہان بن ابو نصر نقلی شیرازی صوفی ہے۔ آپ نے ۶۰۶ھ میں وفات پائی۔ اس سے زیادہ آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔

(کشف الظنون، ج ۲ - ص ۲۱)

یہ کتاب صرف اشاری انداز تفسیر کی حامل ہے اور ظاہری تفسیر سے اس میں مطلقاً تعرض نہیں کیا گیا۔ اگرچہ مولف ظاہری تفسیر کا تامل ہے جیسا کہ اس نے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے اس کتاب میں وہ تمام حقائق و معانی بجا کر دیے ہیں جو خداوند کریم کی جانب سے مجھ پر القاء کیے گئے تھے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی ذکر کیا گیا ہے وہ کتاب اللہ کی تفسیر اور مراد ربانی کے کشف و انکشاف کے سلسلہ میں کیا گیا ہے۔ مگر کتاب کا بغور جائزہ لینے سے مولف کا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ تفسیر کے ضمن میں اس نے جو نادر اور عجیب و غریب معانی بیان کیے ہیں وہ قرآنی الفاظ سے بالکل بے تعلق ہیں اور اس لیے ان کو مراد الہی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ تفسیر کا نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔

مترجم عزیز میں فرمایا :-

گم و دروں بیماروں اور ان لوگوں کے لیے
کچھ مطالعہ نہیں جو خرچ کرنے کے لیے
کچھ نہیں پاتے۔

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى
وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَبْتَغُونَ
حَدِيثٌ (المؤتبه - ۹۱)

مولف اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے :-

خداوند کریم نے اس آیت کریمہ میں اہل مراقبہ کا ذکر کیا ہے۔ جو مشاہدہ ادب بھرازیات

میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اور جو مجاہدہ و ریاضت میں اس حد تک حصہ لیتے ہیں۔ کہ ان کے جسم کمزور اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ ذکر و فکر میں محو رہنے سے ان کے قلوب بکھل جاتے ہیں۔ وہ اپنے پاکیزہ عقائد کی بناء پر دنیا نئے فانی سے نکل کر باقیات کا شاہد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو امتحان کی مشقت میں نہیں ڈالا جاتا۔ اسی لیے فرمایا کہ کمزور پر کچھ حرج نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جن کو محبت کے بوجھ سے کمزور کر دیا ہو اور رقت شوق نے مریض بنا دیا ہو ان پر کچھ عتاب نہ ہوگا۔ اس لیے کہ وہ مقبول محبت ہیں۔ وہ دُور شوق کے باعث کمزور ہیں۔ اور ان کی بیماری حسب و عشق کے سوا کچھ نہیں۔“

(عرائس الیسان، ج ۱۔ ص ۳۳۹)

قرآن عظیم میں فرمایا :-

وَتَقَدَّ الْأَعْيُنُ نَعْمًا لَّ مَنَ لَّى لَا أَسَى
أَلَهُ نُهُدًا فَهَرَّكَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

اور پرندے کو تلاش کیا تو کھنے لگے کی بات ہے کہ میں ہدھد کو نہیں دیکھ رہا۔ یا وہ غائب ہے۔ (النمل ۲۰)

اس کی تفسیر میں کہتے ہیں :-

”حقیقت کے پرندے نے سلیمان کے دل کو اڑا لیا تھا۔ چنانچہ وہ اسے تلاش کرنے لگے۔ چونکہ ان کا دل مشاہدہ حق میں غائب ہو چکا تھا۔ اس لیے تلاش کرنے پر جب مل نہ سکا تو بڑے حیران ہوئے، کھنے لگے میرا دل کہاں گیا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کا دل حق سے غائب ہے حالانکہ وہ حق کے اندر موجود تھا۔ اہل حضور عارفین کا یہی حال ہے۔ بعض اوقات انہیں پتہ ہی نہیں تاکہ وہ کہاں ہیں۔ اور یہ بات حد درجہ استغراق کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ بعد ازاں حضرت سلیمان نے فرمایا:

لَا عَدْبَيْنَهُ عَدْبًا بَشَرًا يَدَّ الْأَوْلَادِ بَهْتَةً
یعنی میں اسے سزا دل گا کہ وہ ہمیشہ دوام مراقبہ پر مبرک رہے یا اسے عشق و محبت کی تلوار سے ذبح کر ڈالوں گا“

(عرائس، ج ۲۔ ص ۸۱۳)

ساری کتاب ایسی قدر از کار تفسیر پر مشتمل ہے۔
یہ کتاب دو جلدوں میں چھپ چکی ہے اور اس کا ایک نسخہ المکتبہ الاذہریہ میں محفوظ ہے

۴ التاویلات النجمیہ

از نجم الدین دایہ ————— وعلاء الدولہ سمنانی

دونوں مؤلفین کا تعارف :

اس تفسیر کا آغاز نجم الدین دایہ نے کیا تھا اور اس کی تکمیل سے پہلے فوت ہو گئے۔ بعد ازاں علاء الدولہ سمنانی نے اس کو مکمل کیا۔ دونوں کا مختصر تعارف حسب ذیل ہے :

نجم الدین دایہ :

شیخ نجم الدین ابوبکر بن عبداللہ آسدی رازی دایہ کے لقب سے معروف تھے۔ ۶۵۴ھ میں وفات پائی۔ یہ بہترین صوفیہ میں سے تھے شیخ نجم الدین ابوالخباب بکری سے استفادہ کیا۔ پہلے خوارزم میں مقیم تھے۔ چنگیز خاں کی لڑائیوں کے ایام میں وہاں سے نکل کر بلاد روم کی طرف چلے گئے۔ وہاں صدر الدین قونوی سے مل کر استفادہ کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے تاتار کی لڑائیوں میں شہادت پائی۔ ایک دوسرے قول کے مطابق آپ بغداد کے مقام شہنوزیہ میں سری سقطی اور جنید بغدادی کے پہلو میں مدفون ہیں۔

(نفحات الانس - ص ۴۹۱)

علاء الدولہ سمنانی :-

اسم گرامی محمد بن احمد نسبت سمنانی اور لقب علاء الدولہ اور رکن الدین ہے۔ ۶۵۹ھ میں پیدا ہوئے۔ متعدد محدثین سے حدیث پڑھی یہاں تک کہ علمائے عصر پر فوقیت لے گئے۔ محدث ذہبی فرماتے ہیں :

یہ بڑے جامع عالم امام اور کثیر التلوات تھے۔ نہایت با رعب اور با وقار تھے۔ ابن عربی کو ناپسند کرتے تھے اور اس کی تکفیر کرتے تھے۔ نہایت حسین با اخلاق جو انمرد اور سخی تھے۔ جائداد سے سالانہ قریباً نو سے ہزار درہم آمدنی ہوتی تھی۔ جس کو نیک

کاموں میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے صدر الدین بن محمود، سراج الدین قزوینی اور امام الدین بن علی مبارک بکری سے استفادہ کیا۔ آپ تین صد سے زائد کتب کے مصنف تھے“

(الدرر الکاتبہ، ج ۱- ص ۲۵۰)

علامہ الاسنوی طبقات میں لکھتے ہیں :-

”سمنانی عظیم دینی پیشوا اور صاحب کرامات تھے۔ آپ تفسیر و تصوف میں متعدد کتب کے مصنف تھے۔ آپ کی تصانیف میں سے مدارج المعارج اور کلمۃ التلویٰ انجمیہ بہت مشہور ہیں۔ آپ نے تیرہ جلدوں میں ایک تفسیر مرتب کی تھی۔ آپ بلاد تاتاریں گئے تھے پھر وہاں سے تبریز و بغداد لوٹ آئے۔ ماہِ رجب ۳۶۶ھ میں وفات پائی“

(طبقات المفسرین داؤدی، ص ۲۸- کشف الظنون، ج ۱ ص ۲۳۸)

اندازِ تفسیر :

یہ تفسیر پانچ ضخیم جلدات پر مشتمل ہے اور اس کا ایک قلمی نسخہ دارالکتب قاہرہ میں موجود ہے اس کی چوتھی جلد سورہ الذاریات کی آیت ۱۴-۱۸ پر ختم ہو جاتی ہے۔ نجم الدین دایہ نے یہ تفسیر یہاں تک لکھی تھی کہ وفات پائی۔ پانچویں جلد اس کا مکمل ہے جس کو سمنانی نے مرتب کیا۔ موصوف نے پانچویں جلد کے شروع میں ایک طویل مقدمہ لکھا ہے۔ جو نہایت دقیق و عمیق ہے اور اس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو صوفیہ کی اصطلاحات سے آگاہ ہو۔ مقدمہ کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے حالانکہ نجم الدین آغاز کتاب میں اس کی تفسیر کر چکے تھے۔ بعد ازاں سورہ طہ سے شروع کر کے آخر قرآن تک تفسیر لکھی ہے۔ اس طرح سورہ الذاریات کی تفسیر جس کا آغاز نجم الدین کر چکے تھے تشہ تکمیل رہ گئی اور سمنانی نے اُسے مکمل نہ کیا۔

بنور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نجم الدین دایہ اور سمنانی کے انداز تفسیر میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ نجم الدین پہلے ظاہری تفسیر لکھتے اور اس کے بعد تفسیر اشاری کی جانب توجہ دیتے ہیں۔ ان کی تحریر کردہ تفسیر اشاری نہایت آسان اور زور دہم ہے۔ اس لیے کہ وہ فلسفیانہ تصوف کے نقطہ نظر کی حامل نہیں۔ وہ ربط آیات بھی بیان کرتے ہیں۔

بمخلاف ازیں سمنانی ظاہری سمائی سے بالکل سروکار نہیں رکھتے۔ ان کی تحریر کردہ تفسیر سلامت و سہولت سے یکسر عاری اور عدد درجہ عمیق و عریض ہے۔ اس لیے کہ یہ فلسفیانہ تصوف کی آئینہ دار ہے۔ مقدمہ میں اس نے یہ سب چیزیں لکھی ہیں مگر ان کا فہم و ادراک آسان نہیں۔ بہر کیفیت یہ کتاب تفسیر اشاری کی اہم کتب میں شمار کی جاتی ہے۔ تکلمہ کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو اس تفسیر کا سمجھنا چنداں دشوار نہیں ہے۔

تفسیر منسوب باین عربی

کس کی تالیف؟

یہ تفسیر دو جلدوں میں الگ بھی طبع ہوئی ہے اور عرائس البیان فی حقائق القرآن از ابو نصر شیرازی کے حاشیہ پر بھی ان دونوں نسخوں کی نسبت ابن عربی کی جانب کی گئی ہے۔ بعض لوگ اس نسبت کو درست سمجھتے اور کہتے ہیں کہ یہ تفسیر ابن عربی کی ساختہ پر راحتہ ہے۔ دوسرے لوگ اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک یہ تفسیر عبدالرزاق قاشانی کی تحریر کردہ ہے جو مشہور باطنی تھا۔ ترویج و اشاعت کے نقطہ خیال سے اس کو ابن عربی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ شیخ محمد عبدہ کی بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ تیسرا تیسرا رہنا نے آپ کے درس قرآن کو تفسیر المنار کی صورت میں جمع کیا ہے۔ اور اس کے مقدمہ میں شیخ کی اس رائے کا اظہار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

”تفسیر اشاری کے ضمن میں صوفیہ اور باطنیہ کے افکار و نظریات گڈ ٹڈ ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی فرق و امتیاز باقی نہیں رہتا جس تفسیر کو ابن عربی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے وہ اسی قبیل سے ہے۔ یہ تفسیر دراصل مشہور باطنی قاشانی کی تحریر کردہ ہے۔ اس میں ایسے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے جس سے اللہ کا دین اور اس کی کتاب دونوں پاک ہیں“ (المنارج ۱- ص ۱۸)

شیخ محمد عبدہ کا یہ ارشاد بالکل بجا ہے کہ یہ تفسیر ابن عربی کے بجائے قاشانی کی محنت کاوش کی مرہون منت ہے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں :-

- (۱) تمام علمی نسخوں میں اس تفسیر کو قاشانی کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اعتماد علمی نسخہ پر ہی کرنا چاہیے۔ کیونکہ مطبوعہ نسخہ جات کی اصل و اساس علمی نسخے ہی ہوا کرتے ہیں۔
- (۲) صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں :-

”تاویلات القرآن“ یہ صوفیہ کے انداز تفسیر پر مشتمل تفسیر باناویل ہے۔ اس کو

شیخ کمال الدین عبدالرزاق کاشی سمرقندی نے مرتب کیا ہے۔ جن کی وفات ۳۳۰ھ میں ہوئی اس کا آغاز ”الحمد لله الذي جعلنا من اظلم كلامه مظاهرا حسن صفاة“ کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ ابن عربی کی طرف جو تفسیر منسوب ہے اس کے شروع میں بعینہ یہ عبارت ہے “ (كشف الظنون - ص ۱۸۷)

(۳) ابن عربی کی جانب جو تفسیر منسوب ہے اس میں آیت :-

”واضح اليك جناحك، من الريح“ (القصاص - ۳۲)
کی تفسیر میں لکھا ہے :-

”میں نے اپنے استاد نور الدین عبدالعزیز سے سنا“ (تفسیر ابن عربی، ج ۲ - ص ۱۱۶)
نور الدین سے یہاں نور الدین عبدالعزیز بن علی نطنزی اصفہانی مراد ہیں۔ جن کی وفات ساتویں صدی ہجری کے اواخر میں ہوئی۔ یہ عبدالرزاق قاشانی متوفی ۳۳۰ھ کے استاد تھے۔ جیسا کہ کتب نفحات الانس صفحہ ۵۳۴ سے معلوم ہوتا ہے۔ نور الدین مذکور ابن عربی کے استاد نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ ابن عربی کی وفات ۴۳۸ھ میں ہوئی تھی۔

خلاصہ یہ کہ یہ تفسیر ابن عربی کی تالیف نہیں بلکہ اس کو عبدالرزاق قاشانی صوفی نے مرتب کیا ہے۔

انداز تفسیر :

یہ تفسیر صوفیہ کی نظری تفسیر اور تفسیر اشاری کا مجموعہ مرکب ہے۔ اور اس میں ظاہری تفسیر کو مطلقاً نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ نظری تفسیر کی اساس وحدۃ الوجود پر رکھی گئی ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے۔ جس نے قرآن کریم کی تفسیر پر بہت بڑا اثر ڈالا۔

جہاں تک اس کتاب میں ذکر کردہ تفسیر اشاری کا تعلق ہے اس کا اکثر حصہ بلاشبہ فہم اور اک ہے۔ سیاق و سباق اور الفاظ سے کوئی بات بھری نہیں آتی۔ اگر مولف کا انداز بیان سُتری کی طرح سلیس ہوتا یا اس میں باطنی تفسیر کے ساتھ ظاہری تفسیر کو بھی سمودیا گیا ہوتا تو عبارت قابل فہم ہوتی مگر مولف نے ایسا نہیں کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب مُغلق اور ناقابل فہم ہو گئی۔

امام محمد عبدہ کی رائے میں قاشانی باطنی عقائد رکھتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تفسیر باطنیہ کی تفسیر سے متعلق جلتی ہے۔ اس لیے کہ اس کی اساس وحدۃ الوجود کے عقیدہ پر رکھی گئی اور

قرآنی آیات کے نہایت دور از کار عجیب و غریب معانی بیان کیے گئے ہیں۔ تاہم صحیح بات یہ ہے کہ تاشانی باطنی نہ تھے۔ بخلاف ازیں ان کی سیرت و سوانح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بڑے پاک باز صوفی تھے۔ مزید برآں باطنیہ قرآن کے ظاہری معانی کا انکار کرتے اور کہتے ہیں کہ صرف باطنی معانی مراد ہیں۔ مگر تاشانی اس بات کے قائل نہ تھے۔ وہ تفسیر مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ظاہری معنی مراد اور ناگزیر ہوتے ہیں۔ مگر وہ اس کتاب میں ظاہری معانی بیان نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ دیگر مفسرین نے صرف ظاہری معانی پر اکتفاء کیا ہے۔ بنا بریں تاشانی نے باطنی معانی سے اعتناء کا ارادہ کیا اور ظاہری معانی کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔

مقدمہ تفسیر کے درس و مطالعہ سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ تاشانی صوفی تھے اور باطنی نہ تھے۔ اب تفسیر ہذا کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیے :-

تفسیر اشاری :-

مشکل کریم میں فرمایا :

وَذَرْنَا آلَٰتِنَا هَا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْ اَهْلَكَ مِنَ النَّخْلِ
اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے رب اس
شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے
والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔
(البقرہ ۵۰-۱۲۶)

مولف اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”جب ابراہیم نے کہا اے رب اس سینے کو جو دل کا حرم ہے امن والا شہر بنا دے کہ اس پر نفسانی خواہشات کا غلبہ نہ ہو۔ یعنی دشمن اس پر حملہ آور نہ ہو سکے تو اسے بذریعہ حاجن اس پر غالب نہ آسکے۔ اس کے رہنے والوں کو روحانی معارف و الوار کے پھل عطا کر“ مِّنْ اَمِّنٍ وَّمِنْهُمْ“ یعنی ان میں سے جو خدا کی وحدانیت کا قائل ہو، اور آخرت کا یقین رکھتا ہو“ (تفسیر ابن عربی، ج ۱- ص ۵۷)

وحدة الوجود پر مبنی تفسیر :

مشکل ان عظیم میں فرمایا :-

رَبَّنَا مَا سَأَلْنَا هَٰٓءَا بِاطْلَآءِ ۝

اے ہمارے رب تو نے یہ کائنات بے کار

سُبْحَانَكَ، فَتَنَّا عَدَّآبَ الْكَآرِ۔

نہیں پیدا کی تو پاک ہے، ہم کو دوزخ کے آقا
سے بچا۔

(ال عمران: ۱۹۱)

اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”یعنی اسے رب تو نے اپنے سوا کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی۔ اس لیے کہ تیرے سوا
جو کچھ بھی ہے سب باطل ہے۔ دنیا کی سب چیزیں تیرے ہی اسماء اور تیری
صفات کے مظاہر ہیں۔“ سُبْحَانَكَ ” یعنی ہم تجھے اس بات سے پاک سمجھتے
ہیں کہ تیرے سوا بھی کچھ موجود ہو۔“ (تفسیر ابن عربی، ج ۱- ص ۱۴۱)

شسآن میں فرمایا :-

هَمَّنَ خَلْقُكُمْ فَلَوْلَا نَصْرُؤُنَا
ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تم کیوں سچ نہیں
بولتے۔

(الواقعة - ۵۷)

اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”ہم نے تم کو پیدا کیا یعنی اپنے وجود کے ساتھ تمہیں ظاہر کیا اور تمہاری صورتوں
میں ہمارا ظہور ہوا“

(تفسیر ابن عربی، ج ۲- ص ۲۹۱)

وَادَّأبْنَ اسْمَ رَبِّكَ، وَتَبَدَّلَ إِلَيْهِ
اور اپنے رب کا نام یاد کر اور اسی کا ہر کر

رہ جا۔ (مزل: ۸-۹)

تَبَدَّلَ دَبَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

اس کی تفسیر یوں کی ہے :

”اپنے رب کا نام ذکر کر اور وہ تو خود ہی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو پہچان۔ اسے یاد
رکھ اور فراموش نہ کر اللہ تجھے بھلا دے گا۔ نفس کی حقیقت معلوم کر کے اس کو
کمال تک پہنچانے کی کوشش کر۔ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ تجھ پر اسی کا پرتو
پڑا ہے۔ اور وہ تیرے وجود کے افق سے طلوع ہوا ہے۔ وہ تیرے وجود میں
چھپ گیا ہے اور اس کا ذر تجھ میں آ کر غروب ہو گیا ہے۔“

(تفسیر ابن عربی، ج ۲- ص ۳۵۳)

یہ نمونہ اے تفسیر اس کتاب کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کتاب کی درق دانی سے یہ

بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ تفسیر ابن عربی کی وحدۃ الوجود کی آئینہ دار ہے۔ غالباً کتاب کو ابن عربی کی جانب منسوب کرنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اس لیے کہ ابن عربی وحدۃ الوجود کے قائل تھے اور قرآنی آیات کی تفسیر اسی نظریہ کی روشنی میں کرتے تھے۔ اب دو صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ اتحاد نظریات کی بنا پر التباس پیدا ہوا اور اس تفسیر کو ابن عربی کی جانب منسوب کر دیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کتاب کو مقبول بنانے کے لیے جھوٹ موٹ اس کی نسبت ابن عربی کی جانب کر دی گئی۔ اور اس طرح جس شخص نے اس کا ارتکاب کیا تھا اس کا پروردہ فاش نہ ہو سکا۔ جس کی بڑی توبہ یہ تھی کہ ابن عربی کے نظریات بھی یہی تھے۔

چونکہ ابن عربی کا ذکر چل نکلا ہے اس لیے تمام فائدہ کے پیش نظر ہم ابن عربی کے محقق بیرو سوانح اور ان کے تفسیری انداز پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس طرح قاری پر یہ حقیقت منکشف ہو سکے گی کہ تاشانی اور ابن عربی کا زاویہ نگاہ فہم قرآن کے سلسلہ میں ایک دوسرے سے کس حد تک ملتا جلتا ہے۔

ابن عربی اور اس کا انداز تفسیر

سیر و سوانح :

اسم گرامی محمد بن علی بن محمد کنیت ابو بکر لقب محی الدین اور نسبت حاتمى طائى اندلسی ہے۔ آپ ابن عربی (بلا الف لام) کے نام سے معروف تھے۔ قاضی ابوبکر بن العربی صاحب احکام القرآن اور ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے ان کو ابن عربی اور قاضی موصوف کو ابن العربی کہا جاتا ہے۔ ابن عربی مرسیہ کے مقام پر ۵۶۶ھ میں پیدا ہوئے۔ ۵۶۸ھ میں اشبیلیہ چلے گئے۔ اردو ہاں تیس سال تک مقیم رہے۔ وہاں بہت سے شیوخ و اساتذہ سے استفادہ کیا اور بہت شہرت حاصل کی۔ ۵۹۸ھ میں مشرق کا رخ کیا اور مختلف بلاد و دیار میں گھومے پھرے چنانچہ آپ نے شام مصر موصل ایشیائے کوچک اور مکہ کی سیاحت کی۔ آخر میں دمشق کے ہو رہے، اردو ہاں ۶۳۸ھ میں وفات پائی۔

دفع الطیب نذرات الذہب، ج ۵، ص ۱۹۱۔ دائرة المعارف بستانی، ج اول، ص ۵۹۹

ابن عربی کے اصحاب اعداء :

ابن عربی اپنے عصر و مہم میں صوفیہ کے سرچل تھے۔ بہت سے لوگ آپ کے مرید تھے، جو اس مذہب آپ کے تناحوال تھے کہ آپ کو "الشیخ الاکبر" کے نام سے پکارتے تھے۔ اسی طرح آپ کے مخالفین بھی تھے جو آپ کو کفر و زندقہ کا مرتکب ٹھہراتے تھے۔ اس کی وجہ آپ کا عقیدہ وحدۃ الوجود اور دیگر نظریات تھے جن میں بظاہر کفر و زندقہ کی ہر بات شامل تھی۔

ابن عربی سے عقیدت و ارادت کا اظہار کرنے والوں میں مندرجہ ذیل اکابر کے اسماء شامل ہیں

(۱) قاضی القضاة مجاہد الدین محمد بن یعقوب شیرازی فیروز آبادی صاحب القاموس۔ آپ نے ابن عربی کے دفاع میں رضی الدین بن خیاط کی کتاب کا جواب لکھا جس میں ان کو کفر سے متهم کیا گیا تھا۔

(۲) کمال الدین زمیلکانی جو ملک شام کے اکابر شیوخ میں سے تھے۔

(۳) شیخ صلاح الدین صفدی -

(۴) امام جلال الدین سیوطی - آپ نے ابن عربی کی حمایت میں "تنبیہ النبی علی تشہید ابن عربی" نامی کتاب تحریر کی تھی۔

(۵) سراج الدین بلقینی -

(۶) تقی الدین ابن السبکی دیگر علماء -

ابن عربی کے مخالفین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ محدث ذہبی اور ابن خیاط کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ابن عربی سے لوگوں کی عداوت کا یہ عالم تھا کہ ان کو قتل کرنے کے لیے حملہ کیا گیا مگر آپ بال بال بچ گئے۔

علمی مرتبہ و مقام :

ابن عربی کی عظمت و برتری صرف تصوف ہی میں محدود نہیں۔ بخلاف ازیں آپ دیگر علوم میں بھی یدِ طولیٰ رکھتے تھے چنانچہ آپ آثارِ دسمن سے بخوبی آگاہ تھے اور بکثرت محدثین سے استفادہ کر چکے تھے۔ آپ شاعر و ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ اجتناد و استنباط کا ملکہ بھی رکھتے تھے، کہا جاتا ہے کہ ابن عربی اپنے ہم وطن محدث ابن حزم اور اس کے ظاہری مذہب کے معادین میں سے تھے۔ تقلید کو باطل قرار دیتے تھے۔

ابن عربی اور وحدۃ الوجود :

ابن عربی کے نظریہ وحدۃ الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وجود و حقیقت ایک ہی ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ البتہ ظاہری حواس کو کثرت نظر آتی ہے۔ وحدۃ الوجود سے ابن عربی نے وحدتِ ادیان کا نظریہ ایجاد کیا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ادیان و مذاہب میں کچھ فرق نہیں۔ وہ آسمانی ہوں یا غیر آسمانی۔ اس لیے کہ سب مذاہب میں ایک الہی عبادت کی جاتی ہے جو انسانوں کی شکل میں متشکل نظر آتا ہے۔ عبادت کا مقصد صرف یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وحدتِ ذاتیہ کا تحقق کر سکے۔

(حاشیہ دائرۃ المعارف الاسلامیہ، ج ۱ - ص ۲۳۳)

خلاصہ یہ کہ ابن عربی کا علمی مقام بہت بلند ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ان کی کثیر تصانیف ہیں۔ جن سے ان کی علمی وسعت اور تبحر کا پتہ چلتا ہے۔ ابن عربی کی جو تصانیف آج موجود ہیں ان کی

تعداد ایک سو پچاس^{۱۵} ہے۔ دراصل ان کی تصانیف اس سے دو گنی تھیں۔ مگر گردش ایام سے وہ کتب محفوظ ہستی سے محو ہو گئیں۔ ابن عربی کی اہم کتاب جس کی بنا پر ان کو بڑی شہرت حاصل ہوئی — مد الفتوحات المکیہ“ اور پھر ”فصوص الحکم ہے۔ آپ کے اشعار بھی ایک دیوان میں محفوظ ہیں۔ ابن عربی کی تصانیف کا طرز امتیاز ان کی دقت آفرینی اور مشکل نویسی ہے جس نے ان کی کتب کو چینستان بنا کر رکھ دیا ہے۔ ان کی کتابوں میں مشکل الفاظ و کلمات کی بھر مار ہے۔ جن کا فہم اور لک ممکن ہی نہیں۔ اسی بنا پر لوگ ان کو کھڑ دزدقہ سے متہم کرتے ہیں۔ مگر ان کے اتباع و مریدین ان الفاظ کو ظاہر پر محمول نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک ان الفاظ سے وہ اصطلاحی معانی مراد ہیں۔ جو متاخرین نے وضع کیے تھے۔

امام سیوطی اپنی کتاب ”تنبیہ النبی“ میں لکھتے ہیں :-

”ابن عربی کے بارے میں فیصلہ کن بات یہ ہے کہ اگرچہ وہ دلی تھے تاہم ان کی کتب سے استفادہ حرام ہے۔ خود ابن عربی سے منقول ہے کہ ”ہماری کتب کا مطالعہ کرنا ناروا ہے“ سیوطی اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ نے چند اصطلاحات گھڑی ہیں۔ اور ان الفاظ سے وہ معروف معانی مراد نہیں لیتے۔ علمائے ظاہر میں سے جو شخص ان سے معروف معانی مراد لیتا ہے کافر ٹھہرتا ہے۔ امام غزالی بھی اس کی تائید کرتے اور کہتے ہیں کہ صوفیہ کی اصطلاحات متشابہات کی مانند ہیں۔ جو شخص ان سے ظاہری معانی مراد لیتا ہے کافر ہو جاتا ہے“ (شذرات الذهب، ج ۵ - ص ۱۹۱)

علماء کی ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ ابن عربی نے بذات خود ایسے خیالات کا اظہار نہیں کیا بلکہ یہ عبارت کسی نے ابن عربی کی تصانیف میں شامل کر دی ہے۔ امام شمرانی نے ابن عربی کی ”الفتوحات المکیہ“ کا خلاصہ تیار کیا تھا۔ اس میں موصوف نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں :-

”الفتوحات کا خلاصہ تیار کرتے ہوئے کئی جگہ مجھے توقف سے کام لینا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ الفتوحات کے بعض مقامات اہل سنت کے عقائد سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے یہ عبارت خلاصہ میں شامل نہ کی۔ بعض اوقات بھول کر اسی قسم کی عبارت کو

خلاصہ میں جگہ دی۔ بیضادی کو بھی زعمشری کے ساتھ یہی سابقہ پیش کرنا۔ بعد ازاں مجھے بار بار خیال آتا رہا کہ جو عبارت میں نے حذف کر دی ہے دراصل شیخ ابن عربی کی تحریر کردہ ہے۔ حتیٰ کہ مشہور عالم شمس الدین سید محمد بن سید ابوطیب مدنی متوفی ۹۵۵ھ جو تشریف لائے تو ان سے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے الفتوحات کا ایک تعلق نسخہ نکالا جو ترکی کے شہر قنیرہ میں موجود ابن عربی کے تحریر کردہ نسخہ الفتوحات سے دیکھ کر لکھا گیا تھا۔ جس عبارت میں مجھے شبہ لاحق ہوا تھا وہ اس نسخہ میں موجود نہ تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ مصر میں الفتوحات کے جو نسخے موجود ہیں سب اس مشکوک تعلق نسخے سے نقل کیے گئے ہیں جس میں جعلی عبارت کو شامل کر دیا گیا ہے شیخ ابن عربی کی کتاب "الفصوص" میں بھی خود ساختہ عبارت کو خلط ملط کیا گیا ہے۔

(خاتمہ الفتوحات، ج ۲، ص ۵۵۵)

خلاصہ کلام یہ کہ ابن عربی کے افکار و آراء نہایت دقیق و عمیر الفہم ہیں اور ان کا — فہم و ادراک بہت دشوار ہے۔ چونکہ ہم صوفیہ کی اصطلاحات اور اسرار درموز سے آشنا نہیں ہیں اس لیے ان کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ محدث ذہبی نے ان کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ سچی و انصاف پر مبنی ہے۔ ذہبی لکھتے ہیں :-

"ابن عربی کے کلام میں نہایت وسعت پائی جاتی ہے۔ وہ نہایت ذہین و فطین اور قوی الحافظ تھے۔ ان کے تصوف میں بڑی گہرائی پائی جاتی ہے۔ متعدد کتب کے مصنف تھے۔ اگر ابن عربی اپنی تصانیف میں دُرر انکار بآئیں تحریر نہ کرتے تو ان کی انادیت میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ تھی" (دائرة المعارف بستان، ص ۵۹۹)

ابن عربی اور تفسیر قرآن

ابن عربی کے تفسیری اسلوب کی بنا ان کے نظریہ وحدۃ الوجود پر رکھی گئی ہے۔ جس کے وہ معتقد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان فیوضات و وجدانیات پر بھی اعتماد کرتے ہیں جو بقول ان کے ان کے دل پر من جانب اللہ انعام کیے جاتے ہیں۔

جہاں تک نظریہ وحدۃ الوجود کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عربی اس کے اثبات کے

پیش نظر دور از کلام تادمین کرتے اور آیت کو اپنے نظریات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کھینچا تائی سے کام لیتے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ بدترین انداز ہے اس لیے کہ اندر میں صورت منشاٹے خداوندی فوت ہو جاتا ہے اور آیت کو زبردستی وہ مفہوم پہنایا جاتا ہے۔ جو مفسر کے عقیدہ کے موافق و مطابق ہوتا ہے۔ یہ بالانصاف مفسر کی شان نہیں ہو سکتی جو قرآن کی تفسیر ذاتی جذبات و احساسات سے بلند رہ کر کرنا چاہتا ہو۔

باقی رہا فیض الہی کا سلسلہ تو ابن عربی کا دامن اس ضمن میں نہایت وسیع ہے۔ اور قبل ازیں تفسیر اشاری کے ذکر و بیان میں اس پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ ابن عربی کا دعویٰ ہے کہ اہل حقیقت صوفیہ قرآن کریم کے جو اشاری معانی بیان کرتے ہیں، وہ دراصل مقصود ربانی کی شرح و تفسیر ہی ہوتی ہے۔ ان کو اشارہ صرف اہل الظاہر سے تقیہ کرنے کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، کہ قرآن عظیم کی تفسیر ترجمانی کا سب سے زیادہ حق صوفیہ کو پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ وہ براہ راست خداوند کریم سے قرآنی علوم کا استفادہ کرتے ہیں۔ وہ جو بات بھی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں فہم و بصیرت پر مبنی ہوتی ہے۔ اہل الظاہر کی بات قطعی و حتمی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ اہل بچر سے کام لینے کے عادی ہوتے ہیں۔

ابن عربی کی رائے میں قرآن عزیز اور صوفیہ کی شرح و تفسیر میں سرے سے کوئی فرق و امتیاز پایا ہی نہیں جاتا۔ دونوں کا درجہ ایک ہے۔ دونوں میں ٹنگ و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس طرح من جانب اللہ ہونے کے اعتبار سے قرآن میں باطل کا گزر ممکن نہیں۔ اسی طرح صوفیہ کی تفسیر میں باطل کے راہ پانے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ یہ بھی ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتاری گئی ہے یہ ہے ابن عربی کا انداز تفسیر جس کا اظہار انہوں نے الفتوحات میں صراحتہ کیا ہے مگر ہم ابن عربی کے ادعاے فیض و الامام کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ تفسیر قرآن کو الامام و القاد پر مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا۔

ہمارے علم کی حد تک ابن عربی نے کوئی مستقل تفسیر مرتب نہیں کی۔ مگر صاحب کشف الظنون نے دعویٰ کیا ہے کہ ابن عربی نے صوفیہ کے انداز پر ایک تفسیر تحریر کی ہے جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے کہا گیا کہ وہ ساٹھ اجزاء پر مشتمل ہے۔ اور سورتہ کف تک ہے۔ بقول صاحب کشف الظنون آپ نے

مفسرین کے انداز پر ایک اور تفسیر مرتب کی ہے جو آٹھ جلدات میں ہے۔

(کشف الظنون، ج ۱- ص ۲۳۳)

گر یہ دونوں کتب آج کہیں دستیاب نہیں۔ ابن عربی کی تفسیری کاوش کے سلسلہ میں جو مواد ہنوز موجود ہے وہ ”الفتوحات“ اور ”الغصون“ کے اوراق میں بکھرا ہوا ملتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں کتابوں کی مدد سے چند نمونے تاریخین کرام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی

(النساء۔ ۱۰) اطاعت کی۔

ابن عربی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اس لیے کہ رسول جو کچھ بھی کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ کہتا ہے۔ بلکہ رسول کے منہ سے اللہ ہی بولتا ہے۔ رسول صرف اس کی ظاہری تصویر ہے درحقیقت وہ خود ہی سب کچھ ہے“

(الفتوحات، ج ۲- ص ۱۲۲)

قرآن میں ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يُعَظِمِ شَعَائِرَنَا فَإِنَّهَا مِنْ

جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے

تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝ (سورة الحج۔ ۳۲)

تقویٰ کی علامت ہے۔

ابن عربی لکھتے ہیں:

”شعائر اللہ سے وہ دلائل و براہین مراد ہیں جو ذات باری تعالیٰ تک پہنچانے والے ہوں۔ ”عِظَامُ الْاَبْنِیَّتِ الْکَعْبِیَّتِ“ صوفیہ کی رائے میں ”الہیت العینیق“ قدیم گھر خانہ کعبہ سے ”ایمان کا گھر“ مقصود ہے اور وہ مومن کا دل ہے جس میں خدائی عظمت و جلال کو سمودیا گیا ہے“

(الفتوحات المکیہ، ج ۲- ص ۱۰۹)

قرآن کریم میں فرمایا:

اِنَّ تِلْكَ مِنْ خُرُوجِ اَکْرَادٍ كَمَا تَرَکَ مِنْ خُرُوجِ اَکْرَادٍ كَمَا تَرَکَ مِنْ خُرُوجِ اَکْرَادٍ كَمَا تَرَکَ مِنْ خُرُوجِ اَکْرَادٍ

اگر رانی کے دانے کے برابر کسی پتھر

فَتَكُنْ فِي صَعْرَةٍ - (لقمان - ۱۶) میں ہو۔

اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”یعنی ایسے سنگِ دل انسان کے پاس موجود رحمِ درگم سے آشنا ہی نہیں۔ اس آیت میں ”صَعْرَةٌ“ سے سنگِ دل آدمی مراد ہے۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں فرمایا :

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَهُمْ فَكُلَّتْ حَاجِرَةٌ

پھر تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے

(الفتوحات ج ۴ - ص ۱۱۴)

ابن عربی کی تفسیر قرآن کے چند نمونے ہم نے پیش کیے ہیں۔ اس سے قاری کریم یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ابن عربی کا اسلوب تفسیر کیسا ہے؛ نیز یہ کہ ناشانی نے جو تفسیر لکھ کر ابن عربی کی جانب سے کرا دی ہے اس میں ادرا بن عربی کی تفسیر میں کیا فرق و امتیاز پایا جاتا ہے؟

بہر کیف یہ ہے صوفیہ حضرات کا انداز تفسیر ادرا یہ ہیں ان کے اہم مفسرین! ہم نے صوفیہ کی اہم کتب تفسیر کا تفصیلی تعارف بھی کر دیا ہے۔ اب موضوع زیر بحث سے متعلق کوئی بات تشنہ تکمیل نہیں رہی۔

فصل ششم

تفسیر فلاسفہ

تفسیر و فلسفہ میں ربط و تعلق:

ملتِ اسلامیہ کی قوت و شوکت کے ایام میں کتبِ فلسفہ کا مختلف زبانوں سے عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس عظیم خدمت کا سہرا خلفائے نبی عباس کے سر پہ جنہوں نے اس کام کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ خلیفہ منصور نے اس مبارک تحریک کا بیڑہ اٹھایا اور بعد ازاں اس کے اقارب و اعزہ نے اس کو مزید فروغ دیا۔ خلیفہ امرن نے اس تحریک کو باہم عروج پر پہنچایا۔ اس کے بعد و بعد میں بغداد کے شہر نے ایک عظیم علمی مرکز کی حیثیت حاصل کر لی ہے جس کی جانب طلبہ دور دراز سے ترک وطن کر کے آتے تھے۔

اس مقصد کی تکمیل کے پیش نظر عباسیہ نے اہل فارس ہنر و ادیبانِ علماء سے بھی مدد لی۔ یہ لوگ ان تہذیبِ علم سے بخوبی آگاہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے یونانی فلسفہ کی کتب کو عربی کے قالب میں ڈھال دیا۔ ان کتب کو مسلمانوں میں پھیلایا گیا اور انہوں نے نہایت ذوق و شوق سے ان کا مطالعہ کیا۔

مخلاف انہیں بعض مسلمانوں نے یہ کہتا میں پڑھیں اور ان میں بیان کردہ نظریات و افکار کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ اس لیے کہ وہ دینِ اسلام سے متصادم تھے اور کسی صورت میں بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کا ردِ عمل یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی ان نظریات کے ابطال و تردید کے لیے وقف کر دی۔ ان لوگوں کے سرخیل امام غزالی و امام رازی تھے۔ چنانچہ مؤرخ الذکر نے اپنی تفسیر میں فلسفیانہ نظریات کی بھرپور تردید کی اور ان کے پیش کردہ دلائل کی دھمیاں بھجی کر رکھ دیں۔

مسلمانوں کی ایک تیسری جماعت بھی تھی جنہوں نے ان کتب کو منظرِ استہسان دیکھا۔ حالانکہ وہ دیکھتے تھے کہ ان میں جو افکار و نظریات مندرج ہیں وہ شرعی نصوص و تعلیمات سے متصادم ہیں۔

ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ حکمت و عقیدہ یا فلسفہ و دین کے مابین توفیق و تطبیق دے سکتے اور لوگوں پر یہ حقیقت واضح کر سکتے ہیں کہ عقل و دماغ میں کسی تناقض کا امکان نہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ عقیدہ جب حکمت کی روشنی سے مستیز ہر جائے تو وہ نفوسِ انسانی میں راسخ ہو جاتا ہے اور دشمن کے سامنے زیادہ کھوس اور پائیدار ثابت ہوتا ہے۔

چنانچہ انہوں نے دین و فلسفہ میں ربط و اتصال پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور وہ اس جہدِ سعی میں بڑی مدد تک کامیاب بھی ہوئے مگر ان کی سامع کو بعض لوگوں نے پسند کیا اور اکثر نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم فلاسفہ نے جمع و تطبیق کے سلسلہ میں دینی تعلیمات کو ایسا رنگ دیا جو ان کی شرعی حیثیت سے یکسر مختلف تھا۔ ظاہر ہے کہ دو مختلف و متضاد امور میں تطابق و توافقی کا یہ انداز کسی طرح مرزوں نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی جیسے لوگوں کو جمع و تطبیق کے مدعی فلاسفہ کی تردید کے سلسلہ میں کوئی زحمت پیش نہ آئی۔

دین و فلسفہ کے مابین اندازِ ربط و تعلق:

جن فلاسفہ نے دین و فلسفہ کو باہم جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اس ضمن میں دو طریقے اختیار کیے۔

۱- پہلا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے دینی نصوص و شرعی حقائق کی ایسی تائید کی جو فلسفیانہ نظریات سے ہم آہنگ ہو سکے۔ گویا شرعی نصوص کو ایسے قالب میں ڈھالا گیا جس سے وہ فلسفیانہ نظریات کے ساتھ متضاد نہ رہیں

۲- دوسرا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے فلسفیانہ افکار کی روشنی میں شرعی حقائق کی شرح و تفسیر کی جس کے معنی یہ ہیں کہ فلسفہ غالب اور دینی حقائق مغلوب ہو کر رہ گئے۔ یہ طریقہ پہلے طریقہ سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کے مفاسد و مضرات دین کے حق میں مقابلہ طریقہ اول سے زیادہ ہیں۔

تفسیر قرآن پر فلسفہ کے اثرات:

مندرجہ صدر بیان سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ فلسفیانہ افکار کے سلسلہ میں

جملہ علمائے اسلام ایک ہی نقطہ نظر کے حامل نہ تھے۔ ان میں سے ایک جماعت ان کو قبول نہیں کرتی تھی جب کہ دوسری قسم کے علماء ان کو بنظر استحسان دیکھتے اور ان کا دفاع کرتے تھے۔ چنانچہ دو نزل قسم کے علماء کے متضاد نظریات کا اثر تفسیر قرآن پر پڑنا ایک لازمی امر تھا۔

جہاں تک اس فریق کا تعلق ہے جو فلسفہ کے خلاف تھا۔ انہوں نے جب قرآن کی تفسیر کرنا چاہی تو وہ فلسفیانہ آراء کے خلاف تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک مفسر کی حیثیت سے اپنا یہ فرض سمجھا کہ فلسفیانہ نظریات کو تفسیر میں شامل کر کے یا تو ان کا دفاع کریں اور ثابت کریں کہ یہ قرآنی نصوص سے متصادم نہیں۔ اور یہ طریق کار ان افکار کے بارے میں اختیار کیا گیا جو ان کے نزدیک صحیح اور مسلمہ تھے۔ جو نظریات ان کے خیالات میں غلط تھے ان کی تردید کی جائے اور تباہ کیا جائے کہ یہ قرآنی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔

ایسے مفسرین ایک تو قرآن کی تفسیر اس انداز سے کرتے کہ وہ ان کے مسلہ فلسفیانہ نظریات سے موافق ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی تفسیر میں وہ فلسفیانہ افکار کی روشنی میں نہیں چلتے تھے بلکہ قرآنی آیات کی توضیح دین و عقل و دونوں کے پیش نظر کرتے تھے۔ اس طرح فلسفیانہ افکار شرح قرآن میں راہ نہیں پاسکتے تھے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر اسی طرز و انداز کی حامل ہے۔

جہاں تک فلسفہ کے حامی گروہ کا تعلق ہے وہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ایک ایسی راہ پر گامزن ہوا جو سراسر شر و منکرات تھا۔ وہ فلسفیانہ نظریات کی عینک سے قرآن کو دیکھتا اور انہی کی روشنی میں قرآن کی شرح و تفسیر کرتا تھا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اسی قسم کی تفسیریں ترتیب کیں جو تفسیر سے زیادہ فلسفیانہ افکار کی ترجمانی پر مبنی تھیں۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ قرآنی نصوص کی اصل و اساس پر فلسفیانہ افکار کی تائید و حمایت کریں۔

فلاہابی کی تفسیر:

فلسفہ پر مبنی تفسیر قرآن کی ایک جھلک دیکھنا چاہیں تو فلاہابی متوفی ۳۳۹ھ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ تفسیر موصوف نے اپنی کتاب "مفصوص الملکم" میں کی ہے۔ تفسیر کا کتب باب

یہ ہے کہ فارابی نے قرآنی حقائق کو فلسفیانہ افکار کے قالب میں ڈھال دیا ہے۔ چند امثلہ
ملاحظہ ہوں۔

قرآن عزیز میں فرمایا:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ (المید-۳) (اللہ تعالیٰ اول بھی ہے اور آخر بھی)

فارابی اس کی تفسیر میں لکھتا ہے:

”اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے اول ہے کہ ہر موجود نے اسی سے شرف وجود پایا وہ
اس اعتبار سے اول ہے کہ ہر زمانی چیز اپنے وجود کے اعتبار سے اسی کی جانب
منسوب ہے۔ ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب وہ موجود تھا مگر وہ چیز موجود
نہ تھی۔ وہ اول ہے اس لیے کہ جس چیز کو بھی دیکھا جائے اس پر سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ کا کوئی نشان ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آخر ہے اس لیے کہ جب اشیاء کے
اسباب و مبادی پر غور کیا جائے گا تو منسوب چیز خدا کی ذات پر آکر ٹھہرائے گی۔
آخر ہے اس لیے کہ ہر طلب و تحقیق کی غایت وہی ہے“

(فصوص الحکم فارابی ص ۱۷۴)

قرآن میں فرمایا:

وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ (وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی)

اس کی تفسیر میں فارابی لکھتا ہے:

”ظاہر کے معنی یہ ہیں کہ وہ سب سے کامل تر ہے۔ اس لیے وجود کے اعتبار سے
اس میں کوئی منافعیں۔ وہ اپنی ذات میں ظاہر ہے اور شدتِ ظہور کی وجہ سے باطن
ہے۔ اس لیے کہ جو چیز بہت نمایاں ہوتی ہے وہ نگاہ سے پوشیدہ رہتی ہے۔
اور اس کی جانب تو جہتیں دہی جاتی مثلاً آفتاب ہر چیز کو ظاہر کر دیتا ہے اور خود
پوشیدہ رہتا ہے مگر اس لیے نہیں کہ اس میں خفا پائی جاتی ہے بلکہ شدتِ ظہور کی
وجہ سے نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے“

(فصوص الحکم فارابی ص ۱۷۰)

وحی کی تشریح فارابی ان الفاظ میں کرتا ہے:

”وحی کے معنی یہ ہیں کہ فرشتہ روح انسانی کو براہ راست مخاطب کرتا ہے۔ کلام متعینی یہی ہے۔ کلام کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے جو چیز منکلم کے ذہن میں ہوتی ہے۔ وہ مخاطب کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کا ہم خیال ہو جائے۔ جب منکلم مخاطب کے باطن کو اس طرح نہ چھو سکتا ہو جیسے جہر کے ساتھ موم کو چھپوا جاتا ہے تو اس وقت دو ذلوں کے درمیان ایک ایسی مقرر کیا جاتا ہے جو زبان سے برتا ہے یا لکھتا ہے اور یا اشارہ سے کام لیتا ہے۔ اور جب مخاطب منکلم کے درمیان کسی قسم کا حجاب نہ ہو تو وہ اس پر اس طرح بھانکتا ہے جیسے آفتاب صاف ستھرے پانی پر۔ اس طرح مخاطب کی بات منکلم کی رُوح پر نقش ہو جاتی ہے۔ مگر جو چیز رُوح پر منقوش ہو اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ باطنی حس کی جانب رجوع کرتی ہے۔ بشرطیکہ وہ نقش مضبوط ہو۔ چنانچہ اس کا شاہدہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح جس کی طرف وحی مضمبوت ہو اس کا باطن فرشتہ سے متصل ہو کر اس سے وحی اخذ کرتا ہے“

(فصوص الحکم ص ۱۶۳)

فارابی فرشتوں پر اس انداز میں روشنی ڈالتا ہے :

”فرشتوں سے صُورِ علمیہ مراد ہیں جن کے برابر علوم ابداعیہ ہیں جو ان کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ یہ صُورِ علمیہ بالائی امور کا ماحصلہ کرتی ہیں اور وہ ان کی شفقتیت پر منقوش ہو جاتے ہیں۔ یہ صُورِ علمیہ آزاد ہیں۔ رُوح قدسیہ عالم بیداری میں ان کو خطاب کرتی ہیں اور رُوح بشری حالت نیند میں“ (فصوص الحکم ص ۱۶۶)

اخوان الصفا کی تفسیر:

اخوان الصفا کے آغازِ ظہور اور ان کی تاریخ کے بارے میں ہمارے پاس بہت کم معلومات ہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ اسماعیلیہ باطنیہ فرقہ کے ساتھ ربط و تعلق رکھتے تھے اور عقاید و افکار میں بھی ان کے جہنوا تھے۔ رسائلِ اخوان الصفا میں قرآنِ کریم کی کچھ تفسیر بھی ملتی ہے جو انہوں نے فلسفیانہ انداز میں کی تھی۔

اخوان الصفا حجت و حجتیم کی تشریح اس انداز میں کرتے ہیں کہ جنت عالم الافلاک کا نام ہے

فلک القمر کے نعمت جو عالم دنیا ہے اس کو جنم کہتے ہیں نفس انسانی کے تجرد اور عالم الافلاک کی جانب اس کے اشتیاق کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جسم انسانی چوں کہ کثیف ہے اس لیے وہ عالم الافلاک تک چڑھنے سے قاصر ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانی رُوح جب اس جسدِ خاکی سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ فی الفور عالم فلک پر پہنچ جاتی ہے۔ بشرطیکہ اس کے اخلاقِ قیومہ و انعالِ شنیعہ اور جہالت و ضلالت اس کی راہ میں حائل نہ ہو۔ اس لیے کہ رُوح ایک عاشق ہے اور اس کا قیام اسی جگہ ممکن ہے جہاں اس کا معشوق ہو۔

جب رُوح بدنِ انسانی کی عاشق ہو اور اس کا نصب العین جسمانی و مادی لذات کا حصول ہو تو وہ عالمِ بالا تک نہ پہنچنا چاہتی اور نہ ہی پہنچ سکتی ہے۔ اس کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور نہ ہی وہ فرشتوں کی رفاقت میں جنت میں جا سکتی ہے۔ بخلاف ازیں وہ فلک القمر کے نیچے ہی ادھر ادھر جھکتی رہتی ہے“ (رسائل اخوان الصفا ج ۱ ص ۹۱)

اخوان الصفا فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں کے ستارے اور ان کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کائنات کی آبادی اور مخلوقات کی تدبیر و ریاست کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ آسمانوں پر اسی طرح خدا کے نائب ہیں جس طرح ذمیوی سلاطین و ملوک زمین پر اس کے خلیفہ ہیں“ (حوالہ مذکور)

اخوان الصفا نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ مومن کی رُوح اس کے جسم سے الگ ہو کر عالمِ بالا پر پہنچ جاتی اور فرشتوں کے زمرہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر رُوح القدس کے ذریعہ زندگی پاکر آسمان کی فضاؤں میں بخوشی خاطر تیرتی پھرتی ہے۔ وہاں اسے ہر قسم کا راحت و آرام اور لذت و عیش حاصل ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں آیت کریمہ،

إِلَيْهِ يَمْعَدُ جَلْمَةُ الْعَائِبَاتِ وَالْعَمَلُ (پاکیزگمات اس کی طرف پڑھتے ہیں اور

الْمَسَائِلُ يَرْتَعُونَ عمل صالح ان کو بند کرتا ہے)

کے یہی معنی ہیں۔ (رسائل ج ۱ ص ۱۱۰)

اخوان الصفا کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ قرآنِ عزیز ایسے رموز و اسرار پر مشتمل ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خراس امت کو یہ اسرار و رموز کھلے الفاظ

میں بلا ضرورت اشارہ بتایا کرتے تھے۔ البتہ سلام کو رموز و کنایہ کے اندر۔ جیسا کہ الفاظ میں سمجھانے جن میں تاویل کی گنجائش ہوتی۔ ظاہر ہے کہ فرقہ باطنیہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ قرآن کے ظاہری معانی مراد و مقصود نہیں ہیں۔

یہ ہے مسلم فلاسفہ کی تفسیر قرآن جو فلسفیانہ نظریات پر مبنی ہے اور قرآن کریم میں جس کی گنجائش بالکل نہیں۔ ہمارے علم کی حد تک کسی مسلم فلسفی نے پورے قرآن کریم کی تفسیر نہیں لکھی۔ البتہ فلسفہ سے متعلق جو کتب انہوں نے مرتب کی تھیں ان میں ان کے تفسیری اقوال جا بجا ملتے ہیں تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جس شخص نے سب سے زیادہ کام کیا وہ رئیس ابو علی بن سینا ہے موصوف نے سورہ زمر کی آیت نمبر ۳۵ ”وَاللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ نیز سورہ اخلاص اور قرآن کریم کی آخری دو سورتوں کی تفسیر تحریر کی تھی۔ اس لیے مسلم فلاسفہ میں ابن سینا پہلا شخص ہے جس نے تفسیر قرآن پر گہرا اثر ڈالا۔ نظریہ میں ہم پہلے ابن سینا کے مختصر سیر و سوانح اور پھر اس کے انداز تفسیر پر تبصرہ کریں گے۔

تعارف ابن سینا:

نام و نسب حسین بن عبدالشہ بن حسن بن علی بن سینا کنیت ابو علی اور لقب شیخ الرئیس ہے۔ ان کے والد بلخ کے رہنے والے تھے پھر بخارا منتقل ہو گئے۔ بخارا کے ایک لواحق گاہلی میں ابو علی بن سینا ۳۵۰ھ کو پیدا ہوئے۔

ابو علی نے طب علم کی خاطر مختلف بلاد و دیار کی خاک چھانی اور بہت سے علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ ابھی دس برس کے تھے کہ قرآن کریم حفظ کر لیا۔ بعد ازاں ادب عربی، اصول الدین، حساب اور جبر و مقابلہ کا درس لیا۔ ابو عبداللہ التاملی سے منطق کا علم پڑھا اور اس پر سبقت لے گئے۔ پھر علوم طبیعیہ و الیاتی کی تحصیل میں لگ گئے۔ پھر علم طب کی تحصیل کا شوق ہوا اور جو کتب اس علم میں موجود تھیں۔ سب پڑھ ڈالیں۔ حتیٰ کہ علم طب میں ریگانہ عصر قرار پائے یہ سب کچھ آپ نے تھوڑے سال کی عمر تک کر لیا۔ ابھی اٹھارہ سال کے نہیں ہوئے تھے کہ تمام مروجہ فنون کی تحصیل سے فارغ ہو گئے اور آپ کی ذہانت و فطانت کے چرچے ہوئے۔ آپ کی تصانیف ایک تشریح کے لگ بھگ ہیں۔ جن میں سے کتاب الشفاء، کتاب النہام، کتاب الاشیاء

اور القارئین بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ کی تصانیف نہایت گراں بہا ہیں اور لوگوں نے ان سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔

ابو علی بن سینا علی شہرت کے پیلوہ یہ پیلوہ سیاسی طور پر بھی معروف شخصیت تھے۔ اپنے والد کی رفاقت میں شاہی دربار میں آیا جایا کرتے تھے اور سلطان نے بہت سے امور آپ کو تفویض کر رکھے تھے۔ جب سلطنت کے حالات دگرگوں ہو گئے تو ابو علی بخارا سے نکل کر مختلف دیار و اعمار میں گھومتے پھرتے ہمدان پہنچے۔ وہاں شمس الدولہ نے ان کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ پھر شکر نے حملہ کر کے آپ کے گھر کا تمام ساز و سامان لوٹ لیا۔ ابو علی کو کچھ لیا اور شمس الدولہ سے انہیں قتل کرنے کی اجازت مانگی مگر اُس نے نہ دی۔ پھر ابن سینا کو آزاد کر دیا گیا اور وہ عرصت تک روپوش رہے۔ بعد ازاں شمس الدولہ نے پھر اُن کو مسند وزارت پر فائز کیا۔ جب شمس الدولہ نے وفات پائی تو ابن سینا عازم اصبهان ہوئے۔ پھر آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے اور ۴۲۸ھ میں ہمدان میں وفات پائی۔ (وفیات الاعیان ص ۲۷۱ و تذرات الذهب ج ۳ ص ۲۳۷)

ابن سینا کا انداز تفسیر:

ابن سینا ہمیشہ ایک مسلم کے قرآن حکیم پر یقین رکھتے تھے۔ بخلاف ازیں فلسفہ کے ایک شیدائی کے اعتبار سے وہ فلسفیانہ نظریات کی نفرت و حمایت کو بھی ضروری خیال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دین و فلسفہ میں تطبیق و توفیق دینے کے متمنی ہیں۔ چوں کہ قرآن دین اسلام کا رکن رکین ہے۔ اس لیے یہ فطری بات تھی کہ ابن سینا قرآنی نصوص اور فلسفیانہ افکار کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے اور یہی انہوں نے کیا۔ اگرچہ ان کی سعی و جہد ہماری ناقص رائے کی حد تک دین اسلام کے حق میں ایک شکر سے کم نہ تھی۔ بلکہ بالفاظ صحیح تر قرآنِ عظیم کے حقائق ثابتہ صریحہ کے ابطال کی ایک سعی لا حاصل تھی۔

قرآن و فلسفہ دونوں پر ابن سینا کی نگاہ تھی۔ چنانچہ اس نے فلسفیانہ نظریات کو قرآن کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کی جس کے لیے اس نے یہ طریق کار اختیار کیا کہ خالص فلسفیانہ انداز میں قرآن کی شرح و تفسیر کی بنا ڈالی۔ اکثر و بیشتر اس کا طرز و انداز یہ تھا کہ وہ دینی حقائق کی تعبیر و تفسیر فلسفیانہ آراء کے مطابق کرتا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن حکیم اسرار و رموز کا گنجینہ ہے۔ اس

میں ایسے حقائق کو رمزدکنایہ کہے انداز میں بیان کیا گیا ہے جن کے فہم و ادراک سے ذہنِ انسانی کا صر ہے۔ جن باتوں کا سمجھنا ممکن تھا نبی کریم نے ان کو اشارہ کیا یہ میں بیان کر دیا۔ اور جن باتوں کو صرف خواص ہی سمجھ سکتے تھے اور عوام کی رسائی ان تک ممکن نہ تھی ان کو پڑھ کر رکھا۔

ابن سینا رقمطراز ہے :

”نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کلام رمزد اشارہ کے انداز میں ہو۔ افلاطون نے اپنی کتاب ”الزائیس“ میں لکھا ہے کہ جو شخص انبیاء کے اسرار و رموز سے واقف نہ ہو وہ حکوتِ الہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دیگر فلاسفہ یونان بھی اپنی کتب میں رموز و اشارات ذکر کرتے۔ چنانچہ فیثا غورث، سقراط اور افلاطون نے اسی طرح کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہ تھا کہ آپ جاہل بڑوں کو علمی حقائق سے آگاہ کرتے یا تمام انسانوں کو اسلامی تعلیمات سے بہرہ ور کرتے جن کی جانب آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، (رسائل ابن سینا ص ۱۲۴)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابن سینا کی رائے میں قرآنی آیات ایسے رمزد اسرار پر مشتمل ہیں جن کی عقدہ کشائی اس جیسے فلسفی ہی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ فلسفیانہ نظریات کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ابن سینا کا یہ طرز عمل حقیقتِ دین اور روحِ قرآن دونوں کے منافی ہے۔

ابن سینا کی تفسیر کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں :

قرآن حکیم میں فرمایا :

وَيَسِّرْ لَّكُمْ سَبِيلَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ يُسِّرُ لَكُمْ سَبِيلَ الْجَنَّةِ
 (اور تیرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتے
 اٹھائیں گے) (الحاقة: ۱۷)

ابن سینا اس کی تفسیر میں لکھتا ہے :

”عرش سے نزاں آسمان مراد ہے جس کو فلک الافلاک کہتے ہیں۔ عرش کو تھامنے والے آٹھ فرشتوں کے بارے میں کتاب ہے کہ وہ آٹھ آسمان میں جو فلکِ نم کے نیچے ہیں،“

(رسائل ابن سینا ص ۱۲۸)

اسی طرح ابن سینا جنت و جہنم کی فلسفیانہ تفسیر کرتے ہیں جو دینی مخالفت کے بالکل خلاف ہے۔ ان کے نزدیک عالم کی تین قسمیں ہیں۔

۱- عالم حسی

۲- عالم خیالی و ذہنی

۳- عالم عقلی

ان کی رائے میں عالم عقلی سے جنت مراد ہے۔ عالم خیالی جہنم ہے اور عالم حسی سے قبر کی دنیا مراد ہے۔

تسکن کریم می فرمایا:

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝ (اس جہنم) پر انیس (نہشتے ہیں
(المدثر۔ ۳۰) گئے)

اس کی تفسیر میں ابن سینا لکھتا ہے:

”نفس حیوانی کو جہنم میں ابدی زندگی حاصل ہوگی نفس حیوانی کی دو قسمیں ہیں (۱) ادراکیہ (۲) عملیہ

عملیہ کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ۱- شرفیہ۔ ۲- غضبیہ

قوتِ ادراکیہ سے ان محسوسات کا ادراک حاصل ہوتا ہے جن کو ظاہری حواس سے محسوس کیا جاتا ہے۔ محسوسات کی تسولہ قسمیں ہیں۔ قوتِ ذہنیہ جو ان محسوسات کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے ایک ہے۔ محسوسات کی تعداد تسولہ ہے۔ اس کے ساتھ قوتِ ادراکیہ و عملیہ کو شامل کر لیا جائے تو کل انیس ہوں گی۔ قرآن کریم کا طرزِ بیان یہی ہے کہ قومی لطیفہ غیر محسوس کو ملا کر سے تعبیر کیا جاتا ہے“ (رسائل ابن سینا)

تسکن میں فرمایا،

وَمِنْ نَتْمًا سَابِإِ إِذَا حَسَدَ ۝ (اور عاصد کی شرارت سے جب حد کرے)

ابن سینا اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”نفس سے وہ نزاع مراد ہے جو بدنِ انسانی قرآن کے جسمانی اور نفس کے مابین پایا ہوتا ہے

قرآن کریم میں فرمایا:

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

(جزوں اور انسان سے)

ابن سینا رقمطراز ہے،

”رجح کے معنی ہیں پرشیدہ ہونا اور انس مانوس ہونے کو کہتے ہیں۔ جن یعنی پرشیدہ امر

سے جو انس باطنی مراد ہیں اور انس سے ظاہری“ (جامع البدائع ص ۳۱)

فلاسفہ کی تفسیر کے بارے میں ہمارا نقطہ نگاہ:

یہ ہیں ابن سینا کی تفسیر کے چند نمونے! باطنیہ نے قرآنی نصوص کی جو دور از کار تاویلیں کی ہیں ابن سینا بھی اسی ڈگر پر گامزن ہیں۔ جم نہیں سمجھتے کہ کئی مسلم خواہ فلسفہ و فلاسفہ کا کتنا ہی محبت کیوں نہ ہو اس امر میں ابن سینا کی تائید کرے گا کہ قرآنی نصوص دراصل دوسرے حقائق کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ چوں کہ ان حقائق کا فہم و ادراک دشوار تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات سے ان کی جانب اشارہ فرمایا۔

دراصل بات یہ ہے کہ امامیہ اشاعشریہ، باطنیہ، اسماعیلیہ، غالی صوفیہ اور مسلم فلاسفہ سب کے سب ایک ایسی شاہراہ پر گامزن رہے جو قرآنی غایات و مقاصد سے متصادم تھی۔ اس کا نام انہوں نے رمز و اشارہ اور باطن رکھا ہے۔ درحقیقت یہ مستعدی بیماری قدیم فلاسفہ سے مسالزلوں میں سرایت کر آئی تھی پھر ان فرقوں نے خندہ پیشانی اور کشادہ دل سے اس کو قبول کر لیا۔ اس لیے کہ ان اسرار و رموز سے ان کی بدعت و ضلالت کو شہ متنی تھی۔

فصل ہفتم

تفسیر فقہاء

فقہی تفسیر کا تذکرہ بھی ارتقاء

فقہی تفسیر عہد نبوت سے فقہی مسالک کے قیام تک:

قرآن عزیز ایسی آیات کو اپنے جلد میں لیے ہوئے نازل ہوا جو فقہی احکام پر مشتمل تھیں۔ یہ احکام بندوں کی ذمہ داری و اخروی فلاح و بہبود سے متعلق تھے۔ عہد رسالت کے مسلمانوں کی مادری زبان چوں کہ عربی تھی اس لیے وہ ان احکام کو بخوبی سمجھتے تھے۔ اگر کسی بات کے سمجھنے میں دقت پیش آتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے۔

جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو صحابہ کرام بعض ایسے نوپید مسائل سے بچار ہوئے جن کا صحیح شرعی حل مطلوب تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس ضمن میں اولین کوشش یہ کی کہ ان مسائل کے استنباط کے سلسلہ میں قرآن کریم کی طرف رجوع کیا۔ قرآنی آیات میں فکر و تدبر کیا جانے لگا۔ اگر طلب و تلاش سے ان نوپید مسائل کا حل قرآن میں مل جاتا تو فیماوردہ سنت رسول کی جانب متوجہ ہوئے۔ اگر اس میں بھی ان کا حل نہ ملتا تو اجتماع سے کام لیتے اور کتاب و سنت کے قواعد و کلیہ کی روشنی میں ان کو حل کرتے۔

قرآن کریم کی آیات الاحکام پر فکر و تدبر کرتے ہوئے صحابہ بعض اوقات ایک دوسرے کے سامنے اختلاف کرتے تھے۔ یہ نکلتا کہ مسئلہ زیر بحث کے سلسلہ میں ان کے خیالات ایک دوسرے سے جدا گانہ نوعیت کے حامل ہوتے۔

اسی قسم کے اختلافات حضرت عمر و علی رضی اللہ عنہما کے مابین اس مسئلہ میں رونما ہوا تھا کہ اگر حاملہ عورت کا خاندان فوت ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے؟ حضرت عمر کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ اس کی عدت دمیع محل ہے۔ بخلاف ازیں حضرت علی کا خیال یہ تھا کہ اس عورت کی عدت ابد الاکلیین ہے۔

یعنی وضع عمل اور چار ماہ دس دن میں سے جو عفت دور زبردہی اس کی عدت ہے۔
اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی دو آیات جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں
بظاہر متعارض ہیں۔ ایک آیت میں طلاق شدہ حاملہ عدت کی عدت وضع عمل مقرر کی گئی ہے جب
کہ دوسری آیت میں فرت شدہ خاندہ والی طورت کی عدت چار ماہ دس دن ٹھہرائی گئی ہے اور اس میں
حاملہ غیر حاملہ کے درمیان کوئی فرق دانتیازر و انہیں رکھا گیا۔ حضرت علی کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ یہ ایک
وقت دونوں آیتوں پر عمل کیا جائے۔ نیز یہ کہ دولہ میں سے ہر آیت دوسری کے عموم کی تخصیص
کر رہی ہے۔ حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ آیت طلاق دوسری آیت کی تخصیص کرتی ہے۔

حضرت عمرؓ کے نقطہ نظر کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ **بِئْتِغَةِ بِنْتِ حَارِثِ اسْلِمِيَه**
کا خاندہ فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے پچیس دن بعد اس کے بیاب بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے بعد اس کو نکاح ثانی کی اجازت دے دی۔

(تاریخ التشریح للفقری ص ۱۱۳)

اس قسم کا اختلاف جناب عبداللہ بن عباسؓ اور زید بن ثابتؓ کے مابین اس شخص کی میراث
کے سلسلہ میں رونا ہوا تھا جو مر جائے اور اس کے درنا میں سے اس کی بیوی اور والدین بقید حیات
ہوں۔ اس مسئلہ میں حضرت ابن عباسؓ نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کے ترکہ میں سے بیوی کو نفع، ماں
کو ایک تنائی اور باقی مانہ رقم باپ کو بمشیت علیہ کے ملے گی۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے:

فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَاكِدَةٌ وَوَرَثَةٌ اَبَاكَ
فَاُولٰٓئِكَ هِيَ التَّلَاتُ

راکریت کی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین
مارث ہوں تو اس کی ماں کو ایک تنائی

(النساء - ۱۱) (ملے گا)

خلاف انہیں حضرت زید بن ثابتؓ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا موقف یہ ہے کہ راکریت
کے والدین کا حصہ ادا کرنے کے بعد جو باقی بچے گا۔ اس کا ایک تنائی بیوی کو ملے گا۔

(تاریخ التشریح الاسلامی از بسکی و بربری ص ۹۴)

صحابہ میں اس قسم کے فقہی اختلافات رونا ہوا جابا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ آیت
قرآنی کا جو مطلب سمجھتے۔ برطاس کو بیان کر دیتے اور اگر کوئی خارجی دلیل ان کو معلوم ہوتی تو اس کا

اظہار بھی کر دیتے۔ اس اختلاف کے باوجود فریقین حق کی تلاش میں مگن رہتے اور اگر کسی وقت بھی دوسری جانب حق و صداقت کی کوئی شعاع دیکھتے تو اس کی طرف رجوع کرتے اور اپنی رائے ترک کر دیتے۔

مسائل الربیع کے ظہور کے وقت فقہی تفسیر کی حالت:

مسائل الربیع کے ظہور کے وقت فقہی تفسیر کی یہی کیفیت رہی۔ اس دور میں مسلمانوں کے اندر ایسے مسائل و حواریت رونما ہوئے جن کے بارے میں متقدمین کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے۔ اس لیے کہ ایسے واقعات کا ان کے عہد میں ظہور ہی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ ہر امام نے ان نوپید حواریت کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھنا شروع کیا۔ ان کی رائے میں جو بات دلائل و براہین پر مبنی ہوتی، اس کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے۔ ان کے فیصلہ جات کا ہے متفقہ ہونے اور گاہے مختلف نتائج فیصلہ جات میں کثرت اختلاف کے باوجود ان کے یہاں ہٹ دھرمی اور تعصب کا نام و نشان تک نظر نہ آتا تھا۔

بخلاف ازیں تمام ائمہ حق کی طلب و تحقیق میں مشغول رہتے اور جب بھی جانب مخالفت میں ان کو حق کی کوئی کرن نظر آتی بلا تکلف اس کو قبول کر لیتے۔

امام شافعی فرمایا کرتے تھے۔

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ سَائِيٌّ - (جب صحیح حدیث موجود ہو تو میری رائے بھی

وہی ہے)

امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں امام شافعی کا ارشاد ہے۔

النَّاسُ جِبَالٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى إِبْنِ حَنِيْفَةَ - (لوگ فقہ میں ابوحنیفہؒ کے مناج ہیں)

امام شافعیؒ اپنے شاگرد امام احمد بن حنبلؒ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

إِذَا هَلَكَ الْحَدِيثُ عِنْدَكَ فَاعْلِمْنِي - (جب آپ کے پاس صحیح حدیث موجود ہو

یہ تو مجھے بھی آگاہ کر دیا کریں)

امام شافعیؒ اپنے استاد ذکرائی امام مالکؒ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

إِذَا ذُكِرَ الْحَدِيثُ فَمَا لَكَ الْبَحْمُ (جب حدیث نبوی کا ذکر کیا جائے تو امام الشاقیہ۔)

الملك درخشندہ ستارہ ہیں)

اور اس قسم کے دیگر اقوال و آثار جن سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ فقہائے کرام آپس میں ایک دوسرے کا کس حد تک احترام کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس روش پر گامزن تھے۔

ظہورِ تقلید کے بعد فقہی تفسیر:

ائمہ اربعہ کی جانشینی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آئی جن کے قلب و ذہن پر ان ائمہ کی تقلید مسلط ہو چکی تھی۔ اس تقلید کی اساس نسلی تعصب پر رکھی گئی تھی جس میں مخالفت سے چشم پوشی کرنے اور حق و عدالت کی طلب و تلاش کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس تقلید میں فکری جمود کا یہ عالم تھا کہ اس میں حریتِ فکر و نظر اور آزادیِ نقد و جرح کا شائبہ تک موجود نہ تھا۔ ان میں سے بعض مقلدین کی عقیدت کی یہ حد تھی کہ اپنے ائمہ کے اقوال کو شرعی نفع سے کم اہمیت کا حامل قرار نہ دیتے۔ چنانچہ انہوں نے علمی کاوش و محنت کو اپنے امام کی نصرت و حمایت اور اس کے اقوال کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔ مخالف کے مسلک و مذہب کی تردید و ابطال کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کر دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس قسم کے متعصب مقلدین نے حسبِ مرضی آیات الاحکام کی تاویل کرنا شروع کی۔ اگر آیت میں تاویل کی گنجائش نہ ہوتی تو کم از کم اس کی تعبیر و تفسیر اس انداز میں کرتے کہ مخالف اس سے اسناد لال نہ کر سکتا۔ جو آیت ان کے حسبِ منشاء نہ ہوتی بعض اوقات اس کو منسوخ یا مخفی قرار دے دیتے اور یہ اس صورت میں کیا جاتا جب تاویل کے سبب راستے بند ہو جاتے چنانچہ ابو عبد اللہ کرخی متوفی ۳۴۰ھ جو نہایت متعصب حنفی تھے لکھتے ہیں۔

كُلُّ آيَةٍ آدَحَدِيثٍ يَخْتَلَفُ مَا (ہر آیت یا حدیث جو ہمارے اصحاب کے
عَلَيْهِ اَحَدٌ اَبْنَا قَهْوٌ مَعْوُولٌ اَوْ (مسک کے خلاف ہمارے کی تاویل کی
مَسْخُوعٌ (جائے گی یا اسے منسوخ قرار دیا جائے

(تاریخ التشریح الاسلامی از سبکی و دربرری ص ۲۸۱) (۷۰)

مسکلی تعصب میں غلو کے باوجود ایسے مقلدین کی بھی کمی نہیں جو انصاف سے کام لیتے تھے اور ائمہ کے اقوال پر آزادانہ نقد و جرح کرتے تھے۔ اگر ان کے قول کو دلیل دبر ہان سے ہم آہنگ پاتے تو تسلیم کرتے در نہ جس بات کو حق سمجھتے اس کو قبول کرتے قطع نظر اس سے کہ اس کا قائل کون ہے۔

خلاصہ یہ کہ متعصب و غیر متعصب مقلدین نے فقہی تفسیر پر خاطر خواہ اثر ڈالا متعصب مقلدین قرآنی آیات کو اپنے فقہی مسلک کی عینک سے دیکھتے اور ان کو اسی ڈھانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے۔ بخلاف انہیں جو لوگ گردہی تعصب سے بلا تھے وہ اپنی نظر و فکر کے مطابق ان کا معنی و مفہوم متعین کرتے۔

فقہی تفسیر کی قسمیں:

فقہی تفسیر کے تاریخی مراحل و ادوار کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ نزول قرآن کے آغاز سے لے کر فقہی مذاہب کے قیام تک یہ تفسیر ذاتی اغراض و خواہشات سے بالکل پاک رہی۔ آگے چل کر یہ فقہی مذاہب کے زیر اثر مختلف النزاع و اقسام میں بنتی چلی گئی۔ چنانچہ اہل سنت کی فقہی تفسیر پہلے پہل تعصب سے پاک تھی بعد ازاں وہ اس سے طوالت ہوتی چلی گئی۔ اسی طرح ظاہریہ کی فقہی تفسیر کا مدار و انحصار اس بات پر ہے کہ قرآنی آیات کو ظاہری مفہوم پہنایا جائے اور کسی قیمت پر اس سے عدول نہ کیا جائے۔ خوارج و شیعہ کی تفسیر جداگانہ نوعیت کی حامل ہے۔ ان فرق و مذاہب میں سے ہر ایک اس بات کی مقدور بھر کوشش کرتا ہے کہ قرآنی آیات کی تاویل اس انداز میں کی جائے کہ وہ ان کے مفہوم نظر بات کی موید نظر آئے یا کم از کم ان کے نظریات کے خلاف نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض لوگ آیات کی تاویل میں کھینچا تانی سے کام لینے لگے جس سے قرآنی الفاظ اپنے معنی و مدلول سے دور نکل گئے۔

فقہاء کی تفسیری خدمات:

فقہائے کرام نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جو محنت و کاوش انجام دی ہے۔ اس کا تفصیلی جائزہ لینے سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ عہدِ نزول سے پہلے اس سلسلہ میں کوئی

خاطر خواہ کام انجام نہیں پایا۔ بجز اس کے کہ فقہائے صحابہ و تابعین سے کچھ تفسیری اقوال منقول ہیں۔ البتہ محدثین کے بعد فقہائے کرام نے باختلاف مذاہب و مسالک فقہی تفسیر میں بہت سی کتب مرتب کی ہیں۔

حنفیہ :

فقہائے احناف میں سے مندرجہ ذیل نے کتب تفسیر مرتب کی تھیں۔

(۱) ابو بکر جصاص رازی متوفی ۳۳۸ھ نے احکام القرآن تالیف کی۔ یہ کتاب تین ضخیم جلدات میں ہے اور اہل علم میں معروف و متداول ہے۔

(۲) احمد بن ابوسعید المعروف لاجون نے جو گیا رہویں صدی ہجری کے علماء میں سے تھے۔۔۔
 ”التفسیرات الاحمدیہ“ مرتب کی۔ یہ کتاب پاکستان میں چھپ چکی ہے اور ایک ضخیم جلد پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک نسخہ مکتبۃ الازھر میں اور ایک جامعۃ القاہرہ میں موجود ہے۔

شافعیہ :

مندرجہ ذیل فقہائے شافعیہ نے تفسیریں مرتب کیں۔

۱۔ ابو الحسن طبری متوفی ۵۲۰ھ نے جو الکیا الہراسی کے نام سے معروف تھے ”احکام القرآن“ تحریر کی۔ یہ کتاب ایک ضخیم جلد پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ اور ایک الازھر لائبریری میں موجود ہے۔

۲۔ شہاب الدین ابوالعباس احمد بن یوسف حلبی نے جو ”الشمین“ کے نام سے مشہور تھے۔ ایک تفسیر ”القول الوجیز فی احکام الکتاب العزیز“ نامی تالیف کی۔ آپ نے ۵۶۸ھ میں وفات پائی۔ الازھر لائبریری میں اس کتاب کی پہلی جلد موجود ہے جو مؤلف کے ہاتھ کی رقم کردہ ہے۔

۳۔ علی بن عبدالشہر بن محمد شافعی نے جو نویں صدی ہجری کے علماء میں سے تھے ایک کتاب ”احکام الکتاب البین“ نامی تالیف کی تھی۔ اس کتاب کا ایک نسخہ مرقوم مؤلف الازھر لائبریری میں موجود ہے۔ یہ ایک ضخیم جلد پر مشتمل ہے۔

۴۔ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے ایک تفسیر نام ”الانکلیل فی استنباط التنزیل“ تحریر کی تھی

یہ ایک جلد پر مشتمل ہے۔ اور اس کا ایک قلمی نسخہ الازھر لائبریری میں موجود ہے۔

مالکیہ :

- ۱۔ مالکی فقہاء میں سے ابو بکر بن العربی متوفی ۵۴۳ھ نے "احکام القرآن" تالیف کی۔ یہ دو جلدوں پر مشتمل ہے اور اہل علم میں عام طور سے معروف و متداول ہے۔
- ۲۔ ابو عبداللہ قرطبی متوفی ۶۷۱ھ نے "الجامع لاحکام القرآن" مرتب کی جو مھر سے طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔

زیدیہ :

- ۱۔ حسین بن احمد انجمی نے جو اٹھویں صدی ہجری کے علماء میں سے تھے۔ ایک تفسیر نام "شرح الخمسائتہ آیۃ" تحریر کی۔
- ۲۔ شمس الدین بن یوسف نے جو نویں صدی ہجری میں یقید حیات تھے اپنی کتاب "الثمرات الیافۃ" تحریر کی۔ اس کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں موجود ہے۔ یہ تین اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس کی دوسری جلد کا ایک قلمی نسخہ الازھر لائبریری میں موجود ہے۔
- ۳۔ محمد بن حسین بن قاسم نے جو گیارہویں صدی ہجری کے علماء میں سے تھے ایک تفسیر نام "منتہی المرام شرح آیات الاحکام" تالیف کی۔

امامیہ اثنا عشریہ :

اٹھویں صدی ہجری کے شیعہ علماء میں سے مقداد السیوری نے ایک تفسیر کنز الفرقان فی فقہ القرآن، نامی تحریر کی تھی۔ اس کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں موجود ہے۔ یہ تفسیر ایک جلد میں حسن عسکری کی تفسیر کے حاشیہ پر طبع ہو چکی ہے۔

آیات الاحکام کی تفسیر سے متعلق کچھ اور کتب بھی ہیں جن کا تذکرہ صاحب کشف الظنون نے کیا ہے۔ مگر ہم نے خوف طوالت سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اب ہم فقہی تفسیر کی اہم کتب پر نقد و جرح کریں گے۔ جملہ فقہی تفاسیر پر تنقید و تبصرہ ہمارے پیش نظر نہیں۔

۱۔ احکام القرآن از جصاص

ترجمہ مؤلف :

ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص (چونہ ساز) بغداد میں ۲۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔ اپنے عصر و عہد میں حنفیہ کے برتیل تھے اور آپ کی ذات پر احناف کی امامت و سیادت ختم ہو گئی تھی آپ نے ابوالحسن کرخی اور دیگر فقہائے عہد سے استفادہ کیا۔ بغداد میں تدریس کا آغاز کیا اور وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ زہد و تقویٰ میں امام کرخی کی روش پر گامزن رہے۔ آپ کے زہد کا یہ عالم تھا کہ آپ کو منصب و تفسا کی پیشکش کی گئی مگر قبول نہ کی۔
آپ کی تصانیف میں سے مندرجہ ذیل نہایت اہم ہیں :

(۱) احکام القرآن (زیر تبصرہ)

(۲) شرح مختصر الکرخی۔

(۳) شرح مختصر الطحاوی۔

(۴) شرح الجامع الصغیر از محمد بن حسن شیبانی۔

(۵) اصول الفقہ۔

(۶) ادب القضاء۔

خلاصہ کلام! جصاص اپنے دور کے اکابر علما نے احناف میں سے تھے۔ آپ نے حنفی فقہ کی ترویج و اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ منصور باللہ نے طبقات معتزلی میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ جصاص کی تفسیر سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ آپ معتزلی عقائد و افکار سے متاثر تھے۔ آپ نے شکہ عہد میں وفات پائی۔

(شرح الاذہار، ج ۱، ص ۴۴ نیز الفوائد البیہ فی تراجم الحنفیہ ص ۲۷)

تعارف تفسیر :

علمائے احناف کے نزدیک یہ کتاب فقہی تفسیر کی اہم کتب میں شمار ہوتی ہے۔ اس لیے

کہ اس کی اساس حنفی فقہ کی حمایت و تقویت اور اس کے دفاع پر رکھی گئی ہے۔ اس تفسیر میں قرآن کریم کی تمام سورتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ مگر جن آیات کا فقہی احکام سے کچھ تعلق نہیں ان سے قرض نہیں کیا گیا۔ اس کی ترویج فقہی ترتیب کے مطابق کی گئی ہے۔ ہر باب کا ایک عنوان مقرر کیا گیا ہے اور اس میں اس عنوان سے متعلق مسائل و احکام ذکر کیے گئے ہیں۔

مؤلف اس کتاب میں صرف وہی احکام ذکر نہیں کرتے جو کسی آیت سے استنباط کیے جاسکتے ہیں۔ بلکہ بکثرت ایسے اختلافی مسائل اور دلائل بھی بیان کر دیتے ہیں جن کا آیت کے ساتھ بہت معمولی تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی کتاب تفسیر سے زیادہ فقہ کی کتاب معلوم ہوتی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں :

قرآن کریم میں فرمایا
 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ يَجْرُونَ
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔
 جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام
 دیے ان کو خوشخبری سنادیں کہ ان کے لیے
 ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی
 ہیں۔ (البقرہ - ۲۵)

اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”جس شخص نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جو مجھے فلاں عورت کے بچہ جننے کی خوشخبری
 دے گا میں اُسے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے بہت سے غلاموں نے
 اس کو ایسی بشارت سنادی تو پہلا غلام آزاد ہو گا دوسرے نہیں“
 (احکام القرآن، ج ۱ - ص ۳۲)

قرآن کریم میں فرمایا :

وَشَرِهَدَا شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن
 كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِّنْ نَّبِيلٍ۔
 اس عورت کے گھر والوں میں ایک شخص شہادت
 دی کہ اگر اس (یوسفؑ) کی قمیص اگل طرف سے
 پھیٹی ہے۔ (البقرہ - ۲۵)

”اس آیت کی تفسیر میں مؤلف نے اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ذکر کیا ہے جب کہ

لَقَطْعَةً دگری پڑی چیز) کا دعویٰ کرنے والا اس کی نشانیاں ذکر کر دے۔ نیز یہ کہ اگر دو
شخصوں کو ایک گرا پڑا بچہ مل جائے۔ دونوں اس کے دعویٰ دار ہوں اور ایک اس
کے جسم میں کوئی نشانی بتلائے۔ علاوہ انہیں اس باب میں بھی فقہاء کا اختلاف ذکر
کیا۔ جب کہ خاندان اور بیوی دونوں کسی گھریلو چیز کے بارے میں دعویٰ کریں اور ان
میں سے ہر ایک یہ کہے کہ یہ چیز میری ملکیت ہے۔ اور اس قسم کے دیگر اختلافی مسائل
جن کا تعلق آیت کے ساتھ بہت کم ہے؛ (احکام القرآن، ج ۳، ص ۳۱۰)

حقیقت میں غلو و تعصب :

مولف نے حنفی مذہب کی حمایت و جنبہ داری میں حد درجہ غلو و تعصب سے کام لیا ہے
اس کے نتیجے میں بعض آیات کی تاویل کر کے ان کو اپنے فقہی مسلک سے ہم آہنگ کرنے کی سعی کی ہے۔
بعض جگہ تاویل میں اس لیے کھینچا تانی سے کام لیا ہے تاکہ مخالف اس سے اپنے نظریہ کے اثبات
میں استدلال نہ کر سکے۔ اس کتاب میں تعصب کی یہ حد ہے کہ قاری کو ہر جگہ بے جا حمایت و جنبہ داری
کی روح جھلکتی ہوئی صاف دکھائی دیتی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں :

مُسرَّانِ کریم میں فرمایا۔

ثُمَّ آتَمُوا الْعِيَّامَ إِلَى الْكَيْلِ - پھر روزوں کو رات تک پورا کر دو۔

(البقرة ۱۸۷)

مولف نے اس آیت سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو شخص ایک دفعہ نفل روزہ
کو شروع کر دے تو اُسے پورا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے؛ (احکام القرآن، ج ۱، ص ۲۷۴)

قرآن کریم میں فرمایا :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ - (البقرة ۲۳۲)

جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت
پوری کر لیں تو انہیں اپنے خاندانوں کے ساتھ
نکاح کرنے سے مت روکو۔

مندرجہ صدر آیت کریمہ سے جصاص نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ عورت ولی کی اجازت
کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ (احکام القرآن، ج ۱، ص ۴۶۲)

قرآن کریم میں ارشاد ہوا:

وَآتُوا النِّسَاءَ حَقَّ أَقْوَامِهِمْ وَلَا تَبْغُوا

تیموں کو ان کے مال دے دو اور رومی مال

الْمَخِيئَاتِ بِالنِّسَاءِ (النساء، ۳۰) کے عوض عمدہ مال تبدیل نہ کرو۔

اس آیت سے مولف نے امام ابوحنیفہ کے اس مسئلہ کو ثابت کرنے کی سعی کی ہے کہ حجب

تیمیم پچیس برس کا ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے اگرچہ وہ عقل مند نہ ہو۔

(احکام القرآن، ج ۲-ص ۵۶)

مخالفین پر جصاص کا حملہ:

حنفی فقہ میں غلو و تعصب کے پہلو بہ پہلو جصاص امام شافعی اور دیگر ائمہ کو معاف نہیں کرتا۔

اور ان کے حتیٰ میں دریدہ دہنی اور سو ادبی سے کام لیتا ہے۔

چنانچہ سورۃ النساء میں حرام رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے جصاص نے حنیفہ و شافعیہ کے باہمی

اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ مسئلہ متنازعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کرے تو کیا وہ

اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ پھر اس ضمن میں ایک مناظرہ کا ذکر کیا جو امام شافعی اور

ان کے مخالف کے مابین ہوا۔ اس موقع پر جصاص نے امام شافعی کی شان میں ناروا اور گستاخانہ لفاظی

استعمال کیے ہیں۔

امام شافعی کے بارے میں جصاص کے الفاظ سنئے گا۔ جصاص لکھتا ہے:

”اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ امام شافعی نے جو کچھ کہا ہے بے معنی ہے۔ اور

سائل کے سوال کے ساتھ اس کا کچھ تعلق نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص کسی مخالف سے

مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ اس قدر لاجواب بھی ہو سکتا ہے جس طرح امام

شافعی ہوئے۔ بھوٹا جب کہ مخالف احمق اور کم عقل بھی ہو۔“

(احکام القرآن، ج ۲-ص ۱۲۳)

مخالف کے سوال کے جواب میں امام شافعی نے جو کچھ کہا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے

جصاص لکھتا ہے:-

”اگر ہمارے نوخیز اور نوآموز اصحاب بھی اس مسئلہ پر گفتگو کریں تو ان پر یہ حقیقت

کھل سکتی ہے کہ امام شافعی کی دلیل کس قدر محبوب اور کمزور ہے۔“

(احکام القرآن، ج ۲، ص ۱۳۵)

امام شافعی کے نقطہ نگاہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ دھوکے اٹھانے میں ترتیب ضروری ہے جصاص

فرماتا ہے :-

”اس قول کے مطابق امام شافعی علمائے سلف و فقہاء کے اجماع سے باہر نکل گئے۔“

(جلد دوم - ص ۴۳۰)

گویا جصاص کے نزدیک امام شافعی کی رائے کوئی وزن ہی نہیں رکھتی اور ان کے بغیر بھی اجماع

نقد ہو سکتا ہے۔

جصاص معتزلی عقائد سے متاثر تھے :

جصاص معتزلی عقائد سے متاثر تھے اور ان کا یہ رجحان ان کی تفسیر میں صاف جھلکتا ہوا دکھائی

دیتا ہے۔ چند اشلہ ملاحظہ ہوں :

قرآن کریم میں فرمایا :-

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ

مَلِكٍ سُلَيْمَانَ - (البقرة - ۱۰۳)

اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان

سلیمان کے مدد حکومت میں پڑھتے تھے۔

یہ لکھتا ہے :

”محرک اطلاق ہر باطل اور بے حقیقت چیز پر ہوتا ہے۔ جن کا کوئی وجود نہ ہو۔“

(احکام، ج ۱ - ص ۴۸)

یہ لکھتا ہے :

”صحیح بخاری کی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاود کیے جانے کا ذکر کیا

گیا ہے۔ ملاحظہ کی وضع کردہ ہے۔“

(احکام، ج ۱ - ص ۵۵)

ان کریم میں فرمایا :-

لَا تُدْرِكُهُ الْآبْهَامَاتُ -

آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔

(الانعام - ۱۰۳)

حصص اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ آنکھیں ذاتِ باری تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتیں۔ اس آیت میں خداوند کریم نے اپنی مدح ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتیں۔

جس طرح دوسری آیت میں فرمایا،

لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ
اس کے آدھ اور نیند نہیں آتی۔

(البقرہ - ۲۵۵)

اس آیت میں نیند اور آدھ کا نہ آنا خداوند کریم کی مدح و توصیف پر مشتمل ہے جب اللہ تعالیٰ نے رویت بصری کی نفی کو مدح قرار دیا ہے تو اس کی ضد کا اثبات نقص و عیب ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی مذمت ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ جہاں تک سورۃ القیامہ کی اس آیت کا تعلق ہے کہ:

إِلَىٰ رَبِّكَ آتَاخُذُكَ - (القیامہ - ۲۳) اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔

تو یہاں "آتَاخُذُكَ" کا لفظ مشتق ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اجر و ثواب کے منتظر ہوں گے۔ علمائے سلف کی ایک جماعت سے یہی معنی منقول ہیں۔ جب اس آیت میں تاویل کی گنجائش موجود ہے تو اس کی بنا پر آیت "لَا تَأْخُذُكَ" پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جس میں کہ تاویل کا سب سے احتمال ہی موجود نہیں۔ باقی نہیں وہ احادیث جن میں رویت باری کا ذکر کیا گیا ہے تو ان میں رویت سے علم مراد ہے۔ رویت کا لفظ علم کے معنی میں عربی لغت میں عام طور سے معروف ہے۔

(احکام القرآن، ج ۳ - ص ۵)

حضرت معاویہ پر حصص کی لور شس :

حصص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نفص و عداوت رکھتے تھے۔ جس کا اظہار وہ اپنی تفسیر میں انات پر کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا :

الَّذِينَ إِذْ مَكَتُّهُمْ فِي الْأَسْرَيْنِ
وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین پر اقتدار عطا کریں تو

أَتَمُّوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ - وہ نماز کا تم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ (المحجہ - ۴۱)

اس کی تفسیر میں جصاص لکھتا ہے :

”اس آیت میں خلفائے راشدین کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ اور وہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ان کی امامت جائز اور درست تھی۔ اس لیے کہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب زمین کا اقتدار سونپا جاتا ہے تو وہ اللہ کے فرانس و واجبات کو قائم کرتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ خلفاء کو اقتدار عطا کیا گیا تھا۔ اس لیے خلفائے راشدین خلافت کی ادا و احکام کو نافذ کرنے والے اور شرعی منہیات و محرمات سے باز رہنے والے تھے۔ معاویہ ان کے زمرہ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اس آیت میں مہاجرین کا ذکر کیا گیا ہے اور معاویہ مہاجر نہ تھے بلکہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے“ (احکام القرآن، ج ۳ - ص ۳۰۳)

شہد آن کریم میں فرمایا :

دَعَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسُوخَلَفْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ - (النور - ۵۵)

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین کی خلافت دی جائے گی۔

اس کی تفسیر میں جصاص رقمطراز ہے :

”اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین کی امامت صحیح ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ ان کو خلافت الرضی سے نوازا تھا۔ معاویہ ان کے زمرہ میں اس لیے شامل نہیں کہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا“ (احکام، ج ۳ - ص ۳۰۶)

شہد آن حکیم میں ارشاد ہے :

وَأَنَّ حَاكِمَاتِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ

اگر اہل ایمان کی دو جماعتیں لڑیں

اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ :

” حضرت علیؑ لڑائی میں حق پر تھے۔ اس کے برخلاف معاویہؓ اور ان کے ہمنوا باغی تھے۔ علاوہ ازیں جس نے بھی حضرت علیؑ کے خلاف خروج کیا وہ باغی ہے۔

(احکام، ج ۳ - ص ۴۹۲)

جصاص کا یہ طرز عمل سخت قابل اعتراض ہے۔ اچھا ہوتا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس میں ملوث نہ کرتے اور ان کا معاملہ خدا کی سپرد کر دیتے۔ مذکورہ صدر آیات کو اپنے جذبات و نظریات کے منہا نچھریں ڈھالنا بھی کوئی قابل تعریف کام نہیں۔

یہ کہتے یہ کتاب چھپ کر تین جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ ادراہل علم میں معزوف و متداول ہے۔

۲۔ احکام القرآن از کیا ہر اسی

ترجمہ مؤلف :

اس گرامی عماد الدین ابوالحسن علی بن محمد بن علی طبری ہے۔ آپ شافعی مسلک تھے اور کیا (بکسر الکاف و فتح الیاء المحققتہ) البراسی کے نام سے معروف تھے۔ ان کا سال ولادت ۳۵۵ھ ہے۔ آپ خراسانی الاصل تھے۔ پھر وہاں سے نیشاپور چلے گئے اور امام الحرمین ابو یوسف کے آگے زانوئے تلمذ تریا۔ پھر وہاں سے بمبئی پہنچ کر کافی عرصہ تک درس دیتے رہے۔ بعد ازاں عازم عراق ہو کر بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تدریس کے فرائض ادا کرتے رہے۔ آخر کار ۴۵۵ھ میں وفات پائی آپ بڑے شیریں مقال اور فصیح و بلیغ تھے۔ مناظرات و مجالس میں احادیث نبویہ بڑی کثرت سے بیان کیا کرتے تھے۔
(وفیات الاعیان، ج ۱- ص ۵۸۷)

تعارف تفسیر:

شافعیہ کے نزدیک یہ کتاب فقہی تفسیر کی نہایت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ مؤلف شافعی مسلک ہے جس طرح جصاص حنفی فقہ کی حمایت و طرف داری میں معروف ہے اسی طرح مؤلف ہر جگہ شافعی فقہ کی تائید کرتا ہے۔ آیات الاحکام کی تفسیر فقہ شافعی کے قواعد کی روشنی میں کرتا ہے اور اس کی امکانی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آیت کی تاویل اس انداز میں کرے کہ مخالف اس سے استدلال نہ کر سکے۔ مؤلف نے کتاب خدا کے مقدمہ میں کھل کر فقہ شافعی کی مدح و توصیف کی ہے۔

مؤلف لکھتے ہیں :

”امام شافعی کا مسلک حق و صواب اور راست روی پر مبنی ہے۔ ان کے اکثر افکار و نظریات ملق و تخمین کے بجائے حق و یقین کے آئینہ دار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام شافعی نے اپنی فقہ کی اساس کتاب اللہ پر رکھی ہے جس کے پاس باطل کا گزرنہ آگے سے ممکن ہے نہ پیچھے سے۔ امام شافعی قرآن کریم کے سمندر میں غواصی کر کے اس کے معانی و مطالب کے موتی نکالتے تھے۔ خداوند کریم نے ان پر قرآن کے دروازے کھول

دیے تھے اور اس کے جہا بات کو ڈر کر دیا تھا۔ جب کہ دوسروں کے حصہ میں یہ چیز

نیں آئی تھی ۶ (احکام القرآن - ص ۲)

ہم امام شافعی کی قدر و منزلت کو گھٹانا نہیں چاہتے۔ البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ کتاب کے مقدمہ میں ایسی باتیں لکھنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مولف اپنے مسلک کی حمایت میں تعصب سے کام لیتا ہے۔ کتاب زیر تبصرہ کا تفصیلی جائزہ لینے سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔

ائمہ کا ادب و احترام :

تاہم یہ حقیقت ہے کہ مولف کے قلم میں وہ حدت و شدت نہیں پائی جاتی جو جصاص کا طرہ امتیاز ہے۔ اسی گھڑی اثر وہ دیگر مسالک کے فقہاء و ائمہ کا نام پر سے ادب و احترام کے ساتھ لیتا ہے۔ جصاص نے محض تم کے کلمات امام شافعی کی شان میں کہے تھے۔ مولف کا قلم اس سے آلودہ نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جصاص کے بارے میں سخت کلمات کہے ہیں۔ اور وہ بھی اس موقع پر جہاں اس نے جصاص کے امام شافعی پر وارد کردہ اعتراضات کا ابطال کیا ہے۔ چنانچہ مولف نے ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اور انا شافعی کے موقف کو زبردست دلائل و براہین کی روشنی میں ثابت کرنے کی سعی کی ہے۔ اس لیے یہ کہنا بجا ہے کہ مولف نے جصاص سے امام شافعی کا انتقام لیا ہے۔ اسی ضمن میں بعض جگہ جصاص کا مذاق اڑایا اور اس کے حق میں سخت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ مگر سہ

خود کردہ را چارہ چہیست۔

چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

فشرآن عزیز میں فرمایا :-

تمہاری بایں تم پر حرام قرار دی گئیں۔

خَوَمَتَّ عَلَیْكُمْ اَمْهَمَّكُمْ۔

اس آیت سے جصاص نے امام ابو حنیفہ کے موقف پر استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے تو زانی پر اس عورت کی ماں اور لڑکی حرام ہو جاتی ہیں۔ مولف اس کی تردید کرتے

ہوئے جصاص کے بارے میں لکھتا ہے :

”جصاص نے امام شافعی کی بات ہی نہیں سمجھی اور نہ عبارت کے موقع و محل میں فرق و امتیاز کر سکا۔ ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے اور ہم قرآن کے لیے مردان کار کی ضرورت ہے۔
مگر جصاص اُن کے زمرہ میں شامل نہیں ہے“ (ص ۲۱۳)

مولف ایک دوسری جگہ لکھتا ہے :

”جصاص نے امام شافعی اور ایک طالب حق کے مناظرہ کا ذکر کر کے اس پر اظہارِ حیرت و استعجاب کیا۔ اور جناب امام کے موقف کی کمزوری سے آگاہ کیا ہے۔ جصاص کی کم عقلی اور جہالت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ دراصل جصاص نے امام شافعی کی بات ہی نہیں سمجھی اور یوں آپ کو اعتراضات کی آماجگاہ بنا دیا۔“

کسی نے سچ کہا ہے یہ

وَكَمْ مِنْ عَابِدٍ قَوْلًا صَیْحًا

وَاقْتَدًا مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ

(بہت سے لوگ صحیح بات میں بھی کیڑے نکالنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ

ان کا اپنا فہم ناقص ہوتا ہے)

اس تفسیر میں صرف آیات الاحکام سے تعرض کیا گیا ہے اور کتاب قرآن کریم کی تمام سورتوں کو سونٹے ہوئے ہے۔ تفسیر زیر تبصرہ ایک ضخیم جلد پر مشتمل ہے اور اس کا ایک قلمی نسخہ الاذھر لائبریری میں موجود ہے۔

۳۔ احکام القرآن از ابن العربی مالکی

ترجمہ مؤلف:

اسم گرامی ابو بکر محمد بن عبداللہ اور نسبت معارفی اندلسی اشبیلی ہے۔ آپ ایک عظیم امام علامہ اور فاضل متبحر تھے۔ آپ انڈس کے ائمہ و حفاظ کی آخری کڑی تھے۔ آپ کے بعد وہاں اس درجہ کا عالم پیدا نہیں ہوا۔

ابن العربی ۳۶۸ھ میں پیدا ہوئے۔ اپنے شہر ہی میں طلب علم کا آغاز کیا۔ پھر مصر، شام، بغداد، مکہ اور دیگر اسلامی بلاد و دیار میں گھوم پھر کر اپنی علمی پیاس بجھائی۔ حتیٰ کہ تفسیر و حدیث، فقہ و اصول، مادب و شعر اور علم الکلام میں یگانہ روزگار فاضل قرار پائے۔ آخر عالم فاضل بن کر اپنے شہر لوٹے۔ جن لوگوں نے بھی طلب علم کے سلسلہ میں مشرق کا رخ کیا تھا ان میں کوئی بھی آپ کے مرتبہ کو نہ پہنچ سکا۔

مہارتِ علوم و فنون کے پہلو بہ پہلو آپ بڑے ذہین و فطین اور نقاد تھے۔ نہایت منسار و خلیق، متواضع اور حلیم و بردبار تھے جس کے ساتھ محبت کے مراسم استوار کیے، تا زندگی ان کو نبھایا۔ اپنے شہر میں مقیم رہ کر درس قرآن و حدیث دیتے رہے۔ قاضی عیاض مالکی جو ان کے شاگرد تھے فرماتے ہیں کہ جب اسانا و محترم کو منصب قضا تفویض ہوا تو آپ نے اس کے فرائض بطریق احسن ادا کیے۔ ظالم آپ کا نام سن کر لرز جاتے تھے اور کسی کو حکم عدولی کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ بعد ازاں آپ نے یہ منصب ترک کر کے اپنے آپ کو علم دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔

تصانیف:

آپ نے متعدد گراں قدر کتب تالیف کیں جن میں سے مندرجہ ذیل اہم ہیں۔

۱۔ احکام القرآن (ترجمہ)

۲۔ کتاب المسائل فی شرح موطا مالک

(۳) القیس علی شرح موطا مالک بن انس۔

(۴) عارضۃ الاحمدی علی کتاب الترمذی۔

(۵) العواصم والقواصم۔

(۶) المحصول فی اصول الفقہ۔

(۷) کتاب النسخ والمنسوخ۔

(۸) تخلص التخصیص۔

(۹) کتاب القانون فی تفسیر القرآن العزیز۔

(۱۰) کتاب انوار الفجر فی تفسیر القرآن۔

مؤخر الذکر کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے پیش برس میں تحریر کی تھی۔ یہ اسی ہزار ادراق پر مشتمل ہے۔ بعض علماء کا بیان ہے کہ اصول نے یہ کتاب ملاحظہ کی اور اس کے ادراق شمار کیے تو واقعی اسی ہزار تھے۔

خلاصہ یہ کہ ابن العربی نے تصانیف کثیرہ و مفیدہ درنثر میں چھوڑیں۔ آپ نے ۵۴۳ھ میں جب کہ آپ سرکاش سے واپس آرہے تھے راستہ میں ذفات پائی۔ ان کی بخش کو فاس کے شہر میں لاکر دفن کیا گیا۔

(الریاج المذہب فی معرفۃ اعیان علماء المذہب۔ ص ۲۸۱)

انداز تفسیر :

یوں تو یہ تفسیر قرآن کریم کی تمام سورتوں پر مشتمل ہے مگر اس میں صرف آیات الاحکام کی شرح و تفسیر کی گئی ہے۔ مولف کا انداز یہ ہے کہ وہ کسی سورت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اس میں اس قدر آیات الاحکام ہیں۔ پھر وہ ان میں سے ایک ایک آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ ان کا انداز ذکر و بیان عموماً یہ ہوتا ہے کہ ”اس آیت میں پانچ مسائل ہیں اور دوسری آیت میں سات مسائل ہیں“ حتیٰ کہ سورت میں جس قدر بھی آیات الاحکام ہوتی ہیں ان سب کی توضیح کرتے ہیں۔

ابن العربی کا انصاف و اعتدال :

اس میں شبہ نہیں کہ یہ کتاب مالکیہ کے نزدیک فقہی تفسیر کا ایک اہم مرجع سمجھی جاتی ہے اسکی

وجہ یہ ہے کہ وہ ہمدان کی مسلک تھے۔ اس لیے فطری بات تھی کہ وہ مالکی فقہ کا دفاع کرتے اور امکانی
 حنبلیہ اس کی تائید و حمایت میں سرگرم رہتے۔ اسی کے پیش نظر کتاب میں بعض اوقات تعصب
 کی بدولت جھگڑتی لفظ آتی ہے۔ اگرچہ وہ تعصب اس حد تک پہنچا ہوا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مالکی تفسیر غلطی
 کا ارتکاب کرے تو موقف اس کے ختم پر مبنی کرے۔ اور اس پر تنقید کرنے سے احتراز برتتے اور
 ایسا بھی نہیں کہ موقف مالکی فقہ کی طرف داری کرتے ہوئے مخالف کی محقول بات کو بھی ردی کی ٹوکری
 کی نذر کر دے۔

اس کتاب کی مدق گردانی سے ظاہر ہے انصاف کی روح جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور
 گاہے موقف پر تعصب کا سایہ اس حد تک دراز ہو جاتا ہے کہ وہ مخالف کو ————— گراں قدر
 نام بھی کیوں نہ ہو۔ درشت و نازبا الفاظ سے یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یوں کھلتی
 دیتا ہے کہ موقف آزاد مقررہ نظر کے باوجود کسی حد تک تعصب سے منسوب تھے۔ یہ اسی کا
 نتیجہ ہے کہ گاہے عقل تعصب پر غالب آجاتی اور آپ ایک مضامین فیصلہ صادر کرتے جس میں تعصب
 کا کوئی عنصر شامل نہ ہوتا اس کے برخلاف اکثر و بیشتر تعصب عقل پر قابو پالیتا۔ اور آپ جادہ
 عدل و انصاف سے ہٹ جاتے۔

موقف کی اعتدال پسندی ملاحظہ فرمائیں :-

مشرکین حکیم میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
 (المائدہ - ۷)

اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے
 کھڑے ہو۔

اس آیت کی تفسیر میں موقف لکھتا ہے:

”علامہ سرکے صبح کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ اس ضمن میں ان کے گیارہ
 اقوال ہیں۔ پھر چنانچہ ایک ایک کر کے ان اقوال پر روشنی ڈالی۔ پھر بیان کیا ہے کہ
 ان میں سے ہر قول کی اساس کتاب و سنت پر رکھی گئی ہے۔ آخر چل کر فرماتے ہیں
 کہ جو شخص بھی ان اقوال کو دیکھتا ہے اس سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہتی کہ ہمارے
 علماء و بیہوشیت مجموعی کتاب و سنت سے باہر نہیں گئے۔ مزید برآں انہوں نے افرط و

تفریط کا ارتکاب بھی نہیں کیا ۛ (احکام القرآن، ج ۱، ص ۲۳۵)
مندرجہ صدر بیان سے مولف کی بے تعصبی اور اعتدال پسندی واضح ہوتی ہے۔ ابن العربی
اس آیت کی تفسیر میں مزید لکھتے ہیں :

”علائے مالک نے اس آیت میں استدلال کیا ہے۔ کہ نماز کی ادائیگی کے لیے ازالہ
نجاست ضروری نہیں۔ اس لیے کہ استنجا کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر نجاست کا ازالہ
واجب ہوتا تو وضو سے پہلے اس کا ذکر کیا جاتا۔ چنانچہ اشعب نے امام مالک سے
یہ روایت کیا ہے۔ مگر آیت کریمہ میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ آیت میں وضو
وضو کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ نماز کے اور بھی شرائط ہیں جو یہاں مذکور نہیں۔ مثلاً
قبلہ رخ ہونا۔ پردہ پوشی۔ ازالہ نجاست۔ یہ شرائط اپنے موقع و محل پر بیان کیے
گئے ہیں۔ یہاں ان کا تذکرہ ضروری نہ تھا ۛ

(احکام القرآن، ج ۱، ص ۲۴۰)

اس سے معلوم ہوا کہ مولف نے اشعب کی روایت کو جو امام مالک سے منقول ہے قبول
نہیں کیا۔ مذکورہ صدر آیت کریمہ میں بھی ایسی کوئی دلیل نہیں پائی اس سے مولف کی انصاف پسندی
کھل کر سامنے آتی ہے۔

اب ابن العربی کے تعصب کی ایک جھلک ملاحظہ ہو :

ابن العربی اپنی کتاب کے اکثر مقامات پر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ظواہر نصوص کو نظر انداز
کر کے قیاس کی پیروی کیا کرتے تھے۔ (احکام، ج ۱، ص ۱۷۶)

ایک جگہ لکھتے ہیں :

”امام ابو حنیفہؒ کو ذمہ سکنت پذیر تھے جو حدیث کی ٹکسال تھا۔ اسی لیے آپ کی
اکثر روایات میں تدلیس کا عیب پایا جاتا ہے۔ اگر آپ امام مالک کی طرح حدیث کی
کان (مدینہ طیبہ) میں برد و باش رکھتے ہوتے تو آپ سے امام مالک کی طرح جواہر
ریزے صادر ہوتے ۛ (احکام، ج ۱، ص ۲۱۸)

ایک جگہ لیں لکھا ہے :

مقرآن کریم میں معًا غُضُّوا کے الفاظ ہیں۔ امام شافعی جن کو ان کے مقلدین نصا و
 بلاغت میں عدیم الشیخ سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غسل کے معنی کسی عضو پر پانی اندر لینے
 کے ہیں لہذا اس میں شامل نہیں۔ ہم اس کا بطلان قبل ازیں واضح کر چکے ہیں۔ ہم نے
 دلائل کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ غسل کے معنی عضو پر پانی ڈالنے اور ہاتھ سے
 لٹنے کے ہیں“ (احکام القرآن، ج ۱- ص ۲۳۲)

مذکورہ بالا ائمہ سے واضح ہوتا ہے کہ ابن العربی دیگر ائمہ اور ان کے اتباع کے بارے میں
 نرم لہجہ اختیار کرنے کے عادی نہ تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ گروہی تعصب کی ایک واضح علامت ہے۔ یہ تعصب
 ہی ہے جو انسان کو ایسے نازیبا کلمات کے استعمال کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔

اسرائیلیات اور احادیث ضعیفہ سے شدید نفرت :

ابن العربی اسرائیلی روایات کو پسند نہیں کرتے تھے۔

مقرآن کریم میں فرمایا :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبُّوا بَعْضَ
 الَّذِينَ تَعَالَى تَمِينَ أَيْ كَانُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(البقرہ: ۶۷-۶۸) دیتا ہے۔

ابن العربی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”علماء اسرائیلی روایات بکثرت بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”بنی اسرائیل سے سن کر روایت کیجیے اس میں کچھ مضائقہ نہیں“ اس حدیث کے معنی یہ ہیں
 کہ بنی اسرائیل جو اپنے واقعات بیان کریں ان پر اعتماد کیجیے۔ اس کے معنی ہرگز نہیں
 کہ جو کچھ وہ دوسروں کے بارے میں بتائیں اس پر بھی بھروسہ کیا جائے۔ اس لیے
 کہ دوسروں کے بارے میں وہ جو کچھ کہیں گے اس کے ثابت کرنے کے لیے دلیل و برہان
 کی ضرورت ہے۔ البتہ اپنے بارے میں جو کچھ کہیں گے وہ اسی طرح لائق اعتماد ہوگا،
 جیسے کوئی شخص بذات خود کسی بات کا اعتراف کرے۔ اس لیے کہ اس بات کا اسے بخوبی
 علم ہے۔ امام مالک حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 میرے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی تو دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی تو رات

کا ایک جزو ہے حضورؐ ناراض ہوئے اور فرمایا خدا کی قسم اگر حضرت موسیٰ آج زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا انہیں کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔“

(احکام، ج ۱- ص ۱۱)

ابن العربی احادیث ضعیفہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور ان سے احتراز کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک ضعیف حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو اس مضمون پر مشتمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت اپنے اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھویا اور فرمایا کہ اس وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتے۔ پھر آپ نے دو دو مرتبہ اعضاء دھوئے اور فرمایا کہ جو شخص وضو کرتے وقت اپنے اعضاء کو دو دفعہ دھوئے گا اللہ تعالیٰ اسے دو گنا اجر ثواب عطا کریں گے۔ پھر تین تین مرتبہ اعضاء دھوئے اور فرمایا یہ میرے وضو کرنے کا طریقہ ہے اور انبیائے سابقین اور میرے باپ ابراہیم کا طریقہ۔ اس حدیث کا ضعف واضح کرنے کے بعد ابن العربی نے اپنے اصحاب و تلامذہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ”میں نے ہر مجلس میں اور ہر لمحہ تمہیں اس بات کی نصیحت کی ہے کہ احادیث ضعیفہ سے وابستگی چھوڑ دیجیے۔“

(احکام القرآن، ج ۱- ص ۲۴۱)

یہ کتاب دو جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اور اہل علم کے مابین معروف و متداول ہے۔

۴۔ الجامع لاحکام القرآن

ابو عبد اللہ قرطبی، مالکی !

ترجمہ مؤلف :

اسم گرامی ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری خزرجی اندلسی قرطبی ہے۔ آپ بڑے عالم فاضل اور عابد شب زندہ دار تھے۔ ہر وقت عبادت و ذکر میں مشغول رہتے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ معمولی لباس زیب تن کرتے۔ تمام اوقات عبادت توجہ الی اللہ اور تعہیف میں بسر کرتے۔ آپ نے نہایت گراں بہا تصانیف کا ذخیرہ دوزخ میں پھونکا ہے۔ جن میں سے اہم مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) الجامع لاحکام القرآن۔ (زیر تبصرہ)

(۲) شرح اسماء اللہ الحسنیٰ۔

(۳) کتاب التذکار فی افضل الاذکار۔

(۴) التذکرۃ بامور الآخرة۔

(۵) کتاب شرح التفتیٰ۔

(۶) قمع الحرص بالزهد والقناعة۔

و دیگر کتب مفیدہ۔

آپ نے شیخ ابو العباس بن عمر قرطبی مؤلف ”المفہم فی شرح صحیح مسلم“ سے اس شرح کا کچھ حصہ سنا۔ مشہور محدث ابو علی حسن بن محمد البکری اور دیگر علماء سے حدیث کا درس لیا۔ آپ نے ماہ شوال ۳۶۱ھ میں وفات پائی۔

(الذیباہ الذہب فی معرفۃ اعیان علماء الذہب۔ ص ۳۱۷)

تعارف تفسیر :

اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف اس میں اسباب نزول، اقسام قرأت اور احوال سے تعریف کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن عزیز کے غریب الفاظ پر بھی روشنی ڈالتے

ہیں۔ اکثر و بیشتر لغت کی جانب رجوع کرتے اور عربی اشعار سے استشہاد کرتے ہیں۔ مزلف کا خیال اندازہ ہے کہ وہ معتزلہ قدیمہ شیعہ فلاسفہ اور غالی صوفیہ کی تردید کا کوئی اور قہر ہاتھ سے نہیں جمانے دیتے۔ نا اور اسرائیلی واقعات کا تذکرہ وہ شانہ نادر میں کرتے ہیں۔

مزلف علمائے سلف کے تفسیری اقوال نقل کر کے قائل کا نام ذکر کرتے ہیں۔ بعض جگہ ان کے اقوال پر تنقید و تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ خصوصاً ابن جریر طبری ابن عطیہ ابن العزری الکیا الطرسی اور ابو بکر جصاص کے بجزت اقوال نقل کرتے ہیں۔ قرآنی آیات جن میں احکام پر مشتمل ہوتی ہیں مزلف ان سے تھوڑا یا زیادہ نقل رکھنے والے احکام اور ان کے دلائل و براہین کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہیں۔

قرطبی کی بے تعصبی!

قرطبی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مالکی مسلک سے وابستہ ہونے کے باوجود گروہی تعصب سے پاک تھے وہ دلیل و برہان کی پیروی کرتے ہیں قطع نظر اس سے کہ اس کا قائل کون ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

قرآن کریم میں فرمایا۔

دَآئِبِیْمُوا الْقَمْلُوۡۃَ وَاَکُوۡۃَ الشَّکُوۡۃِ
وَاَسْکَعُوۡۃَ مَعَ الشَّرَآکِیۡنِ۔
(نماز قائم کری اور زکوٰۃ دیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں)

(البقرہ - ۴۳)

امامتِ صغیر:

مزلف نے اس آیت کی تفسیر میں نابالغ کی امامت کے جواز عدم جواز کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے مانعین و مجوزین کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ مانعین میں امام مالک سفیان ثوری اور اصحاب الازہی شامل ہیں۔ مگر مزلف نے دلیل و برہان کی روشنی میں اپنے امام (مالک رحمہ اللہ) کی مخالفت کی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”نابالغ کی امامت درست ہے بشرطیکہ وہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہو۔ صحیح بخاری میں حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرا خائفان پانی کے ایک

چتر کے خرب سکونت رکھتا تھا۔ عام لوگ وہاں سے گزرتے تھے اور ہم اُن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتے رہتے تھے۔ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ پر فلاں فلاں وحی نازل ہوئی ہے۔ میں اس کو ازبر کر لیا کرتا تھا۔ عرب کے عام لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر نبوت کا یہ مدعی اپنی قوم پر غالب آ گیا تو وہ سچا نبی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں عجلت سے کام لیا۔ چنانچہ مہارمی قوم میں سے میرا والد باقی لوگوں سے پہلے مشرف باسلام ہوا۔ جب واپس آیا تو کہنے لگا میں سچے نبی کے یہاں سے آیا ہوں۔ آپ نے نمازوں کے اوقات بتائے اور فرمایا جب نماز کا وقت ہو تو ایک شخص اذان کہے جو شخص سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہو اور وہ امامت کے فرائض انجام دے جب تلاش کی گئی تو مجھ سے بڑھ کر قرآن کا جاننے والا اور کوئی نہ مل سکا۔ اس لیے کہ میں آنے جانے والوں سے سُن کر قرآن یاد کر لیا کرتا تھا۔ میری عمر چھ یا سات برس کی تھی۔ انہوں نے مجھے امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ میں ایک ہی چادر اوڑھے ہوئے تھا جب سجدہ کرنے لگتا تو چادر سمٹ جاتی اور میں ننگا ہو جاتا۔ قبیلہ کی ایک عورت نے کہا امام کی ستر پوشی کا تو اہتمام کیجیے۔ چنانچہ قبیلہ والوں نے میرے لیے ایک قمیص بنا دی۔ قمیص کو دیکھ کر میں جس قدر خوش ہوا کبھی نہ ہوا تھا،

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۳۵۳)

قرآن کریم میں فرمایا:

شَهْرًا مَّصَابِنَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - (البقرہ - ۱۵۸)

(رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا)

عید الفطر کی قضا:

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولعت نے اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ذکر کیا ہے کہ آیا عید الفطر کی نماز دوسرے دن ادا کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ ابن عبد البر نے امام مالک اور

ان کے اصحاب سے نقل کیا ہے کہ عید کی نماز صرف عید ہی کے دن ادا کی جاسکتی ہے دوسرے کسی دن نہیں۔ اگر عید کی نماز اصلی وقت گزر جانے کے بعد بھی ادا کی جاسکتی تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ فرائض کی طرح ہو جاتی۔ حلال کہ اس بات پر علماء کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ سنتوں کی قضا نہیں دی جاتی۔ ظاہر ہے کہ عید الفطر کی نماز بھی سنت ہے لہذا اس کی قضا بھی درست نہیں۔

قرطبی ابن عبدالبر کے مندرجہ صدر نظر پر تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
 ”میری رائے میں دوسرے روز عید کی نماز ادا کرنا جائز و درست اور حدیث نبوی کے بالکل مطابق ہے۔ اگرچہ عموماً سنتوں کی قضا نہیں دی جاتی تاہم شارع ان میں سے بعض سنتوں کو مستثنیٰ کر کے ان کی قضا کا حکم دے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل ترمذی کی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ وہ یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر کی دو سنتیں پڑھی ہوں وہ طلوع آفتاب کے بعد ان کو ادا کر لے۔ علمائے مالکیہ نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ جس شخص نے وقت کی تنگی کے پیش نظر نماز فجر کی دو سنتیں ادا نہ کی ہوں تو وہ طلوع آفتاب کے بعد ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔

اگر پہلی بات کو درست مان کر اسے طلوع آفتاب کے بعد سنتیں ادا کرنے کی اجازت دی جائے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ آیا وہ سنتوں کی قضا سے رہا ہے؟ یا اس لیے کہ دو رکعتیں ادا کرنے سے اسے فجر کی سنتوں کا اجر دلواب ... مل جائے گا۔ شیخ البرکہ کہتے ہیں کہ مالکی فقہ کی اصل داساس پر اس کی اجازت ہے قرطبی کہتے ہیں کہ میری رائے میں اسی قاعدہ کے پیش نظر عید کی نماز دوسرے روز پڑھی جاسکتی ہے۔ عید کی نماز دوسرے روز ادا کرنے کی اجازت اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ یہ سال بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ اس کی دلیل سنن نسائی کی وہ روایت بھی ہے جس میں آیا ہے کہ چند لوگوں نے عید کا چاند دیکھا اور

بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کی اطلاع دی۔ اس وقت دن کافی پڑھ چکا تھا
 آپ نے ان کو روزہ کھول دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگلے روز عید کے لیے
 نکلیں۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۰۴)

خلاصہ کلام قرطبی سویت فکر و نظر سے منصف ہیں اور ان کے نقد و جرح میں پندل
 حدت و شدت نہیں پائی جاتی۔ قرآن کریم کے کسی تفسیری پہلو سے صرف نظر نہیں کرتے جس
 موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اس سے ان کی جامعیت اور کثرتِ علم و فضل کا اندازہ ہوتا ہے۔
 یہ تفسیر چھپ چکی ہے اور اہل علم میں معروف و متداول ہے۔

۵۔ کنز العرفان فی فقہ القرآن

از مقداد السیوری (شیعہ عالم)

ترجمہ مولف :

مولف کا نام مقداد بن عبد اللہ السیوری ہے۔ یہ امامیہ اثنا عشریہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور علمائے محققین کے زمرہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ یہ عظیم مصنف تھے۔ تفسیر زبیر تبصرہ کے علاوہ آپ نے التفتیح الرابع فی شرح مختصر الشرائع نیز شرح مبادی الاصول اور دیگر کتب تالیف کیں۔ یہ آٹھویں صدی ہجری کے ادراخ اور نویں صدی ہجری کے آغاز میں بقید حیات تھے۔

تعارف تفسیر :

یہ تفسیر صرف آیات الاحکام پر مشتمل ہے۔ اس میں قرآنی سُوَر و آیات کی تفسیر ان کی ترتیب کے اعتبار سے نہیں کی گئی۔ اور نہ ہی اس بات کا التزام کیا گیا ہے کہ کسی سورت میں جس قدر آیات الاحکام ہیں ان سب کی تعریف کی جائے جیسا کہ جصاص اور ابن العربی نے کیا ہے۔ بخلاف ازیں مولف فقہی انداز پر ایک باب باندھتا ہے۔ مثلاً باب الطہارۃ اور اس ضمن میں جس قدر قرآنی آیات وارد ہوئی ہیں ان سب کو یک جا کر دیتا ہے۔ پھر ہر آیت میں بیان کردہ احکام کی توضیح اثنا عشری فقہ کی روشنی میں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر فقہی مسالک کا تذکرہ بھی کرتا جاتا ہے جس شخص کا مسلک شیعہ کے خلاف ہوتا ہے مولف اس کی تردید کرتا ہے۔

مولف نے شیعہ مذہب کی نفرت و حمایت اور مخالفین کی تردید کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس کے لیے اُس نے دو طریقے اختیار کیے ہیں جن کو وہ شاذ و نادر ہی نظر انداز کرتا ہے۔

(۱) عقلی دلائل۔

(۲) یہ دعویٰ کہ اہل بیت بھی اسی کے قائل ہیں۔

جہاں تک عقلی دلائل و براہین کا تعلق ہے وہ شیعہ موقف کے اثبات میں بہت کم مولف کا ساتھ

دیتے ہیں۔ باقی رہا اہل بیت کا موقف و مسلک تو وہ اکثر و بیشتر درو رخ بے فروغ پر مبنی ہوتا ہے،
شیعہ لوگوں کو جب کوئی دلیل نہ مل رہی ہو تو وہ اہل بیت کا سامنا لینے پڑھو رہا ہوتا ہے۔
اب ذرا تفسیر کا نمونہ ملاحظہ فرمائیں :

شہ آں کریم میں فرمایا :

وَأَنَّ كُنْتُمْ مَهْرَضِي أَوْ عَلِيٍّ مَهْرَضِي أَوْ
جَلَاءَ أَحَدٍ مَقْتَلِكُمْ مِنَ الْعَايِلِ - (نار، ص ۴۳)
اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت کر کے آیا ہو۔

ترجمہ اس کی تفسیر میں لکھتا ہے :

”اس آیت میں تیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ اگر تیم کریمو الا
چہرہ ہاتھ مارا کر اپنے جسم کو مل لے تو درست ہے۔ اس لیے کہ مَصْعِدًا طَيِّبًا سے
زمین کی سطح مراد ہے۔ حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ شافعیہ کا قول یہ ہے کہ مٹی کا ہاتھ
کے ساتھ گنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ آیت میں فَا مَسْحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيكُمْ
مِنْهُ۔ (د اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو ملو) کے الفاظ ہیں۔ مگر شافعیہ کا یہ
قول درست نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ”مِنْهُ“ میں مِنْ کا لفظ ابتدائیہ ہو۔ بنا بریں
چہرہ سے اس آیت میں چہرے کا کچھ حصہ مقصود ہے۔ ہمارے اکثر اصحاب کے
 نزدیک اس سے پیشانی مراد ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ ”وِجُوْهِكُمْ“ میں باد
تبعیض کے لیے ہے۔ اس لیے پورا چہرہ نہیں بلکہ چہرے کا کچھ حصہ مراد ہے۔ دوسری
دلیل یہ ہے کہ اہل بیت نے بھی اس سے چہرے کا کچھ حصہ مراد لیا ہے۔ اسی طرح
ہاتھوں سے بھی پورا ہاتھ مراد نہیں بلکہ کلائی سے لے کر انگلیوں کے کناروں تک
مقصود ہے“

(کنز العرفان، ص ۸)

سورۃ المائدہ میں آیت تیم کی تفسیر کرتے ہوئے موقوف رقم طراز ہے :

حار و دھوکے بجائے تیم کرنا ہو تو ایک ہی دفعہ ہاتھوں کو زمین پر مارنا چاہیے اور اگر نفل
کی جگہ تیم کیا جا رہا ہو تو پھر دو مرتبہ پھر حنفیہ و شافعیہ کی تردید کرتا ہے جن کا موقف یہ
ہے کہ تیم کرتے وقت ہاتھ دو دفعہ زمین پر مارے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مارا

چہرہ پر لے جاتے ہیں اور دوسری مرتبہ ہاتھوں پر۔ مولف اس مسلک کے بھی تردید کرتا ہے کہ چہرے سے پورا چہرہ مراد ہے۔ اور ہاتھوں سے کمنیوں تک ہاتھ مراد ہیں۔ اس کے نزدیک چہرہ سے چہرے کا کچھ حصہ اور ہاتھوں سے کلانی تک ہاتھ مراد ہیں کمنیوں تک نہیں۔ مولف کہتا ہے کہ اہل بیت نے اس ضمن میں جو مسلک اختیار کیا ہے وہ حقیقہ شافیہ کے خلاف ہے۔“

(کتاب زیر تبصرہ۔ ص ۹)

غرض یہ کہ مولف قرآنی احکام کے ذکر و بیان میں اسی قسم کے تکلف و قسٹ سے کام لیتا ہے، کتاب کے مطالعہ سے بکثرت ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ یہ کتاب حسن عسکری کی تفسیر کے حاشیہ پر مصرعے شائع ہو چکی ہے۔

۶۔ الثمرات الیائعتہ از یوسف ثلاثی

ترجمہ مولف :

اسم گرامی شمس الدین یوسف بن احمد ثلاثی زیدی ہے۔ زیدیہ کے نزدیک یہ بہت بڑے محقق شمار کیے جاتے تھے۔ طلبہ دور دراز سے چل کر طلب علم کی خاطر ان کے یہاں حاضر فرماتے۔ جب قرأت کا آغاز کرتے تو جامع مسجد طلبہ سے بھر جاتی۔ اور کچھ لوگ مسجد سے باہر کھڑے ہو کر آپ سے درس لیا کرتے تھے۔ آپ نے حسن نحوی سے استفادہ کیا۔ آپ کی مشہور تھائیف حسب ذیل ہیں :

(۱) الثمرات الیائعتہ والاحکام الواضحة القاطنة۔ (زیر تبصرہ)

(۲) الزہود والریاض۔

آپ نے ماہ جمادی الآخرہ ۸۳۲ھ میں وفات پائی۔ (شرح الازہار، ج ۱ ص ۴۳)

تعارف تفسیر :

یہ تفسیر تین ضخیم مجلدات پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک کامل ظہری نسخہ دارالکتب المصریہ قاہرہ میں موجود ہے۔ المکتبہ الازہریہ میں صرف دوسری جلد موجود ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت ۴ **يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ** سے شروع ہو کر سورۃ النور کی آیت ۳۶ **مَنْ فِي بُيُوتٍ اِذَنَّ اللهُ** **اَنْ تَخْرُجَ** پر ختم ہو جاتی ہے۔

مولف ترتیب دار قرآن حکیم کی آیات الاحکام کی تفسیر کرتا ہے۔ پہلے کسی آیت کا سبب نزول بیان کرتا اور پھر ایک ایک کر کے اس میں بیان کردہ احکام پر تفصیلی روشنی ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ آیت جن احکام پر مشتمل ہوتی ہے وہ سب ذکر کرتا ہے۔

احادیث ضعیفہ کی بھرمار :

احادیث نبویہ کے نقل کرنے میں مولف نے صحت کا التزام نہیں رکھا۔ جب بھی کہیں حدیث ذکر کرتا ہے اس پر نقد و جرح کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ جس سے پتہ چل سکے کہ وہ حدیث ضعیف ہے یا

موضوع ہے۔

قرآن کریم کی آیت :

”إِنَّمَا أَوْلِيَاؤُكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا“ (المائدہ: ۵۵)

کا سبب نزول ذکر کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی نے حالت نماز میں اپنی انگوٹھی خیرات کر دی تھی۔ (الثورات، ج ۲ - ص ۵۸)

حالا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ روایت بے اصل اور موضوع ہے۔ مگر مولف اس جھوٹے واقعہ کو ذکر کر کے اس سے شرعی احکام اخذ کرتا ہے۔ گویا اس کے نزدیک یہ کوئی ثابت شدہ صحیح حدیث ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولف زعفرانی کی کشف سے بے حد متاثر ہے۔ وہ جگہ جگہ کشفان سے اقتباسات نقل کرتا ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معتزلی نظریات سے مرعوب و متاثر ہے اور اس اعتبار سے زعفرانی کا ہمنوا ہے۔

احکام القرآن سے متعلق مولف کا موقف :

قرآن عزیز میں مذکور احکام کے سلسلہ میں مولف کا اسلوب و انداز یہ ہے کہ وہ مثلہ زبیر بحت سے متعلق علمائے سلف و خلف اور صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار ذکر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حنفیہ شافعیہ مالکیہ حنبلیہ امامیہ اور دیگر فقہائے مذاہب کے انکار و نظریات اور ان کے دلائل براہین پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ زید یہ کا مسلک وہ خصوصی اہتمام کے ساتھ بیان کرتا۔ اور ان کے مخالفین کی تردید کرتا ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ کسی جگہ بھی اپنے مخالفین کا ذکر نازیبا الفاظ میں نہیں کرتا جیسا کہ عام لوگوں کا شیوہ ہے۔

خلاصہ یہ کہ کتاب زبیر تبصرہ کے تفصیلی مطالعہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مولف حد درجہ ذہین و فطین ہے اور وسیع فقہی معلومات رکھتا ہے۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امامیہ اثنا عشریہ کی دیگر کتب کی طرح اس میں باقی فقہی مسالک کی زیادہ مخالفت نہیں کی گئی غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ فرقہ زید یہ فقہ کے اصول و فروع میں شیعہ کی نسبت اہل سنت کے مسلک سے قریب تر ہے۔

فصل ہشتم علمی تفسیر

علمی تفسیر کا معنی و مفہوم:

قرآن کریم سے عصری علوم اور طیفیانہ افکار و آراء کا استنباط کرنے کو علمی تفسیر کہتے ہیں۔ اس انداز پر بھی قرآن عزیز کی تفسیر کی گئی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کتاب تمام جدید و قدیم علوم و فنون کی جامع ہے۔ اس طرز فکر کے حامل مفسرین کی نگاہ میں قرآن کریم علوم و فنون کا (اعتقاد ہوں یا علمی) کے پہلو بہ پہلو ہر قسم کے ذیوری علوم و فنون کو بھی سمونے ہوئے ہے۔

امام غزالی کا زاویہ نگاہ:

ہمارے علم کی حد تک امام غزالی اولین شخص تھے جس نے اس نقطہ نظر کو کھل کر بیان کیا اور اس کو علمی دلائل کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کی۔ پچنانچہ آپ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے باب چہارم میں بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ قرآن حکیم ۷۷۰۰ علوم پر مشتمل ہے۔ اس لیے کہ یہ اس کے کلمات کی تعداد ہے اور ہر کلمہ ایک علم کو سمونے ہوئے ہے۔ پھر یہ تعداد چار گنا بڑھ جائے گی کیوں کہ ہر کلمہ کا ایک ظاہر و باطن ہے اور ایک حد و مطلع۔ (احیاء ج ۳، ص ۳۵)۔ امام غزالی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن کریم میں غور و فکر کرے۔ پھر لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ذات باری تعالیٰ اور اس کے افعال و صفات پر روشنی ڈالی گئی ہے اور جلد علوم و فنون خداوندی افعال و صفات میں داخل ہیں۔ علوم بے شمار ہیں اور قرآن میں اشارہ سب کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو نظریات دقیق و عمیق اور عمیر لغہم ہیں۔ قرآن کریم میں اشارہ ان پر روشنی ڈالی گئی ہے مگر ذہین لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ (سوالہ مذکور)

امام غزالی نے احیاء کے بعد اپنی کتاب جواہر القرآن مرتب کی تھی اس میں اس کی مزید

تفصیل بیان کی۔ چنانچہ اس کتاب کے چوتھے باب میں آپ نے تفصیلاً بتایا کہ قرآن کریم سے دینی علوم کے سرچشمے کس طرح چھوٹتے ہیں۔ اس باب میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآنی علوم کی دو قسمیں ہیں۔

۱- ظاہری و سطحی علوم :- اس میں امام غزالی نے لغت، نحو، قرأت، حارج حروف اور نظامی تفسیر کے علم کو شامل کیا ہے۔

۲- اصلی و حقیقی علوم :- امام غزالی کے نزدیک اس میں علم الکلام، فقہ، اصول الفقہ، علم القصاص

علم ہائے اور علم الملوک وغیرہ علوم شمار کیے جاتے ہیں۔ (جواہر القرآن ص ۲۱)

جواہر القرآن کے باب پنجم میں امام غزالی بتاتے ہیں کہ قرآن کریم سے یہ علوم و فنون کیوں کر نکلے۔ چنانچہ اس ضمن میں آپ نے علم طب، نجوم، ہیئت، تشریح اعضاء، سحر، طلسمات اور دیگر علوم کا ذکر کیا ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ مذکورہ علوم کے علاوہ اور بھی بہت سے علوم و فنون ہیں جن کے جاننے والوں کی کمی نہیں اور ان کے ذکر کی ضرورت بھی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر میں اس بات کا دعوٰی بھی کر سکتا ہوں کہ بہت سے علوم ایسے بھی ہیں جو ابھی عالم وجود میں نہیں آئے۔ اگرچہ یہ مخفیقت کسی شک و شبہ سے بالا ہے کہ انسان لازماً ان علوم تک رسائی حاصل کرے گا۔ کچھ علوم ایسے بھی ہیں جو عالم وجود میں آئے اور صفحہ ہستی سے سرف غلطی کی طرح محو ہو گئے کہ آج پوری کائنات پر کوئی ان کے جاننے والا موجود نہیں۔ ایک قسم کے علوم و فنون وہ ہیں جن کا فہم و ادراک کسی فرد بشر کے لیے ممکن نہیں اور بعض ملائکہ مقربین ہی ان سے آگاہ و آشنائیں۔ اس میں شک نہیں کہ انسان جوں یا ملائکہ ان کے علم و ادراک کا دائرہ محدود ہے۔ غیر متناہی علم صرف ذاتِ خداوندی کا ہے اور بس! (جواہر القرآن ص ۲۱)

جلال الدین سیوطی کا موقف:

تفسیر علمی کے ضمن میں امام سیوطی نے بھی وہی موقف اختیار کیا ہے جو امام غزالی کا ہے چنانچہ آپ نے اپنی کتاب الاتقان کی نوع پنجم اور دوسری کتاب "الاکلیل فی استنباط التنزیل" میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے امام سیوطی نے آیات و احادیث اور اقوال و آثار نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم جملہ علوم و فنون کا جامع ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

مندان عزیز میں فرمایا!

مَا كَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
(الانعام - ۳۸)

(ہم نے کتاب (قرآن) میں کسی چیز کی کیا بات
نہیں چھوڑی)

نیز فرمایا:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ
شَيْءٍ (التہمل - ۸۹)

(اور ہم نے ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے آپ پر
اتاری ہے)

چند احادیث کا مختصر فرمایاں:

- ۱- سرور کائنات: جملہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے نکتے: پاپہوں گئے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ ان سے نکلنے کا کیا طریق ہے، فرمایا اللہ کی کتاب جس میں اولین و آخرین سب کی خبریں مرقوم ہیں اور تمہارے باہمی فیصلے بھی مندرج ہیں (الاتقان ج ۲ ص ۱۳۶)
 - ۲- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کو ہم میں کسی چیز کو نظر انداز کرنا چاہتے تو وہ قرآن میں فرہ اور لرالی کے دانہ اور مچھر کا ذکر نہ کرتے (الاکہین ۲، بحوالہ ابو اسحاق)
- اس ضمن میں چند آثار بھی منقول ہیں:

- ۱- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن کا دامن تقام لے اس میں اولین و آخرین سب کی خبریں ہیں۔ (الاتقان ج ۲ ص ۱۳۶)
 - ۲- ابوالحکم حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قرآن میں ہر چیز کا ذکر کر دیا گیا ہے مگر ہمارا علم اس کے فہم و ادراک سے قاصر ہے (الاکہین ص ۲)
- امام سیوطی نے یہ دلائل درج فرمائیں ذکر کرنے کے بعد بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے سورۃ المنافقین کی آیت **لَا تَنْفَعُكَ دِينُكَ وَلَا ذَرْبُكَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْمَوْتِ فَذَرْبُكَ** سے استنباط کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تیرہ بیس ہوگی اس لیے کہ قرآنی سورتوں میں اس سورۃ کا نمبر ۶۳ ہے۔ اس کے بعد سورۃ التغابن یہ بات ظاہر کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہجرت آیات کس قدر خصائے کی موجب ہے۔ (الاتقان ج ۲ ص ۱۳۶)

ابوالفضل المرسی و علمی تفسیر: امام سیوطی ذکر کرتے ہیں کہ ابوالفضل المرسی نے اپنی تفسیر

میں یہ تفصیل بیان قلمبند کیا ہے:

”قرآن عزیز نے ان تمام جدید و قدیم علوم کو سمویا ہے۔ کو صحیح معنی میں خداوند کریم ہی جانتا ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بجز ان علوم کے جو فرشتہ باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں۔ پھر رسول کریم سے یہ درنہ ان اکابر صحابہ مثلاً خلفائے اربعہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عباس کو ملا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے گی تو میں اسے کتاب الہی میں پالوں گا۔ پھر تابعین کرام علوم صحابہ کے وارث بنے۔

انگلے تاریخ یا دور میں بہت بہت ہر گئی۔ عزم کی تندی رخصت ہوئی اور اہل علم کمزور پڑ گئے۔ بس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرات صحابہ و تابعین جن علوم کے حامل تھے وہ ان کو اٹھانے سے قاصر رہے۔ چنانچہ انہوں نے قرآنی علوم کو مختلف انواع و اقسام میں بانٹ دیا اور ہر گروہ ایک خاص فن میں مہارت حاصل کرنے لگا۔ ایک گروہ نے اپنی زندگی کا مشن یہ قرار دیا کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ و کلمات کو ضبط کریں اس کے فہم و حروف سے آگاہ ہوں۔ اس کے کلمات، آیات اور سورتوں کو شمار کریں۔ اس کی منائے کا تعین کریں اور اس کے ساتھ نصیحت، موعظ اور اس کے سجدوں کی تعداد سے واقف ہوں۔ ان لوگوں کو قرآن کریم کے مطالب و معانی سے کچھ غرض نہ تھی۔ یہ لوگ قرآن کہتے۔

علمائے نحو نے قرآن کریم کو نحوی مسائل کی آماجگاہ قرار دے لیا اور وہ عرب و سنی اسما و افعال حروف عامہ اور افعال لازم و متعدی و دیگر نحوی مباحث میں اُلجھ کر رہ گئے۔ بعض مفسرین نے قرآن عزیز کے الفاظ سے بایں طور اعتناء کیا کہ فلاں لفظ کے ایک معنی ہیں، فلاں کے دو اور فلاں لفظ کشمیر المعانی ہے۔ پھر وہ ثابت کرنے لگے کہ فلاں لفظ اگرچہ کثیر المعانی ہے مگر اس کے فلاں معنی کو ترجیحی فوقیت حاصل ہے۔

علمائے اصول نے قرآن حکیم کے قطعی و حتمی دلائل و دہراہین سے تعرض کیا۔ مثلاً قرآن کریم کی آیت:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (الانبياء - ۲۲)

ہوتے قرآن میں بگاڑ پیدا ہوتا)

اور اس قسم کی دیگر آیات سے خداوند کریم کی وحدانیت اس کے وجود و بقا، اس کی قدرت و قدرت

اس کے علم اور تفسیر و تفسیر پر استدلال کیا۔ اس علم کا نام انہوں نے ”علم اصول الدین“ رکھا۔ ایک گروہ نے قرآن عزیز کے معانی و مطالب کو اپنی نظر و فکر کی جولا نگاہ ٹھہرایا۔ انہوں نے دیکھا کہ بعض آیات عوم کو چاہتی ہیں اور بعض خصوص کی متقاضی ہیں۔ اسی کے پیش نظر انہوں نے حقیقت و مجاز، عوم و خصوص، لفظ ظاہر و مجمل، حکم، مشابہ، امر و نہی اور نسخ و غیرہ کی اصطلاحات وضع کیں اس فن کا نام انہوں نے ”اصول الفقہ“، تجویز کیا۔

علماء کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جنہوں نے حلال و حرام کے مسائل و احکام پر اپنی نگاہ مرکوز رکھی اور اس کے اصول و فروع کی بنا ڈالی۔ اس علم کا نام انہوں نے ”الفقہ“ رکھا۔ ایک گروہ نے قرآن کریم میں بیان کردہ قصص و واقعات کی جانب توجہ دی۔ انہوں نے گزشتہ اقوام کے اخبار و آثار کو مرتب کیا اور اس علم کو ”تاریخ“ کے نام سے موسوم کیا۔

ایک گروہ ایسا بھی تھا جنہوں نے قرآنی حکم و امثال اور ایسے پر تاثیر و مراعات کی نشان دہی کی جن سے انسانی قلوب متحرک ہوں اور پہاڑ پارہ پارہ ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن حکیم کے وعد و وعید انداز و تفسیر موت و حیات، اثبات حشر و نشر، حساب و عقاب اور جنت و جہنم کے موضوعات کو زیر بحث لانے کی سعی کی۔ یہ لوگ خطباء اور دُرُوقاظ کہلائے۔

کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے قرآن کریم سے خوابوں کی تعبیر کا علم اتنا لیا کہ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جو موٹی اور لانگوسات گائے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح دو قیدیوں کے خواب کا واقعہ اور حضرت یوسف کا خواب میں آفتاب و ماہتاب اور تاروں کو سمجھ کر تے ہونے دیکھا۔ اس علم کا نام انہوں نے ”تعبیر رؤیا“ رکھا۔ چنانچہ وہ ہر خواب کی تعبیر قرآن کریم سے استناد کرتے اگر ایسا ممکن نہ ہوتا تو حدیث نبوی سے اخذ کرتے جو شارح کتاب النبی ہے۔ اگر ایسا بھی نہ ہو سکتا تو وہ حکم و امثال سے خواب کی تعبیر معلوم کرتے۔

قرآن کریم کی جو آیات تقسیم میراث سے متعلق ہیں ان سے علماء کی ایک جماعت نے علم فرائض وضع کیا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں نصف و ربع ثلث اور سدس وغیرہ کا ہر ذکر کیا گیا ہے اس سے انہوں نے فرائض کا حساب مسائل عدل اور وصایا کے احکام اخذ کیے۔ ایک جماعت ایسی بھی تھی جنہوں نے قرآن کریم میں مذکور متعلقات شب و روز، آفتاب و ماہتاب اور

ان کے بروج و منازل سے علم المیقات ایما دکیا۔ اُواباء و شعراء نے قرآن عزیز کی جزالت الفاظ، حُسنِ اطناب و ایجاز اور فصاحت و بلاغت سے متاثر ہو کر معانی و بدیع کے علوم ایما و کیے۔

اصحابِ حقیقت نے جب قرآن حکیم پر ناز و نگاہ ڈالی تو اس میں ان کو نفاذ و بقا، خوف و ہیئت اُنس و وحشت اور اس قسم کے دیگر مباحث و عنوانات ملے خلاصہ یہ کہ ملتِ اسلامیہ نے یہ فنون قرآن عزیز سے اخذ کیے۔ متقدمین کے بہت سے علوم بھی قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً طب و جہل، ہیبت و مہندسہ، جبر و مقابلہ، نجوم اور دیگر علوم۔ بقول امام سیوطی المرسی کا کلام یہاں ختم ہوا (الاکیل ص ۲-۵ نیز الاتقان ج ۲ ص ۱۲۴)

المرسی کا یہ طویل مقالہ نقل کرنے کے بعد امام سیوطی ابو بکر بن العربی کی کتاب قلائد التاویل کے حوالہ سے رقمطراز ہیں:

قرآن حکیم مستر ہزار چار سو چالیس علوم پر مشتمل ہے۔ یہ عدد قرآنی کلمات کو چار سے منہا دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے ہر کلمہ کی چار حالتیں ہیں۔ اس کا ایک ظاہر و باطن ہے اور ایک حد و مطلق۔ یہ اس حالت میں ہے جب کلمات قرآن کو انفرادی اعتبار سے بدول ترکیب کے دیکھا جائے۔ اگر کتاب کے باہمی اختلاط و ترکیب پر نگاہ ڈالی جائے تو ان کی تعداد حد و حساب سے باہر ہو جاتی ہے۔
(الاتقان ج ۲ ص ۱۳۸)

مندرجہ صدر بیان یہ تبصرہ کرتے ہوئے امام سیوطی کہتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ کتابِ خداوندی ہر چیز کی جامع ہے۔ کوئی علم اور مسئلہ ایسا نہیں جس کی اصل و اساس قرآن عزیز میں موجود نہ ہو۔ قرآن میں عجائب المخلوقات، اہل و زمین کی سلطنت اور عالم علوی و سفلی سے متعلق ہر چیز کی تفصیلات موجود ہیں ان کی شرح و تفصیل کے لیے کئی جلدیں درکار ہیں (الاتقان ج ۲ ص ۱۲۹)

مندرجہ بالا استقائن اس امر کی غمازی کرتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں مسلمانوں نے کس قدر کد و کاوش سے کام لیا اور ہمارے علمائے سلف نے کس طرح قرآن حکیم کو علوم و فنون کا منبع و ماخذ بنانے کی کوشش کی۔ اس میں قدیم و جدید سب علوم شامل ہیں۔ قرآن کریم کے سلسلہ میں کئی

تفسیری مساعی کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ اس تحریک کا آغاز عباسی خلافت میں ہوا اور تا ہنوز جاری ہے۔ شروع شروع میں اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم اور علوم جدیدہ کے بائین تطابق و توافق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ آگے چل کر امام غزالی ابن العربی المرسی سیوطی اور امام فخر الدین رازمی کے ذریعہ اس تحریک نے ایک مرکزی موضوع کی حیثیت حاصل کر لی۔

اگلے تاریخی ادوار میں مستقل طور پر ایسی تصانیف تحریر کی جانے لگیں جن کا مرکزی نقطہ قرآن حکیم سے مختلف علوم و فنون کا استنباط و استخراج تھا۔ متاخرین کے یہاں یہ موضوع خاصہ مقبول ہوا اور انہوں نے اس موضوع پر متعدد کتب تحریر کیں۔ بلکہ بعض تفسیریں بھی اس انداز پر مرتب ہوئیں۔ آگے چل کر سہاں ہم عصر حاضر کی تفاسیر پر تبصرہ کریں گے اس پر تفصیلی بحث کی جائے گی۔

علمی تفسیر سے انکار

علمی تفسیر کے طرز و انداز نے متقدمین کے یہاں رواج پایا اور مناخین کے عصر و عہد میں اس کو قبول عام کا شرف حاصل ہوا مگر علمائے سلف و خلف میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔

شاہلی کا تفسیر علمی سے انکار:

ہمارے علم کی جد تک متقدمین میں سے جس شخص نے سب سے پہلے اس نظریہ کے خلاف آواز اٹھائی وہ مشہور فقیہ اور اصولی ابراہیم بن موسیٰ شاہلی آندلسی متوفی ۹۰ھ تھے وہ اپنی کتاب المواقفات کے باب مقاصد الشارح میں لکھتے ہیں کہ عربوں کو چند علوم سے پسند تھی جس کا ذکر لوگوں نے لیا ہے۔ ان میں سے ہر لوگ دانشمند تھے وہ بڑے بااخلاق اور صفات حسنہ کے دلدادہ تھے۔ شریعت اسلامیہ نے ان کی اچھی باتوں کو بحال رکھ کر اس میں اضافہ کیا۔ اور باطل رسم درواج کو مٹا دیا۔ نافع انبیاء کی افادیت واضح کی اور ضرر رساں امور و اشیاء کی مذمت کی۔ عربوں کے علوم صحیحہ میں سے ایک علم نجوم بھی تھا جس کی بدولت وہ مشکلی و ذری میں رہنمائی حاصل کرتے اور اختلافِ ازمہ و فصول کا پتہ چلاتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیات میں کیا گیا ہے۔

عربوں کے علوم میں وہ علم بھی شامل ہے جس کی بنا پر عرب بارش کے آنے، مابدلوں کے پیدا ہونے اور ہواؤں کے آنے جانے کا پتہ چلا لیا کرتے تھے اور اس کا ذکر بھی قرآن عزیز کے اکثر مقامات پر ملتا ہے۔ عربوں کے علوم میں تاریخ اور گزشتہ اقوام دہم کے اخبار و آثار کا علم بھی شامل ہے۔ قرآن کریم اس کے بارے میں بھی خاموش نہیں رہا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ (درغیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعہ

(ال عمران - ۴۴) بتا رہے ہیں)

اسی زمرہ میں طب کا علم بھی آتا ہے۔ عربوں کا طب صرف ان کے ذاتی تجربات پر مبنی

تھا متقدمین کے وضع کردہ طبی قواعد کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ عربوں کے یہاں فصاحت و بلاغت کا بہت پر چاتھا۔ قرآن عزیز فصاحت و بلاغت کے اس معیار پر اترتا کہ عرب اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اس نے نوع انسانی کو تاقیامت یہ پہنچ دے رکھا ہے کہ:

قُلْ لِّیْنَ اِجْتَمَعَتْ الْاِنْسُ وَالْحِیْثُ
عَلٰی اَنْ یَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ - (الاسماء- ۸۸)

(فرمائیے کہ اگر جن و انس اس بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ قرآن جیسی کتاب لے آئیں تو وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔)

عربوں کے یہاں چند علوم ایسے بھی رائج تھے جو باطل ہیں اور ان کی کوئی اصل و اساس نہیں مثلاً قیافہ شناسی، زجر (جانور کو ایک جانب سے اڑتے دیکھ کر اس کو سعیا یا مغوس قرار دینا)، کمانت، نمل، نکریاں پھینکنا اور بدشگون لینا۔ یہ علوم چوں کہ باطل تھے اس لیے اسلام نے ان کو مٹا دیا۔ ان کے ذریعے غیبی امور و اشیاء کو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وحی و الہام لے کر تشریف لائے جس کی اساس حق و صداقت پر رکھی گئی ہے۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو نیک خواہوں کی صورت میں لوگوں کے لیے نبوت کا ایک حصہ باقی رہ گیا۔ علاوہ ازیں خواص کو الہام و فراست سے بھی نوازا گیا ہے۔ (المرافقات ج ۲ ص ۷۱)

علامہ مشاطہ بن زید فرماتے ہیں:

”بعض لوگوں نے حدود و اعتدال سے تجاوز کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم متعین و متاخرین کے جملہ علوم مثلاً طبیعیات، ہندسہ ریاضی اور منطق و فلسفہ وغیرہ پر مشتمل ہے۔ ہمارے سلفِ صالحین، صحابہ و تابعین قرآنی علوم و معارف کے سب سے بڑھ کر رازدان تھے۔ مگر ان میں سے کسی نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی یہ بات کہتا تو ہمارے علم میں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرے سے اس کے قائل ہی نہ تھے۔ البتہ قرآن کریم میں عربوں کے بعض علوم سے تعرض کیا گیا ہے۔“

جو لوگ قرآن عزیز کے جامع فنون ہونے کے مدعی ہیں وہ ایسی آیات سے

استحاج کرتے ہیں جن میں **بَرَزِينًا تَأْكُلُ شَجَرًا** اور **مَا قَوَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ** کے الفاظ آئے ہیں۔ وہ اس ضمن میں حضرت علیؓ کے اقوال بھی پیش کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ قرآنی سورتوں کے ابتدائی الفاظ سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ مگر یہ جسد دلائل ہماری رائے میں محل نظر ہیں۔

جن آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے ان سے وہ امور مراد ہیں جن کا تعلق انسان کے شرعی احکام و عبادات کے ساتھ مکلف ہونے کا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ **مَا قَوَّطْنَا فِي الْكِتَابِ** میں الکتب سے لوح محفوظ مراد ہو۔ حالانکہ لوح محفوظ کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ وہ جمع علوم نقلیہ و عقلیہ کو سمونے ہوئے ہے۔

جہاں تک قرآنی سورتوں کے ابتدائی حروف کا تعلق ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عرب ان سے اسی طرح آگاہ تھے جیسے جل کے عدد سے جس کا علم انہوں نے اہل کتاب سے حاصل کیا تھا۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ حروف آیات متشابہات کے قبیل سے ہوں جن کی تعبیر و تفسیر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ان حروف سے دیگر علوم و فنون مراد لیے جائیں تو یہ بڑی بے دلیل بات ہوگی۔ منتقدین میں سے کسی نے بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا۔

(المرافعات ج ۶ ص ۸۱)

یہ ہے امام شاطبی کے مقالہ کا خلاصہ اور یہ ہیں علمی تفسیر کے بارے میں ان کے انکار و نظر یا آہم نے پوری علمی امانت و دیانت کے ساتھ فریقین کا نقطہ نگاہ اور ان کے براہین و دلائل قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔

مسکب اعتدال:

اس ضمن میں مہارذاتی زاویہ نگاہ یہ ہے کہ شاطبی حتیٰ پر ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے ایسے قوی دلائل کی روشنی میں اپنا مدعا ثابت کیا ہے جن پر نقد و جرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح انہوں نے مخالفین کے پیش کردہ دلائل کے بھی مسکت اور دندان شکن جوابات دیے ہیں۔ چند امر اور

اور بھی میں جن سے ہمارے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ امام شاطبی حتیٰ پرہیز میں ملاحظہ فرمائیں۔

۱- لغوی پہلو:

اس میں شبہ نہیں کہ معنوی الفاظ اپنے آغازِ ظہور سے لے کر اب تک ایک ہی معنی پر پھرے نہیں رہے بلکہ ان کے معنی و مفہوم میں بتدریج تبدیلی پیدا ہوتی رہی۔ اگرچہ ہم کسی ایک لفظ کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے معنی میں تبدیلی کب اور کیوں پیدا ہوئی؟ تاہم پورے و ثرق سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اربابِ علوم و فنون نے بعض الفاظ کو نئے معانی کا لباس پہنا یا جس سے وہ قبل ازیں آراستہ نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض معانی کو شرعی بعض کو معنوی اور بعض کو عرفی کہا جانے لگا۔ حالانکہ یہ سب معانی ایک ہی لفظ کے ساتھ وابستہ ہیں ان میں سے بعض کو سب نزولِ قرآن کے وقت جانتے تھے اور بعض کو اس لیے نہیں جانتے تھے کہ وہ بعد کی پیداوار ہیں۔ پھر قرآنی الفاظ کے مفہوم میں اس قدر دمعت کیے پیدا کی جاسکتی ہے؛ خصوصاً ان سے ایسے معانی مراد لینا کیوں کہ درست ہے جن سے سب آشنا ہی نہ تھے۔ اور یہ بات کمال تک معقول ہے کہ قرآنی الفاظ سے عند اللہ وہ معانی مراد ہوں جو نزولِ قرآن کے مدتوں بعد ایجاد ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو عقل و فہم سے عاری ہو۔

۲- بلاغی پہلو:

بلاغت کے معنی میں کلام کا مقصد نئے حال سے ہم آہنگ ہونا۔ ظاہر ہے کہ قرآن بلاغت کی اس سطح پر ہے جہاں دوسری کوئی کتاب نہیں پہنچ سکتی۔ اگر ہم علمی تفسیر کی راہ پر گامزن ہو کر یہ دعویٰ کریں کہ قرآن کریم تمام جدید علوم و معانی کا جامع ہے تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ یا تو قرآن بلاغت سے عاری ہے یا یہ کہ نزولِ قرآن کے وقت جو سب جانتے ان کا دامن ذہانت و فطانت کی دولت سے خالی تھا۔

عقلاً و دہی صورتیں ممکن ہیں۔ اول یہ کہ نزولِ قرآن کے وقت جو سب اس کے مخاطب تھے وہ علوم و فنون سے آشنا نہ تھے مگر اللہ تعالیٰ ان کو ان علوم سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ اس سے یہ لازم آئے گا کہ قرآن بلیغ نہیں کیوں کہ اس نے اپنے مخاطبین و سامعین کی حالت کو پیش نظر نہیں رکھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے قرآن اپنی ایک عظیم خصوصیت (بلاغت) سے محروم ہو جائے گا۔ دوسری

صورت یہ ہے کہ قرآن کے اولین مخاطب ان علوم سے باخبر تھے۔ اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عربوں نے علمی تحریک کا بیڑا کیوں نہ اٹھایا یا خصوصاً جب کہ وہ ایسے قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے جو اولین و آخرین کا جامع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عربوں میں ذہانت و فطانت کا فقدان تھا۔

۳۔ اعتقاد می پہلو:

اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم اس وقت تک قائم و دائم رہے گا جب تک یہ کائنات موجود ہے۔ یہ تاریخ کے ہر دور کے لیے نفع رساں ہیں۔ قرآن مجید آغاز نزول سے لے کر تاقیام قیامت تک کے احوال و کوائف بیان کرتا ہے۔ لوگ انسانی زندگی کے جن مراحل و ادوار میں سے گزرتے ہیں۔ قرآن ان سب پر روشنی ڈالتا ہے اور نیزہ سب کچھ اس لیے ہے کہ قرآن شریعت اسلامیہ کی جامع کتاب ہے۔ یہ اس دین کا مجرّمہ قوانین ہے جو تمام آسمانی شرائع کا خاتم ہے۔ ہر مسلم کا یہ لازمی عقیدہ ہے کہ وہ قرآن کریم پر ایمان لائے اور اس میں کسی شک و شبہ کو جگہ نہ دے۔ بنیلاف ازیں اگر یہ کہا جائے کہ قرآن عزیز جملہ علوم و فنون مثلاً علم طب، علم الفلاک ریاضی، کیمیا وغیرہ کے لیے مصدر و ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مسلمان قرآن حکیم کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علوم و فنون کے قواعد و اصول اور ان پر مبنی افکار و نظریات ہنگامی اور عارضی ہوتے ہیں جن کے لیے دوام و بقا کا ہونا محال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عالم آج ایک نظریہ ایجاد کرتا ہے اور جلد یا بدیر اس سے رجوع کرنا ہے کیوں کہ اس پر اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے۔

ہمارے پیش نظر بے شمار ایسے شواہد موجود ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ علمی نظریات دائمی اور ابدی نوعیت کے حامل نہیں ہوتے۔ مزید بلال علوم قدیمہ و جدیدہ کے نظریات میں تنافی و تضاد بھی پایا جاتا ہے۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ بائیں ہمہ تضاد و تنافی قرآن عزیز ایسے نظریات کا جامع ہر سکے؟ اور کیا عقل انسانی اس بات کو باور کر سکتی ہے کہ کوئی مسلم ایسے قرآن کی صداقت پر ایمان لائے گا اور یہ یقین رکھے گا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ (باطل نہ اس کے آگے سے آسکتا ہے اور
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ۔ (زچھے سے)

در اصل بات یہ تھی کہ جن لوگوں نے قرآن کے جامع الفنون ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے پیش نظر قرآن کا اجماعی پہلو تھا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ قرآن باختلاف النزاع و احوال انسانی کے تمام پہلوؤں کے ساتھ چل سکتا ہے اور اس کا ساتھ دے سکتا ہے مگر وہ اس بات کو معمول گئے کہ قرآن کے اعجاز کو ایسے پر تکلف طریقہ سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کے اجماعی پہلو اس کے ماسوا بھی بہت سے ہیں۔

قرآن کو منبع العلوم قرار دینے والے لوگوں نے ان قرآنی آیات سے استشہاد کیا ہے جن میں کائنات کے حقائق و مشاہد بیان کیے گئے اور آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے آثار و علم میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے اس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی سعی کی ہے کہ قرآن اولین و آخرین کے علوم و فنون کا جامع ہے۔

مگر ان کا یہ استدلال اس لیے درست نہیں کہ کائنات کے مناظر و مظاہر میں فکر و تامل کی دعوت عبرت و مرعظت حاصل کرنے کے نقطہ خیال سے دی گئی ہے۔ انسانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ان آیات و مشاہد سے خدا کی قدرت و وحدانیت کا سبق لیں۔ اس سے مقصد سائنس یا فلسفہ کے افکار و نظریات کا بیان کرنا نہیں اس لیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ فلسفہ، طب یا ریاضی کی کتاب نہیں۔

تفسیر علمی کی راہ پر گامزن ہونے والوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ اعجاز قرآن کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے یہ سلوک نہ کریں۔ ان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن کریم میں کوئی نص صریح ایسی نہیں جو کسی مسلمہ علمی نظریہ سے متصادم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علمی نظریات و قوانین بحق و صداقت کی اساس پر مبنی ہیں ان کے اور قرآن کریم کے مابین جمع و تطبیق ممکن ہے۔ اور کسی طرح سے بھی ان دونوں میں تناقص و تعارض نہیں پایا جاتا۔

خاتمۃ الكتاب

تفسیر عصر حاضر میں

تفسیر کا ماضی و حال:

قرآن عزیز کی شرح و تفسیر کے سلسلہ میں ہمارے علمائے سلف نے مناخرین کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اس لیے کہ ان کی نگاہ میں یہ کتاب ایک ایسے دستور کی بنیاد تھی، رکھتی ہے جو دنیاوی دائروں کی طرح و صلاح کا کفیل ہے۔ اس کے زیر اثر انہوں نے قرآن حکیم کے آغاز نزول ہی سے اپنی توجہات، اس کی ترویج و تشریح اور تجزیہ و تحلیل کے لیے وقف کر دیں یہ سلسلہ گردشِ دوران کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر رہا اور بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں۔

چنانچہ جو شخص بھی باختلافِ احوال و انزاع کتب تفسیر کا منظر غائر مطالعہ کرتا ہے اس پر یہ حقیقت پریشیدہ نہیں رہتی کہ متقدمین اہل تفسیر نے قرآن حکیم میں بحث و تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اس کے کسی گوشہ کو بھی تشہ نہیں چھوڑا۔ آپ کسی پہلو کو بھی دیکھیں مثلاً لغوی اور بلاغی پہلو ادبی، فقہی، مذہبی اور فلسفیانہ پہلو۔ ان میں سے ہر پہلو پر مفسرین نے کھل کر بحث کی ہے اور اس میں کوئی تشنگی باقی نہیں رہنے دی۔ اس کی حد یہ ہے کہ جدید مفسرین کے لیے کوئی ایسی گنجائش باقی نہیں رہی کہ وہ اپنی تفاسیر میں کوئی جدت پیدا کر سکیں۔ بجز اس کے کہ وہ متقدمین کے معتقداً اقوال کو یکساں کریں، یا ان کے مبہم اقوال کی شرح و ترویج کریں، یا ان کے ضعیف اقوال کو ہدفِ تنقید بنائیں، یا ایک رائے کو دوسری کے مقابلے میں ترجیح دیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تفسیر نویسی میں جو دو قسطوں رونما ہو گیا اور عرصہ دراز تک اس میں کوئی نیا اضافہ نہ ہو سکا۔

عصر حاضر کی تفسیری خصوصیات :- جدید علمی تحریک کے آغاز نظرور تک تفسیر نویسی

اسی طرح جمود و تعطل کا شکار رہی جب بلا وسوب میں علمی تحریک کا آغاز ہوا تو جو علماء تفسیر قرآن سے دل چسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے تفسیر و جمود کے بندھنوں سے آزاد ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں اگرچہ انہوں نے بھی بڑی حد تک متقدمین کی محنت و کاوش پر اعتماد کیا۔ تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تفسیر جلد سے چیمچا چھڑانے کے سلسلہ میں ان کی ماسعی بڑی حد تک قابلِ تحسین ہیں۔ انہوں نے اسکاں حد تک اس بات کی کوشش کی کہ متقدمین نے اپنی تفاسیر کو غیر ضروری طور پر سچین علمی اصطلاحات سے بھر دیا ہے ان سے اپنی کتب تفاسیر کو خالی رکھیں۔

وہ اس امر کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ ان اسرائیلی واقعات سے اپنی کتب تفسیر کو موٹ نہ کریں جنہوں نے قرآنی مطن و جمال کا خاتمہ کر دیا ہے۔ مزید برآں ان کی ایک کوشش یہ بھی تھی کہ متقدمین کی تفاسیر میں جن موضوع و صغیف احادیث کو جگہ دی گئی ہے وہ بھی ان کی کتب تفسیر میں راہ نہ پاسکیں۔ انہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ تفسیر قرآن کو ادبی و اجنبی رنگ دیا جائے جس سے قرآن حکیم کا حسن و جمال دوبالا ہو جائے اور اس کے بلند پایہ حقائق و دقائق کھل کر سامنے آسکیں۔

عصر حاضر کے مفسرین نے اس بات کا اہتمام کیا کہ قرآن حکیم اور جدید علمی نظریات میں سے جو مبع ہیں ان کے مابین ایک حسین امتزاج پیدا کیا جائے تاکہ مسلم اور غیر مسلم اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ قرآن عزیز ہی وہ ابدی اور دائمی کتاب ہے جو زمانہ کے بدلتے ہوئے احوال و اطوار کے ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں کچھ اور بھی آثار ہیں جو عصر حاضر کے تفسیری رجحانات میں مختلف عوامل کے زیر اثر رونما ہوئے۔ ان میں سے اہم حسب ذیل آتاریں:-

- ۱۔ علوم و فنون میں وسعت
- ۲۔ گروہی تعصب
- ۳۔ دہریت و اُلحاد

عصر حاضر میں انواع تفسیر و سابقہ بیانات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عصر حاضر میں

تفسیر قرآن کی بڑی بڑی قسمن حسب ذیل چار ہیں :-

۱- علمی طرز و انداز

۲- مذہبی رنگ

۳- مملکتی طرز فکر

۴- ادبی و اجتماعی اسلوب و انداز

اب ہم عصر حاضر کے مذکورہ چار تفسیری رجحانات کے بارے میں یکے بعد دیگرے اظہار خیالات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید تفسیری لٹریچر بھی زیر بحث آئے گا۔

عصر حاضر میں تفسیر کا علمی انداز:

ہم قبل ازیں تفسیر علمی کے بارے میں اظہار خیال کر چکے اور بتا چکے ہیں کہ اہل علم اس ضمن میں مختلف الراءے ہیں۔ بعض اس کی تردید کرتے ہیں اور بعض تائید۔ ہم نے مختصراً یہ بھی بتایا تھا کہ علمی تفسیر متاخرین کے یہاں بہت مقبول ہے۔ اب اس پر مزید روشنی ڈالتے ہیں۔

علمی تفسیر جس کا مقصد و مرام یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن کریم تمام جدید و قدیم علوم کا جامع ہے۔ عصر حاضر میں بہت مقبول ہے۔ یہ نظریہ ان مغربی تعلیم یافتہ حضرات کے یہاں زیادہ رائج ہے جو علوم جدیدہ کے ساتھ ساتھ قرآنی علوم سے بھی دل چسپی رکھتے ہیں۔ یہ اس تفسیری رجحان کی مقبولیت کا ہی ثمرہ ہے کہ متعدد اصحاب نے ایسی کتب تصنیف کیں جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مراعاتاً یا اشارۃً جلد علوم ارضی و سماوی کو سمونے ہوئے ہے۔ بزعم خورشید ان کے نزدیک یہ قرآن عزیز کے صدق و اعجاز کا ضروری پہلو ہے اور اس سے کتاب الہی کا بقا و دوام ثابت ہوتا ہے۔

اہم کتب:

اس طرز و انداز پر لکھی جانے والی کتب میں سے مندرجہ ذیل بہت اہم ہیں :-

۱- کشف الاسرار الثورانیہ القرآنیۃ ۱- اس کے مصنف اسکندریہ کے رہنے والے محمد بن احمد

ہیں جو بڑے عالم فاضل اور ماہر طبیب تھے۔ یہ تیرھویں صدی ہجری کے علماء میں سے

ہیں۔ یہ ضخیم کتاب ہے اور تین مجلدات پر مشتمل ہے۔ یہ مہر کے مطبع و صبیہ سے ۱۲۹۷ھ

میں شائع ہو چکی ہے۔

۲۔ رسالہ از عبد اللہ پاشا فکری، یہ کتاب ناہرہ سے ۱۳۱۵ھ میں اشاعت پذیر ہو چکی ہے۔

۳۔ طبائع الاستبداد و مضارع الاستعداد، اس کتاب کے مصنف: مشور داعی اور مبلغ سید

عبد الرحمن الکوکی ہیں۔ دراصل یہ ان کے مقالات کا مجموعہ ہے جو مصر آنے پر انہوں نے

مختلف جرائد و مجلات میں شائع کئے تھے۔ یہ ۱۳۱۵ھ کا واقعہ ہے۔ یہ کتاب شائع ہو چکی

ہے مگر اس پر مصنف کا نام مرقوم نہیں۔

اس کتاب میں مصنف نے بڑے زور دار اور بیغ انداز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ

قرآن نہ جدید علوم کا جامع ہے۔ چنانچہ وہ قرآن کو ”شس العلوم و کثر الملکم“ قرار دیتا ہے۔ (کتاب

مذکورہ ص ۲۲)

مصنف لکھتے ہیں کہ علماء نے قرآن کے اس پہلو کو اس خوف کی بنا پر اجاگر نہیں کیا کہ لوگ

ہماری مخالفت کریں گے۔ مبادا اس جرم میں ہمارے تکفیر کی جلدے اور ہمیں قتل کر دیا جائے

حالانکہ قرآن کے اس پہلو کا اس کے اعجاز کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ

اعجاز القرآن کا پہلو ایسا نہیں جسے نظر انداز کیا جاسکے مگر علماء اس کا حق ادا کرنے سے قاصر

رہے اور انہوں نے بعض علماء نے سلف کی طرح صرف یہ بات کہنے پر اکتفا کیا کہ قرآن کا اعجاز

اس کی فصاحت و بلاغت میں ہے اور بس۔ (کتاب مذکورہ ص ۲۴)

۴۔ اعجاز القرآن از مصطفیٰ صادق الرافی: علامہ رافی بھی علمی تفسیر کے علمبردار اور اس کے

زبردست مرید تھے۔ موصوف نے کتاب زیر تبصرہ میں ایک عنوان ”القرآن والعلوم“ کے نام

سے متعین کیا اور اس میں بتایا ہے کہ قرآن کریم اسلام کے آغازِ ظہور سے لے کر اب تک اس

کائنات کی سطح پر پائے جانے والے تمام علوم کی تاریخ کے سلسلہ میں ایک معجزہ کی حیثیت

رکھتا ہے (اعجاز القرآن ص ۱۰۸)

رافی آگے چل کر سیوطی کی الاتقان اور علامہ مرسی کی الاکیل کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں

کہ قرآن عزیز جلد علوم و فنون کا جامع ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک علم المناجات

قرآن سے ماتموز ہے۔ اس کی دلیل وہ آیت ہے جس میں ”رفیع الدرجات“ (سورۃ الغافر، ۵)

کے الفاظ ہیں۔ اس لیے کہ بحساب محفل لفظ سرفیغ کے تین سو ساٹھ عدد ہیں۔ اور روز و شب کی تعداد بھی اسی قدر ہے۔ رافعی مزید لکھتے ہیں کہ قرآنی کلمات کے اعداد کا نئے سے زمانہ کے عجائبات و اسرار کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سہاری کتاب کے موضوع سے خارج نہ ہوتی تو ہم اس کی بہت سی مثالیں ذکر کرتے۔ (اعجاز القرآن ص ۱۱۳ ماہنامہ)

۵۔ الاسلام وطب الحدیث از ڈاکٹر عبدالعزیز اسماعیل :- یہ کتاب مصر کے مطبع الاعتماد سے ۱۳۵۷ھ میں شائع ہو چکی ہے۔ دراصل یہ مؤلف کے تحقیقی مقالات کا مجموعہ ہے جو مجلہ الازہر میں شائع ہوئے تھے۔

مؤلف لکھتے ہیں کہ بہت سی قرآنی آیات ایسی ہیں جن کو وہی شخص صیغ معنی میں سمجھ سکتا ہے جو علوم جدیدہ سے کلینتہ آگاہ ہو (کتاب مذکور ص ۲)

مصنف مزید لکھتے ہیں کہ جن آیات کا معنی و مطلب تاہنوز سمجھنا جاسکا تھا علوم جدیدہ کے طفیل اب واضح ہو گیا ہے۔ جوں جوں علوم میں ترقی ہوتی جائے گی آیات کا مفہوم اور زیادہ منکشف ہوتا جائے گا۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب مادہ پرست علماء سب سے بڑھ کر دین کے علم بردار ہوں گے۔ (کتاب مذکور ص ۱۱۲)

اس سے مقصود صحابہ کرام اور علمائے سلف کو متم کرنا ہے کہ چونکہ وہ علوم جدیدہ سے نا آشنا تھے اس لیے وہ بعض آیات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہے۔ یہ ایسا عظیم بتناں ہے جس سے ہم صحابہ و علمائے سلف کو پاک سمجھتے ہیں۔

اس کتاب کے غائرانہ مطالعہ سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ مصنف نے قرآنی آیات سے جو مفہوم سمجھا ہے وہ قرآن کا مقصد ہرگز نہ تھا اور نہ ہی قرآن عربوں کو اس موضوع پر خطاب کر سکتا تھا۔

اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جس شخصیت نے علمی تفسیر کو بڑھانے پھیلانے اور اس کو ترقی دینے کے سلسلہ میں سب سے نمایاں خدمات انجام دیں وہ مصر کے شیخ لفظاوی جو ہری مرحوم تھے اور اس کی تین دلیل آپ کی تفسیر الجواہر ہے جو مصر سے ۱۳۷۱ھ، ۱۳۵۱ھ میں پچیس مجلدات میں شائع ہو چکی ہے۔ چنانچہ اب ہم اس پر سیر حاصل تبصرہ کرتے ہیں۔

الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم

از شیخ طنطاوی جوہری

شیخ طنطاوی جوہری ۱۲۸۶ھ مطابق ۱۸۶۹ء عیسوی میں پیدا ہوئے اور ۱۳۵۶ھ ہجری مطابق ۱۹۳۷ء عیسوی میں وفات پائی۔ (الاعلام زر گل ج ۳ ص ۳۳۴)

سبب تالیف:

شیخ طنطاوی کا اپنا بیان ہے کہ وہ خلقۃً ہی عجائب کو نہیہ اور قدرتی مناظر کے حسن و جلال کے دل وادہ تھے۔ بزرگم نریش انہوں نے جب ملت اسلامیہ اور اس کی دینی تعلیمات میں فکر و تامل سے کام لیا تو ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ عصر حاضر کے اکثر عقلا و علماء دینی حقائق سے اعراض کرنے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بقول ان کے جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے ایسے لوگ انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں جنہوں نے تخلیق عالم اور اس میں ودیعت کردہ اسرار و عجائب پر کبھی غور کرنے کی زحمت گوارا کی۔

چنانچہ مصوف نے اس کے ذریعہ اثربت سی کتب تالیف کیں جن میں قرآنی آیات سے قدرتی مناظر و شاہد پر استدلال کیا اور ان دونوں کے مابین جمع و تطبیق کی کوشش کی۔ اس موضوع پر تعینیت کردہ کتب میں سے اہم حسب ذیل ہیں۔

۱- نظام العالم والائم

۲- جواہر العلوم

۳- اتاج المرصع

۴- جلال العالم

۵- النظام والاسلام

۶- الائمة وھیاتہا

باوجودیکہ یہ کتب عام طور سے شائع و ذائع ہر چکی تھیں اور مختلف زبانوں میں ان کا ترجمہ بھی ہر چکا تھا۔ تاہم علامہ طنطاوی نے محسوس کیا کہ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ بنا بریں وہ بارگاہِ ربانی میں بطبعی ہرئے کہ انہیں ایسی تفسیر لکھنے کی توفیق ارزانی ہو جو جامع الغنون ہو اور جس میں کوئی تشکیکی باقی نہ رہے۔ چنانچہ خالقِ کائنات نے ان کی یہ آرزو پوری کی اور اس طرح یہ تفسیر صنفِ کائنات پر عبور لگن ہوئی۔

مؤلف نے اس تفسیر کا آغاز اس وقت کیا جب آپ مدرسہ دارالعلوم میں مدرس تھے۔ آپ مدرسہ کے طلبہ کو یہ تفسیر امداد کرتے تھے اور اس کا کچھ حصہ بعض علمی مجلات میں شائع کرتے تھے۔ بعد ازاں مستقل طور پر تفسیر نویسی کا آغاز کیا اور اس طرح یہ ضمیمہ و عظیم تفسیر منعقدہ مشہور ہوئی۔

غایت تفسیر:

مؤلف اس تفسیر کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

دمیر مقصد و منشایہ ہے کہ خداوند کریم اس تفسیر کی بدولت لوگوں کے سینوں کو کھلی دے اور ان کو ہدایت عطا کرے۔ لوگوں کی آنکھوں پر جو پردے پڑے ہیں وہ اٹھ جائیں اور وہ عجائبِ قدرت کو سمجھنے لگیں۔ میں پُر امید ہوں کہ مسلمان میری ہمدار کروہ راہ پر گامزن ہو کر اس قسم کی تفسیر لکھنے لگیں گے۔ یہ تفسیر زلیوہ قبولیت سے آراستہ ہوگی اور مشرق و مغرب میں ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ توحید پرست نوجوانِ عجائبِ اراضی و سماوی کے دلدادہ ہو جائیں گے اور اس طرح ان کی تہذیب و ثقافت کو ترقی نصیب ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملتِ اسلامیہ میں سے ایسے نوجوان اٹھیں گے جو طبِ زراعت، معدنیات، ریاضی، فلکیات اور دیگر علوم کے میدانوں میں فرنیگیوں سے بھی سبقت لے جائیں گے۔ (مقدمہ کتاب)

منہاج تفسیر:

مؤلف نے اس تفسیر میں وہ سب چیزیں جمع کر دی ہیں جن کی ایک مسلم کو ضرورت ہے چنانچہ اس میں احکام و اخلاقِ عجائبِ قدرت، جدید علوم و فنون سمجھی آپ کو ملیں گے۔ اس کے مطالعہ

سے مسلمانوں میں یہ شوق بیدار ہوتا ہے کہ وہ حیوانات و نباتات اور ارض و سماوات کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

مؤلف لکھتے ہیں کہ قرآن عزیز میں علوم و فنون سے متعلق سات سو پچاس سے زائد آیات ہیں۔ بخلاف ازیں فقہی احکام کے بارے میں کل ایک سو پچاس آیات وارد ہوئی ہیں۔ مؤلف اپنی تفسیر کے اکثر مقامات میں مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ علوم کو نبیہ سے متعلق آیات میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس سے سہل انگاری بڑنا ہرگز مناسب نہیں۔
مؤلف لکھتے ہیں:

”اے اُمتِ مسلمہ! حیرت ہے کہ تفسیر میراث کے بابے میں چند آیات وارد ہوئی تھیں اور ان کی وجہ سے علم ریاضی کی جانب مسلمانوں کا ذوق و شوق بڑھا۔ پھر کیا بات ہے کہ عجائب قدرت کے سلسلہ میں سات سو آیات موجود ہیں اور ان پر غور و فکر کی زحمت، گوارا نہیں کی جاتی؛ یہ علوم و فنون کا دور ہے یہ نوٹر اسلام کے ظہور اور اس کے ارتقاء کا دور ہے۔ جانے ہم کیوں آیات کو نبیہ کے بارے میں اس قسم کا فرد و تامل نہیں کرتے جیسے ہمارے اکابر آیات میراث کے ضمن میں کرتے تھے؟ خدا شکر ہے کہ میری اس تفسیر میں جملہ علوم و فنون کا خلاصہ ملے گا جس کا مطالعہ فرائض کے درس و مطالعہ سے افضل ہوگا۔ علم الفرائض کا مطالعہ فرض کفایہ ہے۔ چوں کہ عجائب قدرت میں غور و فکر معرفت الہی کے حصول میں عمدہ و معاون ہے اس لیے اس کا درجہ فرض عین کا ہے۔ جن علوم کو ہم نے اپنی تفسیر قرآن میں شامل کیا ہے جاہل اور بر خرد غلط فقہاء ان سے بے گانہ تھے۔ یہ انقلاب اور ظہور حقائق کا دور ہے۔“
(تفسیر الجوامع ص ۳۱۹)

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”یہ کیا بات ہے کہ فقہی احکام کے بارے میں تو عدولے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالیں حالانکہ فقہی احکام سے متعلق قرآن میں جو آیات ہیں۔ ان کی تعداد ایک سو پچاس

سے زائد نہیں؛ بخلاف ائیں علوم کائنات کے بارے میں بہت کم لکھا حالانکہ قرآن حکیم کی کوئی سُورت ان علوم سے خالی نہیں۔ بلکہ اس ضمن میں وارد شدہ آیات کی تعداد سات سو پچاس سے بھی زائد ہے۔ شرعاً و عقلاً یہ بات کمال تک درست ہے کہ جس علم کے ضمن میں کثیر التعداد آیات وارد ہیں اس کو گھل دینا حقیقی نسیان بنا کر رکھ دیا جائے، ہمارے اکابر اگر فقہ میں مہارت رکھتے تھے تو ہمیں علم الکائنات میں یدِ طولیٰ رکھنا چاہیے۔ آئیے ملتِ اسلامیہ کی ترقی کے لیے ہم اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ (الجواہر ص ۲۵ ص ۵۳)

تفسیر الجواہر کی عدم مقبولیت:

امام طنطاوی کے اس مؤقف پر کہ قرآن حکیم علوم جدیدہ کا جامع ہے۔ اکثر علماء نے نقد و جرح کی ہے۔ اس کا احساس ہر اس شخص کو ہوتا ہے جو اس تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اہل علم نے اس انداز تفسیر کو بغیر استحسان نہیں دیکھا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے اس کتاب پر پابندی عائد کر دی تھی اور اس کا دواغہ حدودِ مملکت میں ممنوع قرار دیا تھا۔ اس کا بنی ثبوت وہ خط ہے جو علامہ طنطاوی نے ملک عبدالعزیز آل سعود کے نام لکھا تھا اور جو تفسیر نذکی پبلسیوں جلد کے ۳۳۸ صفحہ پر پوزم منہاج تفسیر:

تفسیر زیر کتاب کے عینی مطالعہ سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ مؤلف دیگر متداول تفسیر کی طرح پہلے کسی آیت کی مختصر لفظی تفسیر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علمی بحث کا آغاز کرتے ہیں جس کو بہت طوالت دیتے ہیں اور اپنی اصطلاح میں اس کا نام ”لطائف یا جواہر“ رکھتے ہیں۔ اس بحث میں وہ عصرِ حاضر کے علمائے شرق و غرب کے افکار و نظریات، بیان کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد اہل اسلام اور غیر مسلموں کو بیز اثر دینا ہے کہ جو علوم آج کل ایجاد کیے جا رہے ہیں قرآن کریم نے صدیوں پہلے لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ مؤلف اکثر و بیشتر اپنے نظریات کی تائید میں نباتات، حیوانات، قدرتی مناظر اور علمی تجربات سے بھی استشاد کرتے ہیں جس سے ایک علمی نظریہ موسسِ مبصر کی طرح

نگاہ کے سامنے آجاتا ہے۔ مزید براں مولف انجیل برنابا سے بھی اپنے افکار و آراء پر استدلال کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ واحد انجیل ہے جو تحریف و تبدیل سے محفوظ ہے۔ اسی طرح مولف افلاطون کی کتاب جمہوریت اور رسائل اخوان الصفا سے ان کے نظریات نقل کرنے اور ان پر اپنی مہر تصدیق بھی ثبت کرتے ہیں حالانکہ وہ نظریات کھلم کھلا احادیثِ صحیحہ کے خلاف ہوتے ہیں

مولف کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ محل کے حساب سے قرآنی علوم کا استخراج کرتے ہیں حالانکہ اس حساب سے کوئی تحقیقت ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ حساب یررد کے ذریعہ مسلمانوں میں پہنچا اور مقبول ہوا۔ مولف قرآنی آیات کی ایسی تفسیر کرتے ہیں جو جدید نظریات و علوم پر مبنی ہوتی ہے اور جس سے عرب بالکل نا آشنا تھے۔ یہ تفسیری سلاک تکلف کا آئینہ دار ہے اور اس سے اگر قرآن کا مقصد فرت نہیں ہوتا تو کم از کم اس کا جلال و جمال باقی نہیں رہتا۔

تفسیری نمونے:

اب شیخ طنطاوی کی تفسیر کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔

قرآن کریم میں فرمایا:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ
عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تَنْتَحِبُ الْأَرْضَ حَىٰ

(اور جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم ایک
کھانے پر رہ کر مزہ نہیں کریں گے۔ خدا سے
دعا کیجیے کہ وہ ہمیں ایسی چیزیں عطا کرے
جو زمین کا حق ہے)

(البقرة - ۶۱)

علامہ طنطاوی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

دو طنطاوی پہلے طبی فرامد پر گفتگو کرتے ہیں۔ پھر طب جدید کے نظریات ذکر کرتے ہوئے یورپ کے اطباء کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ قرآن نے بھی اس آیت میں یہی کہا ہے۔ اس آیت کے الفاظ "الَّذِي هُوَ آذَنِي بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ" میں اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ من و دلو ملی کھا کر دیہات کی کھلی فضا میں زندگی بسر کرنا شہری زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ بلاشبہ شہروں میں پُر تکلف کھانے کھائے جاتے ہیں

گر اس کے ساتھ ساتھ ذلت و رسوائی اور سوگام کا جو روایتنا بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کا کھٹکا ہر وقت نگار ہوتا ہے کہ کوئی زبردست بادشاہ حملہ کر کے شہر پر قابض ہو جائے۔ آیت کی تفسیر یوں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ کو اس روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں (المواہج ص ۶۶)

فَسُرَّانِ كَرِيمٍ مِی فرمایا!

وَذَاقَآلْ مُؤْمِنِي لِقَوْمَهُ اِنَّ اللّٰهَ
يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذَّبَحُوا بِقُرْبٰنٍ
(البقرۃ - ۶۷) (کا حکم دیتا ہے)

(اور جب مرسىٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خداوند کریم تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے)

مذکورہ صدر آیت کی تفسیر میں مولف نے پہلے قرآن عزیز کے عجائب و غرائب پر تبصرہ کیا ہے اور پھر اس آیت میں مذکور عجائب کو بحجت و نقد کا موضوع بنایا ہے۔ مذکورہ آیت کے عجائبات کے سلسلہ میں علامہ منطاد می نے علم تحفیر ارواح (روحوں کو حاضر کرنے کا علم) کو بھی شامل کیا۔ وہ لکھتے ہیں۔

”اس آیت سے علم تحفیر الارواح کا اثبات ہوتا ہے۔ یہ آیت تلاوت کی جاتی تھی اور مسلمانوں کا اس پر ایمان تھا۔ اسی دوران امریکہ میں علم الارواح کا نظریہ ہوا اور پھر وہاں سے پورے یورپ میں پھیل گیا۔ آگے چل کر بتاتے ہیں کہ یہ علم مختلف اُمم و اقوام میں کیسے پھیلا اور اس سے کیا کیا فوائد معرضِ ظہور میں آئے پھر لکھتے ہیں کہ چونکہ سورہ زمر تفسیر میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو بعد از موت زندہ کیا گیا۔ مزید برآں اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں کے واقعہ پر روشنی ڈالی گئی ہے نیز ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ظالموں سے ڈر کر اپنے گھروں سے نکلے تھے اور ان کو مار کر از سر نو زندہ کیا گیا تھا۔

خداوند کریم اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ ہم مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے اس لیے یہ واقعات سورہ بقرہ میں ذکر کر کے استغناء پر ارواح کی جانب اشارہ کیا گیا

آن کریمؐ کو بتایا جاتا ہے کہ جب تم نے مردوں کو زندہ کرنے کے سلسلہ میں واقعات مطالعہ کر لیے تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم بھی روتوں کو ایک خاص طریقہ سے حاضر کر سکتے ہو اور اگر اس کا علم نہ ہو تو اصحابِ بقیع سے پوچھ لیجیے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جو شخص ارواح کو حاضر کرنا چاہتا ہو وہ بڑا صاف دل اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ جنانچہ حضرت عمرؓ پر حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہم السلام اسی قسم کے لوگ تھے۔ ان کی بندگی مرتبت کی وجہ سے یہ واقعات میں نے ان کو دکھائے۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ ان انبیاء کی پیروی فرمائیں“

(الجواہر ج ۱ ص ۱۷۷)

اس میں شک نہیں کہ یہ تفسیر مخزن الفنون ہے اور اس میں ہر علم کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ”كُلُّ شَيْءٍ فِي الْكِتَابِ إِلَّا النَّبِيُّ“ (تفسیر کریم میں تفسیر قرآن کے سوا اور سب کچھ موجود ہے) دراصل یہ مقولہ طنطاوی کی الجواہر پر صحیح معنی میں صادق آتا ہے۔

تفسیر الجواہر کے مطالعہ سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ مؤلف علم و فضل کا بحرِ خاں ہے اور ہر علم کے بارے میں رائے زنی کر سکتا ہے۔ اس کے طائرِ خیال کی بند پر بازی پروری کا ثبات کو محیط ہے اور وہ اپنے قلب و ذہن کے ساتھ بحرِ علوم و فنون کی شناسوری کرتا ہے۔ اس کا مقصد و مرام اس امر کا اثبات و اعلان ہے کہ انسانی ذہن جو کچھ ایجاد کر چکا ہے اور کر سکتا ہے۔ قرآن کریم ان سب کو سمجھنے ہرٹھے ہیں۔ اس کی دلیل میں وہ یہ نصِ قرآنی پیش کرتا ہے کہ:

مَا دَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

(ہم نے کتاب میں کوئی کسر باقی نہیں

(الانعام - ۳۸)

چھوڑی)

مؤلف کی یہ بات تسلیم کر لی جائے تو قرآن کریم کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جس کے لیے اسے نازل کیا گیا ہے۔ ہم قبل ازیں اس ضمن میں کھل کر بات کر چکے ہیں۔ لہذا اس کا اعادہ

غیر ضروری ہے۔

بعض معاصر علماء اس انداز تفسیر کے خلاف ہیں:

سابق مفسرین کی طرح معاصر حاضر کے علماء بھی اس ضمن میں مختلف خیال ہیں کہ یہ انداز تفسیر قابل قبول ہے یا نہیں۔ معاصر علماء میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس طرز تفسیر سے متاثر ہے اور اپنی تالیفات میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ بخلاف ازیں معاصرین کی ایک کثیر جماعت اس کو پسند نہیں کرتی اور اس طرز و انداز میں کتاب الہی کی شرح و تفسیر کے حق میں نہیں۔ مزید یہ کہ وہ اس ضمن میں چشم پریشی سے کام لے کر اپنی عنان قلم کو ایسے مفسرین کی زبردستی سے روکنا نہیں چاہتے بلکہ ان پر شدید رد و قدح کرتے ہیں۔

صاحب التفسیر والمفسرون اس ضمن میں لکھتے ہیں :-

”ہمارے بعض معاصر اساتذہ اس طرز تفسیر کو منظر استحسان نہیں دیکھتے بلکہ اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے استاذ محترم شیخ محمد شنتوت بھی اسی زمرہ علماء میں شامل ہیں۔ چنانچہ آپ نے مجلہ الرسالہ اپریل ۱۹۷۱ء کے شمارہ نمبر ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹ میں اس طرز تفسیر پر شدید نقد و جرح کی ہے۔ اسی طرح پروفیسر شیخ امین الخولی نے اپنی کتاب ”التفسیر معالم حیاتہ“ میں زبردست براہین و دلائل کی روشنی میں اس تفسیری مسلک کا ابطال کیا ہے۔“

سید محمد رشید رضا نے تفسیر المنار کے مقدمہ میں ان مفسرین پر شدید لے دے کی ہے جنہوں نے اپنے علمی رجحانات کے پیش نظر اپنی تفاسیر کو علوم نحو و فقہ، معانی و بیان اور اسرائیلی روایات کا پلندہ بنا دیا۔ ان کی رائے میں یہ طرز فکر قرآنی ہدایت سے محروم کرنے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی کو آپ نے خصوصی طور پر ہدف تنقید بنایا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے ان تمام علوم کو قرآن کریم میں ٹھونس دیا جو اگلے تاریخی ادوار میں وضع کیے گئے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ انداز فکر قرآنی ہدایت کے قبول کرنے میں سبک راہ ہے۔ سید رشید رضا نے امام رازی کے مقلدین کو بھی ہدف تنقید بنایا ہے۔ اس سے ان کی مراد غالباً علامہ طنطاوی صاحب الجواہر ہیں۔

سید مصروف رقمطراز ہیں:

”امام رازی کا تفسیری انداز حلاصل قرآنی ہدایت سے روکنے والا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ریاضی و طبیعی علوم کو جو ان کے عصر و عہد میں وضع ہوئے تھے اپنی تفسیر میں شمول دیا۔ ہمارے بعض معاصرین (طنطاوی) نے امام رازی کی تقلید کرتے ہوئے اسی قسم کے علوم عصریہ کو اپنی تفسیر میں جگہ دی ہے۔ صرف ایک لفظ مثلاً ”السماء یا الارض“ کی بزرگم خویش تفسیر کرتے ہوئے وہ لمبی لمبی فصلیں تحریر کرتے ہیں اور ان میں نکلیات، حیرانات اور نباتات سے متعلق علوم کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قاری اس مقصد سے کہیں ددر نکل جاتا ہے جس کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا تھا“ (تفسیر المنارج ص ۷)

علامہ شیخ محمد مصطفیٰ المرآعی کتاب ”الاسلام والطب الحدیث“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اگرچہ میں نے اس کتاب کی تعریف کی ہے لیکن اس کے معنی نہیں کہ مجھے یہ طرز تفسیر پسند ہے۔ میں اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ قرآن عزیز اجمالاً و تفصیلاً جملہ علوم و فنون کا جامع ہے۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن کریم نے وہ تمام اصول و معانی بیان کر دیے ہیں جن کی بان پہچان اور تفسیر سماوی و روحانی کمالات کی تحصیل کی خاطر انسان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم نے مختلف علوم کے ماہرین کے لیے اس بات کا دروازہ کھول دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے عصر و عہد کے متقنیات کے پیش نظر ان علوم کی جزئیات پر روشنی ڈالیں“ (الاسلام والطب الحدیث)

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”صحیح بات تو یہ ہے کہ نہ تو آیت کو علوم و فنون کی جانب کھینچا جائے اور نہ ہی علوم کو کسی آیت کی جانب بہر تکلف کھینچ کر لایا جائے۔ البتہ اگر کسی آیت کے ظاہری مفہوم سے کسی علمی حقیقت کا اثبات ہوتا ہو تو اس کے اظہار و بیان میں کچھ مضائقہ نہیں“ (حوالہ مذکور)

مدرجہ صدر بیانات اس سخیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ علی تفسیر عصر حاضر کے بعض علماء کے یہاں قابل قبول ہے اور بعض کے یہاں نہیں ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ دونوں میں سے کون سی رائے اقرب الی الحق ہے۔

عصر حاضر میں فرقہ وارانہ تفسیر نویسی

جو فرقے دین اسلام کی جانب منسوب تھے ان میں سے اہل سنت، امامیہ، اثنا عشریہ، اسماعیلیہ، زیدیہ، مہدیہ کے فرقہ اباضیہ اور باطنیہ کے فرقہ بہائیت کے سوا آج صفحہ کائنات پر وہ کئی فرقہ موجود نہیں۔ فرقہ اسلامیہ میں سے صرف یہ فرقے ہیں جو آج موجود ہیں اور جنہوں نے ان عقائد و افکار کو محفوظ رکھا ہے۔ جن پر وہ آغاز کار سے اب تک ایمان رکھتے چلے آئے ہیں جس طرح سابقہ عصر و زمانہ میں یہ فرقے اپنے اپنے عقائد کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کرتے تھے۔ اسی طرح عصر حاضر میں بھی یہ رجحان و میلان موجود ہے۔ مگر ہمارے دماغی صرف ان فرقوں کی جانب ہے جو ہمارے موجود عصر و عہد میں پائے جاتے ہیں جس کی تفسیری خدمات کا تذکرہ ہمارے پیش نظر ہے۔

چنانچہ اب بھی اہل سنت اپنے عقائد و نظریات کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر نویسی میں مشغول ہیں۔ شیخ محمد عبدہ کے تفسیری مکتب فکر نے جو تفسیری درتہ چھوڑا ہے وہ اس کی زندہ مثال ہے۔ اسی طرح امامیہ اثنا عشری بھی اس دور میں حسب سابق اپنے عقائد کے مطابق قرآن کریم کی تفسیریں لکھ رہے ہیں۔ ان کی تازہ ترین تفسیر ”بیان السعادة فی مقامات العبادۃ“ کا نام اس ضمن میں لیا جاسکتا ہے۔ یہ تفسیر سلطان محمد خراسانی کی تحریر کردہ ہے جو چودھویں صدی ہجری کے شیعہ علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم قبل ازیں اس تفسیر پر تفصیلی تبصرہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح شیخ محمد جواد نجفی متوفی ۱۳۵۲ھ کی تفسیر ”آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن“ کا نام بھی اس ضمن میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ قبل ازیں اس کا محقق جائزہ لیا جا چکا ہے۔

خوارج کے فرقہ اباضیہ کے علماء بھی اپنے عقائد کے مطابق قرآن کریم کی شرح و تفسیر کر رہے ہیں اس کی مثال ان کی تفسیر ”ہیمان الزاد الی دار المعاد“ ہے جس کو شیخ محمد بن یوسف متوفی ۱۳۳۲ھ نے مرتب کیا۔ باطنیہ کے فرقہ بہائیت نے قرآن کریم کو اپنے مفروض عقائد کی عینک سے دیکھا اور اس کی تاویل و تخریفات کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ بہائی فرقہ کے مشہور معاصر

مابراہم الفضائل بجز نادقانی کے رسائل اس کی واضح مثال ہیں اگرچہ زیدیدہ کافر فرقہ تاہم زیدیدہ موجود رہے مگر عدلہ تفسیر
کا انہوں نے کوئی تفسیری کارنامہ انجام نہیں دیا۔

جہاں تک معتزلہ کا تعلق ہے ہمارے علم کی حد تک ایک فرقہ کی حیثیت سے یہ آج کہیں موجود نہیں
مگر عصر حاضر میں ان کے تفسیری رجحانات بڑی حد تک موجود ہیں چنانچہ فرقہ اثنا عشریہ، اہل اہلبیت اور بعض
یہ تفسیریں کی تفاسیر میں اس کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

ان تمام فرقوں نے جو عصر حاضر میں موجود ہیں تفسیر قرآن کو ایک گزرتی اور مسلکی رنگ میں رنگ
بس کی اساس گزرتی تعصب اور اپنے نظریات، کہ تاہم دید و حمایت پر رکھ گئی تھی۔ قطع نظر اس سے
ان عزیز کا مقصد و منشا کیا ہے۔ ہم اس تفسیر، انداز کے نمونے پیش نہیں کرتا چاہتے۔ اس لیے کہ
انہیں ان کتب کا تفصیلی تذکرہ کیا جا چکا ہے۔

جدید لحدانہ تفاسیر

اس میں شبہ نہیں کہ دین اسلام کو صفحہ مہنتی سے مٹانے کے لیے جہد و سعی اس وقت سے جاری ہے جب سے یہ دین عالم وجود میں آیا۔ یوں تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے رہے لیکن اپنے مذموم عزائم کو بردہ کے کارلانے کے لیے سب سے اہم کارنامہ یہ انجام دیا گیا کہ قرآن کریم کی تاویل ایسے غلط انداز میں کی گئی جس سے اس کا مقصد نزول ہی فوت ہو گیا قرآنی مطالب کو اس طرح توڑ مڑ کر پیش کیا گیا جس کی بنا پر وہ ان لوگوں کے لیے باعثِ رشد و ہدایت نہ رہا اور اس سے ان کے نظریات، فاسدہ کی تائید و حمایت ہونے لگی۔

دین اسلام جس طرح اپنے آغاز ہی سے اس سانحہ سے دوچار رہا، علم حاضر میں بھی اس میں مبتلا ہے۔ چنانچہ ہمارے اس دور میں بھی ایسے اشخاص کی کمی نہیں جو قرآن کریم کی غلط تاویلات کر کے اس کو اپنے جذبات و احساسات کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے فاسد نظریات کو قرآن میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو صرف فریب خوردہ علماء ہی قبول کر سکتے ہیں اور کوئی سلیم العقل اور دین دار شخص ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔

لحدانہ تفسیر کے عوامل:

لحدانہ تفسیر کے عوامل و محرکات حسب ذیل ہیں۔

- ۱- ان میں سے بعض لوگوں کا زاریہ نگاہ یہ تھا کہ جدت طرازی سے شہرت حاصل ہوتی ہے اس لیے وہ مقدور و جدید نظریات وضع کرنے میں لگے رہتے تھے۔ قرآن کریم کی تہلیل ایک طرح کی جدت ہے اور اس سے بھی معمول شہرت کے مواقع حاصل تھے۔ اس لیے انہوں نے اس کی جانب خصوصی توجہ مبذول کی۔ وہ قدیم مفسرین کو بدعت تغید و طعن بنا تھے اور کو احمق و غافل قرار دیتے ہیں۔ عربی لغت سے صرف نظر کر کے وہ جدید انداز میں قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں جس کی کوئی اصل و اساس سرے سے دین میں موجود ہی نہیں۔
- ۲- بعض لحد مفسرین ایسے ہی جو کہ علم ہونے کی بنا پر زمرہ علمائے میں شمار کیے جانے کا

نہیں ہیں لیکن وہ بزعم غلط ہونے کی بنا پر اپنے آپ کو جید عالم تصور کرتے ہیں اور اس امر کا انہیں مطلقاً احساس نہیں کہ شرعی علوم میں ان کا مبلغ علم بہت معمولی ہے۔ اس فریب خوردگی کے زیر اثر وہ قرآن کریم پر آزادانہ نظر ڈالتے اور اصول تفسیر سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بزعم خویش تفسیر قرآن کے نام سے ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو ائمہ لغت اور علمائے دین کی تصریحات سے یکسر مختلف ہیں۔ حلال کہ وہ نظریات دلیل ذربان سے اس قدر دُور ہوتے ہیں کہ سرسری نگاہ سے ان کا کھوکھلا پن نمایاں ہو جاتا ہے۔

۳۔ بعض لوگ ایسے آزاد منش ہوتے ہیں جو کسی معرفت، فرقہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے ان کے تلب و ذہن پر غلط قسم کے انکار و آزاد مسلط ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ انھما غلط و مزوج عقائد کو ذہن میں لیے ہوئے قرآن حکیم کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو اپنے نظریات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلال کہ ان کی یہ تاویلات بعیدہ عقل ہو یا دین کسی سے ساختہ بھی لگا نہیں کھائیں۔

یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندھا دھند تفسیر قرآن کے سمندر میں گمراہ ہوتے ہیں۔ ان کو نہ قرآنی بلاغت کا پاس ہوتا ہے اور نہ حدیث نبوی کا۔ بزعم خویش وہ اپنے منیر کی پیروی کرتے ہیں اس کا نام انہوں نے اپنی اصطلاح میں حرمتِ فکر و نظر رکھا ہے۔

یہ عنایتِ ربانی ہے کہ اس نے دین اسلام کی حفاظت، کافر فیضہ ایسے لوگوں کو قطعاً ایضاً اریکا ہے جو دررست نگاہوں کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کا ایمان داخل اس امر کا مرہب ہوتا ہے کہ جو لوگ دین میں نظریاتِ فاسدہ کی ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ دین کو ان سے پاک کرتے ہیں اور اس کو ایسی باتوں سے آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ اگر ایسے علماء ہوتے تو سائلوں کو ان گراہ کئی لوگوں سے بڑا تکلیف پہنچتی اور خدا کی زمین ان کے فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن جاتی۔

یہ امر پیش نظر رہے کہ علماء تفسیر پر نقد و جرح کا یہ منشا نہیں کہ ہم کسی خاص آدمی کا نام لے کر اس کو ہت طعن و ملامت بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات فتنہ و فساد کی موجب ہر سکتی ہے اور اس سے نفع و عداوت کی آگ بھڑکتی ہے۔ ایسے لوگ زندہ موجود ہیں جن کی تفسیر

پر ہم تنقید کر رہے ہیں۔

ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن کتابوں سے ہم عملدہ تفسیر کے اقتباسات نقل کریں گے۔ ہم تاریخ کو ان کے ناموں سے آگاہ کر دیں گے اور ان کے نظریاتِ ناسدہ کو کھل کر بیان کریں گے۔ یہ کتب آسانی سے دستیاب ہیں اور جو شخص ان کی جانب مراجعت کرنا چاہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔

واقعہ حضرت ایوبؑ:

عملدہ تفسیر کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک صاحب نے ”القرآن والمفسرون“ کے عنوان سے ایک طویل بحث رقم کی ہے اور اس میں سابق مفسرین پر شدید تنقید کی اور ان کا مذاق اڑایا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ اس نے ایک مفسر کو بھی معاف نہیں کیا حالانکہ مفسرین بے شمار ہیں اور ان میں اعدال پسند لوگوں کی بھی کمی نہیں۔

صاحبِ مضمون نے مفسرین پر یہ اتہام باندھا ہے کہ انہوں نے تعصب سے کام لے کر قرآنی آیات کو اپنے مخصوص افکار و عقائد کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے اس نے مجلہ مفسرین پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ محض بے سند اسرائیلی روایات ہی ذکر نہیں کرتے بلکہ ان کو یہ فکر و امنیگر رہتی ہے کہ ان جھوٹی روایات کو صحیح ثابت کیا جائے۔ وہ اس کی مثال میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتا ہے اور پھر زعم خویش دلائل و براہین کی روشنی میں مفسرین کے نظریات کا ابطال کرتا ہے۔ مضمون نویس نے اس واقعہ سے متعلق سورہ ص کی آیات از ۴ تا ۴۴ نقل کر کے ان کی ایسی تفسیر کی ہے جو سب مفسرین کے خلاف ہے مگر اس کے باوصف اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہی تفسیر صحیح اور منشا ئے الہی کے عین مطابق ہے اور قرآنی بلاغت اور انبیاء کا تقدس بھی اس کا مقتضی ہے۔

اب صاحبِ مضمون کے اصلی خیالات ملاحظہ فرمائیے۔ وہ رقمطراز ہیں:

”جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے آیت قرآنی

مَسَّنَىٰ اَنْشَبَطْنُ بِمُعَيْبٍ دَعَا اِيَّابِ (شبیان نے مجھے ایذا اور تکلیف دی ہے)

(سورہ ص ۴۱)

میں ایذا اور تکلیف کو شیطان کی جانب منسوب کیا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے جسمانی بیماری مراد نہیں جیسا کہ اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے کہ شیطان کسی کو بیماری میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اس کا کام صرف دوسرے ڈانڈا انسان کو نیکی کے کام سے باز رکھنا ہے۔ بے شک عربی پر یہ مصیبت نازل ہوتی رہی ہے کہ لوگ ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے اور شیطان اس کا رخنہ سے ان کو روکتا رہا ہے۔ انبیاء اس لیے غم زدہ ہوتے ہیں کہ ان کی دعوت کو قبول عام کیوں نہیں حاصل ہوا؟

چوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے عدم قبول دعوت کا شکوہ کیا تھا جس سے عزم کی ناپختگی اور کمزوری کا اظہار ہوتا ہے اس لیے ان کو حکم ہوا **اُدْرُسْ كُنْ** **یَرْجُلًا** (رات اور اپنے پاؤں سے) رگص کے معنی سیال ارادے کی پختگی اور عزم بلند کے ساتھ اپنے مشن پر رولوں دہاں رہنا ہے۔ یہ کنایہ کی بہترین قسم ہے اس لیے کہ جو شخص بلاشک و تردید اپنے عزم کی تکمیل کے درپے ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں حرکت میں آتے ہیں اور ان کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اس لیے مجازاً اس سے عزم کی پختگی کے معنی مراد لیے جانے لگے۔

چوں کہ عزم کی کمزوری اور ناپختگی ایک طرح کا زنگ ہے جو رُوح کو لگ جاتا ہے اور ایک مرض ہے جو سینہ کو عارض ہوتا ہے۔ اس لیے عزم کی بلندی اور پختگی اس مرض کا علاج اور باعثِ شفا ہے۔ اس کے باعث سینہ اس بیماری سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو حکم دیا،

هَذَا مُعْتَسَلٌ بِأَرْوَاقٍ وَشَرَابٍ ۝ (یہ ہے چسپنہ نمانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے

(سورہ صافات - ۴۷) کے لیے)

ظاہر ہے کہ "هَذَا" کا مشابہہ "رُكْنٌ" ہے جو کہ اُرْكَضُ کے ضمن میں موجود ہے اور جس سے مجازاً عزم کی تکمیل اور پختگی مراد لگنی ہے۔ قرآن کریم کی نظم و ترتیب اور بلاغت کے قواعد کا تقاضا یہی ہے۔ دیگر مفسرین کی یہ بات درست

نہیں کہ ہذا کا اشارہ پانی اور چٹھے کی جانب ہے۔ اس لیے کہ آیت میں ان کا کسی طرح سے بھی ذکر نہیں کیا گیا۔

چوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی تھے اور آپ سے یہی بات متوقع تھی کہ آپ امر خداوندی کی اطاعت کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و جہاد اور نبیل حکم کا صلہ و ثمرہ بھی بتا دیا۔ ارشاد فرمایا،

وَدَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ (اور ہم نے اُن کو ان کا اہل و عیال دیا اور ان کے برابر اُن کے ساتھ)

بقول صاحب مضمون اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے حضرت ایوب کے اہل و عیال کو ہدایت دی اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ اسی طرح اہل و عیال کے علاوہ اتنے ہی اور لوگوں کو بھی ہدایت سے نوازا۔ اس کا کنا یہ ہے کہ ”وَدَهَبْنَا“ (ہم نے عطا کیا) میں عطا کرنے سے پیدا کرنا مراد نہیں بلکہ ان کو رشد و ہدایت سے بہرہ ور کرنا مفہود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں لفظ ”أَهْلُ“ کا استعمال کیا گیا ہے ”ذُرِّيَّتْ دَآوِلَادٍ“ کا نہیں۔

اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء کو ہمیشہ اس بات کی فکر و مانگیگر رہتی ہے کہ لوگ ان پر ایمان لائیں۔ وہ اس بات کے لیے متفکر نہیں ہوتے کہ ان کے یہاں اولاد پیدا ہو۔

صاحب مضمون مزید لکھتا ہے:-

”میرے خیال میں مذکورہ صد آیات کی یہ صحیح تفسیر ہے۔ یہ تفسیر قرآنی قصص حکایات سے ہم آہنگ ہے اور اس کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا تقدس بھی قائم رہتا ہے جو بحیثیت ایک نبی کے اُن کو حاصل ہے۔ بخلاف ازیں سابق مفسرین نے ان آیات کی جو تفسیر کی ہے وہ حضرت ایوب کے مقام نبوت و رسالت کے معنی ہے۔ نیز اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ قرآن کریم نے ایک ایسے واقعہ پر روشنی ڈالی جو بالکل مانند الرقع ہے اور جس میں کوئی حکمت و مصلحت نہیں پائی

جاتی۔ آخر اس واقعہ کے بیان کرنے میں کیا مدد تھی ہے کہ حضرت ابوبہرہؓ بیمار ہوئے پھر انہوں نے دعا مانگی اور بارگاہِ ایزدی سے شفا پائی۔ ایک عامی شخص بھی ایسا واقعہ بیان نہیں کرتا چہ جائیکہ اللہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتے،

(عہدہ الامایان عدد نمبر ۳۳۵۴)

یہ امر کسی شک و شبہ سے بالا ہے کہ صاحب مفسرین کی تفسیر قرآنی بلاغت کے منافی اور اس نظر عقلی اور منبیا در مفہوم کے خلاف ہے جس کو تمام مسلمان عہد صحابہ و تابعین سے لے کر سمجھتے چلے آئے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب ظاہری مفہوم مراد لینے سے کوئی چیز نافع نہیں تو پھر آیات کو مجاز و کنایہ پر کس لیے مائل کیا جائے جن میں صاف کھینچنا تانی اور تکلف نظر آتا ہے۔ بجز اس کے کہ آیات کے مفہوم میں جدت پیدا کی جائے اور قدیم مفسرین پر لعن طعن کیا جائے۔ جنہوں نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جلیل القدر خدمات انجام دی ہیں اور دین اسلام کا دفاع کیا ہے۔

اسلامی حدود کی تاویل؛

دورِ حاضر کے علم مفسرین دین اسلام پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اس کی سزا میں نہایت شدید اور سنگ دلانہ ہیں۔ بنا بریں وہ ایسی آیات کو تاویل کی خزاں پر چڑھا کر ان کا مفہوم تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی قسم کے ایک مفسرین نگار نے ایسی مذموم سعی کی ہے اس کے خیال میں بن آیات میں ایسی سزائیں دی گئی ہیں۔ وہاں امر و حرم کے لیے نہیں بلکہ اباحت کے لیے۔ ہے بقول اس کے صاحب الامر کو اس بات کا اختیار ہے کہ جیسی سزا چاہے دے۔

اب اس کے نظریات ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لکھتا ہے:-

”میں نے مہنت و کوشش سے ”سیاسة الاسبوعية“ میں ایک مفسرین بعنوان ”التشريع المصوى وصلة بالفقہ الاسلامی“ پڑھا۔ یہ مفسرین ایسے نظریات پر مشتمل تھاجن کا اظہار میں عرصہ و راز سے کرنا چاہتا تھا مگر مناسب وقت کا منتظر تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایسے نظریات کے اظہار کے لیے ہنوز فضا سازگار نہیں اس لیے کہ ذہن ابھی تک اجنبی و کا دروازہ

کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عصر حاضر میں اگر کوئی شخص ازمنہ سابقہ کے مجتہدین کی طرح کسی نئی بات کا انکشاف کرتا ہے تو لوگ افسردگی اور سرمہری کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ موجودہ عصر و عہد زیادہ اجتہاد سے بہت دور ہو چکا ہے اور لوگ اب اس سے مانوس نہیں رہے۔ اس لیے آج کل جبراً بھی نئی کبھی جائے گی لوگ اس کو رد کر دیں گے وہ سچائے خود درست ہی کیوں نہ ہو بلکہ لوگ ایسی رائے دینے والے کو ہفت تنقید بناتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں مجتہدانہ ذہن رکھنے والے شخص کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ یا تو ایسے نظریات کو پریشیہ رکھیے اور یا ایسے نوزوں کے سامنے ان کا اظہار کرے جن سے ضرر رسانی کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ بھی اسی کا ثمرہ ہے کہ دین و دنیا کے حق میں بہت سے مفید نظریات ایسے ہیں جن کا اظہار اسی خطرہ کے پیش نظر نہیں کیا جاتا اور لوگ ان کی انادیت سے محروم رہ جاتے ہیں۔

مقالہ نگار مزید لکھتا ہے:

”اس ضمن میں قابلِ غور یہ بات ہے کہ حد و نغزیرات کے سلسلہ میں جو نصوص وارد ہوئی ہیں ان کا ازسر نو جائزہ لیا جائے اور بہت دنظر کے بعد ان کے مندرجات کا مفہم متعین کیا جائے۔ چنانچہ ذیل میں متعلقہ آیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔

حد سرقہ:

سرقہ کے بارے میں فرمایا:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
 آيِدِيَهُمَا - (المائدہ - 5 - 38)

(چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو)

حد زنا:

زنا کی حد ان الفاظ میں بیان فرمائی:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
 مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ -

(زنا کرنے والی عورت اور مرد ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑا مارو)

(النور - 2)

سابقہ الذکر و نزل آیات میں ”فَاجْلِدُوا“ اور ”فَاجْلِدُوا“ ہیئتاً امر و جوب کے لیے

نہیں بلکہ اباحت کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سزا فرض واجب کے درجہ میں نہیں بلکہ حاکم وقت اگر چاہے تو وہ ایسی سزا دینے کا شرعاً مجاز ہے اور اس کی دلیل مندرجہ ذیل آیت ہے۔
قرآن کریم میں فرمایا:

يَلْبَسُونَ اَدَمَ مَخْدُوًا ذِيْنَ تَلَمَّكُمْ عِنْدَ
كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلِّ وَاوَاثِنٍ جَاذِلًا
تُسْمِيْنَ خُرًا - (الاحزاب - ۳۱) (کرد)

ظاہر ہے کہ اس آیت میں امر کے صیغے ”خَدُّوْا“ ”كُلُّوْا“ اور ”وَأَشْرِكُوا“ وجوب کے لیے نہیں بلکہ محض اباحت کے لیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ”فَأَقْطَعُوا“ کے پیش نظر چوڑی کی سزا قطع پر ایک فریضہ کی حیثیت نہیں رکھتی جس میں کسی کی بیشی کا احتمال نہ ہو اور ہر چوڑی کی سزا صرف ہاتھ کاٹنے ہی کی صورت میں دی جاسکے۔ بخلاف ازیں قطع پر وہ انتہائی سزا ہے جو سرقہ کے جرم میں دی جاسکتی۔ بے ادھر چوڑی کی بعض صورتوں میں اس سے انحراف کر کے حاکم وقت اگر چاہے تو اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ مگر یا اس سزا کو وہی حیثیت حاصل ہے جو عام مباحات کی ہوتی ہے اور حاکم وقت حسب موقع و مقام جیسی سزا چاہے دے سکتا ہے۔

حد زنا کا بھی یہی حال ہے خواہ اس کی سزا رجم ہو یا جلد (کوڑے مارنا)۔ اس ضمن میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ خوارج رجم کو تسلیم نہیں کرتے کیوں کہ قرآن میں صراحتاً اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ایسی شدید سزائوں پر یقین رکھنا ایک ایسی غلطی ہے جو اسلامی قانون کو تسلیم کرنے میں سنگ راہ ہے۔ پھر ایسی رکاوٹ کو راستہ سے ہٹا کیوں نہ دیا جائے، خصوصاً جب کہ ایسا کرنے سے ہم نہ کسی نفس شرعی کے منکر ہونے اور نہ کسی حد شرعی کو لغو قرار دینے کا ارتکاب کریں گے۔ ہم اگر کچھ کریں گے تو صرف یہ کہ سزا کے مقابلے میں وسعت و سہولت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو اسلام کا اصل منشا ہے۔ شریعت اسلامیہ کا خصوصی امتیاز ہی یہ ہے کہ یہ سہل و آسان ہونے کے باعث ہر تاریخی دور کا ساتھ دینے کے قابل ہے۔ دین اسلام ہر موقع پر عسر کے مقابلے میں یسر کو اور شدت کے عوض آسانی اور رغبت کو ترجیح دیتا ہے،

(السیاسة الاسبقیة ص ۴ شمارہ ششم ۲۰ فروری ۱۹۳۷ء)

مندرجہ ذیل دستور سے یہ تحقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ مقالہ نگار کتاب اللہ کی شرح و تفسیر میں کس جہت اور بے باکی سے کام لے رہا ہے۔ اس نے زنا اور سرقہ میں وارد شدہ آیات کی جزئیات کی ہے وہ کسی نوع بھی قابل قبول نہیں۔ جو شخص بھی ان آیات کو دیکھتا ہے وہ ان سے یہی مفہوم مراد لیتا ہے کہ ان میں جو حکم دیا گیا ہے وہ وجوب کے لیے ہے اور اس سے عدول و انحراف کا کوئی احتمال سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔

دو نزل آیتوں میں ”فَاَنْطَلَعُوا“ اور ”فَاَجْلِدُوْا“ کے صیغہ ہائے امر قطعی وجوب کے لیے ہیں اس لیے کہ قطع ید کا حکم سارق ہرنے کی بنا پر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جلد (کوڑے مارنے) کی سزا کا تعلق ”الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي“ کے ساتھ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میل و جوب کو نظر انداز کر کے امر کو اباحت پر محمول نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جب کسی ایسے شخص کے بارے میں فیصلہ صادر کیا جائے جو کسی صفت کے ساتھ متصف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ اسی صفت کی بنا پر کیا گیا ہے جو اس شخص میں موجود ہے۔ اور جب اس صفت کی نوعیت ایک جرم ہی کی ہر جیسے سرقہ و زنا اور شامع نے اس کے بارے میں امر کے صیغہ کے ساتھ حکم دیا ہو اور وہاں دوسرا کوئی حکم مذکور نہ ہو تو اس کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ وہاں حکم اباحت کے لیے دیا گیا ہے۔ لہذا اس کو آیت ”حٰذِرُوْا زِيْنَةَ السُّعْرِ“ پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔

مزید براں آیت سرقہ میں یہ الفاظ:

جَزَاءًۢ بِمَا كَسَبَا۔
(یہ ان کے کئے کا بدلہ ہے)

اور زنا سے متعلق آیت کے الفاظ:

وَلَا تَأْتِيَنَّكُمْ بِهٖمَا دَآئِمَةٌۭ مِّنِّيْ
(اور اللہ کے دین کے سلسلہ میں تمہیں ان

دو نزل پر رحم نہ آجائے۔
رَبِّيْنَ اللّٰهُ۔

نیز یہ ارشاد کہ:

وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
(اور ان دو نزل کی سزا کے وقت مومنوں کی

ایک جماعت حاضر ہوگی۔
مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

یہ الفاظ اس حقیقت کی اُمنینہ داری کرتے ہیں کہ دونوں آیتوں میں حکم و وجوب کے لیے دیا گیا ہے اباحت کے لیے نہیں۔ علاوہ انہیں سرورہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ قلبی و عملی سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ دونوں آیتوں میں امر و وجوب کے لیے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان شواہد و دلائل کی موجودگی میں شرعی سزاؤں پر مشتمل آیات کی ایسی تاویل کرنا جو عربی لغت، حدیثِ ہرمی اور شرعی حکمت و مصلحت کے منافی ہو کس قدر عظیم جبارت ہے۔ یہ بات پیش نظر ہے کہ علمائے حق ایسے لحد مفسرین کی کادشروں سے غافل نہیں رہتے بلکہ انہوں نے اس کا زبردست نوٹس لیا اور ان کی تردید و البطلان کا کوئی دقیقہ فرگذاہنت نہیں کیا۔ چنانچہ سابق الذکر لحد مفسر کی تنقید کے سلسلہ میں جن لوگوں نے فہم اُٹھایا ان میں علامہ محمد حشر حسین کا اسم گرامی قابل ذکر ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے مجد الحدیث الاسلامیہ شمارہ ہفتم جلد نہم مارچ ۱۹۳۷ء)

علاوہ انہیں جامعہ ازہر قاہرہ کے منتظمین اس مقالہ سے سخت برہم ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ ایسے نظریات دینِ اسلام کے لیے نہایت ضرورہ سال میں۔ چنانچہ مقالہ نگار کو اس جرم میں سزا دی گئی۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایسے فاسد نظریات نے علماء کے خیال قبولِ عام حاصل نہیں کیا تھا۔

فلسفہ گزیدہ مفسرین:

علاوہ انہیں کہہ مفسرین ایسے بھی تھے جنہوں نے فلسفیانہ افکار کے زیر اثر دین کے ثابت شدہ حقائق سے انکار کیا اور ان کی اس انداز میں تاویل کی جس سے وہ فلاسفہ کے خیالات سے ہم آہنگ و یک رنگ ہو سکیں۔ چنانچہ وہ شیطان کو ایک حقیقت ثابتہ کے طور پر تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کی تاویل کرتے ہیں۔

جن و شیطان سے انکار:

قرآن عزیز میں فرمایا:

(وہ تو شیطان مکرش ہی کہ پکارتے ہیں)

وَإِنَّ يَدُ عَزْرَانَ الْإِشْطِطَانَا

(النار۔ ۱۱۷)

فَرَّيْدًا -

مفسر مذکور رقم طراز ہے :-

”مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے شرک کا ارتکاب کرتے وقت عقل و فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا بلکہ اس شرک کے پیروکار بن گئے جو سنتِ ربانی کے مطابق بندوں کی آزمائش کے لیے پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس طرح یہ لوگ ایک تغیرِ قدرت کی پیروی کرنے لگے جس کو ”شیطان“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عربوں کی قدیم عادت ہے کہ وہ شرک کے عوامل و محرکات کو ایسے شیطاں تصور کرتے تھے، جو لوگوں کے ساتھ سرگوشی کر کے ان کو بے راہ روی پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہی وہ شیطان ہے جس کی دعوت پر مشرکین لبیک کہتے تھے“

(مجلد الایمان سال پنجم شمارہ نمبر ۲۱-ص ۱۱)

یہ امر باعثِ حیرت ہے کہ مفسر مذکور اس امر کو مطلقاً پیش نظر نہیں رکھتا کہ سابق الذکر آیات کا سیاق و سباق کیا ہے؟ جو قرآن داتا اس کے گرد و پیش میں ہیں وہ کس بات کے مقتضی ہیں؟ اور ان صفات کو کہاں لے جائیں گے جو آیات میں مذکور ہیں اور وہ ایلیس کے سوا اور کسی چیز یا شخص میں نہیں پائی جاتیں؟ اس پر مزید یہ کہ ان احادیث کا کیا جواب ہوگا جو کتب صحاح میں مروی ہیں اور جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان سے ایلیس کی شخصیت مراد ہے جو خارج میں موجود ہے مگر لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہے؟

عصر حاضر کے بعض فلسفہ زدہ مفسرین جنات کے منکر ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں جن کا لفظ وارد ہوا ہے وہ اس کی تاویل کرتے ہیں :

قرآن کریم میں ارشاد ہوا :

قُلْ أَدْعُو إِلَىٰ آتِهِ أَتَمَّ نَعْرًا
مِنَ الْجِنِّ۔ (سورۃ الجن-۱۰) کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔

مفسر مذکور کا کہنا یہ ہے کہ جن ایک عربی قبیلے کا نام ہے۔

(مجلد المدلیۃ الاسلامیۃ جلد ۱، مشتم عدد ۱۱)

یہ تاویل بلا دلیل ہونے کے علاوہ قرآن کی آیات صریحہ کے منافی ہے۔

منکر حدیث کی تفسیری کا لاشعش :

مذکورہ صدر اصحاب کے علاوہ پیرانہ سالی کے عالم میں ایک گرامانہ عقائد کے حامل شخص کے سر میں تفسیر قرآن کا سودا جو سما یا تو انہیں نے "المدائتہ والعرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن" نامی کتاب میں اپنے ادھام و دسوس کو جمع کر دیا۔ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ جامعہ ازھر تاھرہ کے ارباب حل و عقد میں بے تابی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کتاب کی جانچ پڑھ کے لیے علماء کی ایک کمیٹی کا تقرر عمل میں آیا۔ اس کمیٹی نے شیخ الازھر کی خدمت میں جو رپورٹ پیش کی اس میں تحریر کیا کہ یہ شخص جھوٹا اور بہتان طراز ہے۔ اس کا واحد مقصد شہرت حاصل کرنا تھا جو کسی طرح پورا نہ ہوتا تھا۔ آخر اس نے یہ جیلہ سوچا کہ الحاد فی الدین اور تحریف قرآن کے ذریعہ اس مقصد کو حاصل کیا جائے۔ یہ کتاب شائع ہوئی اور فوراً ہی لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی۔

اسی ضمن میں قرآن کہتا ہے کہ :

رَفَاةَ الرَّبِّدِ بَيْنَهُ جَفَاءً وَتَأْتَا
مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

جھاگ رخصت ہو جاتی ہے اور لوگوں کو
فائدہ دینے والی چیز باقی رہتی ہے۔

اس کمیٹی کی مرتبہ رپورٹ عام لوگوں نے مطالعہ کی اور اس کی اساس پر کتاب کی اشاعت

روک دی گئی۔

ذیل میں کتاب کا مختص اور لب لباب پیش کیا جاتا ہے۔

مفسرین پر نقد و جرح :

مؤلف نے اس کتاب کا ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں تمام مفسرین اور تفاسیر پر بلا استثناء نقد و جرح کی ہے۔ بقول اس کے تفاسیر میں حشو و زوائد کی بھر مار ہے۔ اس کی حد یہ ہے کہ کوئی قرآنی اصل و قاعدہ ایسا نہیں جس کی تردید کے لیے کوئی موضوع روایت موجود نہ ہو مفسرین نے غیر شعوری طور پر اپنی تفاسیر کو اس قسم کی روایات سے بھر دیا ہے۔

(کتاب مذکور ص (ب))

انداز تفسیر :- مؤلف مزید لکھتا ہے :

”متقدمین کی تفاسیر میں جو غیر ضروری بھرتی کی گئی ہے وہ میرے لیے اس امر کی محرک ہوئی کہ میں ایک تفسیر مرتب کروں جس میں قرآنی الفاظ کی شرح و تفسیر قرآن کریم ہی کی مدد سے کی جائے۔ فرمان باری بھی یہی ہے کہ قرآن اپنی تفسیر آپ ہے اس کے لیے خارجی امداد کی کچھ ضرورت نہیں۔ البتہ میں نے فطری مناظر و مشاہد سے استدلال ضرور کیا ہے۔ تفسیر کرتے وقت میں نے قرآنی آیات کی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے۔ تاکہ جو شخص کسی آیت کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہونا چاہتا ہو۔ وہ آیت کے سیاق و سباق کو ملاحظہ کر سکے اور اسے پورا پورا علم حاصل ہو۔

(کتاب مذکور)

قارئین کرام سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ مولف مذکور کا یہ قول کہ ”تفسیر قرآن کے سلسلہ میں خارجی مدد کی کچھ ضرورت نہیں“ اس سے حدیث نبوی کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے۔ گویا مولف یہ کہتا ہے کہ تفسیر قرآن کے ضمن میں حدیث نبوی سے مدد لینے کی کچھ ضرورت نہیں حالانکہ ارشاد خداوندی یہ ہے کہ :

”وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ“
اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ
جو چیز ان کے لیے اتاری گئی ہے، آپ
اُس کی وضاحت فرمادیں۔
(النحل - ۴۴)

مندرجہ صدد آیت کریمہ سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث نبوی قرآن کریم کے اولین ترجمان اور مفسر ہیں :

جس طرح مولف مذکور اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ حدیث نبوی قرآن کریم کی شائع و مفسر ہے اسی طرح وہ حدیث کے اس مرتبہ و مقام کا بھی قائل نہیں جو اسے اسلامی قانون میں حاصل ہے۔
قرآن حکیم میں فرمایا :

”فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ
أَمْرِ رَبِّهِمْ أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ“ (النور ۳)

جو لوگ ان (نبی کریم) کے حکم کی خلاف ورزی
کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا
چاہیے کہ وہ فتنہ کی لپیٹ میں آجائیں یا دردناک

عذاب میں مبتلا ہوں۔

مولف مذکور اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے :

”اس آیت میں ایسی مخالفت سے منع کیا گیا ہے جو آپ کی حکم عدولی کی موجب ہو۔ اگر مخالفت رائے و مصلحت کی بنا پر ہو تو یہ منع نہیں بلکہ شہورائی حکمت میں شامل ہے“

(تفسیر مذکور، ص ۲۸۱)

مولف کا یہ بیان اس امر کی آئینہ داری کرتا ہے کہ اس کے نزدیک مصلحت کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی جاسکتی ہے۔ حالانکہ یہ بات مندرجہ ذیل آیت کے خلاف ہے۔

ارشاد فرمایا :-

رَدِّمَّا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو اور جس بات سے منع کرے اس سے رُک جاؤ۔

اور دیگر آیات جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وجوب مستفاد ہوتا ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہیں کہ حضور اکرم کی مخالفت میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟

اس کتاب کے مندرجات کی تفصیلات بیان کر کے ہم قارئین کو پریشان نہیں کرنا چاہتے البتہ کتاب کا خلاصہ پیش کر کے اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ مولف مذکور صرف محسوسات کو تسلیم کرتا ہے۔ اور غیبی حقائق پر ایمان نہیں رکھتا۔ قرآن کریم میں بیان کردہ اخبار و واقعات اس کے نزدیک قابل یقین نہیں ہیں۔ وہ ان احکام کا منکر ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور جن پر صحابہ کرام اور آئمہ اہل اسلام کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔

معجزات انبیاء سے انکار :

اس شخص نے معجزات انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ عجیب و غریب موقف اختیار کیا ہے۔ کہ وہ اس طریق سے ان کی تائید کرتا ہے۔ جس سے ان کا ایسے ممکنات کے قبیل سے ہونا لازم آتا ہے جن کو ہر انسان سہولت انجام دے سکتا ہو۔ قطع نظر اس سے کہ وہ رسول ہو یا نہ ہو درحقیقت یہ معجزات سے انکار کی ایک نہایت عجیب قسم ہے۔ اور وہ اکثر جگہ اس کی تصریح بھی

کرتا ہے۔

مؤلف مذکور کے مندرجہ ذیل بیانات ملاحظہ ہوں۔ وہ لکھتا ہے۔

(۱) انبیاء کی امداد کے سلسلہ میں جن نشانیوں کا ان پر ظہور ہوتا ہے وہ تو انہیں قدرت کے خلاف نہیں ہوتیں۔ (صفحہ ۱۶۱)

(۲) اللہ تعالیٰ پیکار پیکار کر رہا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ نبی و رسول اپنے دعویٰ نبوت کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اپنی سیرت کے سوا کوئی اور نشانی بھی پیش کرے گا۔ (صفحہ ۲۹۰)

(۳) انبیاء اپنے دعویٰ کی تصدیق میں جو دلائل و براہین پیش کرتے تھے وہ ان کی سیرت کے سوا کچھ اور نہ تھے۔ بجز اس کے کوئی اور نشانی پیش کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ (صفحہ ۲۹۷)

(۴) انبیاء کے دعویٰ نبوت کی صداقت صرف ان کی حسن سیرت سے واضح ہوتی ہے۔ انبیاء اپنے دعویٰ کی تصدیق میں ایسی نشانیاں پیش نہیں کرتے تھے جو غیر عقلی اور تو انہیں قدرت کے خلاف ہوں۔ (صفحہ ۳۰۶)

معجزات حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس کا زاویہ نگاہ :

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا :-

إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّيكُمْ
إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ
الطَّيْرِ فَأَنْفَعُ فِيهِ فَيَكُونُ كَلِمًا
يَأْذِنُ اللَّهُ وَأُبْرِئُ لَكُمْ وَالْأَبْصَرِ
وَأُحْيِي الْمَوْتَى يَأْذِنُ اللَّهُ

میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے
یہ نشانی لایا ہوں کہ میں مٹی کا ایک پتلا تیار
کرتا ہوں پھر اس میں پھونکتا ہوں اور
وہ اللہ کے حکم سے پرنذہ بن جاتا ہے میں
خدا کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑھی
کو چنگا بھلا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ

(آل عمران - ۴۹)

کرتا ہوں۔

مؤلف مذکور لکھتا ہے :

اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو شخص جسمانی طور پر مردہ ہو چکا ہو حضرت عیسیٰ اس کو زندہ

کر دیا کرتے تھے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ دینی ہدایت سے بہرہ ور کر کے حضرت عیسیٰ ان کو روحانی زندگی عطا کرتے تھے اسی طرح تینلا بنانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ ان کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی سے منور کرتے اور اس طرح ان میں پرندے کی سی بلندہ پروازی پیدا کر دیتے تھے“ (کتاب مذکور۔ ص ۴۵)

وہ مزید لکھتا ہے :

”اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جانب اس لیے مبعوث کیا تھا کہ ان کے نفوس کو روحانی امراض سے شفا بخشنے اور ان کے دلوں کو زندہ کریں۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ صرف ان کی پاکیزہ سیرت اور رشد و ہدایت کی دعوت ہے، دگر ہیچ جس طرح سب انبیاء بشر تھے اور وہ اپنے اپنے وقت پر موت سے ہمکنار ہوئے اسی طرح عیسیٰ بھی فوت ہو گئے۔ اس لیے ان سے کسی خارق عادت امر کا ظہور نہیں ہوا جس کی بنا پر ان کو الزقارہ دیا جائے اور ان کی عبادت کی جائے۔“ (کتاب مذکور۔ ص ۹۷)

تکلم فی المہد سے انکار :

حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا :

ذَرِكَلِمَةَ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
 (آل عمران - ۴۶)

اور وہ (حضرت عیسیٰ) بچپن سے ہی لوگوں سے گفتگو کریں گے اور ادھیڑ عمر میں۔

مولف مذکور لکھتا ہے :

”مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابتدائی زندگی ہی میں بڑے نڈر اور جری ہوں گے۔ اسی طرح بڑھاپے کو پہنچ کر بھی ان کے عزم و ہمت میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ عیسیٰ بڑے منکسر مزاج ہوں گے اور ہر چھوٹے بڑے سے مل کر اپنی دعوت پیش کریں گے“ (صفحہ ۴۴)

قرآن کریم میں فرمایا :-

”فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُنْكَلُهُ“ (اور اس (مریم) نے عیسیٰ کی طرف اشارہ

مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا» کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا جو بچہ

(سورہ مریم - ۲۹) ابھی بنگوڑے میں ہم اس سے کیسے بات کریں

آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب عیسیٰ تولد ہوئے تو قوم کے لوگ ازراہ تعجب پوچھنے لگے کہ کنواری مریم کے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوا؟ حضرت مریم نے یہ سن کر عیسیٰ کی جانب اشارہ کیا کہ انہی سے پوچھ لو، اصل قصہ کیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ عیسیٰ تو ابھی بنگوڑے میں ہے۔ ایسے کم عمر بچے سے ہم کیا دریافت کر سکتے ہیں۔

مولف مذکور لکھتا ہے :-

”آیت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو عیسیٰ عالم طفولیت میں ہے اور ہم قوم کے سردار ہیں

لہذا یہ ہمیں شریعت کی راہ کیسے بتا سکتا ہے؟ بنا بریں یہ ولد الاحرام ہے“ (صفحہ ۲۳۹)

حضرت موسیٰ کے معجزات سے انکار:

قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ بیان کیا گیا ہے کہ:

وَاِنْ اَضْرَبْتَ بِعَصَاكَ الْجَبْرَ ۙ

فَاَنْجَسَتْ مِنْهُ اَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۙ

اپنا عصا پتھر پر مارے (جب انہوں نے مارا، تو بارہ چشمے پھوٹ پڑے)

مولف حضرت موسیٰ کے اس معجزے کو تسلیم نہیں کرتا کہ پتھر پر عصا مارنے سے پانی کے بارہ

چشمے پھوٹ پڑے۔

وہ لکھتا ہے :-

”ممکن ہے کہ پتھر (پتھر) کسی جگہ کا نام ہو اور پتھر پر عصا مارنے کے معنی یہ ہیں کہ وہاں

جائیے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بتا دی جہاں پانی کے چشمے موجود تھے“

(صفحہ ۱۳۱)

خداوند کریم نے حضرت موسیٰ کے اس معجزے پر روشنی ڈالی کہ جب آپ نے حکم خداوند

دیا پر اپنا عصا مارا تو پانی پھوٹ کر دو الگ الگ پہاڑ بن گئے اور حضرت موسیٰ نبی اسرائیل سمیت

اس میں سے گزر گئے۔

ارشاد فرمایا :

فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اضْرِبْ
بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَاَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ
ذَرِيَةٍ كَالطُّورِ الْعَظِيمِ۔
ہم نے حضرت موسیٰ پر وحی اتاری کہ اپنا عصا دریا
پر اڑیے پس وہ پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایک بڑے
پہاڑی طرح ہو گیا۔
(الشعراء - ۶۳)

موقف مذکور کھٹنا ہے :

”البحر بہت زیادہ پانی کو کتے ہیں اور“ اضرب بعصاك البحر “ کے معنی یہ ہیں کہ
دہاں اپنے عصا سمیت جا ئیے “ فأنفلق فكان “ کے الفاظ میں دریا کی حالت
پر روشنی ڈالی مطلب یہ ہے کہ دریا کے بعض حصے پہلے سے خشک تھے۔ اور اس
میں سے آدمی بسولت گزر سکتا ہے “ (ص ۲۹۰)
قرآن کریم میں ارشاد ہے :

”فَالْقَصَاةُ بِاِذَاٰهِي تُعْبَاكُ
مُبْسِيحٌ - وَتَوْرَعُ يَدَاۥ فَاِذَاٰهِي
بِيَعْنَاۥ لِّلنَّظْرِ يَنْ۔“
پس اس (موسیٰ) نے اپنا عصا پھینک دیا۔
اور وہ ایک سانپ تھا ظاہر۔ اور اپنا ہاتھ
کھینچا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید
تھا۔
(اعراف - ۱۰۷ - ۱۰۸)

ان آیات میں حضرت موسیٰ کے دو معجزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کا عصا سانپ
بن گیا۔ اور دوسرا معجزہ یہ کہ آپ کا ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے نہایت سفید اور چمکدار تھا۔
موقف مذکور ان دونوں معجزات کو تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ
حضرت موسیٰ حجت و برہان کے اعتبار سے غالب آئے۔ (ص ۱۲۶)

حضرت ابراہیم کے معجزہ سے انکار :

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزہ کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو آگ میں
پھینکا گیا تو حکم خداوندی وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور آپ صحیح و سالم اس میں سے نکل آئے۔
ارشاد فرمایا :

”وَقُلْنَا يَا اِنْسُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا
ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پٹھنڈی

علیٰ ابراہیدہ (الانبیاء - ۶۹) اور سلامتی والی ہو جا۔

مگر مؤلف مذکور اس کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے سے بچایا اور وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے۔ (صفحہ ۲۵۶)

معراج النبی سے انکار :

خداوند کریم نے مندرجہ ذیل آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی پر روشنی

ڈالی ہے۔

ارشاد فرمایا :

”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ
لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى“ (سورة الاسراء)

وہ اللہ ہی کی پاک ذات ہے جس نے اپنے
بند سے کورات میں سیر کرائی مسجد حرام سے
لے کر مسجد اقصیٰ تک۔

مگر مؤلف مذکور اس کو تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اسراء سے انبیاء کی ہجرت مراد ہے
بقول اس کے یہ لفظ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ہجرت انبیاء کے مفہوم میں استعمال کیا
گیا ہے۔ اس کا کننا یہ ہے کہ ”المسجد الاقصیٰ“ سے مسجد نبوی مراد ہے۔ اس لیے کہ وہ کعبہ سے کافی
مساافت پر واقع ہے۔ بدین وجہ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو خانہ کعبہ سے
مسجد نبوی یعنی مدینہ منورہ تک ہجرت کرائی۔ (صفحہ ۲۱۹)

ملائکہ جن اور شیطان سے انکار :

مؤلف مذکور ملائکہ جن اور شیطان کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ ان کی تاویل کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے :
”ملائکہ سے نظام عالم مراد ہے اور اس کے انسان کو سجدہ کرنے کے یہ معنی ہیں
کہ سب کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ ابلیس سے ہر وہ شخص مراد
ہے جو ازراہ کبر و غرور حق کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ لفظ شیطان اور جان بھی اسی کے تابع
ہے۔ یہ ایسی قسم ہے جس کو انسان مسخر نہیں کر سکتا“ (کتاب مذکور ص ۱۷)

شرعی حدود سے انکار :

مؤلف حسب مرضی شرعی احکام پر مشتمل آیات کی تاویل منشا ئے النبی قواعید لغت اور

اصول شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انجام دیتا ہے۔
چنانچہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ستر کی شرعی سزا قطع ید ہے اور زانی کو سنگسار کرنا چاہیے۔ — وہ لکھتا ہے۔

”الساوق کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص چوری کا عادی مجرم ہو۔ جو شخص کبھی کبھار چوری کا مرتکب ہو وہ ساوق نہیں لہذا اس کو قطع ید کی سزا نہیں دی جاسکتی۔ اسی طرح ”ازانی“ وہ مرد یا عورت ہے جو زنا کاری کا عادی ہو۔ لہذا جلد کی سزا اسی قسم کے مرد و عورت کو دی جائے گی“ (کتاب مذکور، ص ۲۷۴)

تعدد و ازدواج :

مولف تعدد و ازدواج کو جائز قرار نہیں دیتا۔ — وہ لکھتا ہے :-
”آیت کریمہ ”فانکحوا ما طاب لکم من النساء“ میں النساء سے یتیم لڑکیاں مراد ہیں۔ اس لیے کہ آیت میں انہی کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ ان سے نکاح کرنے میں یہ ماننا ہے کہ اس طرح ان کا مال محفوظ رہے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعدد و ازدواج کی اجازت صرف اسی صورت میں دی گئی ہے جب کہ عدل کی شرط پائی جاتی ہو اور زیادہ بیویوں کو نکاح میں لانا معاشرہ کے لیے ایک بیوی کو نکاح میں رکھنے کی نسبت مفید تر ہو۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ تعدد و ازدواج کی اجازت صرف اسی آیت میں دی گئی ہے اور وہ بھی عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ“ (کتاب مذکور، ص ۶۱)

مولف مذکور دراصل یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ تعدد و ازدواج کی اجازت صرف یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے تک محدود ہے۔ اور وہ بھی اسی صورت میں جب کہ ظلم و جور کا خطرہ دامن گیر نہ ہو۔ جو شخص بھی مذکورہ صدر آیت کے سبب زوال سے آگاہ ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ تعدد و ازدواج کے لیے اس شرط کا عائد کرنا کسی طرح بھی درست نہیں۔

رہا :

مولف کا زاہدہ نگاہ یہ ہے کہ سود اسی صورت میں حرام ہے جب اس کی شرح حد سے بڑھی ہوئی ہو۔ اگر سود کا نرخ دشریح حد اعتدال کے اندر ہو تو اس کے لینے دینے میں کوئی حرج نہیں

اس کی دلیل میں وہ یہ آیت پیش کرتا ہے — ارشاد فرمایا :-

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
الْمَالَ بَيْنَكُمْ سُدًّا كَمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ»

نیز فرمایا :

«ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا»

باقی ماندہ سود چھوڑ دو۔

مولف لکھتا ہے :

”ربا اس قسم کو کہتے ہیں جو اصلی سرمایہ سے زائد وصول کی جائے، اس کی حرمت کی شرط اس آیت میں بیان فرمادی کہ ”کئی کئی گنا سود مت کھاؤ“ پھر یہ بھی فرمایا کہ ”جو سود بیچ گیا ہے وہ معاف کر دو“ نیز یہ کہ ”اگر مقررہ تنگ دست ہو تو اسے مصلحت دو“ پوری آیت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ سود لینے سے احتراز کیا جائے قبل ازیں جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہے ”فَلَمْ يَسْأَلْ“ سود کی حرمت کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہے جب ”أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً“ یعنی سوو کی رقم اصل راس المال سے بھی بڑھ جائے ورنہ نہیں“ (کتاب مذکور ص ۵۳)

کھیتی کی زکوٰۃ :

مولف کے نزدیک سبز کھیتی چارے اور سبزیوں میں سے زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ یہ ایسا مسلک ہے جو مجتہدین میں سے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا۔ غلہ کی زکوٰۃ کے بارے میں مولف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں۔ غلہ کم ہو یا زیادہ۔ اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ عتوف احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ اس کی دلیل میں وہ مندرجہ ذیل آیت قرآنی پیش کرتا ہے۔

ارشاد فرمایا :

«وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»

اور فصل کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کیجئے

(الانعام - ۱۴۱)

مولف مذکور لکھتا ہے :

”اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے جو پیداوار حاصل ہو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح زمیندار کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اس طرح حاکم وقت کو اس کے وصول کرنے کی ہدایت کی۔ مگر اس کا کوئی اندازہ نہیں بتایا کہ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہو۔ اس کو امت کے لیے کھلا چھوڑ دیا کہ وہ حسب موقع و مقام جس قدر ضروری سمجھے ادا کرے“ (ص ۱۱۳)

مولف کا یہ بیان سخت گمراہ کن ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی زکوٰۃ کی شرح مقرر کر دی ہے تو امت کو اس میں کیا اختیار باقی رہا۔

زکوٰۃ کے جو مصارف قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ”رَفِي الْوَكَايِبِ“ یعنی غلاموں کا آزاد کرانا بھی ہے۔ مولف لکھتا ہے کہ اکثر اسلامی ممالک آج کل دوسری قوموں کے غلام ہیں۔ لہذا ان کو اختیار کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاسکتا ہے

طلاق :

طلاق کے بارے میں مولف کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ یہ نہایت ناگزیر حالت میں دی جا سکتی ہے۔ خصوصاً اس وقت جب طلاق دیے بغیر معاشرہ کا نظم و ضبط قائم نہ رہ سکتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ طلاق کی تحریک عورت کی جانب سے ہونی چاہیے۔

یہ کتاب کے چیدہ چیدہ عنوانات کا خلاصہ ہے۔ درنہ اس نام نہاد تفسیر میں علاوہ ازیں ایسا مواد بکثرت موجود ہے جس سے مولف کی جمالت و ضلالت کا پردہ چاک ہوتا ہے۔ ہمارے پیش نظر یہاں اس کتاب کی مفصل تردید نہیں بلکہ نازمین پر اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ موجودہ عصر و عہد میں تفسیر قرآن کا ایک لمحہ نا انداز یہ بھی ہے جو صاحب تفسیر کی تردید کے شائق ہوں۔ وہ اس رپورٹ کو ملاحظہ کریں جو علماء کی اس کمیٹی نے پیش کی تھی جو اس تفسیر کی جانچ پرکھ کے لیے مہدی حکومت نے مقرر کی تھی۔

(مجلہ نور الاسلام جلد دوم، شمارہ نمبر ۲-۳ - جامعہ ازہر ۱۳۵ھ)

عصر حاضر میں تفسیر کا ادبی و اجتماعی اسلوب

عصر حاضر میں تفسیر کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ اب اس میں ادبی و اجتماعی طرز و انداز کی جھلک نظر آنے لگی ہے تفسیر کا وہ پرانا اور خشک رنگ ڈھنگ جو فرم قرآن میں سدراہ مختار نصت ہوا۔ اور اس کا جگہ ایک نئے انداز تفسیر نے لے لی جس پر جدت کی چھاپ نمایاں تھی۔ اس طرز تفسیر کا طرہ امتیاز یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن عظیم کے ان مقامات کی نشاندہی کی جائے جن میں وقت تعبیر اور عمق فکر و نظر سے کام لیا گیا ہے۔ اس کے بعد نہایت پرکشش انداز میں ان مطالب و معانی پر اظہار خیال کیا جائے جو قرآن کا اصلی مقصود اور نصب العین ہیں۔ پھر کائنات کے اجتماعی و عمرانی مسائل پر قرآنی نصوص سے استشاد و انطباق کیا جائے۔

شیخ محمد عبدہ اور ان کا تفسیری مکتب فکر:

جب یہ بات درست ہے کہ عصر حاضر کا یہ تفسیری انداز بالکل اچھوتا اور زلا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کا سہرا عصر حاضر کے مفسرین کے سر ہے۔ تو ہم اس امر کے اظہار و بیان میں کچھ باک نہیں سمجھتے کہ یہ سب کچھ امام شیخ محمد عبدہ کے تفسیری مکتب فکر کا مرہونِ منت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مکتب تفسیر کے بانی نے اور ان کے بعد ان کے اصحاب تلامذہ نے قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلہ میں حد درجہ محنت و کادوش سے کام لیا تھا۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس تفسیری مکتب فکر کا پروردگار ہمارے نزدیک قابل مدح و توصیف ہے۔ بخلاف ازیں اس کا اکثر ذخیرہ ہماری رائے میں لائق ستائش اور نہایت کم حصہ نام قابل قبول ہے۔

اس مکتب کے محاسن:

شیخ محمد عبدہ کے تفسیری مکتب فکر کی خصوصیات حسب ذیل ہیں:

(۱) اس مکتب تفسیر کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کو کسی خاص فقہی مسلک کے پیش نظر نہیں دیکھا گیا۔ حالانکہ سابق مفسرین میں سے اکثر نے قرآن کریم کو ایک خاص امام کے مقلد ہونے کے اعتبار سے دیکھا ہے۔ جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ گویا قرآن اس

مخصوص تفسی مسلک کے تابع ہے۔ اس امر کی اتہائی کوشش کی جاتی تھی کہ قرآن کریم کو توڑ مروڑ کر اس مخصوص امام کے نظریات سے ہم آہنگ کیا جائے۔ اگرچہ یہ تاویل کتنی ہی مہنی بڑ تکلف اور بعد از قیاس کیوں نہ ہو۔

(۲) اس مکتب تفسیر کے حاملین نے اسرائیلی روایات کو جوڑ کاتوں قبول نہیں کیا تھا۔ بلکہ ایک ناقدانہ نگاہ ڈال کر ان کی چھان پھینک کی اور اچھی طرح سے ان کو جانچا پرکھا۔ حالانکہ سابق مفسرین کی تفاسیر اسرائیلی روایات کا پلندہ تھیں اور ان میں کذب و صدق کا کوئی پہلو ملحوظ نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کا جلال و جمال باقی نہ رہا۔ اور معتزین کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ کتاب الہی کو ہدف تنقید بنائیں۔

(۳) اس مکتب تفسیر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے مفسرین نے احادیث ضعیفہ یا موضوعہ کو اپنی تفاسیر میں جگہ نہیں دی۔ جب کہ دیگر مفسرین نے بڑی کشادہ دلی کے ساتھ ایسی احادیث کو قبول کیا تھا اور ان کی کتب تفسیر اس سے بہت بڑی طرح متاثر ہوئیں۔

(۴) اسرائیلی روایات اور احادیث ضعیفہ سے استرازا کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن چیزوں کو قرآن کریم نے مبہم چھوڑا تھا اس مکتب فکر کے حاملین نے ان کو مبہم ہی رہنے دیا۔ اور ان کی تعین کی کوشش نہ کی۔ اسی طرح جن غیبی امور کی پہچان شرعی نصوص کے بغیر ممکن نہیں۔ ان مفسرین نے ان میں نور و فکر کرنے کی جسارت نہ کی۔ بخلاف ازیں ان کی رائے میں ان پر اجمالاً ایمان لانا ہی ضروری ہے تفصیل و تعین کی ضرورت نہیں۔ یہ موقف نہایت موزوں اور مناسب ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سی غیبی خرافات عقائد میں شامل نہیں ہو سکتیں۔

(۵) یہ تفسیری مکتب فکر علوم و فنون کی ان اصطلاحات سے یکسر پاک ہے جن کو غیر ضروری طور پر کتب تفسیر میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ اور اگر ان اصطلاحات کا ذکر کریں کیا بھی گیا ہے تو نہایت واجبی اور صرف ضرورت کی حد تک۔

(۶) اس مکتب فکر نے تفسیر کے سلسلہ میں ادبی طرز و منہاج کو اپنایا۔ قرآن کریم کی بلاغت علوم اور اعجاز کا پردہ چاک کیا۔ اس کے معانی و مطالب کو واضح کیا۔ قرآن کریم میں فطرت کے جو اصول و قوانین بیان کیے گئے تھے۔ ان پر روشنی ڈالی امت اسلامیہ اور عوام انسان

کے مسائل و مشاغل قرآنی تعلیمات کے پیش نظر حل کیے قرآن کریم اور جدید علوم کے صحیح نظریات کے مابین جمع و تطبیق دینے کی کوشش کی۔

اس مکتب تفسیر کی مساعی جہیلہ سے یہ حقیقت کھل کر لوگوں کے سامنے آئی کہ قرآن خداوند کریم کی وہ زندہ جاوید کتاب ہے جو تا قیام قیامت ہر تاریخی دور کا ساتھ دے سکتی ہے۔ قرآن کریم کو جن شکوک و شبہات کی آماجگاہ بنایا گیا تھا۔ اس مکتب تفسیر کے ارباب بست و کشاد نے ان کا شافی اور مسکت جواب دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مفسرین نے ایسا پرکشش ادبی اسلوب اختیار کیا۔ قاری جس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس مقناطیسی جاذبتیت رکھنے والے انداز تفسیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں قرآن عزیز کے اسرار و رموز معلوم کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہوا اور قرآن سے دل بستگی و شیفتگی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔

یہ ہیں اس مکتب تفسیر کے محاسن و فوائد جن سے چشم پوشی اور صرف نظر ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔

اس مکتب تفسیر کے عیوب :

مگر بایں ہمہ اس مکتب تفسیر میں مندرجہ ذیل نقائص بھی پائے جاتے ہیں :

(۱) اس مکتب تفسیر میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اس نے عقل انسانی کو مطلق العنان بنا دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن عزیز میں مندرجہ حقائق کی بلاوجہ تادیل کی جانے لگی۔ حقیقت کو بلا ضرورت مجاز اور تشبیل پر محمول کیا گیا۔ اس تادیل کی وجہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انسان کی مجبوری و معذوری کے پیش نظر بہت سے امور کو حیرت و تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ حالانکہ ایسی باتوں پر حیرانی کا اظہار وہی شخص کر سکتا ہے جو قدرت ربانی سے نادانگہ ہو۔

(۲) امام محمد عبدہ کے مکتب تفسیر کی آزادانہ طرز فکر و نظر بڑی حد تک معتزلہ سے ملتی جلتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بعض قرآنی الفاظ کو وہ معانی پہنائے جو نزول قرآن کے زمانہ میں عربوں کے یہاں معروف نہ تھے۔ بلکہ اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر بخاری سلم کی احادیث صحیحہ کو ضعیف بلکہ موضوع تک کہہ دیا۔ حالانکہ اہل علم کے اجماع کے مطابق یہ دونوں صحیح الکتب

بعد کتاب اللہ ہیں۔

(۳) اس مکتب فکر کے حاملین نے صحیح اور ثابت شدہ احادیثِ آحاد کو عقائد کے باب میں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ عقائد میں بے شمار احادیثِ آحاد وارد ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ علماء کے اجماع کے پیش نظر خبر واحد سے عقائد کے سلسلہ میں احتجاج نہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ یہ بات مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر غلط ہے۔

خبر واحد کی حجیت :

اول :- اس ضمن میں اجماع کا دعویٰ باطل ہے۔ اس لیے کہ خبر واحد کے مفید علم یقین ہونے کے بارے میں علماء کے چار اقوال ہیں :

۱۔ خبر واحد ہر حال میں مفیدِ یقین ہے۔

۲۔ اگر قرینہ موجود ہو تو خبر واحد سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔

۳۔ خبر واحد سے بلا قرینہ بھی یقینی علم حاصل ہوتا ہے بشرطیکہ قیاس کے موافق ہو۔

۴۔ خبر واحد بلا قرینہ مفید یقین ہے اور اس کا موافق قیاس ہونا ضروری نہیں۔

دوم :- جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ خبر واحد سے قطعی و یقینی علم حاصل ہوتا ہے تو اس سے عقائد کا اثبات ممکن ہے اور اگر یہ کہیں کہ اس سے قطعی علم حاصل ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اس سے عقائد کا اثبات ہو سکتا ہے بشرطیکہ قرینہ موجود ہو۔ کیونکہ قرینہ کی موجودگی میں خبر واحد سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن الصلاح اور دیگر محدثین نے پورے دلتوق کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ”بخاری و مسلم کی وہ لمادیت جن پر نقد و جرح نہیں کیا گیا مفید یقین ہیں۔ اس لیے کہ امت نے بالاتفاق ان کو قبول کیا ہے اور امت مسلمہ بحیثیت مجموعی خطا سے معصوم ہے اور معصوم کا ظن خطا نہیں ہوتا“

(مقدمہ ابن الصلاح، ص ۱۴)

سوم :- عقیدہ سے پرہیز بات مراد نہیں جس کی صحت کو تسلیم کیا جائے ورنہ اس میں فقہی احکام کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ فقہی احکام پر عمل کرنے سے پہلے ان کی صحت کو تسلیم کیا جاتا ہے ورنہ عمل کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ عقائد سے ایسے اصول دین مراد ہیں۔

جن کو نہ تسلیم کرنے سے کفر لازم آتا ہو۔ مثلاً ایمان باللہ یا ایمان بالیوم الآخر۔ جو احادیث ماضی یا مستقبل کے واقعات یا قیامت کی تفصیلات پر مشتمل ہیں ان میں تو اثر شرط نہیں۔ اس لیے کہ یہ امور عقائد میں شامل نہیں جن کے نہ ماننے سے کفر لازم آجاتا ہے۔ صرف یہی بات کافی ہے۔ کہ یہ احادیث صحیح سند کے ساتھ منقول ہوں۔

اس مکتب تفسیر کے مشاہیر:

اس مکتب تفسیر کے مشہور اشخاص درج ذیل ہیں :-

۱۔ اس مکتب تفسیر کے بانی ڈر میں استاذ امام شیخ محمد عبدہ۔

۲۔ سید محمد رشید رضا۔

۳۔ شیخ محمد مصطفیٰ الراغی۔

اب ہم باری باری ان حضرات کی تفسیری خدمات پر تبصرہ کریں گے۔

۱۔ امام شیخ محمد عبد کدہ

آپ ۱۸۴۵ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰۵ء میں وفات پائی۔ خوفِ طوالت کی بنا پر آپ کے حالات زندگی قلم انداز کیے جاتے ہیں۔ یوں بھی آپ کی شہرت و عظمت کی بنا پر اس کی ضرورت نہیں اور جو شخص آپ کی حیاتِ طیبہ سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے۔ وہ ایسی کتابوں کی جانب رجوع کر سکتا ہے جو مستقل طور پر آپ کے بارے میں تحریر کی گئی ہیں۔

تفسیری خدمات:

جہاں تک تفسیرِ قرآن کے سلسلہ میں آپ کی خدماتِ جلیلہ کا تعلق ہے۔ وہ حسبِ ذیل ہیں

۱۔ پارہٴ عمم کی تفسیر:

یہ تفسیر آپ نے "الجمعیۃ الخیریۃ الاسلامیۃ" کے بعض ارکان کے مشورہ سے ان اساتذہ کے استفادہ کے لیے مرتب کی تھی جو جمعیت کے مدارس میں بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جو بچے تیسویں پارہ کی سورتیں حفظ کرتے ہیں۔ وہ ان کے معانی و مطالب سے آگاہ ہوں اور ان کے اعمال و اخلاق درست ہوں۔ امام عبدہ نے یہ تفسیر ۱۳۲۱ھ میں مرتب کی تھی اس بات کا خاص خیال رکھا کہ عبارت نہایت آسان ہو۔ اور اس میں اعراب سے متعلق اختلافی مباحث کم از کم ہوں۔ صرف قاری اور سامع کو یہ بتایا جائے کہ وہ کیسے پڑھے اور سنے۔

(مقدمہ تفسیر جزء عم - ص ۲)

۲۔ تفسیر سورۃ العصر:

آپ نے سورۃ العصر کی ایک مفصل تفسیر تحریر کی تھی۔ دراصل یہ آپ کے لیکچر تھے۔ جو ۱۳۲۱ھ میں الجزائر کے علماء کے سامنے دیے۔ شیخ عبدہ کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں نے سات دنوں میں یہ تفسیر اطلاق کرائی تھی۔ ہر روز ایک لیکچر دیا جاتا تھا۔ جو دو یا دو ڈیڑھ گھنٹے کا ہوا کرتا تھا۔

۳۔ بعض قرآنی آیات کی تفسیر:۔ تفسیر قرآن سے متعلق آپ کے کچھ علمی مباحث بھی ملتے

ہیں جن میں آپ نے ان شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے جو قرآن عزیز پر وارد کیے جاتے تھے۔ یہ زیادہ تر انہی آیات سے متعلق ہیں جو بڑی معرکہ آرا ہیں اور جن میں اکثر بخت و نزاع ہوتی رہتی ہے چنانچہ اسی ضمن میں آپ نے ”ملک الغرائقی“ کے واقعہ کا ابطال کیا ہے۔ حضرت زینبؓ اور زیدؓ کے واقعہ کو بیان کر کے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے آپ نے اس کو بھی بہت اچھی طرح سے الم نشرح کیا ہے۔

۴۔ تفسیری محاضرات :

امام عبدہ نے اپنے تلمیذ عزیز سید محمد رشید رضا کے مشورہ سے جامعہ ازہر میں کچھ تفسیری لیکچر بھی دیے تھے چنانچہ سید موصوف تفسیر المنار کے مقدمہ میں لکھتے ہیں :-

”استاذ محترم شیخ عبدہ نے ماہ محرم ۱۳۱۶ھ میں آغاز قرآن سے جامعہ ازہر میں تفسیری لیکچروں کا آغاز کیا تھا۔ لیکچروں کا سلسلہ نصف محرم ۱۳۲۳ھ تک جاری رہا اور جمادی الاولیٰ کی آٹھ تاریخ کو اسی سال آپ کی وفات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ آپ نے سورۃ النساء کی آیت ۱۲۶ ”وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“

تک مسلسل قرآن کریم کی تفسیر بیان فرمائی“ (المنار، ج ۱- ص ۴)

اگرچہ امام عبدہ نے یہ تفسیری لیکچر لکھ کر مرتب نہیں کیے تھے بلکہ جامعہ ازہر کے تلامذہ کے سامنے دیے تھے تاہم ان کو آپ کی تفسیر خدمت قرار دیا جاسکتا ہے۔ آپ کے تلمیذ عزیز سید محمد رشید رضا لیکچر کے دوران ضروری نوٹ لکھتے جاتے تھے۔ اور بعد ازاں اپنے حافظہ کی مدد سے ان کو مرتب کرتے تھے۔ پھر اس تحریر کو وہ اپنے ماہنامہ ”المنار“ میں شائع کر دیا کرتے تھے۔ سید محمد رشید رضا کا بیان ہے کہ وہ لیکچر کے مضمون کو شائع کرنے سے قبل استاذ محترم شیخ عبدہ کو دکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ اس میں معمولی ترمیم یا اضافہ کر دیتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑھتا کہ شیخ نے کسی مضمون پر تنقید کی ہو یا قبل از اشاعت اسے نہ دکھانے کی بنا پر اظہار ناراضگی کیا ہو۔ بخلاف ازیں آپ خوش ہوتے اور اس پر اظہار پسندیدگی کرتے۔

(المنار، ج ۱- ص ۱۵)

یہ ہیں امام محمد عبدہ کی تفسیری خدمات! اس میں شبہ نہیں کہ آپ کی جلیل القدر شخصیت

کے پیش نظر یہ تفسیری کام نہایت کم ہے۔ تاہم حق یہ ہے کہ آپ کے تلیل تفسیری سرمایہ نے تفسیری رجحانات میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ جس کی توضیح آگے آرہی ہے۔

منہاج تفسیر:

شیخ عبدوہ تنہا شخصیت تھے جس نے جامعہ اصرہ میں تجدید اور تقلید کے بندھنوں سے آزاد ہونے کی دعوت دی۔ متقدمین تقلید جاملہ کی جس راہ پر گامزن تھے آپ نے اس پر چلنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے پیش رد علماء کے برعکس حریت فکر و نظر کا بیڑا اٹھایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر اہل علم آپ سے رد نظر گئے اور دوسری جانب احباب و تلامذہ آپ کے افکار و عقائد کی نصرت و حمایت کے لیے آپ کے گرد جمع ہو گئے۔

آپ نے جس آزاد مٹی فکر و نظر کا علم بلند کیا تھا اور جو فہم امت کے خلافت ایک عظیم انقلاب تھا۔ اس سے آپ کے تفسیری طرز و انداز کا متاثر ہونا ایک لازمی امر تھا۔ آپ نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ایک خاص طرز و انداز کو اپنایا اور اسی شاہراہ پر گامزن رہ کر سابق مفسرین کی مخالفت کرتے رہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی زندہ جاوید کتاب ہے جو لوگوں کی رشد و ہدایت اور آخری صلاح و بہبود کے لیے نازل ہوئی ہے۔ شیخ کے نزدیک نزول قرآن کا اساسی و بنیادی مقصد یہی ہے۔ دیگر سب مقاصد ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے صرف وسیلہ و ذریعہ ہیں۔ (المنار، ج ۱- ص ۱۷)

امام عبدوہ نے تفسیر قرآن کا یہ اساسی ضابطہ طے کر کے ان مفسرین کو ہدایت تنقید بنایا ہے جنہوں نے نزول قرآن کی اس غایت اولیٰ کو ترک کر کے اس کے دیگر پہلوؤں کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اپنی تماکز صلاحیتیں اس کے لیے وقف کر دیں۔ مثلاً وہ نحوی بلاغی اور فقہی فروعات میں الجھ کر رہ گئے۔ امام عبدوہ کے نزدیک یہ وہ امور ہیں جن میں کثرت اشتغال سے قرآن کا مقصدی ثبوت ہوجاتا ہے اور وہ غرض پوری نہیں ہوتی جس کے لیے اس کو اتارا گیا تھا۔ (المنار، ج ۱- ص ۱۸)

امام عبدوہ کے نزدیک تفسیر کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ تفسیر کی ایک قسم وہ ہے جس میں محل لغات ترکیب نحوی اور فقہی نکات و اشارات کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی جاتی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس کو تفسیر سے موسوم کرنا درست نہیں۔ اس کا

فائدہ صرف یہ ہے کہ مختلف فنون مثلاً خود معانی وغیرہ کی مشق جو جاتی ہے قرآن کریم کے ساتھ اس کا کچھ تعلق نہیں۔

۲۔ تفسیر کی دوسری قسم یہ ہے کہ مفسر قرآنی آیت کی تشریح کرے اور عقائد و احکام کی حکمت و مصلحت پر اس طریق سے روشنی ڈالے جس سے روحانی مسرت حاصل ہو اور انسان عمل و ہدایت کی راہ پر گامزن ہو۔ دراصل تفسیر کی یہی قسم ہے جس سے قرآن کریم کا ہدایت و رحمت ہونا واضح ہوتا ہے۔ امام عبدہ کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں میرا مہم نظریہ اسی قسم کی تفسیر ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ امام عبدہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں خود بلاغت کے پہلو کو کیسے نظر انداز کر دینا چاہتے ہیں۔ بخلاف انہوں نے ان کا مقصد یہ ہے کہ مفسر بقدر ضرورت ان علوم کو زیر بحث لائے اور صرف اسی حد تک ان میں مشغول ہو جو قرآنی فصاحت کے نمایاں شان ہے ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے۔

امام عبدہ نے مفسر قرآن کے لیے چند شرائط مقرر کی ہیں جن کا پایا جانا اس کے اندر ضروری ہے۔ ہم نے قبل انہوں نے جہاں ان علوم کا ذکر کیا تھا جو مفسر کے لیے از بس ضروری ہیں۔ وہاں ان شرائط پر بھی روشنی ڈالی تھی۔

قرآن کسی عقیدہ کے تابع نہیں :

امام عبدہ کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہی وہ معیار و میزان ہے جس پر رکھ کر کسی عقیدہ کی قدر و قیمت پہچانی جاسکتی ہے۔ اس لیے مفسر کا فرض ہے کہ وہ قرآن کریم کو ایسا مصدر و ماخذ قرار دے جس سے عقائد و افکار کا انحصار و استنباط کیا جاسکتا ہے۔ شیخ موصوف ان مفسرین کی تردید کرتے ہیں جو مخصوص عقائد و افکار کی عینک سے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قرآنی مضامین کو اپنے عقائد کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن کریم کو اصل و اساس قرار دے کر اپنے مسلکی افکار کو ان پر محمول کیا جائے۔ یہ بات کسی طرح مناسب نہیں کہ مذاہب و مذاہب کو اصل قرار دیا جائے۔ اور پھر قرآنی مندرجات کو توڑ مڑ کر ان سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ گمراہ لوگوں کا طریق کار ہے۔

(تفسیر سورۃ الفاتحہ، ص ۵۴)

امام عبدہ کا انداز تفسیر زبانی:

امام عبدہ در سادات تالیفادولوں طرح تفسیر قرآن کیا کرتے تھے۔ البتہ تالیف کی صورت میں تفسیر قرآن کا دائرہ ان کے یہاں نہایت محدود ہے۔ آپ اکثر دہمیشتر درس اور لیکچر کی صورت میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے جامعہ ازہر میں متواتر چھ سال تک تفسیر قرآن پر لیکچر دیے۔ ادران میں پہلے پانچ پاروں کی تفسیر بیان کی۔ اسی طرح آپ نے الجزائر اور بیرت کی بعض مساجد میں بھی تفسیری لیکچر دیے تھے۔ (محمد عبدہ از عثمان امین۔ ص ۱۰۱)

امام عبدہ کا معمول یہ تھا کہ تفسیر قرآن پر لیکچر دیتے ہوئے سامعین کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اگر حاضرین مجلس کم علم دیہاتی ہوتے تو مختصر تفسیر بیان کرتے۔ اور شرکائے مجلس اہل علم ہوتے تو علمی نکات بیان کرتے۔ (المنار، ج ۱- ص ۱۱۴)

سید محمد رشید رضا امام عبدہ کے طرز تفسیر پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”آپ کے تفسیری لیکچر کا بھی تقریباً وہی انداز ہوتا تھا جس طرح آپ تفسیر لکھتے تھے۔ دونوں میں چندال فرق نہیں پایا جاتا۔ سابق مفسرین نے جہاں اختصار سے کام لیا تھا۔ وہاں آپ طوالت اختیار کرتے۔ اور جہاں مفسرین نے نحوی بلاغی اور لفظی مباحث میں طوالت اختیار کی ہے، ان آپ اختصار کرتے۔ جو روایات نعم قرآن کے لیے ضروری نہیں آپ ان سے احتراز کرتے تھے۔ تفسیری لیکچر دیتے ہوئے آپ کسی تفسیر پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ بلکہ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر پڑھتے اور پھر اپنی خداداد فہانت سے کام لے کر آزادانہ طور پر اس کی تفسیر بیان کرتے۔“

(المنار، ج ۱- ص ۱۴)

تفسیری لیکچر دینے سے قبل آپ کسی تفسیر کے مدد سے تیاری نہیں کرتے تھے۔ مبادا کسی مفسر کے خیالات سے متاثر ہو جائیں البتہ کسی آیت کی عجیب و غریب ترکیب نحوی یا کسی نادر الاستعمال لفظ کا معنی و مفہوم معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی تو کسی تفسیر کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔

(المنار، ج ۱- ص ۱۴)

بخلاف انہی سید محمد رشید رضا کا بیان یہ ہے کہ امام عبدہ اپنے تفسیری لیکچر کے دوران تفسیر

جلالین کو سامنے رکھتے تھے۔ بعض اوقات اس کی عبارت پڑھ کر اس کی تائید کرتے۔ اور اگر کوئی بات قابل تنقید ہوتی تو اس پر نقد و تبصرہ کرتے۔ پھر اپنی خدا داد ذہانت و فطانت کی مدد سے آیات پر آزادانہ بحث کرتے اور ان کے ہدایت و عبرت سے متعلق پہلو کو داغ و منح کرتے۔

(النار، ج ۱- ص ۱۵)

برہکیت امام عبدہ کسی تفسیر سے استفادہ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں اس میں شبہ نہیں کہ آپ کسی مفسر کے مقلد نہ تھے اور نہ ان کے اقوال کو اس طرح اہمیت دیتے تھے کہ بلا استثناء سب کے سامنے اپنی گردن تسلیم رقم کریں۔ قطع نظر اس سے کہ وہ اقوال صحیح ہوں یا سقیم۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ امام عبدہ اس انداز سے سابق مفسرین کے اقوال کی مدح و ستائش نہیں کرتے تھے۔ کہ ان کے سامنے اپنی عقل و ذہانت کو کچھ اہمیت ہی نہ دیں۔ بخلاف ازیں وہ ان لوگوں کی مذمت کرتے تھے جو تفسیر قرآن کے سلسلہ میں متقدمین کے اقوال پر اکتفاء کرنے کے عادی ہیں امام عبدہ فرماتے ہیں :

”عصر حاضر میں اور اس سے صدیوں پہلے تفسیر صرف اس چیز کو سمجھا جاتا رہا، کہ مفسرین کے اقوال سے آگاہی حاصل کی جائے۔ حالانکہ ان کے اقوال میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جس سے قرآن کریم پاک ہے۔ اسے کاشش؛ کہ اقوال مفسرین کے طالب اپنی عقل و فہم سے کام لے کر قرآنی الفاظ کے معانی معلوم کرتے اور ان کو لوگوں میں پھیلاتے۔ مگر صد افسوس کہ وہ سرے سے اس کے خواہاں ہی نہیں۔ انہوں نے اظہار فخر و غرور کے لیے یشیوہ اختیار کر رکھا ہے کہ دوسروں سے جدل و نزاع کے لیے مفسرین کے زیادہ سے زیادہ اقوال یاد کریں۔ وجہ تاویل اختراع کریں اور اس سے دوسروں پر اپنی قابلیت کا سکہ جمائیں۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے مفسرین کے کس قدر اقوال یاد کیے تھے۔ بخلاف ازیں وہ یہ دریافت کرے گا کہ جو کتاب میں نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اتاری تھی تم نے کس حد تک اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یا سنت رسول کے بارے میں باز پرس کرے گا جو کتاب الہی کی مفسر و ترجمان ہے۔ خداوند کریم

ہم سے یہ پوچھے گا کہ آیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیا؟ کیا تم نے میرے
ادامہ دلوا دیا؟ کو سوچا یا سمجھا؟ کیا تم نے قرآنی احکام پر عمل کیا؟ کیا تم سنت رسولؐ
کی راہ پر گامزن ہوئے؟ ہجرت کی بات ہے کہ ہم سے اس قسم کے سوالات کیے
جانے والے ہیں اور ہم قرآنی ہدایت سے اعراض کر رہے ہیں۔ اس غفلت اور
فریب خوردگی پر جس قدر افسوس کیا جائے کم ہے“

(النار، ج ۱- ص ۲۷)

قرآن عزیز کے فہم صحیح پر مدہوشی ڈالتے ہوئے امام عبدہ فرماتے ہیں :-
”فہم قرآن سے میری مراد وہ فہم ہے جو ذوق سلیم پر مبنی ہو اور جو قرآن کریم کے لہجہ
دو اعظما کے ہمنہد میں عوامی کر سکتا ہو۔ نیز کہ تفاسیر میں منقول اقوال اندھا دھند
لے لیے جائیں اور اس میں ذوق صحیح نراکت شعور اور لطف وجدان کو کوئی دخل نہ
ہو۔ حالانکہ خورد فکر اور فہم و تدبر کا انحصار انہی باتوں پر ہے“

(النار، ج ۱- ص ۲۷)

امام عبدہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ عام مفسرین کی راہ
سے ہٹ کر بعض آیات کی تفسیر بیان کی تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا ”جمل تفسیر حلالین
کے ایک حاشیہ کا نام ہے، جو تفسیر ذکر کی ہے وہ آپ کی تفسیر سے مختلف ہے۔ امام عبدہ
نے فی الفور کہا ”میں قرآن کریم کا وہ مضموم بیان کرتا ہوں جو میری سمجھ میں آتا ہے مجھے اس بات
کی فکر دامن گیر نہیں ہوتی کہ آؤنٹ (عربی میں جمل آؤنٹ کو کہتے ہیں) یا بیل میرے خیالات کے ساتھ
انفاق کرتے ہیں یا نہیں“

(محمد عبدہ از عثمان امین ص ۱۲۵)

مندرجہ صدر بیانات اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ امام عبدہ فہم قرآن میں بالکل آزاد
تھے۔ اور سابق مفسرین پر جرح و نقد کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ بڑی بے باکی کے
ساتھ قدام پر حملہ آور ہوتے اور تقلید و جمود کے بندھنوں سے آزاد ہو کر قرآن عزیز کی تفسیر کرتے تھے
مہمات القرآن کے بارے میں شیخ عبدہ کا موقف :

اکثر مفسرین اسرائیلی روایات کے دلاوہ ہیں اور وہ ان کی مدد سے مہمات قرآن کی تفسیر کرتے

ہیں۔ مگر شیخ کا انداز تفسیر اس سے یکسر مختلف ہے۔ اس ضمن میں ان کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ جو امور قرآن کریم میں مبہم وارد ہوئے ہیں ان کی جزئیات و تفصیلات بیان کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں اور اگر ہم ان کی تعین کے لیے من جانب اللہ مامور ہوتے تو ان کی توضیح خود قرآن کریم ہی میں کر دی جاتی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شاح قرآن ہیں اس پر روشنی ڈالتے۔ شیخ کا کہنا یہ ہے کہ جملہ مبہمات قرآن کے بارے میں میرا سلک یہی ہے۔ قرآن نے جو بات جتنی بیان کر دی ہے وہی کافی ہے۔ اور وہی موجب رشد و ہدایت ہے۔ اس سے زائد تشریح کی طلب و تلاش بیکار ہے اور اس میں کچھ فائدہ نہیں۔

(النار، ج ۱ - ص ۳۲۰)

مبہمات قرآن کے بارے میں شیخ کے اقوال ملاحظہ کر کے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے جو موقف اختیار کیا تھا، سختی سے اس کی پیروی کی ہے اور چند ایک مقامات کے سوا اس سے کہیں تجاوز نہیں کیا۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں :-

فسرآن کریم میں فرمایا :

«رَاتٍ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ - كِرَامًا
كَاتِبِينَ» (سورۃ الانعام - ۱۰-۱۱) بزرگ لکھنے والے۔

اس کی تفسیر میں شیخ فرماتے ہیں :

«جس ان دیکھی حقیقت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے نگران مقرر کر رکھے ہیں جو ہمارے نیک و بد اعمال کو لکھتے جاتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ کون ہیں؟ وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ کس طرح لکھتے ہیں کیا ہماری طرح ان کے پاس بھی قلم کاغذ اور سیاہی موجود ہے؟ یا ان کے پاس لکڑی کی تختیاں ہیں جن پر وہ اعمال لکھتے ہیں؟ کیا جن حروف میں وہ لکھتے ہیں ان کی شکل و صورت بھی ہمارے حروف جیسی ہے؟

یہ تمام باتیں غیر ضروری ہیں اور ہم ان کے مکلف و مامور نہیں ہیں۔ جو بات ہمارے لیے ضروری ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی حقیقت

اللہ تعالیٰ کو سزا دینی چاہیے۔ اس آیت کی رو سے یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے لازم ٹھہرا کہ ہمارے اعمال پوری طرح سے محفوظ ہیں اور ان میں کمی بیشی کا کوئی احتمال سرے سے موجود ہی نہیں“ (تفسیر پارہ عم، ص ۳۶)

دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں :

قرآن عزیز میں فرمایا :

«قَتَلَ أَصْحَابَ الْأَخْضَدِ»

گڑھوں والے قتل کیے گئے۔

(البروج - ۴)

شیخ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اصحاب الاخذ وکون تھے؟ وہ کہاں بود و باش رکھتے تھے اور کس مذہب سے وابستہ تھے؟ اس ضمن میں کجنت روایات وارد ہوئی ہیں۔ مشہور تر یہ بات ہے کہ وہ علاقہ نجران کے عیسائی تھے۔ عیسائیت میں اس وقت تک غلط عقائد نے راہ نہیں پایا تھا۔ اس لیے وہ موحد تھے۔ اس سورت میں جن کفار کا ذکر کیا گیا ہے وہ یاتوین کے اسرائ تھے اور یہودی تھے جو انہی کی طرح بت پرست تھے۔ لیکن جہاں تک اس واقعہ سے عبرت و موعظت حاصل کرنے کا تعلق ہے ایک مومن ان ساری باتوں سے بے نیاز ہے۔ وہ قطعاً یہ بات جاننے کا محتاج نہیں کہ وہ لوگ کون تھے اور کہاں سکونت پذیر تھے؛ لہذا وہ تمام افسانے جو اس واقعہ سے متعلق گھڑ لیے گئے ہیں۔ اور جن سے ہماری کتب تفسیر لبریز ہیں بالکل غیر ضروری اور بے بنیاد ہیں۔ جس واقعہ کا جاننا ضروری ہے وہ صرف اتنا ہی ہے جس پر قرآن کریم نے روشنی ڈالی ہے۔ اور اگر اس واقعہ کی دوسری کڑیوں میں افادیت کا کوئی پہلو ہوتا تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن عظیم اس کو نظر انداز کر دیتا“ (تفسیر پارہ عم، ص ۵۹)

اجتماعی مسائل اور امام عہدہ :

شیخ عہدہ اجتماعی اور معاشرتی امراض اور ان کے علاج کے ساتھ خصوصی دلچسپی رکھتے

ہیں۔ چنانچہ جو عمومی اجتماعی مسائل سے متعلق کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس بیماری کے خطرات سے آگاہ کرتے اور پھر اس کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں قرآن کریم سے استنباط کر کے آپ لوگوں تک اس لیے پہنچاتے ہیں کہ وہ راہ راست پر آجائیں۔ اس کی مثال ملاحظہ ہو :-

قرآن کریم میں فرمایا :-

«رَدُّوْا صَوَابًا لِّلصَّابِیْنَ»
 وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ عبدکفر فرماتے ہیں :

«صبر ایک ایسے عکس کا نام ہے کہ اس کی موجودگی میں ایسی مشکلات کو بسہولت برداشت کر لیا جاتا ہے جن کا اٹھانا دشوار ہے۔ اس کی بدولت حق کی راہ میں انسان لاکھ چیزوں کو بھی پسند کرتا ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ یہ ایسا خلق ہے جس پر تمام اخلاق کی تکمیل کا مدار و اعحصار ہے۔ جس قوم میں صبر کا عکس باقی نہیں رہتا وہ حوادث و آلام سے دوچار ہوتی ہے اور اس میں ہر طرح کی کمزوریاں راہ پانے لگتی ہیں۔»

اس کی مثال یہ ہے کہ مسلمانوں میں علم کی جو کمی آج کل پائی جاتی ہے، اس کی بڑی وجہ صبر کا فقدان ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ جب ایک مسلم کسی علم میں معمولی سی مہارت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر میٹھ جاتا ہے اور اس میں مزید قابلیت و وسعت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے اسلاف کی مدح و توصیف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے لگتا ہے۔ مہلا مگر اگر وہ دل سے اپنے اسلاف کا مدح ہوتا تو ان کو اپنے لیے نمونہ بناتا اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے اندر انہی جیسی قابلیت پیدا کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ حصول علم کیلئے اسی طرح کوشاں ہوتا جیسے وہ تھے اور اپنے آپ کو اسی طرح غیر معصوم سمجھتا جیسے وہ سمجھتے تھے۔ تحصیل علم کے بعد یہ زحمت نکالا نہیں کی جاتی کہ اپنے علم کو عام کیا جائے اور اس علم کی نشرو اشاعت کے لیے مناسب ذرائع و وسائل سے کام لیا جائے۔ بخلاف انہیں تو وسیع علم کی راہ میں اگر معمولی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس کام کو چھوڑ کر صاحب علم خانہ نشین ہو جاتا۔ اور لوگوں کو خدا

کے حوالے کرتا ہے۔

ہماری حالت تو یہ ہے کہ طالب علم ایک دو سال طلب علم میں صرف کرتا ہے اور جب ذرا سی مشکل پیش آتی ہے تو طالب علمی کو چھوڑ کر بزعم خویش کسی زیادہ نفع مند کاروبار کو اختیار کرتا ہے۔ اس طرح وہ طلب علم کو خیر باد کہہ کر جہالت کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ طرز عمل اس امر کا آئینہ دار ہے کہ اس کا دامن صبر سے عاری ہے۔

بخیل بخل سے کام لے کر شب و روز مال جمع کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ ہزاروں قسم کی نیکیاں سامنے آتی ہیں مگر وہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے اور ایک درہم بھی نیک کاموں میں صرف نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح وہ ملک و ملت کو نقصان پہنچاتا ہے اور فقر و افلاس کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے کہ اس کی قوم کو بھل لے۔ اس کا بخل درحقیقت اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس میں صبر کا فقدان ہے۔ فقر و افلاس کا جو ڈر اسے کھاٹے جا رہا ہے اگر وہ صبر و ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکتا تو بخل جیسے ملک مرض میں مبتلا نہ ہوتا۔

اس کے عین برخلاف عیاشی آدمی شہوات و منکرات میں اپنا ملل ضائع کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بد حالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عزت و ذلت سے اور دولت و ثروت و افلاس سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فقدان صبر کے باعث وہ شخص اپنے جذبات و شہوات پر قابو نہیں پاسکتا۔ اور اگر وہ اپنے جذبات کے مقابلہ کی تاب لاسکتا تو یوں اپنے مال کو تنس و تنس نہ کرتا۔

خلاصہ یہ کہ دنیا بھر میں جس قدر اخلاق رذیلہ پائے جاتے ہیں اگر ان کے اسباب و علل کی جستجو کی جائے تو ان کی تہ میں فقدان صبر کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر تمام فضائل اخلاق اور ان کے عوامل و محرکات کی تلاش کی جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ ان سب کا سرچشمہ صبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں صبر کا خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے۔

(مجموعہ تفسیر الفاتحہ، ص ۸۶-۸۹)

اس طرح جو آیت بھی اجتماعی مسائل کو سموٹے ہوئے ہوتی ہے شیخ اس کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہیں۔ خوف طرالت کی بناء پر ہم زیادہ مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے علامہ الراغبی

فرماتے ہیں کہ "اجتماعیات کے علماء نے شیخ عبدہ کے بارے میں یہ تاثر دیا تھا کہ آپ اپنے لیکچرس میں قرآن کریم کو معاشرتی مسائل پر منطبق کرتے ہیں۔"

(مجدد عبدہ از عثمان امین، ص ۱۲۲)

علوم جدیدہ کی روشنی میں تفسیر قرآن :

تفسیر قرآن کے سلسلہ میں امام عبدہ کا ایک طریق کار یہ بھی ہے کہ آپ بعض قرآنی آیات کی تفسیر علوم جدیدہ کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعض معانی و مطالب کو جو بظاہر لوگوں کی نگاہ میں بعید از فہم معلوم ہوتے ہیں۔ ان معلومات کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے جو لوگوں کے نزدیک مسئلہ نظریات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ آپ کا مقصد نہایت بلند ہے تاہم بعض اوقات آپ کی یہ شرح و تفسیر اس معنی و مفہوم سے دور جا پڑتی ہے جو نزول قرآن کے وقت عربوں کے یہاں معروف تھے۔ اس کی مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

قرآن عزیز میں فرمایا :

«إِذَا اللَّيْلُ انشَقَّتْ» (الانشقاق) جب آسمان پھٹ جائے گا۔

اس آیت کی تفسیر میں امام عبدہ فرماتے ہیں :

"الانشقاق کے معنی پھٹ جانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو برباد کرنا چاہے گا جس میں ہم آقامت کریں ہے تو آسمان پھٹ جائے گا۔ یعنی اس میں جو ترکیب پائی جاتی ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ اس کا نظم بگڑ جائے گا۔ یہ صورت کسی عظیم حادثہ کے رونما ہو جانے سے بھی پیش آسکتی ہے۔ مثلاً ایک سیارہ چلتے چلتے دوسرے سیارہ کے قریب پہنچ جائے اور اس طرح دونوں کے درمیان تصادم ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ سورج کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ سے ایک عظیم بادل رونما ہو کر ساری فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو گویا اندریں صورت اس بادل کی وجہ سے آسمان پھٹ گیا اور اس کا نظام درہم برہم ہو گیا۔"

(تفسیر جزیرہ علم، ص ۲۹)

اس میں شبہ نہیں کہ امام عبدہ کی یہ تفسیر بہت عمدہ ہے۔ اور وہ اس کے لیے شکر یہ کہ

معلقتی ہیں۔ کیونکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن عزیز کی تفسیر اس انداز میں کی جائے کہ عقلِ انسانی اس کو بناوہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور وہ ان کے مسلمات سے ہم آہنگ ہو۔

مگر سوال یہ ہے کہ آیا فسادِ عالم ایسے حادثہ کے بغیر ممکن نہیں؟ اور کیا خداوند کریم کسی دوسرے طریقہ سے نظامِ عالم کو تہہ بالا کرنے پر تیار نہیں؟ کیا یہ بات ہمارے لیے بہتر نہ ہوگی کہ ہم صرف آسمان کے پھٹنے پر ایمان لائیں جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے اور اس کی تفصیلات میں نہ اُلجھیں؟ خصوصاً جب کہ شیخ عبدہ کا اپنا موقف بھی یہی ہے کہ جو چیز قرآن میں مبہم وارد ہوئی ہے اس پر اسی طرح ایمان لایا جائے۔ اس کی تعین و تفصیل میں اُلجھنے کی مطلقاً ضرورت نہیں۔

شیخ عبدہ سورۃ الفیل کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”بعض روایات میں آیا ہے کہ اصحابِ الفیل چمپک کی مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس سورۃ نے واضح کر دیا ہے کہ چمپک کی بیماری ان خشک سنگ ریزوں کی وجہ سے پیدا ہوئی جو پرندوں کے ذریعہ ابرہہ کے لشکر پر پھینکے گئے تھے۔ گویا یہ پرندے مکھی اور مچھر کی طرح تھے جن میں بعض جیباریوں کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اس امر کا بھی احتمال ہے کہ یہ سنگ ریزے زہریلے خشک مٹی کے ہوں۔ ہوا کے اڑنے سے یہ مٹی پرندوں کے پاؤں سے چمٹ گئی، اور جب یہ مٹی لشکر کے افراد پر گری تو ان کے مساموں میں داخل ہو گئی جس سے ان کے جسم پر اُلجے پڑ گئے اور اعضائے جسمانی سے گوشت جھڑنے لگا۔ یہ کمزور پرندے اعدائے دین کو ہلاک کرنے کے لیے ایک عظیم لشکر تبارت ہونے۔ باغی لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ پرندے پہاڑوں جیسے عظیم و ضخیم ہوں۔ یا یہ کہ وہ عنقاء جیسے عجیب و غریب ہوں یا ان کے رنگ خاص قسم کے ہوں۔ اسی طرح قدرتِ خداوندی کا ظہور نہ سنگ ریزوں کی جسامت و ضخامت کا محتاج ہے نہ ان کی کیفیت تاثر کا۔“

کسی نے سچ کہا ہے

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ
تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ الْوَاحِدُ ۝

ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی شیخ نے اپنے مقررہ انداز تفسیر کی خلاف ورزی کی ہے اور تفصیلات جزئیات میں الجھ گئے ہیں بنا بریں ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ سنگ ریزوں سے بیماری کے جراثیم مراد ہیں افسوس ہے کہ ہم اس ضمن میں ان کی تائید نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جراثیم کا نظریہ طبی جدیدہ کی اختراع ہے اور زرد قرآن کے وقت عرب اس سے آشنا نہ تھے۔ کوئی عرب نثر ادب جوہی "حجارتہ" کا لفظ اس سورت میں پڑے گا۔ اس کا ذہن ہرگز جراثیم کی جانب منتقل نہیں ہو گا۔ ظاہر ہے کہ قرآن عربوں کی زبان میں اترا ہے اور اس نے عربوں سے ان کے اخلاق و عادات کے مطابق خطاب کیا ہے۔

یہ درست سمی کہ جناب شیخ نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں کامل حریت فکر و نظر سے کام لیا ہے مگر یہ بھی غلط نہیں کہ آپ آزاد خیالی کے سمندر میں ڈوب گئے اور اس میں اس حد تک مبالغہ سے کام لیا کہ آپ کے افکار و نظریات میں اعتدال باقی نہ رہا اور آپ عدل و انصاف کی حدود سے تجاوز کر گئے۔

شیخ کی نگاہ میں ملائکہ و ابلیس کی حقیقت :

قرآن کریم میں فرمایا :

«وَاذْتَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْحَابًا وَاذْلَمَ فَسْحَابًا وَاِلَّا ابْلِيسَ»

نہیں کیا۔

(البقرہ - ۳۴)

اس آیت کی تفسیر میں امام عبدہ فرماتے ہیں :

«بعض مفسرین نے ملائکہ کی تشریح کے سلسلہ میں ایک دوسرا نقطہ نظر اختیار کیا ہے قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو نباتات کے اگانے حیوان کو پیدا کرنے اور انسان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ نباتات میں نشوونما کا جو مادہ پایا جاتا ہے وہ اس روح کی وجہ سے ہے۔ جس کو خداوند کریم نے بیج میں چھونکا تھا۔ مخصوص نباتاتی زندگی کا تعلق اسی روح کے ساتھ ہے۔ حیوان و انسان کے بارے میں بھی اسی طرح کہا جائے گا۔»

جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ صاحبِ دہلی کی زبان سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ اس کو سمجھنے لگے گا اور جو انعامات اہل ایمان کو ملنے والے ہیں ان سے بہرہ اندوز ہوگا۔

جب کوئی شخص ایسا کام کرنے کا ارادہ کرے جس میں خیر و شر اور حق و باطل کے دو متضاد پہلو موجود ہوں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک تنازعِ بپا ہے۔ گویا اس کے باطن میں ایک مجلسِ شوریٰ ہے جس کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا اور کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یہ کام کر لو جب کہ دوسرا اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متضاد خیالات میں سے ایک پہلو غالب آتا ہے اور دوسرا مغلوب۔ پس یہی باطنی امر ہے جس کو ہم قوتِ ادرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی کا نام رُوح ہے۔ جس کی حقیقت کا ادراک کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ملکِ دفرشتہ اور اس کے اسباب کا نام ملائکہ رکھا ہو، یا کچھ اور نام تجویز کیا ہو۔ اس لیے کہ نام رکھنے پر کوئی پابندی جب لوگوں پر عائد نہیں کی جا سکتی تو پھر اس نامِ مطلق کو اس ضمن میں کیسے پابند کیا جا سکتا ہے؟

(النار، ج ۱- ص ۲۶۷)

امام عبدہ مزید فرماتے ہیں :

”جب تفسیر قرآن کا مذکورہ صدر انداز درست ہے تو ممکن ہے کہ آیت میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور اس کو ایسی روحانی قوتوں سے نوازا جن کے باعث اس کا قیام و نظام ہے۔ پھر ہر قسم کی قوت کو مخلوقات کی ایک خاص قسم کے ساتھ مخصوص کر دیا جس سے وہ الگ نہیں ہو سکتی۔ تب انسان کو پیدا کیا اور اس کو ایسی قوت عطا کی جس کے بل بوتے پر وہ باقی مخلوقات کو عطا کردہ قوتوں کو زمین کی تعمیر و ترقی میں استعمال کر سکے۔ ان قوتوں کی تسخیر کو سجد سے تعبیر کیا کیوں کہ اس میں عاجزی اور نابلداری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ پھر اسی بے پناہ قوت اور استعداد کی بنا پر اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا۔

اس لیے کہ دنیا میں جس قدر مخلوقات پائی جاتی ہیں انسان ان سب سے افضل و اکمل

ہے۔ اگرچہ مخلوقات میں ودیعت کردہ جملہ قوی کو انسان کے تابع کر دیا مگر ایک قوت کو ان سے مستثنیٰ قرار دیا اور اس کو ”ابلیس“ کے نام سے تعبیر کیا۔ یہ قوت اس کائنات کا جزو لاینفک ہے اور اس سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی قوت ہے جو کمال کو ناقص بنا دیتی اور موجود کو معدوم بنا کر چھوڑتی ہے۔ یہی قوت ہے جو اتباع حتیٰ کی راہ میں سنگلاہ بنتی ہے اور نیک کاموں سے رد کرتی ہے۔ یہ وہی قوت ہے جو انسان کو اس بات سے رد کرتی ہے کہ وہ اپنے قوی کو منافع و مصالح کے لیے صرف کر کے اپنی خلافت کی تکمیل کر سکے اور اس طرح اس کمال تک پہنچ جائے جس کی صلاحیت اس میں ودیعت کی گئی ہے۔“

(النار، ج ۱- ص ۲۶۹)

شیخ عبدہ مزید لکھتے ہیں :

”مذکورہ صدر تفسیر کے پیش نظر حضرت آدم کے تمثیلی واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کے خلیفہ بنانے کی جو خبر دی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم میں جو ارواح و قوی پائے جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے اس کا قیام ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کے وجود میں لانے کے لیے تیار کر دیا۔ یہ ہونے والی مخلوق تمام مخلوقات میں حسب مرضی تصرف کرے گی اور اس کی وجہ سے زمین کو کمال حاصل ہوگا۔“

فرشتوں کا یہ کہنا کہ جس مخلوق کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے وہ زمین میں فساد برپا کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے آزادانہ کام کرے گا اور اس کو بے حد علمی و عملی استعداد عطا کی جائے گی۔ حضرت آدم کو ”الاسماء“ سکھانے سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر طرح کے علوم و فنون سیکھ سکتا ہے اور اس صلاحیت سے بہرہ در ہے۔ فرشتوں سے ان ناموں کے بارے میں سوال کرنا اور جواب دینے سے ان کے قاصر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارواح بدرجہ عالم میں جو شعور پایا جاتا ہے وہ محدود ہے اور ایک خاص حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمام ارواح و قوی کو انسان کے لیے سخر کر دیا گیا ہے

جن سے کام لے کر وہ کائنات کو ترقی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ ابلیس کے سجدہ سے انکار کے یہ معنی ہیں کہ انسان بشر کی روح کو تابع نہیں کر سکتا۔ ظلم و خساد کی قوتوں کو روکنا اس کے بس کا روگ نہیں۔ اور اگر انسان ایسا کر سکتا تو ایک زمانہ ایسا بھی آتا جب نبی نوع آدم فرشتوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ جاتے۔ (النار، ج ۱- ص ۲۸۱)

شیخ عبدہ نے مذکورہ صدر واقعہ کی جو تاویل کی ہے آیات کے سیاق و سباق سے اس کی تردید ہوتی ہے اور کوئی سلیم المزاج شخص اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔
سحر کے بارے میں شیخ کا موقف:

شیخ عبدہ نے فہم قرآن کے سلسلہ میں جس آزاد خیالی سے کام لیا تھا اس کے زیر اثر آپ نے سحر کے بارے میں جو موقف اختیار کیا وہ جمہور اہل سنت کے خلاف اور معتزلہ کے نقطہ نظر سے عم آہنگ ہے۔ ان کی رائے میں سحر کی کوئی حقیقت نہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا:

« وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ » اور گانٹھوں میں بھونکیں مارنے والیوں کی شرارت

(العلق - ۴) سے نیری پناہ چاہتا ہوں۔

شیخ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

« نفثات سے وہ چیز مراد ہیں جو غیبت کی آگ سے الفت و محبت کے تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں۔ ان کو « نفثات » سے اس لیے تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چغلی خوردوں کو جادو خوردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جادو گردوں کا بیہوشی ہے کہ جب وہ خاندان و جمعی کے تعلقات کو توڑنا چاہتے ہیں تو عوام الناس کے قول کے مطابق ایک گانٹھ دیتے ہیں اور اس میں پھونک کر اس کو کھول دیتے ہیں۔ اس سے وہ لگوں کو تیرتا کر دیتے ہیں کہ زو جین کے درمیان محبت کی جو گانٹھ تھی اس کو انہوں نے کھول دیا۔ چغلی بھی ایک طرح کا جادو ہے۔ اس لیے کہ چغلی خفیہ طریقے سے دستانوں کی محبت کو عداوت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ چغلی دستانوں کے دجلان کو اسی طرح گمراہ کرتی ہے جس طرح رات اپنی ظلمت کے باعث چلنے والے کو سیدھی راہ سے برگشتہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے

”افساق“ کے بعد اس کا ذکر کیا۔ (تفسیر جزو عم، ص ۱۸۱)

بعض احادیث سے انکار:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کا واقعہ ذکر کے شیخ اس ضمن میں وارد شدہ احادیث کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ لکھتے ہیں:-

”اس ضمن میں کئی احادیث منقول ہیں کہ لیبید بن اعصم یہودی نے آپ پر جادو کیا تھا اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو گمان ہوتا کہ فلاں کام آپ نے کر لیا ہے حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے آگاہ کیا۔ ایک کنویں سے جادو پر مشتمل اشیاء نکالی گئیں اور آپ نے اس تکلیف سے نجات پائی۔ اس موقع پر آخری دونوں سورتیں نازل ہوئیں۔

ظاہر ہے کہ جادو کا آپ کی ذات گرامی پر اس حد تک اثر انداز ہونا کہ آپ پر نسیان طاری ہو جائے۔ ایک جسمانی مرض نہیں اور نہ ہی یہ اس قسم کا سمونسیان ہے جو عموماً لوگوں کو عارض ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کا تعلق عقل و روح کے ساتھ ہے۔ اس سے کفار مکہ کے قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ:

”إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا مَرَجَلًا مَّسْحُورًا“ تم تو ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو

(الفرقان - ۸)

مَسْحُورُ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے حواس درست نہ ہوں اور جو کیے ہوئے اور نہ کیے ہوئے کاموں میں تمیز نہ کر سکتا ہو۔ یا وہ یہ خیال کرے کہ اس پر وحی نازل کی جا رہی ہے حالانکہ وحی نازل نہ ہو رہی ہو۔ بہت سے مقلدین نے جو مقام نبوت سے نا آشنا ہیں یہ بات کہی ہے کہ جس حدیث میں جادو کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ صحیح ہے لہذا اس کو تسلیم کرنا ضروری اور اس سے انکار کرنا بدعت ہے۔ پتوں کہ قرآن کریم نے سحر کی تصدیق کی ہے لہذا اس سے مجال انکار نہیں۔

غور فرمائیے کہ ایک مقلد شخص کی نگاہ میں دین صحیح اور حق صریح کس طرح ایک بدعت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ قرآن کریم سے اثبات سحر کے سلسلہ میں احتجاج کیا جاتا ہے اور اس امر کی جانب توجہ مبذول نہیں کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سحر کی نفی فرمائی ہے۔ مشرکین بھی یہی بات کہتے تھے کہ شیطان آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ شیطان کی ملاقات ہی کہ وہ اپنی اصطلاح میں

سحر قرار دیتے تھے۔ بلیغیہ کی جانب جس سحر کو منسوب کیا گیا تھا اس کا اثر بھی ان تقلیدین کے نزدیک یہی ہوا تھا کہ آپ کے حواس بجا نہیں رہے تھے۔ (نور باللہ من ہذا)

یہ ایک واجب التسلیم حقیقت ہے کہ قرآن کریم میں بیان کردہ حقائق قطعی اور حتمی ہیں۔ یہ کتاب تو از نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ جس بات کو یہ کتاب ثابت کرے وہ واجب الاعتقاد ہے اور جس کی نفی کرے۔ اس پر اعتقاد نہ لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے آپ سے سحر کی نفی کی اور کفار کی جانب اس بات کو منسوب کیا ہے کہ وہ آپ کو مسحور کتے تھے۔ پھر اس پر کفار کو متوب کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ ہرگز مسحور نہ تھے۔

اگر فرض کر لیا جائے کہ اس ضمن میں وارد شدہ حدیث صحیح ہے تو بھی یہ اس لیے قابل احتجاج نہیں کہ غیر واحد ہے۔ اور عقائد کے باب میں اخبار احاد سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سحر کی تاثیر سے محفوظ و معصوم رہنا اسلامی عقائد میں سے ایک ضروری عقیدہ ہے۔ اس لیے اس ضمن میں ظنی دلیل کافی نہیں۔ مزید براں خبر واحد سے ظنی علم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کی صحت ثابت ہو جائے۔ غیر صحیح ہونے کی صورت میں بھی خبر واحد مفید ظن بھی نہیں ہوتی۔ اندر میں صورت ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم حدیث زیر تبصرہ کو نظر انداز کر کے نفس قرآنی اور عقلی دلیل پر عمل کریں۔ غور فرمائیے جب آنحضرت کے حواس ہی بجا نہ ہوں تو آپ کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا درست ہے کہ آپ کے خیال میں کوئی وحی نازل ہوئی ہو۔ حالانکہ درحقیقت نہ ہوئی ہو۔ یا آپ نے بزعم خویش کوئی بات اگے پھینچا دی ہو حالانکہ آپ نے اس کی دعوت نہ دی ہو (تفسیر جزء علم ص ۱۸۱-۱۸۲)

جس حدیث کو شیخ عبدہ نے ناقابل تسلیم قرار دیا ہے اس کو امام بخاری اور دیگر اصحاب صحاح نے ردایت کیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات موجود نہیں جو مقام نبوت کے منافی ہو۔ جو سحر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا وہ ان بیماریوں کی طرح تھا۔ جو بدن انسانی کو عارض ہوتی ہیں۔ آپ کی عقل اس سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جادو اسی قسم کا تھا۔ جو اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ وہ شخص عورت کے قابل نہ رہے۔ اس کو رباط کہتے ہیں۔ چنانچہ جادو کے اثر سے آپ پر خیال کرتے تھے کہ آپ جماعت کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کا ارادہ کرتے تو

اس سے قاصر رہتے۔ جس سحر کی آپ سے نفی کی گئی ہے اس سے جنون مراد ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جنون مقام نبوت کے منافی ہے۔ کفار کا کرتے تھے :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اءِ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے
اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ » تم تو پاگل ہو۔

اس حدیث کو امام بخاری اور دیگر اصحاب صحاح نے روایت کیا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ شیخ عبدہ اور ان کے ہمنوا صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں منقول احادیث کے مابین کوئی فرق و امتیاز روا نہیں رکھتے۔ چنانچہ وہ بخاری کی مردیات کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ اگر حدیث بجائے خود صحیح بھی ہو تو وہ اس کو خبر واحد قرار دیتے ہیں جو مفید نفع ہوتی ہے ہمارے خیال میں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ احادیث کے کافی ذخیرہ کو نظر انداز کر دیا جائے۔ حالانکہ حدیث نبوی قرآن عزیز کی شارح و ترجمان ہے۔ علماء کا قول ہے کہ بیان اور میں مساری الرتبت ہوتے ہیں۔

اس پڑھو یہ کہ شیخ عبدہ صرف اسی حدیث کو ضعیف یا خبر واحد کہہ کر اس سے جان نہیں چھڑاتے۔ بلکہ اکثر احادیث کے بارے میں ان کا فیصلہ یہی ہے۔ مثلاً صحیح بخاری و مسلم کی یہ حدیث

« كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ هَرَجًا حَتَّىٰ يَبْرَأَ مِنْهُ اَوْ يَمُوتَ » ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو بھونتا ہے گھریم اور ان کا بیٹا اس سے تثنیٰ ہیں۔

شیخ عبدہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں۔

« اَلْحَدِيثُ كِي صِحَّتْ ثَابِتٌ هُوَ يَمَسُّ جَانِبَهُ اَوْ اس کو تمثیل پر محمول کیا جائے گا، حقیقت

پر نہیں « (النار، ج ۳ - ص ۳۹۰)

باوجودیکہ مذکورہ صدر حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے مگر شیخ عبدہ اس کو صحیح قرار نہیں دیتے۔ پھر یہ کہہ کر اس سے گونجلا ہی کراتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی تمثیل ہے۔ یہ معتزلہ کا زاویہ نگاہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو دوسرے ڈالنے کے سوا انسان پر اور کسی قسم کا تسلط حاصل نہیں۔

بہر کیف یہ ہیں امام عبدہ کی تفسیری خدمات اور یہ ہے ان کا مسلک و مہاج! ہم نے مقدور بھر اس امر کی کوشش کی ہے کہ حق و انصاف سے کام لیا جائے۔ بہتان طرازی اور افتراء پر دازی ہمارا مقصد نہیں۔

۲۔ سید محمد رشید رضا

شیخ عبدہ سے ربط و تعلق :

آپ ۱۲۸۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۵۴ھ میں وفات پائی۔ حالات زندگی خود طوالت کی بنا پر ظم انداز کیے جاتے ہیں۔

سید محمد رشید رضا طرابلس الشام میں پروان چڑھے اور وہاں کے شیوخ و علماء کے کسب فیض کیا۔ پھر لوگوں کو اپنے علم و فضل سے مستفیض کرنے لگے۔ انہی دنوں آپ نے علامہ جمال الدین انفانی اور شیخ عبدہ کا ماہنامہ ”العروة الوثقی“ دیکھا اور اس سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے سید جمال الدین کو ملنا چاہا مگر قسمت نے یادری نہ کی۔ پھر شیخ عبدہ سے ملے اور ان کے وابستہ دامن ہو گئے۔ یہ ماہ رجب ۱۳۱۵ھ صحیحی بات ہے۔ سید محمد رشید رضا نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح آپ ماہنامہ ”العروة الوثقی“ میں تفسیر قرآن لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح تفسیر لکھیں۔ چنانچہ امام عبدہ نے الازھر میں اپنے تفسیری لیکچروں کا آغاز کر دیا۔

شیخ رشیدان لیکچروں میں باقاعدہ حاضر ہوتے اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ان کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ آپ لیکچر کے دوران لکھتے جاتے تھے اور جب فارغ ہوتے تو اپنے حافظہ کی مدد سے اس میں اضافہ کرتے۔ یہ تحریر آپ شیخ عبدہ کو دکھایا کرتے تھے۔ شیخ اس میں مناسب رد و بدل کرتے اور پھر اس کو مجلہ ”النار“ میں شائع کر دیا جاتا۔

(النار، ج ۱- ص ۱۰)

بنابراین ہم پورے ذوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سید رشید رضا اپنے استاد امام عبدہ کے علم و فضل کے اولین وارث تھے۔ آپ نے امام عبدہ سے استفادہ کیا اور اس کو محفوظ کر لیا۔ اپنے اپنے استاد کی زندگی میں اور بعد از وفات تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا آپ تازنگی اپنے استاد کے مسلک و مہاج پر گامزن رہے اور اس سے سب موانع و محارف نہ کیا۔ اس لیے شیخ رشید کی یہ بات درست ہے کہ امام عبدہ فرمایا کرتے تھے :

« صَاحِبِ الْمَنَارِ شُرْجَمَانٌ
أَفْكَارِيٌّ »۔
شیخ رشید المنار کے ایڈیٹر میرے نظریات
کے ترجمان ہیں۔

شیخ رشید رضا کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ امام عبدہ نے ان الفاظ میں سید رشید
رضاک مدح و توصیف کی تھی۔

« إِنَّهُ مُتَّحِدٌ مَعَهُ فِي الْعَقِيدَةِ
وَالْفِكْرِ وَالرَّيِّ وَالْخُلُقِ وَالْعَمَلِ »۔
شیخ رشید رضا عقیدہ فکر رائے خلق اور
عمل میں میرے ہمنوا ہیں۔

تفسیری کاوش :

شیخ رشید نے جو تفسیری درنریاد گار چھوڑا ہے اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ عبدہ
کے تفسیری مکتب فکر میں سب سے زیادہ کام سید رشید رضا نے کیا ہے۔ آپ نے اپنی تفسیر،
« تفسیر القرآن الحکیم » کا افتتاح قرآن کریم کے آغاز سے کیا اور سورہ یوسف کی آیت نمبر ۱۰۱ :
« رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ » تک پہنچے تھے کہ وفات پائی۔ یہ تفسیر المنار کے نام سے
معروف ہے۔ تفسیر کا یہ حصہ بارہ ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکا ہے بارہویں جلد سورہ یوسف کی آیت
نمبر ۵۳ « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِي » پر ختم ہوتی ہے۔ مشہور عالم استاذ ہجرت البیطار نے سورہ یوسف
کی تفسیر مکمل کی۔ اس سورت کی مکمل تفسیر ایک مستقل کتاب میں چھپ چکی ہے۔ اور اس پر شیخ رشید
کا نام مرقوم ہے۔

چھوٹی سورتوں میں سے آپ نے سورہ الکوزر، الکافرون، اخلاص اور آخری دو سورتوں
کی تفسیر لکھی تھی۔ اس سے زیادہ ہم آپ کی تفسیر نویسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آپ کی تفسیری
خدمات میں استاد و شاگرد دونوں کی روح صاف بھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دونوں کے
مصادر و ماخذ نصب العین انداز تفسیر اور افکار و آراء میں کچھ فرق نظر نہیں آتا۔
مصادر تفسیر:

جہاں تک آپ کے مصادر تفسیر کا تعلق ہے آپ بعض آیات کی تفسیر دوسری آیات کی روشنی
میں کرتے تھے۔ خصوصاً جہاں ایک ہی موضوع کے سلسلہ میں متعدد آیات دار و ہوئی ہوں۔ آپ
تفسیر قرآن کے سلسلہ میں احادیث صحیحہ اقوال صحابہ و تابعین اور عربی زبان کے اسلوب و انداز سے

بھی مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کا اعتماد اپنی عقل و رائے پر ہوتا تھا جو مفسرین کی تقلید سے یکسر پاک تھی۔ علاوہ ازیں آپ امام عبدہ کے تفسیری اقوال سے بھی خصوصی اغناء کرتے تھے۔ شیخ رشید کے بعض تلامذہ کا بیان ہے کہ جو تفسیر دہ لکھتے تھے لکھنے کے بعد اس کو کتب تفسیر میں ملاحظہ کرتے تھے تاکہ دیگر مفسرین کے خیالات سے متاثر نہ ہوں۔ جب الہام ربانی سے آیت کا کوئی مفہوم سوچتا جو قبل ازیں کسی نے بیان نہ کیا ہو تو یا از خود لکھ کر بعد ازاں اس کو کتب تفسیر میں ملاحظہ کرتے تو خوشی سے پھولے نہ سماتے اپنے احباب و تلامذہ اور اہل دعویٰ اس سلسلے مسرت کا اظہار کرتے اور باگاہ ربانی میں اس پر ہدیہ تشکر پیش کرتے۔

(مقالہ استاذ عبد الرحمن عاصم مجلہ نور الاسلام سال پنجم شمارہ نمبر ۱۲ ص ۲۵۲)

تفسیری نصب العین :

تفسیر قرآن سے آپ کی غرض دعایت دہی تھی جو امام عبدہ کی تھی۔ جس طرح شیخ عبدہ کا تفسیری نصب العین قرآن عزیز کا اس اعتبار سے فہم و ادراک تھا کہ وہ ایک کتاب ہدایت ہے جس میں لوگوں کی دینی و دنیوی فلاح و سعادت مضمر ہے۔ اسی طرح شیخ رشید کا نقطہ نظر بھی یہی ہے اور اس کا اظہار انہوں نے تفسیر کے متعدد مقامات پر کیا ہے۔ چنانچہ وہ ان مفسرین کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کتب تفسیر کو علوم و فنون کے قواعد و اصول احادیث موضوعہ اور اسرائیلی روایات کا پلندہ بنا دیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں :

”ایک ایسی تفسیر کی شدید ضرورت ہے جس میں قرآن کریم کے کتاب رشد و ہدایت ہونے کی جانب اولین توجہ مبذول کی گئی ہو۔ اور جس میں نزول قرآن کے مقاصد یعنی انذار و تبشیر اور اصلاح و ہدایت کو خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا ہو، ہماری تفسیر قرآن کا مقصد قرآن کریم کے معنی و مفہوم کی اس انداز سے شرح و توضیح کرنا ہے کہ وہ عصر حاضر کے لیے سامان رشد و ہدایت بن سکے“ (النار، ج ۱- ص ۱۰)

منہاج تفسیر :

شیخ رشید کا انداز تفسیر بالکل دہی ہے جو ان کے استاذ مرحوم کا تھا۔ دونوں میں کوئی فرق و امتیاز نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ شیخ رشید اپنے استاذ کی طرح نہ تو مفسرین کے اقوال نقل کرتے

ہیں اور نہ ہی اپنے خصوصی افکار و عقائد کو تفسیر میں جگہ دیتے ہیں۔ اسرائیلی روایات کا کوئی نشان ان کے یہاں موجود نہیں۔ وہ مہمات قرآن کی تفسیر نہیں کرتے بلکہ ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ احادیث موضوعہ سے احتراز کرتے ہیں علوم و فنون کے اصول و قواعد کا بالکل تذکرہ نہیں کرتے۔

بخلاف ازیں آپ بڑے دلفریب اور پرکشش انداز میں قرآن عزیز کی شرح و تفسیر کرتے ہیں۔ آیات کے معانی و مطالب بڑی سلیس عبارت میں بیان کرتے ہیں۔ مشکلات قرآن کی گہرہ کشائی کرتے اور اس پر وارد کردہ شکوک و شبہات کا دفاع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی شرح و تفسیر اس انداز سے کرتے ہیں جس سے اس کا موجب رشد و فلاح ہو نا واضح ہوتا ہے۔ دین کے سرار و رموز کی نقاب کشائی کرتے اور معاشرتی و اجتماعی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔

یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام عابدہ کی وفات کے بعد جب شیخ رشید نے متقل طور پر اپنے شاگرد مرحوم کی جانشینی اختیار کی تو کسی حد تک ان کا اسلوب و انداز بھی بدل گیا۔ وہ خود فرماتے ہیں:

”جب امام عابدہ کی وفات کے بعد میں ان کا جانشین بنا تو میرا تفسیری انداز بھی بڑی حد تک بدل گیا۔ اور اس میں مندرجہ ذیل تغیرات رونما ہوئے:

(۱) تفسیر قرآن کے سلسلہ میں میں نے اکثر و بیشتر احادیث صحیحہ پر اعتماد کرنا شروع کیا اور اس میں پیش از پیش وسعت پیدا کی۔

(۲) مفردات لغت کی تحقیق اور ترکیب نحوی کی جانب خصوصی توجہ مبذول کی۔

(۳) علماء کے مابین جو مسائل متنازعہ فیما تھے ان کو تفصیلاً بیان کرنا شروع کیا۔

(۴) قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے آیات کے شواہد و نظائر پیش کرنے میں اضافہ کیا۔

(۵) جو مسائل مسلمانوں کو عصر حاضر میں درپیش ہیں ان کا خصوصی حل پیش کیا۔

(۶) اس امر کی جانب خصوصی توجہ مبذول کی کہ دین پر ثبات قدم رہنے کے لیے

مسلمانوں کو جس سکون و اطمینان کی ضرورت ہے اس کے پیدا کرنے کی کوشش

کی جائے“ (النار، ج ۱ - ص ۱۶)

ہمارا خیال ہے کہ شیخ رشید نے قومی و اجتماعی مسائل کو جو وسعت دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی

کہ موصوف ایک صحافی آدمی تھے۔ المنار کے ایڈیٹر ہونے کی حیثیت سے لوگوں کے مختلف طبقات تک آپ کا میل جول تھا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں میں دین دار علماء اور کافر بھی قسم کے لوگ تھے۔ اس لیے آپ چاہتے تھے کہ مختلف الفکر لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط قائم رہیں اور اس طرح آپ دین دار کو دین پر قائم رکھ سکیں۔ علمد کو الحاد سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کی خوبیاں منظر عام پر لائیں۔ تاکہ کافر کفر کو چھوڑ کر رُشد و ہدایت کی جانب لوٹ سکے۔

تفسیری آراء :

جہاں تک آپ کے تفسیری نظریات کا تعلق ہے۔ وہ بالکل امام عبدہ کی طرح تھے۔ آپ کے تفسیری انداز کی بنا کامل آزادی فکر حریتِ فہم دار اک اور علم و فضل پر رکھی گئی۔ آپ علماء کے مسلمات کے برگز پابند نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعض تفسیری نظریات بڑے عجیب غریب ہیں۔ ان میں سے بعض افکار ان کے اپنے دماغ کی اختراع ہیں اور بعض امام عبدہ سے ماخوذ ہیں۔

اصحاب الکبار سے متعلق آپ کا موقف :

سو دکھانے والوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا :

«دَمَنْ عَادَ فَأَوْذُنَاكَ أَصْحَابُ النَّاسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»
 اور جو شخص (سود کی حرمت کے بعد) پھر سوڈ
 لے تو یہ لوگ جتنی ہیں اور دروزخ میں ہمیشہ

(البقرہ - ۲۷۵) رہیں گے۔

اس آیت کی تفسیر میں شیخ رشید نے جو موقف اختیار کیا ہے۔ وہ جمہور اہل سنت کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سوڈ کھانے والا یا قتلِ عمد کا مرتکب اگر تو بے کیے بغیر مر جائے تو وہ ہمیشہ دروزخ میں رہے گا اور اس سے کبھی نہیں نکلے گا۔ شیخ رشید لکھتے ہیں۔

”چونکہ اہل سنت کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ معاصی کے ارتکاب سے کوئی شخص دائمی جہنمی قرار نہیں پاتا۔ اس لیے انہوں نے آیت ہذا میں ”خَالِدُونَ“ کا جو لفظ وارد ہوا ہے اس کی تاویل کی ہے۔ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ دائمی جہنمی وہ شخص ہے جو رباً کی حرمت کے بعد بھی اس کو حلال سمجھے کہ اس کا ارتکاب کرنا ہو۔ گویا یہ وعید عام نہیں۔ بلکہ اس شخص کے حق میں وارد ہوئی ہے۔ جو رباً کو حلال سمجھے اور پھر اس کا مرتکب ہو

مگر بعض علماء اس تاویل کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ آیت میں سو دو کھانے کا ذکر کیا گیا ہے یہ مذکور نہیں کہ اس کے حلال ہونے کا معتقد بھی ہو۔ اگر وعید حلت کا اعتقاد رکھنے پر وارد ہوئی ہے۔ تو سو دو کھانے سے متعلق قرآن میں کسی وعید کا ذکر نہیں کیا گیا۔
 حتیٰ یہ ہے کہ قرآن نے جو بات کسی ہے وہ مشکلیں اور فقہاء کے نظریات کی نسبت قابل ترجیح ہے جو بات بھی دین سے متعلق ہو۔ سب سے پہلے اس کو قرآن کریم میں دیکھنا چاہیے۔ یہ روایت درست نہیں کہ لوگوں کے کلام سے ہم آہنگ کرنے کیلئے قرآن عزیز کی تاویل کی جائے سو دو خوار کے بارے میں جو وعید یہاں آئی ہے۔
 (خلود) وہ بالکل وہی ہے جو تئیل عمد کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہے وہاں بھی ایسی کوئی قید و شرط نہیں کہ قابل عمد اس کو حلال بھی سمجھا ہو۔ پھر یہاں یہ شرط کہاں سے آگئی؟ یہ عجیب بات ہے کہ امام رزی جیسے شخص نے انشاء کر کے تاہید و حمایت کرتے ہوئے آیت زیر فہم کو ان لوگوں کے خلاف حجت ٹھہرایا ہے جو کبار کے مرتکب کو ابدی جہنمی قرار دیتے ہیں۔ خلود کی دوسری تاویل یہ کی گئی ہے کہ اس سے طویل زمانہ مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سو دو خوار عمدہ و راز تک دوزخ میں رہے گا ہمیشہ نہیں) یہ تاویل پہلی کی نسبت بہتر ہے۔“

شیخ رشید مزید لکھتے ہیں:

مگر ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر قسم کا ایمان ابدی جہنمی ہونے سے بچا نہیں سکتا۔ ایمان کی دو اصل دو قسمیں ہیں:

- ۱ - ایمان کی ایک قسم یہ ہے کہ ایک شخص جس مذہب پر پیدا ہوا اور پر دان چڑھا ہوا جس مذہب کی جانب منسوب ہو، اس کو اجمالی طور پر تسلیم کر لے۔
- ۲ - ایمان کی دوسری قسم یہ ہے کہ سچے دل سے دین کی معرفت حاصل کی جائے اور اس پر ایسا ایمان لایا جائے جو عقل و ذہن میں راسخ ہو جائے۔ یہ ایمان سکونِ اطمینان اور یقین و اذعان سے مالا مال ہو۔ یہ ایمان انسانی ارادہ پر حاکم ہو جو انسانی اعضاء سے کام لیتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر صاحب ایمان ہر حال میں

اس ایمان کے تابع ہو اور ہر موقع پر اپنا سر تسلیم اس کے سامنے جھکا دے۔ بجز ان امور کے جو بتقاضائے بشریت اس سے صادر ہوتے ہیں مثلاً سہو و نسیان وغیرہ۔
 جہاں تک شو و کا تعلق ہے وہ ان افعال میں سے نہیں جو سہو و نسیان کی بنا پر صادر ہوتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کا ایمان ہی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ابدی ناراضگی سے بچا سکتا ہے ظاہر ہے کہ جو شخص حسبِ مال یا لذت گیری کی بنا پر کباثر و فواحش کا از نکاب کرتا ہو وہ ایسے ایمان سے یقیناً عاری ہوگا۔ باقی رہی ایمان کی قسم اول تو وہ صرف ظاہری اور صورتی ایمان ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خداوند کریم تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ قلوب و اعمال کو دیکھتا ہے۔

ہم نے جو موقف اختیار کیا ہے قرآن کریم میں اس کے نظائر و ثوابد بے شمار ہیں۔ سلف صالحین کا مسلک بھی یہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بہت سے لوگ جو اہل سنت ہونے کے مدعی ہیں۔ اس بات سے ناواقف ہیں اور اپنی جمالت کی وجہ سے دین کی تحریب کر رہے ہیں۔ ان کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ فلاح و سعادت کا مدار انحصار صرف دین کے مان لینے پر ہے۔ خواہ عمل کیسا ہی ہو۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت سے لوگ محرمات کی حرمت کا اعتراف کرتے ہوئے بھی ان کے منکب ہوتے ہیں۔ اسی قسم کے ایک بڑے آدمی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں اگرچہ سو دکھاتا ہوں لیکن اس کے باوصف مسلمان ہوں اور سو کو حرام سمجھتا ہوں۔ کیا یہ بات اسے معلوم نہیں کہ سو و خواری کا اعتراف کر کے وہ اس وعید کا مستحق بن جاتا ہے جو اس آیت میں وارد ہوئی ہے؛ کیا وہ اللہ و رسول کے خلاف جنگ کرنا پسند کرے گا۔ یا تو وہ ان باتوں کا اعتراف کرے اور یا اس وعید سے منکر ہو جائے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ آیت کے ایک حصہ یعنی حرمتِ سو و پر ایمان رکھتا ہے۔ مگر وعید سے متعلق حصہ سے منکر ہے۔ نوذ باللہ من ہذا۔ (النار، ج ۳، ص ۹۸)

مجاز و تشبیہ کی جانب میلان :

شیخ رشید نے حضرت آدم و ابلیس کے قصہ سے متعلق وہی موقف اختیار کیا ہے جو ان کے استاد شیخ عبدہ نے کیا تھا۔ اسی طرح وہ قرآنی الفاظ کے حقیقی معنی و مطلب کو چھوڑ کر ان کو

مجاز و تشبیہ پر محمول کرتے ہیں۔ اور یہ اس جگہ کرتے ہیں جہاں حقیقی مفہوم بیدار قیاس اور عجیب معلوم ہوتا ہے۔ یہودی مسلک ہے جو ان کے اُستاد شیخ عبدہ نے اختیار کیا تھا۔ زعفرانی اور دیگر مفسر لہ کا طرز فکر بھی یہی ہے کہ وہ تشبیہ و تمثیل کے پردہ میں ان حقائق سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں جن کو قرآن صراحتاً بیان کرتا ہے۔ یہ امور اگرچہ استطاعت بشری سے خارج ہوتے ہیں۔ مگر قدرتِ خداوندی ان سے عاجز و قاصر نہیں ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا :

لَدَيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ أُذُنُوا لِكِتَابِ
أَمْنًا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا
مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَنْ نَطْمِئِنَّ
وَجُوهَا فَزَرَّدُهَا عَلَىٰ أَذْيَارِهَا،

اسے کتاب والو! جو کچھ ہم نے اُتانا ہے
اس پر ایمان لاؤ جب کہ وہ (ان تعیلمات کی،
تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہیں اس
سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو تبدیل کر
کے تمہاری پیٹھوں کی طرف پھیر دیں

(النساء - ۴۷)

شیخ رشید اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”اس آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ ہماری نازل کردہ کتاب قرآن پر اس سے قبل ایمان لے آؤ۔ جب تمہاری ان کوششوں کو جو تم اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے صرف کر رہے ہو، ناکام کر دیں اور وہ تمہارے لیے مفید ہونے کے بجائے ضرر رساں ثابت ہوں۔ اور وہ اس طرح کہ اپنی تائید و نصرت کے ذریعے اسلام کا بول بالا کر دیں اور دینِ دِلم کے نام پر جو کام تم کر رہے ہو۔ ان کو تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا موجب بنا دیں۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ نزولِ قرآن کے زمانہ میں اہل کتاب کو ہر قسم کی قوت و شوکت حاصل تھی۔ ہمارے نزدیک اس آیت کی یہی تفسیر صحیح ہے کہ چہروں کو پشت کی جانب پھیرنے سے مجازی مفہوم سرا دیا جائے اور وہ ذلت و رسوائی ہے۔ شیخ رشید نے اس تفسیر کی تائید میں مفسرین کے اقوال پیش کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبدہ کی رائے بھی یہی ہے“

(النار، ج ۵ - ص ۱۴۵)

سحر کے بارے میں شیخ رشید کی رائے:

شیخ رشید کے نزدیک سحر کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ملک اہل سنت کے خلاف ہے جو سحر کو ایک حقیقت قرار دیتے ہیں۔ شیخ رشید کی رائے میں سحر ایک طرح کا فریب اور طمع سانی ہے۔ شیخ عبدہ اور منتزل کا زاویہ نگاہ بھی یہی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

«رَأَوْا نَزْلَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْآنٍ
فَكَسَبُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَفْخَالٍ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا
مِحْوَةٌ مِنَ الْبَشَرِ (الانعام - ۷)»

شیخ رشید اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر ایک قسم کی فریب کاری ہے۔ سحر کے ذریعہ ایک بے حقیقت چیز کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے“

(النار، ج ۷ - ص ۳۱۱)

البتہ شیخ رشید صحیح بخاری کی اس حدیث کو رد نہ کر سکے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے سلسلہ میں مروی ہے۔ حالانکہ شیخ عبدہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ شیخ رشید نے اس حدیث کی یہ تاویل کی ہے کہ یہ جادو بیرونیوں پر قادر نہ ہونے کے سلسلہ میں نقصا جن لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے ان کی جانب سے سید رشید رضا یہ غدر پیش کرتے ہیں کہ اس کی سند میں ہشام نامی ایک راوی ہے جس پر علمائے جرح و تعدیل نے جرح کی ہے۔

(تفسیر سورۃ الفلق، ص ۱۲۹-۱۳۴)

شیاطین و جن کے بارے میں سید رشید رضا کا موقف:

سید رشید رضا کا نقطہ نظریہ ہے کہ شیاطین انسانوں کو صرف غلط مشورہ دے سکتے ہیں۔ اس کے سوا انسانوں پر انہیں کسی قسم کا تسلط حاصل نہیں۔ بعض غلط کار لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیطان یا جنات کے بادشاہ کو انسانوں پر تسلط حاصل ہے اور وہ انسانوں کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں سفید جھوٹ ہے اور اس کی کوئی اصل و اساس نہیں۔ (تفسیر سورۃ الناس، ص ۱۴۱)

اختیار کیا ہے۔ ان کی رائے میں حضور کا معجزہ صرف قرآن عزیز ہے اور کچھ نہیں۔ وہ دیگر معجزات سے انکار کرتے اور ان آیات کی تاویل کرتے ہیں جن سے معجزات رسول کا اثبات ہوتا ہے۔ وہ ان احادیث کی صحت کو تسلیم نہیں کرتے جن میں معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ جن آیات کو نبیہ کہہ کر تسلیم کرتے ہیں وہ ان کی نگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام و احترام کے پیش نظر ظہور میں آئیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ معجزہ ہیں یا ان سے آپ کے دعویٰ رسالت کی تصدیق ہوتی ہے۔

شیخ رشید اپنے نقطہ نظر کے اثبات کے لیے مندرجہ ذیل قسم کی آیات و احادیث سے احتجاج کرتے ہیں۔

قرآن عزیز میں فرمایا:

«وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ»
 (الاسراء - ۵۹)

تشنات بھیجنے سے ہمیں اور کسی چیز نے
 نہیں روکا مگر یہ کہ پہلے لوگوں نے ان کی
 تکذیب کی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداوند کریم نے جس قدر انبیاء بھیجے ان کو ایسی نشانیاں دی گئیں جتنیں کہ ان کو دیکھ کر سب انسان ایمان لے آتے۔ مگر مجھے جو چیز دی گئی ہے وہ تو صرف وحی ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ روز قیامت میری پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔
 (صحیح بخاری و مسلم)

اپنے مدعا کے حق میں نصوص قرآن و حدیث پیش کرنے کے بعد صاحب المنار کو اس بات کا احساس ہوا کہ بعض آیات و احادیث اس کے خلاف ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: «مگر ہم نے (انکار معجزات سے متعلق) جو موقف اختیار کیا ہے آیت الشقاق القمر اور صحیح بخاری و مسلم کی وہ احادیث اس کے خلاف ہیں جن میں آیا ہے کہ جب قریش نے آپ سے کوئی معجزہ طلب کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ شق القمر سے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان کے متن اور سند میں

علمت ہے۔ علاوہ ازیں ان پر علی عقلی اور تاریخی اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ جن کی تفصیل ہم نے النار کی جلد نمبر تیسٹیل میں بیان کی ہے۔ ہم نے وہاں بیان کیا ہے کہ جن آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف قرآن کریم ہے وہی صحیح ہیں۔ نیز یہ کہ انبیاء سے جو معجزات طلب کیے جاتے ہیں اگر ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے اور پھر بھی وہ قوم ایمان نہ لائے تو ان پر ایسا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے جس سے وہ قوم نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی دلیل درہان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی“

(النار، ج ۱۱ - ص ۳۳۳)

مذکورہ صدر عبارت میں شیخ رشید نے جس طرح منقولہ بالا حدیث سے یہ کہہ کر گھڑا صلی کرائی ہے کہ یہ مطعون ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ موصوف نے خلاف مقصد آیت کی تادیب اس انداز میں کی ہے کہ شق القمر سے دلیل وحجت کا واضح ہونا اور غلبہ مراد ہے۔

(القول الفصل، ص ۱۶۳)

فقہی مسائل میں سید رشید رضا کی رائے :

قرآن کریم سے فقہی مسائل کے استنباط کے سلسلہ میں بھی سید رشید رضا نے پوری آزادی سے کام لیا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جمہور فقہان کے خلاف ہو گئے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں :

شہر آن عزیز میں فرمایا :

« كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَكُمْ
الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »

جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آئے اور اس کے پاس مال بھی ہو تو تم پر والدین اور اقارب کے لیے حسب دستور وصیت فرض کی گئی ہے متقیوں پر یہ ضروری حق قرار دیا گیا ہے۔

(البقرہ - ۱۸۰)

اہل سنت کے جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس آیت کا حکم مفسوخ ہو چکا ہے۔ اس

کی ناسخ آیت الموارثت (جس میں میراث کی تقسیم سے متعلق تفصیلات مذکور ہیں) ہے۔ نیز حدیث ”لا وصیۃ لوارث“ سے بھی یہ آیت منسوخ ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام شافعی نے ”کتاب الام“ میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے۔

(نیل الاوطار للشوکانی، ج ۶ - ص ۴۰)

مگر بایں ہمہ سید موصوف اس امر کے اثبات کے لیے پورا زور بیان صرف کرتے ہیں کہ والدین اور اقارب کے حق میں وصیت کا حکم باقی ہے منسوخ نہیں ہوا۔ اس کی حدیث ہے کہ وہ اس ضمن میں جمہور کے پیش کردہ دلائل کا ابطال کرتے ہیں۔ ہم ان کے بیان کردہ دلائل ذکر کے سلسلہ کلام کو طول نہیں دینا چاہتے، صرف یہ بتاتے ہیں کہ موصوف نے اس بحث کو ان الفاظ پر ختم کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

مختصلاً یہ ہے کہ آیت وصیت آیت الموارثت کی بنا پر منسوخ نہیں ہوئی اس لیے کہ آیت الموارثت اس کی معارض نہیں بلکہ تہدید ہے۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ میراث والی آیت اس کے بعد نازل ہوئی۔ اسی طرح مذکورہ صدر حدیث بھی آیت وصیت کی ناسخ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ آیت محکم ہے۔ لہذا حدیث اس کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وصیت ان والدین اور اقارب کے حق میں جائز ہو جن کو میراث سے حصہ نہیں ملتا۔ جیسا کہ بعض صحابہ سے منقول ہے۔ یہ کسی طرح درست نہیں کہ آیت قرآنی کو بلا دلیل منسوخ قرار دینے کی جسارت کی جائے۔ خصوصاً جب کہ اس کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ :

(النار، ج ۲ - ص ۱۴۱)

اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ سید رشید رضا کے نزدیک اگر مسافر کے پاس پانی موجود ہو تو بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ سفر کے علاوہ کسی دوسرے عذر مثلاً مرض وغیرہ کا ہونا ضروری نہیں جمہور فقہاء اس کے خلاف ہیں۔ سید موصوف ان فقہاء پر شدید نکتہ چینی کرتے ہیں کہ وہ پانی کی موجودگی میں مسافر کو تیمم کی اجازت نہیں دیتے۔

چنانچہ وہ لکھتے ہیں :

”علم و فضل کے مدعی مقلدین اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ آیت تیمم سے اگر وہی معنی مفہوم مراد لیا جائے جو تم لیتے ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ مگر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی حالت سفر میں تیمم جائز ہو۔ یہ بات ہمارے معروض مسلک کے خلاف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تمہارا بیان کر وہ معنی مفہوم ہمارا محققین فقہاء پر کیسے پوشیدہ رہا؟

اگرچہ مقلد کے ساتھ علمی بحث اس لیے بے کار ہے کہ وہ علم سے عاری ہوتا ہے۔ اس کا کام اپنے امام کی پیروی کے سوا کچھ نہیں۔ تاہم مقلد سے کس جاننے کا کہ جب آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا بیان کر وہ مفہوم مراد لینے سے آیت کی فصاحت و بلاغت قائم رہتی ہے تو پھر اس کے مراد لینے میں اشکال کیا ہے؟ غور کیجیے کہ دونوں باتوں میں سے کون سی بات ترجیح کے قابل ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ فقہاء کے قول سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قرآنی بلاغت کو مٹھون کیا جائے۔ دوسری یہ کہ فقہاء کے قول کو غلطی پر محمول کیا جائے۔ اس لیے کہ انہوں نے آیت کے ظاہری مفہوم کو بلاوجہ ترک کر دیا۔ حالانکہ جس طرح سفر میں دوسری رخصتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح تیمم بھی ایک رخصت ہے۔ سفر میں قصر کی بھی اجازت ہے اور نماز کو جمع کرنے کی بھی۔ اسی طرح ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت بھی موجود ہے۔ پھر ان رخصتوں کے ہوتے ہوئے اس بات میں کیا قباحت پائی جاتی ہے کہ مسافر کو غسل اور وضو نہ کرنے کی رخصت بھی حاصل ہو۔ جب کہ دینی نقطہ نظر سے وضو اور غسل کی اہمیت نماز اور روزہ کی نسبت کم ہے۔“

سید موصوف مزید لکھتے ہیں :-

”حیرانی کی بات ہے کہ قرآن نے جو رخصت صاف اور صریح الفاظ میں دی تھی، فقہاء اس سے کیسے غافل رہے؟ حالانکہ یہ رخصت قصر صلوٰۃ اور ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے سے بھی زیادہ واضح ہے۔ مزید برآں حالت سفر میں تیمم کی اجازت

دینے میں ریف حرج اور تنگی و تکلیف کا ازالہ مقصود ہے۔ دین اسلام میں شرعی احکام کا مدار و انحصار ریف حرج ہی پر ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسافر کو تیمم کی اجازت بلا قید و شرط دی گئی ہے تو اس سے ان تمام شرائط کا بطلان واضح ہوا جو پانی کے فقدان پر عائد کی گئی ہیں۔ مثلاً فقہاء کا یہ قول کہ سفر میں پانی کا تلاش کرنا واجب ہے۔ اور وہ حدود جو انہوں نے پانی کے قریب و بعید ہونے کے سلسلہ میں مقرر کی ہیں۔“

(النار، ج ۵ - ص ۱۱۸)

مفسرین پر نقد و جرح :

اس میں شبہ نہیں کہ صاحب النار مفسرین کو شدید نقد و جرح کا نشانہ بناتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی پر ان کی تنقید اور بھی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ مزید برآں آپ مسلمانوں میں شائع شدہ بدعات کی نشان دہی کر کے ان کا علاج تجویز کرتے اور اس پر اظہار افسوس کرتے ہیں۔

(النار، ج ۱۲ - ص ۱۶۹)

تورات و انجیل کی روشنی میں تفسیر قرآن :

حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف تو صاحب النار ان مفسرین کو نقد و جرح کی آماجگاہ بناتے ہیں جو اپنی تفاسیر میں اسرائیلی روایات کو جگہ دیتے ہیں۔ دوسری جانب تورات و انجیل سے اخبار و آثار نقل کر کے ان کی روشنی میں بہمات قرآن کی تعیین و تفسیر کرتے اور دیگر مفسرین کے اقوال کی تردید کرتے ہیں۔ حالانکہ اسرائیلی روایات کے عشاق پر نقد و جرح کرنے والے مفسر صاحب النار کو چاہیے تھا کہ وہ اہل کتاب کی کتب مقدسہ سے نقل نہ کرتے۔ خصوصاً صاحب کہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ان میں تحریف راہ پا چکی ہے۔

دفاع اسلام :- ہم اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ صاحب النار نے اسلام قرآن دونوں کا زبردست دفاع کیا اور ان پر وار و کردہ نکل کو کوشمات کے شکست اور ذمندان شکن جوابات دیے ہیں۔ یہ فریضہ اپنے ظلم و زبان کے ساتھ ادا کیا اور اس کے لیے اپنے جملہ النار۔ اور تفسیر قرآن و روڈ کو وقف کر دیا تھا۔ یہ ایسی خصوصیت ہے جس کی بنا پر بہت سی قابل اعتراض باتوں کے باوجود بھی وہ لائق توصیف و تحسین ہیں۔

۳۔ اُستادِ اکبر شیخ محمد مصطفیٰ المراغی

شیخ مجددہ کے مکتب فکر میں علامہ المراغی کا مقام:

طویل حیات و سیرت سے احترام کرتے ہوئے صرف اس قدر عرض ہے کہ آپ ۱۸۸۱ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۲۵ء میں وفات پائی۔

شیخ عبیدہ نے جدید طرز فکر، ترک تقلید اور اسلام کو ان آؤدگیوں سے پاک و صاف کرنے کے سلسلہ میں جن سے اس کو ملوث کیا گیا تھا تجدید و اصلاح کا جو بیڑا اٹھایا تھا۔ جو شخص اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا اور شیخ عبیدہ کی ہموار کردہ راہ پر گامزن رہا وہ علامہ المراغی کی شخصیت تھی۔ شیخ المراغی امام عبیدہ کے مدرسہ میں پروان چڑھے اور جب اس سے سندِ فضیلت حاصل کر کے نکلے تو آپ کا دل اصلاح کے جذبہ سے معمور و بھر پور تھا۔ جو چیز بھی دین اسلام کی نشرو اشاعت میں سبکِ راہ ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے حق میں ہمہ تن انقلاب بن کر میدانِ جہاد میں نکل آئے۔

شیخ المراغی ارشاد و اصلاح کے جذبہ کو لیے ہوئے اجتماعی زندگی کے میدان میں نکلے اور یکے بعد دیگرے دینی مناصب و مراتب پر فائز ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ مدیخہ الاذھر کے منصبِ جلیل تک پہنچے۔ اس عظیم القدر مرتبہ پر فائز ہو کر بھی آپ کے مشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ چنانچہ اس دوران میں بھی آپ کے منبر سے تجدید و اصلاح کی دعوت جاری رہی اور طلبہ و عوام سب ہی آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہوتے رہے۔

اس میں شک نہیں کہ امام المراغی تیسرا رشیدِ رضا کی طرح عرصہ دراز تک امام عبیدہ کی صحبت میں نہیں رہے۔ اور نہ ان سے طویل مدت تک کسب فیض کر سکے۔ تاہم یہ ایک درخشندہ حقیقت ہے کہ اس مکتب فکر نے آپ پر سب سے زیادہ گہرا اور پائیدار اثر ڈالا اور اس مکتب کے تجدید و اصلاح سے متعلق نصب العین کو سب سے زیادہ آپ ہی نے پورا کیا۔ ہمارے

خیال میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شیخ عظیم دینی مناصب پر فائز رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک شہلہ نوا خطیب تھے اور سامعین کے قلوب و اذہان کو اپنی جانب مائل کر سکتے تھے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تخت و تاج کے مالک سلاطین و وزراء و شیوخ اور طلبہ سے لے کر ایک عام مزدور تک سب ہی آپ کے ارشادات سے محفوظ و مستفید ہوتے تھے۔

یہ سب لوگ ایک ادنیٰ طالب علم کی طرح آپ کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کر کے ان سے اخذ و استفادہ کرتے تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ شیخ کا حلقہ اثر نہایت وسیع تھا۔ آپ اپنے افکار و آراء بیان کرتے۔ آپ کی دعوت قبول عام سے بہرہ ور ہوتی اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح ہر جگہ پھیل جاتی۔

قرآن عظیم ملت اسلامیہ کے لیے ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی میں مسلمانوں کی دنیوی و آخری خیر و سعادت مضمون ہے۔ اس لیے شیخ نے تجدید و اصلاح سے متعلق مقاصد پورے کرنے کے لیے قرآن کریم ہی کو ذریعہ بنایا۔

المراغی کی تفسیری خدمات :

شیخ المراغی نے تفسیر قرآن پر مشتمل لیکچروں کا آغاز کیا اور ہر مکتب خیال کے لوگ ان سے بہرہ ور ہوئے۔ آپ کے درس میں امیر و وزیر سے لے کر بے نوا فقیر تک ہر طبقہ اور ہر مکتب فکر و نظر کے لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔ آپ کے یہ تفسیری لیکچر پورے عالم اسلامی میں شائع کیے گئے۔ بعد ازاں انہیں طبع کر کے عموم نفع کے لیے لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔

آپ کے یہ تفسیری لیکچر قرآن عظیم کے نہایت قلیل حصہ پر مشتمل تھے اور ان میں پورے قرآن کریم کا استیعاب نہیں کیا گیا تھا۔ آپ کا یہ تفسیری درشہ اگرچہ کمیت کے لحاظ سے چنداں وقعت نہیں رکھتا۔ تاہم کیفیت کے اعتبار سے اور ان تجدیدی ماسعی کے پیش نظر جو شیخ کا نصب العین تھیں۔ ان کی قدر و قیمت بہت بڑے تفسیری لٹریچر سے بھی زیادہ ہے۔ شیخ کے لیے یہ فخر کیا کم ہے کہ لوگ قرآن کریم کو چھوڑ چکے تھے۔ آپ نے اپنے تفسیری لیکچروں کے ذریعہ ایسی جاذبیت پیدا کی کہ لوگ پھر سے اس کی جانب عنان توجہ موڑنے لگے۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا صلہ و ثمرہ وہ بارگاہ ایزدی میں ضرور پائیں گے۔

اسلوب تفسیر:

امام المراغی نے جو تفسیری کاوش انجام دی ہے اس کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آپ درس قرآن کے لیے وہ آیات انتخاب کیا کرتے تھے جن میں خداوند کریم کی عظمت و قدرت کے دلائل و براہین مذکور ہوں۔ یا جن میں بند و موعظت اور عبرت پذیری کا سامان پایا جاتا ہو۔ اسی طرح آپ اپنی توجہ اکثر و بیشتر ایسی آیات کی جانب مبذول فرمایا کرتے تھے جن کا علوم جدیدہ کے ساتھ گہرا ربط و تعلق ہو۔ یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلام علم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا اور اس کے صحیح قواعد و نظریات کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ خداوند کریم نے آپ کو وقت فکر اور عمق نظر سے نوازا تھا۔ جس کی بنا پر آپ قرآن کریم اور جدید نظریات میں توفیق و تطبیق دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں شیخ المراغی نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اس عظیم کام کے لیے وقف کر دیا ہو۔

تفسیری مصادر:

درس قرآن کے دوران آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ موضوع زیر بحث سے متعلق تمام آیات کو یکجا کرتے تھے۔ اس لیے کہ جو بیان ایک جگہ جمل و مبہم ہوتا ہے دوسری جگہ تفصیلاً مذکور ہوتا ہے آپ احادیث تبویہ اور اقوال صحابہ و تابعین کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ پھر اسالیب لغت کو زیر بحث لاتے اور مناظر فطرت بیان کرتے۔ قدیم تفسیر کے ساتھ بھی آپ خصوصی اعتناء کرتے تھے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی عقل و فکر سے کام لینے کے بھی عادی تھے سب مصادر کو پیش نظر رکھنے اور پھر آزادانہ طور پر ان میں غور و خوض کرتے تھے۔ جس بات کو پسند کرتے اس کو اخذ کرتے اور جو بات ناپسند ہوتی اس کو نظر انداز کر دیتے۔

امام المراغی کے بارے میں یہ بات سنی نہیں گئی کہ انہوں نے قدیم تفاسیر مطالعہ کیے بغیر کبھی درس قرآن دیا ہو۔ آپ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے قرآن کریم کی ایسی شرح و تفسیر کی ہے جس سے متقدمین قاصر رہے۔ بخلاف ازیں آپ ہمیشہ متقدمین کی مدح و توصیف میں رطب اللسان رہے اور ان کی تفسیری خدمات کا اعتراف کرتے رہے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ ہم اسلاف کے خوشہ چین ہیں اور انہی کی افادات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ آپ نے دوسروں کی

طرح سابق مفسرین کو بدعت لعن و ملامت نہیں بنایا۔ اگر ان پر تنقید بھی کی ہے تو ایسے مناسب انداز میں جس میں درستی اور گستاخی کا کوئی پہلو موجود نہیں۔ اپنے اسلاف اور متقدمین کے ساتھ علماء کا یہی شیوہ ہونا چاہیے۔

بہماتِ قرآن کے بارے میں المراعی کا موقف :

ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ المراعی تفسیر قرآن کے سلسلہ میں اپنے استاذ محترم امام عبدہ کی روش پر گامزن رہے۔ چنانچہ نہ تو آپ کو بہماتِ قرآن کی تعیین و تفصیل کی فکر دامن گیر ہوتی ہے اور نہ ہی آپ ان جزئیات کی تفصیل میں پڑتے ہیں جن سے قرآن نے خاموشی اختیار کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر کچھ روشنی نہیں ڈالی۔ موضوع اور ضعیف احادیث نیز اسرائیلی روایات کے ساتھ بھی آپ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جملاتِ قرآن کی شرح و تفصیل کے سلسلہ میں آپ ان سے بالکل بددینیں لیتے۔ مثالیں ملاحظہ ہوں :

قرآن عزیز میں فرمایا :

«وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ»

اپنے رب کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے
کی جلد کوشش کیجیے۔ وہ جنت جس کی چوڑائی
آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو
متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

ذالِ عمدان - ۱۳۳

امام المراعی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

”یہ آیت اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ جنت اس وقت تیار ہے۔ اس لیے کہ فعل ماضی کا تقاضا یہی ہے کہ زمانہ گزشتہ میں یہ کام انجام پا چکا ہے۔ اس امر کا بھی احتمال ہے کہ ماضی کا صیغہ مستقبل کے معنی میں ہو جیسے یہ آیت کہ، «نُنْفِخُ فِي الصُّورِ» (صُور میں پھونکا جائے گا)۔ اندر میں صورت یہ نہیں کہا جاسکتا۔ کہ جہنم کی تخلیق ہو چکی ہے۔ مگر یہ بحث بے کار ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا“

قرآن کریم میں فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

اے ایمان والو! روزے تم پر اس طرح

الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ نَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
فرض کیے گئے ہیں جیسے ان لوگوں پر جو تم سے
پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
(البقرہ - ۱۸۳)

اس آیت کی تفسیر میں موصوف کہتے ہیں :-

”ہمیں نہیں معلوم کہ اُمم سابقہ پر کتنے روز سے فرض ہوئے تھے؛ اور یہ کہ آیا ماہِ رمضان
ان اقوام میں تھا یا نہیں؛ اس ضمن میں ہمیں کوئی اطمینان بخش دلیل دستیاب نہیں ہوتی
”كَمَا كُتِبَ“ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہمارے اور سابقہ مطلق واقوام کے روز سے
یکساں نوعیت کے ہیں۔ اس لیے کہ تشبیہ میں مماثلت ہر لحاظ سے نہیں ہوتی قرآن
سے ہمیں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اقوام سابقہ پر روز سے فرض تھے۔ مگر ان کی نوعیت
و کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اقوام سابقہ کے روز سے کئی قسم کے ہیں ایک طرح کے
نہیں۔“
(الدرر الدینیہ ص ۲۵۷ ص ۶)

قرآن عزیز میں فرمایا :

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ
ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔
(سورۃ لقمان - ۱۲)

الرائی اس کی تفسیر میں رقم طراز ہیں :-

”لقمان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھے۔ علماء سے مندرجہ ذیل اقوال
منقول ہیں :-

(۱) ان کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔

(۲) وہ حبشی غلام تھے۔

(۳) آپ مصر کے سیاہ نام حبشی تھے۔

(۴) لقمان یونانی الاصل تھے۔

(۵) وہ بڑھئی تھے۔

(۶) وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔

(۷) آپ نبی تھے۔

(۸) لقمان ایک فلسفی اور حکیم تھے۔

مگر یہ سب اقوال ناقابل اعتماد ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب الحکمت قرار دیا ہے تو اس سے ان کی شان میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا کہ آپ کا حسب و نسبت اچھا ہو۔ اور اگر انہیں جہشتی کہا جائے تو اس سے ان کی عظمت میں کمی نہیں آتی۔

(تفسیر سورہ لقمان - ص ۱۸)

اسرار الدین کے موضوع سے دلچسپی :

شیخ المراغی دین اسلام کے اسرار و حکم کے موضوع سے خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں اور اسلام کے محاسن و اوصاف واضح کرنے کے لیے اس کے اسرار و رموز بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں۔

مثال ملاحظہ فرمائیں :

شیخ المراغی حکمت صوم پر ان الفاظ میں روشنی ڈالتے ہیں :-

صوم روزہ اسلام کے ان پانچ ارکان میں شامل ہے جن پر اسلام کی بنا قائم کی گئی ہے روزہ سے انسانی جسم و روح اور اخلاق پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ شہوات و لذات کی کثرت روح کو کمالات تہسید اور فیض الہی سے روکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام اور عارفین جب محسوس کرتے ہیں کہ وہ ذات الہی سے دور ہو گئے ہیں اور ان میں تقرب الہی کا ذوق و شوق باقی نہیں رہا تو اس وقت وہ روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ نفس انسانی طبعاً لذات کی جانب مائل ہے۔ تاہم خواہشات و لذات سے محرومی کی صورت میں اگر صبر و تحمل سے کام لیا جائے، تو اس سے انسانی ارادہ کی تربیت ہوتی ہے۔ اور آدمی اپنے عزم کی تکمیل کے لیے وہاں دوں رہتا ہے۔ روزہ کی تکلیف برداشت کرنے سے انسان ان حوادث و آلام کو سمینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو وقتاً فوقتاً اس پر آتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دیوبی زندگی میں ہر چیز ممکن ہے۔ فقر و غنا صحت و مرض

عزت و ذلت سفر و حضر و شمنوں پر غلبہ اور مغلوبیت یہ سبھی چیزیں یکے بعد دیگرے آتی جاتی رہتی ہیں۔ ایک ناز و نعمت میں پروردہ انسان جو اپنی نیند سوتا اور جاگتا ہو من مانی غذا کھاتا اور اپنے اہل و عیال میں راحت و آرام کی زندگی بسر کرتا ہو جب حوادثِ روزگار اور مصائب کے طوفانوں میں گھر جاتا ہے تو اس کے لیے ان کا برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

نظر بریں خداوندِ علیم و حکیم کی حکمت اس امر کی متقاضی ہوئی کہ عبادات میں سے ایک عبادت ایسی بھی ہو جس سے جسمانی ریاضت کا کام لیا جائے۔ اخلاق میں نشاۃ الیٰ پیدا ہو اور رُوحِ انسانی طہارت و تزکیہ سے بہرہ ور ہو۔ یہ عبادت روزہ ہے۔ دین اسلام نے بس طرح تزکیہ رُوح اور تہذیبِ اخلاق کا اہتمام کیا تھا۔ اسی طرح جسمانی تربیت کا بھی خیال رکھا۔ اس کے پیش نظر جو اشیا و بدنِ انسانی کے لیے ضرر رساں تھیں ان کو حرام قرار دیا۔ اور جو اس کے لیے نافع اور مفید تھیں۔ ان کو حلال اور طیب ٹھہرایا۔ درحقیقت دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلم اچھا کارکن نشاۃ اطوار اور صحیح البدن ہو۔ وہ موت سے ڈرنے والا نہ ہو۔ قوم و ملت اور اپنے کنبہ و قبیلہ کا دفاع کرنے والا ہو۔ وہ رحم دل ملنسار اور خوش اخلاق ہو۔ اپنے خاندان و قبیلہ اور آبائے وطن کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے والا ہو۔ وہ ایسا شخص ہو جس کو دنیوی مشاغل خدا کی محبت سے باز نہ رکھ سکیں“

(الدروس الیومیہ ششماہی ص ۶-۷)

اجتماعی مسائل اور ان کا حل؛

شیخ المرآتی تفسیر قرآن کے سلسلہ میں اجتماعی امراض اور ان کے اسباب و علل کی نشاندہی کر کے ان کا حل تجویز کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسلامی حکومتیں تنزیل و انحطاط سے کیسے دوچار ہوئیں۔ اس ضمن میں وہ قرآنی آیات سے استشاد کرتے ہیں۔

در اصل بات یہ ہے کہ شیخ المرآتی اجتماعی امراض اور ان کے اسباب شفاء سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان کے سامعین زیادہ تر سرکاری افسر ہوتے تھے۔ آپ ان کو بتاتے کہ جس منصب پر

وہ فائز ہیں اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ ان پر لوگوں کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ پھر حقیقت واضح کرتے کر ان کی اور ان لوگوں کی جو ان کے زیر اثر ہیں فلاح و بہبود کس بات میں مضمر ہے۔ یہ سب کچھ آپ جذبہ اخلاص رضائے ربانی اور وطن و اُمت کی مصلح و فلاح کے پیش نظر کرتے تھے چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن عزیز میں فرمایا:

«شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا (الشوریٰ - ۱۱۳) تمہارے لیے وہی دین تجویز کیا جس کی نوع کو وصیت کی تھی۔

شیخ المراغی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”دین اسلام میں یہ حکمت مضمر ہے کہ اگر انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنے عقلی نظریات پر چلے تو وہ لازماً گمراہ ہو جائے گا اور زندگی کو ناپسند کرنے لگے گا۔

اس صورت میں حیوانات سے بھی زیادہ بدنصیب ہو جائے گا۔ اور اس کی بدبختی کا باعث خود اس کی اپنی عقل ہوگی۔ تجربہ کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ جس عقل کی تائید و حمایت شرع الہی سے نہ ہوئی ہو۔ وہ بہر طرف حیران و سرگرداں بھٹکتی پھرتی ہے۔ وہ بُری راہ پر بھی چل سکتی ہے اور اچھی پر بھی۔ فلسفہ و اخلاق کے

علماء جن نظریات کا اظہار کرتے ہیں وہ مجنون کی بڑ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اور بعض نظریات کا کوئی مطلب ہی واضح نہیں ہوتا اگرچہ وہ اس

کے حق میں بہت سے مقدمات و براہین ذکر کرتے ہیں۔ اجتماعی مسائل کا جو حل قدیم و جدید علمائے اجتماع نے پیش کیا ہے اس سے اقوام عالم کو فلاح و سعادت

حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ بات ناگزیر تھی کہ نبی معصوم پر خداوند عظیم و حکیم کی جانب سے ہدایت نازل ہو۔ تجربات کی روشنی میں یہ حقیقت منظر نام پر آچکی

ہے کہ جن قوموں نے خداوندی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ وہ اسی حد تک فلاح و سعادت سے بہکنار ہوئیں جس حد تک انہوں نے اس ہدایت کی پیروی کی تھی۔

اگر دین اسلام نہ ہوتا تو انسان دنیوی زندگی کو گوارا نہ کر سکتا۔ اس لیے کہ دنیوی زندگی مختصر ہونے کے باوجود حوادث و مصائب سے پُر ہے۔ کبھی فقر و افلاس

ہے تو کبھی شدید بیماری۔ گا ہے کنبہ و قبیلہ اور عزیز و جاہ کا فقدان۔ کبھی ترقی کے بلند مناصب پر فائز ہو کر ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گرنا۔ اگر انسان کے سامنے خوش آئند مستقبل اور دائمی زندگی کی فلاح و سعادت کی مسرت آگین تو قعات نہ ہوں تو یہ چند روزہ زندگی اجیرن ہو جائے۔ اس لیے آخری زندگی پر یقین رکھنے سے انسان کی زندگی خوش حالی و فارغ البالی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ ایک مومن اس دائمی زندگی کی امید پر دنیوی آلام و مصائب کو ہنسی خوشی برداشت کرتا چلا جاتا ہے بنا بریں ایک ایسا نظام از بس ناگزیر ہے جو خطا سے پاک ہو اور انسانی عقل اس کے مقابلہ سے عاجز ہو۔ اس لیے کہ عقل کا دائرہ محدود ہے اور وہ مستقبل کے پوشیدہ خطرات کے فہم و ادراک سے قاصر ہے۔“

(الدروس الدینیہ ۱۳۶۵ھ ص ۲۴)

قرآن کریم میں فرمایا:

«شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (سورة البقرة - ۱۸۵)

رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا
جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں
ہدایت کے دلائل ہیں اور حق و باطل میں
فرق کرنے والا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں امام المرافعی فرماتے ہیں:

”یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے مسلمانوں نے ایسی روحانی زندگی بسر کی تھی جو روحانیت کی اعلیٰ مثال تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآنی ہدایت کی روشنی میں مسلمانوں نے نہایت پاکیزہ زندگی بسر کی اور علم کے نور کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا۔ لوگ اس نور سے بڑی حد تک مستفید ہوئے۔ مسلمان مدت تک قرآنی ہدایت سے بہرہ یاب رہے اور پھر اس سے برگشتہ ہو گئے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہر طرح سے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ان پر خوف و ہراس بھا گیا اور وہ ڈرنے لگے کہ لوگ ان کو اچک لے جائیں گے۔ وہ جملہ لوازم حیات میں دوسروں کے دست نگر بن گئے۔ ان کی

جمالیت کا یہ عالم ہے کہ ان کی نگاہ میں دوسروں کے پاس جو کچھ بھی ہے بہتر ہے لہذا اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ردی اور گھٹیا ہے۔ لہذا اس کو پھینک دینا چاہیے۔ زندگی کا حاصل صرف یہ ہے کہ ہر چیز میں دوسروں کی پیروی کی جائے۔ حتیٰ کہ ان اموال میں بھی جن کو شر و فساد کہا جاتا ہے۔ مسلمان اسلام کا بدترین نمونہ بن گئے اور ان کی وجہ سے اسلام کی مذمت کی جانے لگی ہے۔ دین اسلام کا اس میں کچھ قصور نہیں۔

دین اسلام ایسے رجال و اشخاص کا طالب و متمنی ہے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی جان و مال کو جنت کے عوض فروخت کر دیا ہو۔ جو خدا کی زمین میں اس کے نائب ہوں۔ زمین کے اسرار درموز سے آگاہ ہوں اور اپنی بھلائی کے لیے اس کو اپنے لیے سخر کریں۔ ایسے لوگ جو زمانہ کے حوادث و آلام کو مضبوط دیوار کی طرح اٹھاتے چلے جائیں۔ عزت و عظمت کے مواقع سے آشنا ہوں۔ احباب و اعداء میں تمیز کر سکتے ہوں۔ اور یہ جانتے ہوں کہ دنیا ناپائدار ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔“

(الدرر الدینیہ ص ۱۵-۱۶)

قرآن اور علوم جدیدہ میں یکسانیت:

اگرچہ امام المراغی کا زادینہ نگاہ یہ ہے کہ قرآن حکیم ہر اس چیز کے اصول عامہ پر مشتمل ہے جس کی جان پہچان انسان کے لیے ضروری ہے۔ تاہم وہ اس بات کو نظر استحسان نہیں دیکھتے کہ مفسر قرآنی آیت کو علوم کی جانب کھینچ کر لے جائے یا علوم کو کھینچ کر آیت کی طرف لے آئے تاکہ اس کے بارے میں یہ رہنما کس پاس کیے جا سکیں کہ یہ شخص قرآن کریم کی علمی تفسیر کرتا ہے جو جدید نظریات کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔

بلاشبہ امام المراغی نے اس انداز تفسیر پر شدید تکریم کی اور ان لوگوں کو ہدف طعن بنایا ہے جو اس پر شیفتہ اور فریفتہ ہیں۔ بعض جگہ انہوں نے یوں لکھا ہے:

”مسلمانوں کے یہاں عقائد اور فقہی مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں

ایک اور خطرناک بیماری بھی پائی جاتی ہے اور وہ فلسفہ کے فریب میں آنا اور قرآن کریم کی اس لیے تاویل کرنا ہے کہ وہ فلسفہ سے ہم آہنگ ہو جائے۔ نیز اس بات کی کوشش کرنا کہ توڑ مروڑ کر قرآنی آیات کو جدید علمی نظریات کے مطابق بنایا جائے۔ حالانکہ وہ علمی نظریات تاہنوز پائیدار ثبوت کو نہیں پہنچے۔ یہ بڑا خطرناک فعل ہے۔ اس لیے کہ فلاسفہ کے ادھام تو اس قسم کے ہیں۔ جیسے کوئی شخص بیمار کی حالت میں داہی تباہی بک رہا ہو۔ ایسے غیر مسلمہ نظریات کے ساتھ قرآن کریم کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش نہایت مذموم ہے۔“

(الدرس الدینیہ ص ۳۵۱ - ص ۴۲)

مگر اس کے ساتھ ساتھ شیخ المراغی کا نقطہ نگاہ یہ بھی ہے کہ مفسر قرآن کو کسی حد تک جدید علم سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ تاکہ وہ اس سے قدرت خداوند پر استدلال کر سکے اور اس سے پند و مواعظ کا سامان حاصل کرے۔ المراغی کا زاویہ نگاہ یہ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کے فہم و ادراک کے لیے یہی مسلک درست ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ایک تفسیری درس میں فرماتے ہیں :-

”اگرچہ مفسر قرآن کا یہ کام نہیں کہ وہ عالم سماوی کی تفصیلات بیان کرے۔ یا اس کے ابعاد و اقدار اور اس کے اوزان پر روشنی ڈالے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ وہ اس سے بالکل ہی نابلد نہ ہو اور اس کے بارے میں ضروری معلومات سے بہرہ ور ہو تاکہ اجرام فلکی سے قدرت خداوندی پر استدلال کر سکے اور ان کی بنا پر دوسروں کے لیے عبرت و مواعظ کا سامان فراہم کرے۔“

(تفسیر سورہ لقمان - ص ۱۳)

حریتِ فکر و نظر:

اس مکتب فکر کے دیگر اشخاص درجہ اول کی طرح شیخ المراغی کسی امام کے مقلد نہ تھے اور کسی خاص مسلک کی پیروی کو ضروری خیال نہیں کرتے تھے۔ کسی خاص شخص کی رائے کو اسی وقت اختیار کرتے جب اس سے اچھی طرح مطمئن ہو جاتے۔ ورنہ جو بات ان کے نزدیک اقرب الی الصواب ہوتی اس کو اختیار کرتے۔

چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ قرآن کریم میں فرمایا :

«فَسَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ كَانَ
سَفَرًا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»
تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو
اور دنوں سے کتنی پوری کر لے۔

(البقرہ - ۱۸۳)

مقدار سفر کے بارے میں مختلف علماء کے اقوال ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

«حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تین میل کا سفر طے کرنے کی صورت میں نماز قصر ادا کیا کرتے تھے»

(مسند احمد - مسلم - ابوداؤد)

حدیث ابن ابی شیبہ بسند صحیح روایت کرتے ہیں کہ حضور ایک میل کی مسافت پر نماز قصر ادا کیا
کرتے تھے۔

چونکہ قرآن کریم کی آیت میں سفر کی تعین نہیں کی گئی۔ اور سفر کی تعین و تخصیص سے متعلق

جس قدر احادیث وارد ہوئی ہیں وہ اخبار احاد ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلق سفر سے
(بلا تعین و تخصیص) روزہ نہ رکھنے اور نماز قصر ادا کرنے کی اجازت ہے۔ امام داؤد ظاہری
اور دیگر ائمہ کی رائے بھی یہی تھی» (الدرر الدینیہ ص ۱۱)

قرآن کریم میں فرمایا :-

«كَوْنًا مَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ
أَقْلَامٍ وَابْحُرٍ يَمْدُّهُ مِنْ بَعْدِهَا
سَبْعَةَ أَمْجَادٍ مَّا تَفَدَّتْ
كَلِمَاتُ اللَّهِ» (سورہ لقمان ۲۷)

اور آرزوین کے تمام درخت تلمیہ بن جائیں
اور سمندر سیاہی بن جائے اور سات سمندر
اس کے پیچھے ہوں تو اللہ کے کلمات ختم نہ
ہوں گے۔

علامہ المراغی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

«اس آیت میں سات کے عدد سے کثرت مراد ہے۔ اسی طرح جس آیت میں جہنم
کے سات دروازوں کا ذکر ہے وہاں بھی خاص عدد مراد نہیں۔ جنت کے آٹھ دروازے
ذکر کیے تاکہ جہنم کے مقابلہ میں اس کی عظمت واضح ہو۔ اور یہ ظاہر ہو کہ جنت کے

راستے جہنم کی نسبت زیادہ ہیں۔ قرآن کریم میں سات آسمانوں اور سات زمینوں کا جو ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی کثرت مراد ہے۔ عربی زبان میں عام طور سے سات اور شتر کا عدد بول کر کثرت مراد لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس محاورہ کو استعمال کیا ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں :-

« اِنَّ تَسْتَعْفِرُوْهُمْ سَبْعِيْنَ
اگر آپ شتر دفعہ بھی ان (شُرکین) کے لیے
مَعَانِي مَا تَكُنُّ تَرَاۤءُوْهُ تَعَالٰی اَنْبِيٰی نَبِيْنَ يَخْتَعِبُوْنَ
معانی مانگیں تو انہیں تعالیٰ انہیں نہیں بخشنے کا
(التوبہ - ۸۰)

« ثُمَّ فِيْ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا
پھر ایک زنجیر میں جس کا طول شتر گز ہے۔
سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا فَاَسْلَكُوْهُ
اس کو جکڑ دو۔
(الحاقة - ۲۳)

مطلب یہ ہے کہ وہ زنجیر بہت طویل ہے۔ خاص گنتی مقصود نہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا :

« وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
ہم نے آسمانوں کو پراخوں سے
بِمَصَابِيْحٍ وَ جَعَلْنَا هَآرِجُوْمًا
اور ان کو شیطانوں پر پھینک مارنے کے
لِلشَّيَاطِيْنِ «سورة الملک - ۵»
لیے بنایا۔

شیخ المراحی اس آیت میں «رُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ» کے معنی پر روشنی ڈالتے ہوئے

لکھتے ہیں :-

«آسمان میں جو ستارے پاٹے جاتے ہیں وہ قدرت خداوندی کی نشانی ہیں۔ خداوند کریم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا ہے۔ ستاروں کو اُس نے مخصوص شکل و صورت عطا کی اور ایک مضبوط نظام میں جکڑ دیا تاکہ ان لوگوں کے خلاف زبردست دلیل و برہان کا کام دے سکیں۔ جو قدرت ایزدی اور اس کے وجود کے منکر ہیں»

«رُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ» کا یہ مفہوم بیان کرنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ معنی و مطلب بہت سی قرآنی آیات کے خلاف ہے جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ شیطانوں پر آسمان سے انگارے برسائے

جاتے ہیں۔ بشلا مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ :-

« إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ
الْكُوكَبِ . وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ
شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ
إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيَقْدِرُونَ
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ . ذُكُورًا أَرْلَهُمْ
عَذَابًا وَاصِبًا . إِلَّا مَنِ حَبِطَ
الْمُخْطَفَةُ تَاسِعَهُ شَهَابًا ثَابِتًا »

ہم نے آراستہ کیا نچلے آسمان کو ستاروں سے
اور بچا ڈکھیا ہر شیطان سرکش سے۔ سن نہیں
سکتے اوپر کی مجلس تک اور مار پڑتی ہے ان
پر ہر طرف سے۔ بھگانے کو اور ان پر مار
ہے ہمیشہ کے لیے۔ مگر جو ایک لایا جھٹ
سے۔ پھر بیچھے گا اس کے انگھارا جھٹنا
جو۔ ترجمہ مولانا شیخ السنہ

نیز فرمایا :-

« وَآتَا لَسْنَا السَّمَاءَ فَوْجِدَانَهَا
مِلْدَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَ
شَهَابًا . وَآتَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا
مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ
الآن يَجِدْ لَهُ شَهَابًا بَارِئًا »

اور یہ کہ ہم نے ٹھول دیکھا آسمان کو پھر پایا
اس کو بھرے ہوئے ہیں اُس میں جو کھیدار
سخت اور انگھارے۔ اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے
تھے۔ ٹھکانوں میں سنے کے لیے پھر جو
کوئی اب سنا چاہے وہ پاٹے اپنے واسطے
ایک انگھارا گھات میں۔

والجن - ۸ - ۹

(ترجمہ مولانا شیخ السنہ)

اس اساس کے پیش نظر امام المراغی لکھتے ہیں :-

« اس قسم کی دیگر آیات بھی ہیں جو ہمارے بیان کردہ مفہوم کے خلاف ہیں مگر ان کی
تاویل ہمارے حسبِ فشاکی جاسکتی ہے ہمارے پاس اس کی تفصیل بیان کرنے
کا وقت نہیں۔ کسی دوسری جگہ اس پر مزید روشنی ڈالیں گے »

(المدروس الدینیہ)

حیرت کی بات ہے کہ اس ضمن میں وارد شدہ کثیر آیات کثیر المراغی اپنے نظریات کے ساتھ
کس طرح ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ آیات ہر یک اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ مشیاطین آسمان

کی جانب پڑھ کر پوری چھپے باتیں سُنا کرتے تھے۔ جب سردر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو مشیطانوں کو اس سے روک دیا گیا۔ اب ان میں سے جو بھی رازدارانہ طریقہ سے ایسی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے اس پر آسمان سے انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ اور اسے اس امر سے باز رکھا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ شیخ المراغی کے تفسیری لیکچروں سے حسب ذیل فوائد حاصل ہوئے :-

(۱) عصر حاضر کے نوجوان دینی زندگی اور اسلامی ادب سے متنفر ہو چکے تھے۔ شیخ کے تفسیری لیکچروں نے ان میں دینی رُوح پھونکی اور ان کو اسلامی ادب کا شیدائی بنا دیا۔

(۲) لوگوں میں قرآن حکیم کے مطالب و معانی اور اس کے فہم و ادراک کا ذوق و شوق مُردہ ہو چکا تھا۔ شیخ کے لیکچروں نے ایسا سُور پھونکا کہ نوجوان قرآنی ادب کے سمندر میں ڈوب کر

اس سے قیمتی جواہر نکالنے اور ان سے اپنی زندگی کو آراستہ پیراستہ کرنے لگے۔ لوگوں میں قرآن حکیم کے اسرار و رموز اور دین کے حکم و مصالح معلوم کرنے کا جذبہ ابھرا۔ اس کے زیراثر ان کی زندگی میں طہارت و پاکیزگی پیدا ہوئی۔ اور وہ اخلاق جمیلہ و جلیلہ کا زندہ پیکر بن گئے۔

(۳) جو لوگ قرآن عزیز کی شرح و تفسیر میں مشغول تھے۔ ان کے لیے آپ کے تفسیری اسباق روشنی کا مینارِ ثنابت ہوئے۔ جس کی بددلت انہیں معلوم ہوا کہ فہم قرآن کے سلسلہ میں انہیں کس راہ پر گامزن ہونا چاہیے۔

(۴) بعض مفسرین نے اپنی تفاسیر کو اسرائیلی روایات اور تاویلات بعیدہ کا پلندہ بنا کر مسلمانوں کو دین سے دُور کر دیا تھا۔ اور وہ قرآن کریم کی ایسی تفسیر کرنے لگے تھے جو اس کی رُوح سے یکسر عاری کا تھی۔ شیخ المراغی کی مساعی سے یہ تفسیری سیلاب تھم گیا۔

(۵) اسرائیلی روایات اور احادیث ضعیفہ کے طُور مارنے قرآن عزیز کے حلال و حرام کو مسخ کر دیا تھا اور اس طرح غیر مسلم محسوس کرنے لگے تھے کہ دین اسلام کی اصلی شکل و صورت یہی ہے شیخ المراغی نے قرآن و اسلام کو اپنے اصلی رنگ و روپ میں غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا اور وہ اس میں مقناطیسی جذبیت محسوس کرنے لگے۔

(مقدمہ شیخ شلتوت برائے تفسیر المہجرات المراغی)

یہ ہیں وہ اسباب و وجوہ جن سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ عصر حاضر میں شیخ المراغی کی تفسیری خدمات کس قدر قابل تحسین ہیں۔ شیخ المراغی کے بعد تا ہنوز عالم اسلامی میں تفسیر قرآن کے سلسلہ میں کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا۔

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ط

مصادر و ماخذ

نمبر شمار	نام کتاب	مؤلف	مطبع	سنة طبع
کتاب التفسیر بالماثور				
۱	جامع البیان فی تفسیر القرآن -	ابن جریر طبری	الامیریہ	۱۳۲۲ هـ
۲	بجرا العلوم -	ابواللیث محمد قندی	مخطوطه دارالکتب	"
۳	اکشف و البیان عن تفسیر القرآن -	ابراہیم ثعلبی	مخطوطه الازھر	"
۴	معالم التنزیل -	حسین بن مسعود بغدادی	النار	۱۳۲۵ هـ
۵	المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز -	ابن عطیہ اندلسی	مخطوطه	"
۶	تفسیر القرآن العظیم -	عماد الدین ابن کثیر	التجاریہ	۱۳۵۶ هـ
۷	الجواهر الحسان -	عبد الرحمن ثعالبی	الجزائر	۱۳۲۳
۸	الدر المنثور -	جلال الدین سیوطی	یمنیہ	۱۳۱۴
۹	تنویر المقاس من تفسیر ابن عباس -	ابوطاہر فرید زآبادی	ازھریہ	۱۳۲۴

کتاب التفسیر بالرأی المحمود

۱۰	مفاتیح الغیب -	امام دازی	امیریہ	۱۳۸۹
۱۱	انوار التنزیل و اسرار التاویل -	بیضاوی	دارالکتب العربیہ	۱۳۳۰
۱۲	مدارک التنزیل و حقائق التاویل -	نسفی	سعاده	۱۳۲۶
۱۳	لباب التاویل فی معانی التنزیل -	خازن	التقدم	۱۳۰۱
۱۴	البحر المحیط -	ابو حیان	سعاده	۱۳۲۸

نمبر شمار	نام کتاب	مؤلف	مطبع	سنة طبع هجری
۱۵	الجلالین -	جلال الدین محلی و جلال الدین سیوطی	دار احیاء الكتب	۱۳۳۵ هـ
۱۶	غرائب القرآن و رغائب الفرقان -	نیسا بوری	امیریه	۱۳۲۳ هـ
۱۷	السراج المنیر -	خدیب شریفی	"	۱۲۹۹ هـ
۱۸	ارشاد العقل السلیم -	ابو السعود	مصریه	۱۳۲۷ هـ
۱۹	روح المعانی -	آلوسی	الطباعه المنیریة	۱۳۲۷ هـ

کتاب تفسیر معتزله

۲۰	تتزیه القرآن عن المطامع -	قاضی عبدالنجار	جمالیہ	۱۳۲۹ هـ
۲۱	امالی الشریف المرتضیٰ -	شریف مرتضیٰ	سعادت	۱۳۲۵ هـ
۲۲	اکشاف -	زنجشیری	محمد مصطفیٰ	۱۳۰۸ هـ

کتاب تفسیر امامیہ اثنا عشریہ

۲۳	مقدمه مرآة الانوار -	عبد اللطیف کازرانی	طبع البعم	۱۳۰۳ هـ
۲۴	تفسیر المکرمی -	حسن عسکری	تبریز	۱۳۱۴ هـ
۲۵	مجمع البیان -	ابو علی طبرسی	طهران	"
۲۶	الصافی -	ملا محسن کاشانی	طبع فارس	۱۳۲۲ هـ
۲۷	تفسیر القرآن -	سید عبداللہ علوی	طهران	۱۳۵۲ هـ
۲۸	بیان السعادت -	سلطان خراسانی	"	۱۳۱۴ هـ

کتاب تفسیر زیدیہ

۲۹	فتح القدر -	شوکانی	مصطفیٰ علی	۱۳۲۹ هـ
----	-------------	--------	------------	---------

نمبر شمار	نام کتاب	مؤلف	مطبع	سن طبع ہجری
-----------	----------	------	------	-------------

کتب تفسیر خوارج

۳۰	ہمیان الزاد الی دار المعاد -	محمد اطفیش	طبع زنجبار	۱۳۱۴ھ
----	------------------------------	------------	------------	-------

تفاسیر صوفیہ

۳۱	تفسیر القرآن الکریم -	سہل تشری	سعادہ	۶۱۹-۸
۳۲	حقائق التفسیر -	ابو عبد الرحمن سلمی	مخطوطہ	
۳۳	عرائس البیان -	ابو محمد رزق بہان	طبع ہند	۱۳۱۵ھ
۳۴	التأویلات النجمیہ	نجم الدین دایہ	مخطوطہ	
۳۵	تفسیر ابن عربی -	عبدالرزاق قاشانی	امیریہ	۱۲۸۳ھ

تفاسیر فقہاء

۳۶	احکام القرآن -	النجصاص	البتیۃ المصریہ	۱۳۴۷ھ
۳۷	احکام القرآن -	الکلیا المرآسی	مخطوطہ	
۳۸	الاکیل فی استنباط التنزیل -	جلال الدین سیوطی	"	
۳۹	احکام القرآن -	ابو بکر بن العربی	سعادہ	۱۳۳۱ھ
۴۰	الجامع للاحکام القرآن -	قرطبی	دار لکنتب	۱۹۳۵ء
۴۱	کنز العرفان فی فقہ القرآن -	مقداد الیسوری	طبع تبریز	۱۳۱۳ھ
۴۲	الثمرات الیائتہ	الفتیۃ یوسف التلائی	مخطوطہ	

جدید تفاسیر

۴۳	الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم -	طنطا دی جوہری	مصطفیٰ حبلی	۱۳۴۰ھ
----	----------------------------------	---------------	-------------	-------

نمبر شمار	نام کتاب	مؤلف	مطبع	سن طبع
۴۴	المدایب والعرفان -	الوزید الدمنهوری	مصطفیٰ حلوی	۱۳۲۹ھ
۴۵	تفسیر جزء عم -	شیخ محمد عبده	مطبع مصر	۱۳۴۱ھ
۴۶	تفسیر سورة الفاتحه -	"	النار	۱۳۵۳ھ
۴۷	سُور من خواتیم القرآن -	سید رشید رضا	"	۱۳۲۶ھ
۴۸	الدروس الدینیة -	شیخ محمد مصطفیٰ المراغی	مطبعة الازهر	۱۳۵۶ھ

عُلُومُ الْقُرْآنِ

۴۹	مقدمة التفسیر -	راغب اصفهانی -	الجمالیة	۱۳۲۹ھ
۵۰	مقدمه فی اصول التفسیر -	ابن تیمیہ -	دمشق	۱۹۲۶ھ
۵۱	جواهر القرآن -	الغزالی	کرورتان	۱۳۲۹ھ
۵۲	الاتقان -	جلال الدین سیوطی -	مصطفیٰ حلوی	۱۹۳۵ھ
۵۳	الفوز الکبیر فی اصول التفسیر -	شاه ولی اللہ دہلوی -		
۵۴	مبادی التفسیر -	محمد خضریٰ و میاطی	النیل	۱۳۲۱ھ
۵۵	المدخل النیر -	محمد حسنین مخلوت	مطبعة المعاهد	۱۳۵۱ھ
۵۶	التفصیل فی الفرق بین التفسیر والتأویل	حامد الهمادی	مخطوطه	
۵۷	التفسیر معالم حیاته -	امین الخولی	دار المعلمین	۱۹۴۴ھ
۵۸	المذاهب الاسلامیة فی التفسیر -	گولڈ زیبر -	مطبعة العلوم	"
۵۹	القرآن الکریم -	علی حسن عبدالقادر		
۶۰	اعجاز القرآن -	مصطفیٰ صادق رافعی	الاستقامة	۱۹۴۰ھ
۶۱	منہج الفرقان -	محمد البوسلامہ	مطبع شبرا	۱۹۳۸ھ
۶۲	مناهل العرفان -	عبد العظیم زرقانی	"	۱۳۵۹ھ

نمبر شمار	نام کتاب	مؤلف	مطبع	سنة طبع
-----------	----------	------	------	---------

کتاب علوم الحدیث

۶۳	صحیح بخاری -	امام محمد بن اسماعیل	النجیریة	۱۳۲۰ھ
۶۴	صحیح مسلم -	مسلم بن حجاج	امیریہ	۱۳۲۵ھ
۶۵	سنن ترمذی -	ابوعبسی ترمذی -	"	۱۲۹۲ھ
۶۶	مسند امام احمد -	امام احمد بن حنبل	الیمینیہ	۱۳۱۳ھ
۶۷	نیل الاوطار -	امام شوکانی	العثمانیہ	۱۳۵۷ھ
۶۸	فتح الباری -	ابن حجر عسقلانی	النجیریة	۱۳۱۹ھ
۶۹	ارشاد الساری شرح البخاری -	قسطلانی	امیریہ	۱۳۲۵ھ
۷۰	شرح صحیح مسلم -	محمی الدین فودی	"	۱۳۲۵ھ
۷۱	تأویل مختلف الحدیث -	ابن قتیبة	کردستان	۱۳۲۶ھ
۷۲	منہاج السننہ -	ابن تیمیہ	امیریہ	۱۳۲۲ھ
۷۳	معرفة علوم الحدیث -	حاکم نیسابوری	دارالکتب المصریہ	۱۹۳۷ھ
۷۴	مقدمہ ابن الصلاح -	ابو عمر بن الصلاح	طبع ہند	۱۳۵۷ھ
۷۵	تدریب الادی -	جلال الدین سیوطی	النجیریة	۱۳۰۷ھ
۷۶	ہدی الساری مقدمہ فتح الباری -	ابن حجر عسقلانی	الطبائقة النیریة	۱۳۴۷ھ
۷۷	الاسلوب الحدیث -	امین الشیخ	مطبع شبرا	۱۹۴۰ھ

کتاب لغت

۷۸	القاموس المحیط -	محمد الدین فیروز آبادی	مصر	۱۹۳۵ھ
۷۹	تاج العروس -	سید رفیعی زبیدی	النجیریة	۱۳۰۶ھ
۸۰	لسان العرب -	ابن منظور	امیریہ	۱۳۲۷ھ

نمبر شمار	نام كتاب	مؤلف	مطبع	سن طبع
۸۱	اساس البلاغة -	زنجشیری	امیریه	۱۳۲۷ هـ

کتاب فقہ و اصول

۸۲	فتاویٰ ابن تیمیہ -	شیخ الاسلام ابن تیمیہ	کردستان	۱۳۲۹ هـ
۸۳	اعلام الموقین -	ابن تیمیہ	"	۱۳۲۵ هـ
۸۴	المواقفات -	ابو اسحاق شاطبی	المکتبۃ التجارنیہ	"
۸۵	المستصفیٰ -	امام غزالی -	امیریه	۱۳۲۴ هـ
۸۶	مسلم الثبوت مع شرح -	محمد الشہداء الشکور و عبد العلی انصاری -	"	"
۸۷	شرح التلویح -	سعد الدین تفتازانی	دار الکتب العربیہ	۱۳۲۷ هـ
۸۸	جمع الجوامع مع شرح -	ابن السبکی و جلال الدین سیوطی	الازھریہ	۱۳۳۱ هـ

کتاب تاریخ و رجال

۸۹	الاصابة في تمييز الصحابة -	ابن حجر عسقلانی	الشرفیة	۱۹۰۷
۹۰	أسد الغابة في معرفة الصحابة -	ابن اثیر الجزیری	الرومیة	۱۲۸۰ هـ
۹۱	تمذیب التمذیب -	ابن حجر عسقلانی	طبع ہند	۱۳۲۵ هـ
۹۲	میزان الاعتدال -	حافظ ذہبی	سعادة	"
۹۳	لسان المیزان -	ابن حجر عسقلانی	طبع ہند	۱۳۳۱ هـ
۹۴	خلاصة تذهیب الکمال -	صفی الدین الخورجی	الخیریة	۱۳۲۲ هـ
۹۵	طبقات الشافعیة الکبریٰ -	تاج الدین السبکی	المحینیہ	"
۹۶	الديباج المذهب -	ابن فرحون	سعادة	۱۳۲۹ هـ
۹۷	نیل الاتباع -	احمد بابا التبنکی	"	"
۹۸	الفوائد البیة فی تراجم المحنفیة -	عبد الحمی کھنوی	"	۱۳۲۳ هـ

تاريخ تفسير مفسرين

مؤلف	مطبوع	تاريخ طبوع	مؤلف	نام كتاب	مبشر شمار
ابن النديم	رحمانيه	١٣٣٨ هـ	ابن النديم	الفهرست -	٩٩
شمس الدين سخاوي	مطبعة القديسي	١٣٥٥ هـ	شمس الدين سخاوي	الضوء اللامع لاهل القرن التاسع -	١٠٠
ابن العماد	"	١٣٥٠ هـ	ابن العماد	شذرات الذهب -	١٠١
ابو الحسن مسعودي	البيهية	١٣٣٧ هـ	ابو الحسن مسعودي	مروج الذهب -	١٠٢
ابن خلدون	الشرقية	١٣٢٤ هـ	ابن خلدون	مقدمه ابن خلدون -	١٠٣
جلال الدين سيوطي	لندن	١٨٣٩ م	جلال الدين سيوطي	طبقات المفسرين -	١٠٤
الدراودي	مخطوطه		الدراودي	طبقات المفسرين -	١٠٥
امام نووي	الطباعه البصريه		امام نووي	تنزيب الاسماء واللغات -	١٠٦
ابن حنبل	اميريه	١٢٩٩ هـ	ابن حنبل	وفيات الاعيان -	١٠٤
محمد بن شاذان الكلبى	"	١٢٨٣ هـ	محمد بن شاذان الكلبى	وفات الوفيات -	١٠٨
علي بن لالي بالي	اليمينيه	١٣١٠ هـ	علي بن لالي بالي	العقد المنظوم في ذكرافاضل الروم -	١٠٩
ياقوت الحموي	عيسى حلي	١٩٣٤ م	ياقوت الحموي	معجم الادباء -	١١٠
ابن حجر عسقلاني	طبع هند	١٣٣٨ هـ	ابن حجر عسقلاني	الدرر الكامنة -	١١١
محمد باقر موسوي	طبع فارس	١٣٠٤ هـ	محمد باقر موسوي	روضات الجنات -	١١٢
جلال الدين سيوطي	سعادة	١٣٢٧ هـ	جلال الدين سيوطي	بغية الوعاة في طبقات النحاة -	١١٣
سيد محمد امين الحسيني	دمشق	١٣٥٣ هـ	سيد محمد امين الحسيني	اعيان الشيعة -	١١٤
احمد بن عبد الله بخنداري	التمدن	١٣٣٢ هـ	احمد بن عبد الله بخنداري	ترجمة الرجال المذكورة في شرح الازهار -	١١٥
انحضري	عيسى حلي	١٩٣٠ م	انحضري	سايخ التشريع الاسلامي -	١١٦
السكي - البربري	دادى الملوك	١٩٣٧ م	السكي - البربري	تذكرة تاريخ التشريع الاسلامي -	١١٤
علي حسن عبدالقادر	العلوم	١٩٢٢ هـ	علي حسن عبدالقادر	نظرة عامة في تاريخ التشريع الاسلامي	١١٨
محمد الوزهره	"	١٩٣٣ هـ	محمد الوزهره	تاريخ المجلد -	١١٩

مبشر	نام کتاب	مؤلف	مطبع	سنة طبع
کتاب تاریخ ادیان و مذاهب				
۱۲۰	الفرق بین الفرق -	ابو منصور بغدادی	المعارف	۱۳۲۸ هـ
۱۲۱	التبصیر فی الدین -	ابو المنظر اسفرائینی	الانوار	۱۹۴۰ ع
۱۲۲	شرح المواقیف -	سید شریف	سعادت	۱۹۰۷ ع
۱۲۳	تبیین کذب المنقری -	ابن عساکر	دمشق	۱۳۲۷ هـ
۱۲۴	ایثار الحق علی الخلق -	ابو عبداللہ الیمانی	الآداب	۱۳۱۸ ع
۱۲۵	شرح العقائد النسفیة -	سعد الدین تغنازانی	مصطفیٰ حلبی	۱۳۲۱ ع
۱۲۶	الاکلیل فی التشابه والتنزیل -	شیخ الاسلام ابن تیمیہ	العامة الشرفیة	۱۳۲۳ ع
۱۲۷	الفصل -	ابن حزم	الادبیة	۱۳۲۰ ع
۱۲۸	الملک والنمل -	عبدالکریم شہرستانی	"	"
۱۲۹	کشف اسرار الباطنیة -	محمد بن مالک الیمانی	الانوار	۱۳۵۷ ع
۱۳۰	فضائح الباطنیة -	ابو حامد غزالی	لندن	۱۹۱۶ ع
۱۳۱	تعریف الشیعة -	عبدالرزاق حسنی	العرفان	۱۳۵۲ هـ
۱۳۲	الوشیعة فی نقد عقائد الشیعة -	موسى جاد الله	الشرق	۱۳۵۵ ع
۱۳۳	کتاب بهاء اللہ	بهاء اللہ	سعادت	۱۹۲۰ ع
۱۳۴	رسائل ابی الفضائل -	ابو فضائل ایرانی	"	"
۱۳۵	مفتاح باب الابواب -	مرزا محمد مهدی خاں	النار	۱۳۲۱ هـ
۱۳۶	خطابات و محادثات -	عبدالبهاء عباس	سعادت	۱۹۲۰ ع
۱۳۷	المبادئ البهائية -	انگریزی سے عربی مترجم	رعمیس	۱۹۲۱ ع
۱۳۸	الحجج البهية -	ابو فضائل ایرانی	سعادت	۱۹۲۰ ع
۱۳۹	محاضرة عن البهائية -	عبدالعزیز نصحی	السلفیة	۱۳۵۲ هـ

کتاب تصوف

نمبر شمار	نام کتاب	مؤلف	مطبع	سین طبع
۱۴۰	الفتوحات المکیّة -	ابن عربی	دارالکتب العربیة	۱۳۲۹ هـ
۱۴۱	القصص -	"	الزمان	۱۳۰۴ هـ
۱۴۲	احیاء علوم الدین -	امام غزالی	نشر الثقافة الاسلامیة	۱۳۵۴ هـ
۱۴۳	تلمیس ابلیس -	ابن الجوزی -	المنصفه	۶۱۹۲۸

کتاب فلسفہ

۱۴۴	رسائل اخوان الصفا -	اخوان الصفا	الأداب	۱۳۰۴ هـ
۱۴۵	فصوص الحکم -	الفارابی	سعادة	۶۱۹۰۷
۱۴۶	رسائل ابن سینا -	ابوعلی ابن سینا	طبع ہند	۶۱۹۰۸
۱۴۷	جامع البدائع -	" "	سعادة	۱۹۱۷
۱۴۸	تاریخ الفلسفہ -	ڈاکٹر مدکور یوسف کرم	بجنتہ التالیف والترجمہ	۱۹۴۰

کتاب معلومات عامہ

۱۴۹	الکتاب المقدس -		امریکہ	۶۱۹۳۰
۱۵۰	شرح نوح البلاغۃ -	ابن ابی الحدید	دارالکتب العربیة	۱۳۲۹ هـ
۱۵۱	الحيوان -	البخاط	سعادة	۱۳۲۵ هـ
۱۵۲	الکامل -	مبتر	انجیریة	۱۳۰۸ هـ
۱۵۳	کشف الظنون -	ملاکاتب حلبی	دارالطباعۃ المصریة	۱۲۷۴
۱۵۴	فجر الاسلام -	اصدا میں	بجنتہ التالیف	۶۱۹۳۵
۱۵۵	ضمی الاسلام -	"	والترجمہ	۶۱۹۳۳

تاریخ تفسیر مفسرین

نمبر شمار	نام کتاب	مؤلف	مطبع	سن طبع
۱۵۴	رسائل الاصلاح -	محمد خضر حسین	القدس	۱۳۵۸ هج
۱۵۷	القول الفصل -	شیخ الاسلام صبری	عیلی جلی	۱۳۴۱ هج
۱۵۸	الرسالة المستخرجة -	محمد الکتانی	بیروت	۱۳۳۲ هج
۱۵۹	طبائع الاستبداد -	عبدالرحمن کونسی	الجمالیہ	
۱۶۰	اللوژ المنظوم -	ابوعلیان	الجیسبیہ	۱۳۲۵ هج
۶۱	منبأ دمی القصریة -	نصر الخویجی	الخیریتہ	۱۳۲۰ هج
۶۱	محمد عبدة -	عثمان امین	عیلی جلی	۱۹۴۴ هج
۱۶۲	الاسلام والطلب الحديث -	عبدالغزیز اسماعیل پاشا	الاعتماد	۱۳۵۷ هج
۱۶۴	النماذج الخیریتہ -	منیر دمشقی	الطباعة المنیریة	۱۳۴۹ هج
۱۶۵	دائرة المعارف الاسلامیة -	احمد شنتنادی	بجته الترجمة	۱۹۳۳ هج
۱۶۶	دائرة المعارف للبستانی -	پطرس بستانی	بیروت	۱۸۷۶ هج
۱۶۷ -	مجله الايمان -	علماء الوعظ والارشاد		
۱۶۸	مجله نور الاسلام -	" "		
۱۶۹ -	مجله الهدایة الاسلامیة -	جمیعة الهدایة الاسلامیة		
۱۷۰	مجله المقنطف -			
۱۷۱ -	مجله السیاسة السبوعیة -	محمد حسین میکل پاشا		

غلام احمد حریری

ڈی - ۶۱ پیپلز کالونی

فیصل آباد

پاکستان کے عظیم مفکر اور مفسرِ قرآن

مولانا امین احسن اصلاحی کے قلم سے



اہل تصوف کے فرسودہ اور غلط نظریات پر کڑی تنقید
اسلام میں تزکیہ نفس کی جو اہمیت ہے وہ کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں۔ قرآن حکیم
میں بعثت انبیاء کا مقصد نفوس انسانی کا تزکیہ بیان فرمایا گیا۔ لیکن بد قسمتی سے امت میں
پیشہ ور خرقہ پوشوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس نے اتباع شریعت کی بجائے علوم
باطنی کے درس دینے شروع کر دیے۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے قرآن و سنت
اور دین اسلام کے مجموعی مزاج سے استدلال کر کے اس اعتقاد کی غلطیوں اور اس
سے پیدا شدہ مملکت نتائج پر کامیاب تنقید کی ہے۔

سائز ۱۸x۲۲ صفحات ۲۲۲ قیمت ۹۰ روپیہ صرف

مصنف کی دوسری بلند پایہ تصانیف

۱ پاکستان عورت دور ہے پڑ سار ۱۸x۲۲ فٹ ۲۲۲ صفحات ۲۱۲ قیمت

۲ عالمی کشن ریورٹ پر مضمون سائز ۱۸x۲۲ نیوز پرنٹ ۱۸۰ صفحات قیمت

ملنے کا پتہ :- کشمیر بک ڈپو، نمون پلازہ دکان نمبر ۸ چینیٹ بازار فیصل آباد

ناشر: ملک نمر پبلشرز کارخانہ بازار فیصل آباد فون ۶۴۴۳۱۵

بند بابیہ علی کتابین

• تاریخ تفسیر تفسیر از پروردگار صریحی / ۲۲۲

• علوم الحدیث ڈاکٹریٹی صنایع / ۱۴۱

• علوم القرآن . . . / ۱۵۱

• حیات امام الوصیہ ابو زینر توجہ خوری / ۲۲۲

• حدیث رسول آتش تہی تمام ترجمہ خوری / ۱۵۰

• تزکیہ نفس مولانا ابن ابن صمدی / ۹۰

• عربی بول چال سجاد میر طہی / ۲۵

• حیات امام حسن بن علیؑ / ۱۵۱

• رسول عظیم اور روایا ستم مکہ مصطفیٰ علیہ / ۳۴

• دعوت فکر مولانا عاشق الہی / ۱۰/۵۰

• ایرانی انقلاب مولانا منظور ہونانی / ۶۰

• اسماء حسنی کی برکت مولانا انور شاہ کاشمیری / ۳۰

• گلستانِ صدیقی بیانی ترجمہ دارم اقبال / ۳۴

• اسلام کیا ہے مولانا منظور ہونانی / ۴۰

• رقص قلندر معنی دارم اقبال زیر طبع

• کتابت و تالیف مولانا فضل آباد

• ۲۰۲۳ء

ساز

